

جمالیت

فی شرح

جلالیت

جلد سوم

شیخ عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی ۵۹۱۱ھ

شاح

حضرت مولانا محمد جمال بلکد شہری

استاذ دارالعلوم دہوبند

[www.ahelahq.org](http://www.ahelahq.org)

مکرم پبلشرز



جدید نظر ثانی شدیم اور اپنی  
کتابوں کی اصلاح کی

# جمالین

فی شرح

# جلالین

جلد سوم

شیخ عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی - ۵۹۱۱ھ

شاح

حضرت مولانا محمد جمال بُلند شہری

استاذ دارالعلوم دیوبند

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدس مسجد اُردو بازار کراچی



## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

”جمالین“ فی شج ”جلالین“ کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت پاکستان میں صرف مولانا محمد رفیق بن عبد المجید مالک زمزم پبلشرز کراچی کو حاصل ہیں لہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی طباعت کا مجاز نہیں بصورت دیگر زمزم پبلشرز کو قانونی چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

از

حضرت مولانا محمد جمال بلند شہری

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی زمزم پبلشرز کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کاپی برقیاتی یا میکائیکی یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔  
زمزم پبلشرز کراچی

## ملنے چکے پیگڑپے

- مکتبہ بیت العلم، اردو بازار کراچی۔ فون: 32726509
- دارالاشاعت، اردو بازار کراچی
- قدیمی کتب خانہ بالقائل آرام باغ کراچی
- مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور
- مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- مکتبہ علمیہ، علوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

**Madrasah Arabia Islamia**  
1 Azaad Avenue P.O Box 9786-1750  
Azaadville South Africa  
Tel : 00(27)114132786

**Azhar Academy Ltd.**  
54-68 Little Ilford Lane  
Manor Park London E12 5QA  
Phone: 020-8911-9797

**ISLAMIC BOOK CENTRE**  
119-121 Halliwell Road, Bolton B11 3NE  
U.S.A  
Tel/Fax : 01204-389080

**AL FAROOQ INTERNATIONAL**  
68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG  
Tel : 0044-116-2537640

کتاب کا نام ————— جملہ اللین فی شج جلالین جلد سوم

تاریخ اشاعت ————— فروری ۲۰۱۰ء

باہتمام ————— احکامات زمزم پبلشرز

ناشر ————— زمزم پبلشرز کراچی

شاہ زیب سینٹرز مقدس مسجد، اردو بازار کراچی

فون: 021-32760374

فیکس: 021-32725673

ای میل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: zamzampublishers.com





## فہرست مضامین جلد سوم

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۳۶	غزوہ حنین کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ:	۱۳	سورۃ توبہ:
۳۶	غزوہ حنین کا تفصیلی ذکر:	۱۷	اس سورت کے تیرہ نام منقول ہیں:
۳۷	آنحضرت ﷺ کو ان کے خطرناک عزائم کی اطلاع:	۱۷	سورۃ براءۃ کی خصوصیت:
۳۷	حنین کے مقام پر اسلامی لشکر کا ورود:	۱۸	معاهدات ختم کرنے کی تفصیل:
۳۷	عبداللہ بن ابی حدرد کی بطور جاسوس روانگی:	۲۰	اعلان براءۃ کا مقصد:
۳۸	مسلمانوں کے لشکر کی صورت حال:	۲۰	فتح مکہ کے وقت مشرکین کی چار قسمیں اور ان کے احکام:
	ہوازن اور ثقیف کے سرداروں کا مسلمان ہو کر حاضر ہونا اور	۲۱	پہلی قسم:
۳۹	قیدیوں کی رہائی:	۲۱	دوسری قسم:
۳۹	آپ کے لئے دوہری مشکل:	۲۱	تیسری قسم:
۴۰	احکام و مسائل:	۲۱	چوتھی قسم:
	مسجد حرام میں مشرکین کے داخلہ کی ممانعت کا مطلب اور	۲۱	پہلی قسم کا حکم:
۴۱	خصوصیت یا عدم خصوصیت کا مسئلہ:	۲۱	دوسری قسم کا حکم:
۴۱	امام مالک اور فقہاء اہل مدینہ کا مسلک:	۲۲	تیسری اور چوتھی جماعت کا حکم:
۴۱	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک:	۲۲	مذکورہ پانچ آیات سے متعلق چند مسائل و فوائد:
۴۲	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک:	۲۶	اللہ اور رسول ﷺ کی جانب سے براءت کی حکمت:
۴۲	جزیہ کی غایت اسلام نہیں:	۲۹	عمارت مسجد سے کیا مراد ہے؟
۴۲	جزیہ امان و حفاظت کا بدل ہے نہ کہ اسلام کا:	۳۰	مسجدوں کی آباد کاری کا حق صرف مومنین باعمل کو ہے:
۴۳	جزیہ کی مقدار:	۳۰	مذکورہ آیات سے متعلق بعض مسائل:
۴۳	بذریعہ جنگ مفتوحہ قوموں کا حکم:	۳۰	مسجد کے تعمیر میں غیر مسلم کے چندہ کا حکم:
۴۳	جزیہ پر اعتراض اور معذرت خواہانہ جواب:	۳۰	شان نزول:
۴۸	رابط آیات:	۳۱	پہلا واقعہ:
۵۰	رابط آیات:	۳۱	دوسرا واقعہ:
۵۱	عبادات کو ششی مہینے کے بجائے قمری مہینہ پر رکھنے کی حکمت:	۳۱	تیسرا واقعہ:
۵۵	شان نزول:	۳۲	شان نزول:
۵۵	غزوہ تبوک:		
۵۶	غزوہ تبوک کے اسباب پر اجمالی نظر:		



## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۷۶	جنگ صفین:	۵۶	رومی لشکر کے ایک کمانڈر کا قبول اسلام:
۷۹	مصارف ثمانیہ کے بارے میں ایک ازہری عالم کی	۵۷	غزوہ تبوک کی تفصیل:
۷۹	مفید بحث:	۵۹	قیصر روم کا جذبہ انتقام:
۷۹	زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہیں:	۵۹	مؤمنین صادقین اور غزوہ تبوک:
۸۰	علماء محققین کی رائے مولفۃ القلوب کے دربار میں:		محمد بن مسلمہ انصاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو مدینہ پر اپنا نائب
۸۰	فاضل گیلانی کی تحقیق:	۶۰	مقرر فرمایا:
۸۱	مقروضوں کے ساتھ اسلام کی ہمدردی:	۶۰	مسئلہ خلافت بلا فصل اور حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ:
	مصارف ثمانیہ میں سے ہر صنف کو دینا ضروری ہے یا بعض کو	۶۱	یوم پنجشنبہ ماہ رجب ۹ھ کو آپ کی تبوک کیلئے روانگی:
۸۲	دینا بھی کافی ہو سکتا ہے؟	۶۲	مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی فتح:
۸۲	امام شافعی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مسلک:	۶۳	واقعہ ہجرت کی تفصیل:
	مصارف صدقات میں امام ابوحنیفہ و امام مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ	۶۳	قریش کی امانتوں کو واپسی کا حکم:
۸۲	کا مسلک:	۶۴	غار ثور کی طرف روانگی:
۸۳	زکوٰۃ و صدقہ واجبہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی آل کے لئے جائز نہیں:	۶۴	حضرت ابو بکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی افضلیت:
۸۳	سادات میں کون لوگ شامل ہیں؟	۶۴	مشرکین مکہ غار ثور کے دہانے پر:
۸۳	زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات غیر مسلم کو بھی دیئے جاسکتے ہیں:	۶۵	مشرکین مکہ کی جانب سے دو سواونٹوں کے انعام کا اعلان:
۸۳	ایک مفید بحث:	۶۵	ام معاہدہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا واقعہ:
۸۴	دو سوال اور ان کے جواب:	۶۶	مسجد قبا کا قیام:
۸۴	ایک اہم سوال:	۷۱	شان نزول:
۸۵	فائدہ جلیلہ:	۷۲	منافقوں کی حالت کا بیان:
۸۶	شان نزول:	۷۲	منافقوں نے ہمیشہ نازک موقع پر دھوکا دیا ہے:
۹۳	شان نزول:	۷۳	شان نزول:
۹۳	پہلا سبب:	۷۳	شان نزول:
۹۳	دوسرا سبب:	۷۳	شان نزول:
۹۴	تیسرا سبب:	۷۴	اس کیفیت کا ایک دلچسپ واقعہ:
۹۴	دوسری سازش:	۷۴	شان نزول:
۹۸	رابط آیات:	۷۵	خارجی فرقہ کا تعارف اور اس کے عقائد:



## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۱۳۰	آیت کے دو مفہوم:.....	۹۹	واقعہ مذکورہ سے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات:.....
۱۳۰	آیت کا دوسرا مفہوم:.....	۱۰۲	یہ عذر بیان کرنے والے کون تھے:.....
۱۳۱	قوموں کی ہلاکت کی دوسری صورت:.....	۱۰۲	شان نزول:.....
۱۳۲	مشرکین مکہ کی ناروا فرمائش اور اس کی تردید:.....	۱۰۳	شان نزول:.....
۱۳۷	جنت میں خدا کا دیدار:.....	۱۰۳	بلاغۃ:.....
۱۵۰	مشرکین سے چند سوالات:.....	۱۰۶	ربط آیات:.....
۱۶۲	اولیاء اللہ کی شناخت:.....	۱۰۶	متخلفین کی تین قسمیں:.....
۱۶۲	ولی سے کرامات کا صدور ضروری نہیں:.....	۱۱۲	صحابہ مقتدایان امت ہیں:.....
۱۶۵	وضاحت:.....	۱۱۲	اس آیت میں آپ ﷺ کے علم غیب کلی کی بصراحت نفی ہے:.....
۱۶۵	مذکورہ ترکیب بطریق سوال و جواب:.....	۱۱۵	محدثین کا بیان کردہ شان نزول:.....
۱۶۶	ربط آیات:.....	۱۱۶	ملے جلے اعمال نیک و بد کیا تھے؟.....
۱۶۷	طوفان نوح علیہ السلام کے بقیہ آثار:.....		جن مسلمانوں کے اعمال ملے جلے، اچھے برے ہوں
۱۷۱	فرعون کے زرو جواہر کا پتھروں میں تبدیل ہو جانا:.....	۱۱۶	وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں:.....
۱۷۱	بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب:.....	۱۲۱	ربط آیات:.....
۱۷۲	فرعون کا غرق ہونا:.....	۱۲۱	شان نزول:.....
۱۷۲	مصری عجائب خانہ میں فرعون کی لاش:.....	۱۲۱	اعتراض اور جواب:.....
۱۷۳	مصری مقالہ نگار کی رائے:.....	۱۲۲	کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی خود ان کی زبانی:.....
۱۷۵	ربط آیات:.....	۱۲۵	ربط آیات:.....
۱۷۷	حضرت یونس علیہ السلام کا مفصل واقعہ:.....	۱۲۶	آیت کی دوسری تفسیر:.....
۱۷۸	انبیاء علیہم السلام ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں:.....		
	<b>سورۃ ہود</b>		<b>سورۃ یونس</b>
۱۸۳	سورۃ ہود:.....	۱۳۰	سورۃ یونس:.....
۱۸۵	سورۃ ہود کے مضامین:.....	۱۳۲	سورت کا نام:.....
۱۸۶	شان نزول:.....	۱۳۲	مقام نزول:.....
۱۸۸	ربط آیات:.....	۱۳۲	فضائل:.....
		۱۳۶	فائدہ جلیلہ:.....



## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۲۳۷	ایک عظیم فائدہ:	۱۸۸	رزق سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب:
	<b>سُورَةُ يُوسُفَ</b>	۱۸۹	اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں:
۲۳۹	سورۃ یوسف:	۱۸۹	کائنات کو چھ دن میں پیدا کرنے کا مطلب:
۲۴۱	آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد:	۱۹۴	شان نزول:
۲۴۱	شان نزول:	۱۹۸	قوم نوح علیہ السلام کے شبہات اور ان کے جوابات:
۲۴۲	حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ:	۱۹۸	اعتراضات کا خلاصہ:
۲۴۴	قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر:	۱۹۹	حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کا خلاصہ:
۲۴۴	تاریخی و جغرافیائی حالات:	۲۰۰	اعتراض کا دوسرا جزء:
۲۴۴	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور واقعہ کی ابتداء:	۲۰۵	قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ:
۲۴۵	خواب کا مطلب:	۲۰۶	کشتی کی وسعت اور پیمائش:
۲۵۰	سائلین کون تھے؟	۲۰۶	کشتی سازی کا حکم:
۲۵۱	واقعہ کی تفصیل:	۲۰۷	کشتی کے بعض حصے موجود ہیں:
۲۵۲	یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ محسوس ہونے کی وجہ:	۲۰۹	کشتی کی پیمائش:
۲۵۳	شام کو بھائیوں کا روتے ہوئے آنا:	۲۱۱	ہود علیہ السلام کی دعوت کی تین اصولی باتیں:
۲۵۳	شریعت میں جائز کھیلوں کا حکم:	۲۱۲	وعظ و نصیحت اور دعوت دین پر اجرت:
۲۵۳	قافلہ کا ورود اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں سے نکالنا:	۲۱۴	حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ:
۲۵۷	یوسف اور غلامی:	۲۱۵	ثمود کی بستیاں:
۲۵۸	حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور عظمتیں:	۲۱۵	اوٹنی کو ہلاک کرنے کی تفصیل:
۲۵۸	حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں:	۲۲۱	حضرت سارہ علیہا السلام کو لڑکے کی خوشخبری:
۲۵۸	خدا کی قدرت و حکمت:	۲۲۱	حضرت سارہ علیہا السلام کیوں نہیں:
۲۵۹	عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام:	۲۲۲	اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہے:
۲۵۹	زلیخا کا جادو نہ چل سکا:	۲۲۳	اس موقع پر تورات کی عبارت:
۲۶۰	ولقد ہمت بہ وہم بہا کی تفسیر:	۲۲۴	قوم لوط کا مسکن:
۲۶۱	وہ برہان رب کیا تھا؟	۲۲۸	حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں:
۲۶۶	حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں:	۲۲۸	قوم شعیب:
		۲۲۸	اصحاب مدین یا اصحاب ایکہ:



## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۲۹۸	حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنی شدید آزمائش کس وجہ سے ہوئی؟	۲۶۹	حضرت یوسف علیہ السلام پس دیوار زندان اور دونو جوانوں کا جیل خانہ میں دخول:.....
۲۹۹	حضرت یعقوب علیہ السلام کا عزیز مصر کے نام خط:.....	۲۶۹	ان دونوں جوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ:.....
۳۰۰	بھائیوں کا اعتراف جرم:.....	۲۷۰	قید خانہ میں دعوت و تبلیغ:.....
۳۰۰	جنتی کرتہ کی خصوصیت:.....	۲۷۰	رشد و ہدایت کی تبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام
۳۰۱	حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق:.....	۲۷۱	کا تعبیر خواب کی طرف متوجہ ہونا:.....
۳۰۱	مادی سبب:.....	۲۷۱	احکام و مسائل:.....
۳۰۵	برادران یوسف کا کاروان کنعان کے لئے روانہ:.....	۲۷۱	آیات مذکورہ سے مفہوم چند احکام و مسائل:.....
۳۰۶	خاندان یعقوب علیہ السلام مصر میں:.....	۲۷۵	پردہ غیب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت:.....
۳۰۶	حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات:.....	۲۷۶	خواب کی حقیقت:.....
۳۰۷	حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات:.....	۲۷۶	حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر:.....
	<b>سُورَةُ الرَّعْدِ</b>	۲۷۷	بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں:.....
۳۱۲	سورہ رعد:.....	۲۷۷	حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کی تحقیق کا مطالبہ:.....
۳۱۶	فضائل سورہ رعد:.....	۲۷۷	صحیحین میں واقعہ یوسف کا ذکر:.....
۳۱۶	سورت کا مرکزی مضمون:.....	۲۸۰	حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی:.....
۳۱۷	کیا آسمان کا چرم آنکھوں سے نظر آتا ہے؟.....	۲۸۱	مصر میں قحط کی ابتداء:.....
۳۲۶	حق و باطل کی مثال:.....	۲۸۵	برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام:.....
۳۳۳	شان نزول:.....	۲۸۵	برادران یوسف واپس کنعان میں:.....
۳۳۸	اہل کتاب صحابہ اور صحابیات کی تعداد:.....	۲۸۶	حضرت یعقوب علیہ السلام کا بن یامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار:
۳۴۰	تمام انبیاء و رسل بشر ہی تھے:.....	۲۸۷	مسائل و فوائد:.....
۳۴۱	نبیوں اور رسولوں کے متعلق کفار و مشرکین کا عام تصور:.....	۲۸۷	یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو اپنے حالات سے باخبر نہ کرنا
۳۴۱	آپ ﷺ اور تعداد ازواج:.....	۲۸۷	امرا الہی سے تھا:.....
	حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور	۲۹۱	بنیامین کو روک لینے کی تدبیر:.....
۳۴۱	سات سو باندیاں تھیں:.....	۲۹۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب چوری کے واقعہ
۳۴۱	آپ ﷺ کی اولاد کی تفصیل:.....	۲۹۳	کی حقیقت:.....
۳۴۲	کفار و مشرکین کے معاندانہ سوالات:.....		برادران یوسف کا آپس میں مشورہ:.....



زمزم پبلشرز



## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۴۸۹	پہلی آگہی کا ظہور:	۴۴۵	اسلام کا معاشی نظام عادلانہ ہے:
۴۹۲	دوسری بار کی تباہی:	۴۴۵	روس کے سابق صدر خروشیف کا اعلان ناکامی:
۴۹۲	اور پھر آخرت کی سزا:	۴۴۶	لیوشیڈ لکھتا ہے:
۴۹۳	ان آیتوں کا سبق:	۴۵۶	عدل کے معنی شریعت کی نظر میں:
۴۹۷	بعثت رسل کے بغیر عذاب نہ ہونے کی تشریح:	۴۵۷	”احسان“ کسے کہتے ہیں:
۴۹۸	مشرکوں کی نابالغ اولاد کو عذاب نہ ہوگا:	۴۵۸	تین ایجابی حکموں کے مقابلہ میں تین سلبی احکام:
۴۹۸	ربط آیات:	۴۵۹	عہد شکنی حرام ہے:
۴۹۸	بدعت اور ریاکاری کا عمل کتنا ہی اچھا نظر آئے مقبول نہیں:		کسی کو دھوکا دینے کے لئے قسم کھانے میں
۴۹۹	اعمال کی قدر دانی کی تین شرطیں:	۴۵۹	سلب ایمان کا خطرہ ہے:
۵۰۲	والدین کے حقوق و احترام:	۴۵۹	رشوت لینا سخت حرام اور اللہ سے عہد شکنی ہے:
۵۰۳	مال میں فضول خرچی منع ہے:	۴۶۰	رشوت کی جامع تعریف:
۵۰۳	بدرجہ مجبوری معذرت کا طریقہ:	۴۶۰	ربط آیات:
۵۰۳	شان نزول:	۴۶۲	ربط آیات:
۵۰۴	خرچ کرنے میں لام اعتدال کی ہدایت:	۴۶۲	نبوت پر کفار کے شبہات کا جواب مع تہدید:
۵۰۴	فائدہ جلیلہ:	۴۷۳	ربط آیات:
۵۰۷	ضبط تولید اور قرآن حکیم:		
۵۰۹	قتل ناحق کی تفسیر:	۴۷۵	سورۃ اسراء:
۵۰۹	قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟	۴۸۱	واقعہ اسراء و معراج کی تاریخ:
۵۱۰	ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے؟	۴۸۲	واقعہ معراج:
۵۱۰	قیموں کے مال میں احتیاط:	۴۸۳	ظاہری اور باطنی برکتوں کی سر زمین:
۵۱۰	اسلام میں معاہدات کا حکم:	۴۸۳	مقصد سفر:
۵۱۵	کائنات کی ہر شے تسبیح و تحمید میں مشغول ہے:	۴۸۴	کچھ سوالات کچھ بحثیں:
۵۱۵	کھانے کا تسبیح پڑھنا:	۴۸۵	مرحوم حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی رائے گرامی:
۵۱۵	اسطوانہ حنانہ کا رونا:	۴۸۶	واقعہ معراج سے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت:
۵۱۵	پتھر کا آپ ﷺ کو سلام کرنا:	۴۸۷	بنی اسرائیل کی ایک سرگزشت:
۵۱۶	کیا پیغمبر پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے:	۴۸۹	پیشین گوئی نہیں آگاہی:



## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۵۴۰	خواب کی مثال سے مطلب کی تفہیم:	۵۱۹	دوسری ترکیب:
۵۴۰	روح حادث ہے اور اس کا مبدأ (امر رب) قدیم ہے:	۵۲۰	بد زبانی اور تلخ کلامی کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں:
۵۴۰	ظاہر اور مظہر کے احکام جد اجد ہیں:	۵۲۰	شان نزول:
۵۴۰	روح جو ہر مجرد ہے یا جسم لطیف؟	۵۳۳	روح کیا ہے؟
۵۴۱	روح کا بدن سے جدا ہونا موت کو مستلزم نہیں:	۵۳۴	یہاں روح سے کیا مراد ہے:
	روح ہر چیز میں ہے اور ہر چیز کو ایک حیثیت سے زندہ یا مردہ	۵۳۴	مرفوع حدیث میں مذکور شان نزول:
۵۴۱	کہہ سکتے ہیں:	۵۳۵	واقعہ سوال، مکہ میں پیش آیا مدینہ میں:
۵۴۲	فائدہ جلیلہ:	۵۳۵	سوال مذکور کا جواب:
۵۴۳	بے سرو پا معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب:	۵۳۵	روح کی حقیقت کا علم کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟
۵۵۳	شان نزول:	۵۳۶	روح عقل و نقل کی روشنی میں:
۵۵۳	پہلا واقعہ:	۵۳۷	الفاظ قرآنی کی سطح کے نیچے عمیق حقائق مستور ہیں:
۵۵۳	دوسرا واقعہ:	۵۳۷	روح قرآنی کے متعلق چند نظریات:
۵۵۳	تیسرا واقعہ:	۵۳۸	”خلق“ کیا ہے؟
۵۵۳	نسخہ شفاء:	۵۳۸	”امر“ کیا ہے؟
۵۵۳	عرض شارح:	۵۳۹	روح کا مبدأ صفت کلام ہے:
		۵۳۹	روح کا مبدأ صفت کلام ہے پھر وہ جو ہر مجرد جسم لطیف کیونکر بن گئی؟

## فہرست نقشہ جات

- ۱ غزوہ تبوک کے زمانے کا عرب ۵۸
- ۲ قوم نوح کا علاقہ اور جبل جودی ۲۰۸
- ۳ نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام والصلوات ۲۲۳
- ۴ نقشہ تسع سیارات ۳۸۰
- ۵ فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ۴۹۱

﴿مست﴾

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مَائَةٌ وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً عَشْرٌ كُورًا

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ اَوْ اِلَّا الْاَيَتَيْنِ اٰخَرَهَا مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ اَوْ اِلَّا اَيَةً.

سورہ توبہ مدنی ہے مگر دو آیتیں یا ایک آیت جو کہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے

کل ایک سو تیس آیتیں ہیں۔

وضاحت: بعض نسخوں میں پہلا او نہیں ہے جیسا کہ جمل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے، از روئے تحقیق یہی قول رائج معلوم ہوتا ہے۔

مطلب: مطلب یہ ہے کہ پوری سورہ توبہ مدنی ہے مگر علی اختلاف القولین سورت کی آخری دو آیتیں یا ایک آیت مکی ہے آخری دو آیتیں ”لقد جاءكم رسول من انفسكم الخ“ بعض حضرات نے ”الا آية كواحدة وثلاثون“ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کل ایک سو تیس آیتیں ہیں مگر ایک کم یعنی ایک سو انیس آیتیں ہیں اس صورت میں ترکیب واضح ہیں چنانچہ ایک روایت ۱۲۹ کی بھی ہے۔

فائدہ: جن نسخوں میں پہلا او نہیں ہے اس صورت میں دو قول ہونگے ① پوری سورت مدنی ہے یا آخری دو آیتوں کے سوا پوری سورت مدنی ہے اور جن نسخوں میں او ہے اس کے اعتبار سے تین قول ہوں گے ② پوری سورت مدنی ③ پوری سورت مدنی مگر آخری دو آیتیں ④ پوری سورت مدنی مگر آخری ایک آیت، حالانکہ قول صرف دو ہی ہیں، معلوم ہوا کہ پہلا او سبقت قلم یا کتابت کی غلطی ہے۔

ترکیب: سورة التوبة بترکیب اضافی مبتداء، مدنیۃ مستثنیٰ منه الاحرف استثناء، الايتين ذوالحال، آخرها بترکیب اضافی حال، حال ذوالحال سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف الاحرف استثناء آية معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مبتداء کی خبر اول، مائة و ثلاثون ممیز آية تمیز محذوف، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتداء کی خبر ثانی، مبتداء اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ولم تُکْتُبْ فیہا البسملة لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم واخرج في معناه عن علي رضي الله تعالى عنه ان البسملة امان وبهي نزلت لرفع الامن بالسيف وعن



حذیفہ انکم تُسَمُّونَهَا سُورَةُ التَّوْبَةِ وَهِيَ سُورَةُ الْعَذَابِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، بِهَذِهِ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاصِلَةٌ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ① عَهْدًا مُّطْلَقًا أَوْ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ فَوْقَهَا وَتُقْضَى الْعَهْدُ بِمَا يُذَكَّرُ فِي قَوْلِهِ فَسِيحُوا سِيرُوا أَيْهَا الْمُشْرِكُونَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوَّلَهَا سُوَالٌ بِدَلِيلٍ مَا سَيَأْتِي وَلَا أَمَانٌ لَّكُمْ بَعْدَهَا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ إِي فَائِتِي عَذَابِهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ② مُذَلِّهِمْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْآخِرَىٰ بِالنَّارِ وَأَذَانٌ إِيغْلَامٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنَّ إِي بَانَ اللَّهُ بِرِيٍّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ③ وَغُهُودِهِمْ وَرَسُولُهُ بِرِيٍّ أَيْضًا وَقَدْ بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا مِّنَ السَّنَةِ وَبِئِ سَنَةٍ تَسْعَ فَإِذَا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنَى بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَأَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ غُرَبَانٌ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِنْ تَبَيَّنَ مِّنَ الْكُفْرِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الْإِيمَانِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ④ مُؤْلَمٌ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْأَسْرُ فِي الدُّنْيَا وَالنَّارُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا مِّنْ شُرُوطِ الْعَهْدِ وَلَمْ يَظَاهِرُوا يَعَاوُنُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا مِّنَ الْكُفَرِ فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِمْ الَّتِي عَاهَدْتُمْ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑤ بِإِتِمَامِ الْغُهُودِ فَإِذَا انْسَلَخَ خَرَجَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمُ وَبِئِ آخِرُ مُدَّةِ التَّاجِيلِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فِي جَلٍّ أَوْ حَرَمٍ وَخُذُوهُمْ بِالْأَسْرِ وَأَحْصِرُوهُمْ فِي الْقِلَاعِ وَالْخُصُونِ حَتَّى يَضْطَرُّوا إِلَى الْقَتْلِ أَوْ الْإِسْلَامِ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ طَرِيقٍ يَسْلُكُونَهُ وَنَضْبُ كُلِّ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ فَإِنْ تَابُوا مِّنَ الْكُفْرِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَلَا تَتَّعِزُّوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑥ لَمَنْ تَابَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَرْفُوعٌ بِفَعْلٍ يُفَسِّرُهُ اسْتَجَارَكَ اسْتَأْمَنَكَ مِّنَ الْقَتْلِ فَأَجْرُهُ أَيْنُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ الْقَرَانَ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ إِي مَوْضِعَ أَمْنِهِ وَهُوَ دَارُ قُورِهِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنْ لِيَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ⑦ دِينَ اللَّهِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِّنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ لِيَعْلَمُوا.

**ترجمہ:** اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اسلئے کہ اس کا آنحضرت ﷺ نے حکم نہیں فرمایا جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کو حاکم نے روایت کیا ہے، اور اسی کے ہم معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ سورت تلوار (جہاد) کے ذریعے رفع امن کے لئے نازل ہوئی ہے اور (حضرت) حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہو حالانکہ یہ سورہ عذاب ہے اور (امام) بخاری نے (حضرت) براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ (بن عازب) سے روایت کیا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے (جو کہ) ان مشرکوں کے متعلق ہے جن سے تم نے مطلق (یعنی غیر میعادى) یا چار ماہ سے کم و بیش کا عہد کیا ہو اور (مشرکوں نے)

نقض عہد کیا ہو (اظہار بیزاری) اللہ تعالیٰ کے قول (فسیحو الخ) میں مذکور ہے (یعنی) اے مشرک! تم چار ماہ تک ملک میں امن کے ساتھ اور چل پھرو، جس کی ابتداء شوال سے ہوگی آئندہ دلیل کی رو سے اور اس مدت کے بعد تمہارے لئے امن نہ ہوگا، یاد رکھو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی اسکے عذاب سے بچکر نہیں نکل سکتے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین (حق) کو رسوا کرنے والا ہے (یعنی) ان کو دنیا میں قتل کے ذریعہ اور آخرت میں آگ کے ذریعہ ذلیل کرنے والا ہے اور اعلان عام ہے اللہ اور اسکے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کے لئے حج اکبر (یعنی) قربانی کے دن بایں طور کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ان کے معاہدوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے اور آپ ﷺ نے اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (مکہ) بھیجا اور یہ (ہجرت کا) نواں سال تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم نحر میں منی کے میدان میں ان آیات کا اعلان فرمایا، اور یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ کا بحالت عریاں طواف کرے گا، (رواہ البخاری) پس اگر تم کفر سے توبہ کرلو، تو یہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور اگر تم ایمان سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور کافروں کو دردناک عذاب کی خبر دیدو اور وہ قتل و قید ہے دنیا میں اور آگ ہے آخرت میں بجز ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کئے ہوں پھر انہوں نے تمہارے معاہدہ کی کسی شرط کو نہ توڑا ہو اور نہ تمہارے خلاف کسی کافر کی مدد کی ہو تو ایسے (لوگوں) کے ساتھ تم بھی ان سے کئے ہوئے معاہدہ کی مدت پوری ہونے تک وفا کرو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ وفاء کرنے والے متقیوں کو پسند کرتا ہے، پس جب (اشہر خرم) حرام مہینے گزر جائیں اور وہ معاہدہ کی آخری مدت ہے تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ حل میں یا حرم میں، اور ان کو قید کرلو اور ان کو قلعوں میں اور گڑھوں میں محصور کر دو یہاں تک کہ قتال یا اسلام کے لئے مجبور ہو جائیں اور ان کی خبر لینے کے لئے ہر گھات میں تاک لگا کر بیٹھو (یعنی) انکی گذرگا ہوں پر بیٹھو اور کل کا نصب حذف جار کی وجہ سے ہے پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اور ان سے تعرض نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے (یعنی) قتل سے آپ سے پناہ چاہے تو اس کو قتل سے امن دیدو (أَحْذِ) اس فعل (محذوف) کی وجہ سے مرفوع ہے جس کی تفسیر استجارۃ کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام قرآن سنے پھر اس کو اس کے مأمن (یعنی) پناہ گاہ تک پہنچا دو، یعنی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، اور وہ اس کی قوم کا علاقہ ہے تاکہ وہ اپنے معاملہ میں غور کر سکے یہ مذکورہ بات اسلئے ضروری ہے کہ یہ لوگ پوری طرح باخبر نہیں ہیں۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: عن حذیفة، اس اضافہ کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید ہے۔

قَوْلٌ: ہذہ، اس اضافہ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ براءۃ، ہذہ مبتداء محذوف کی خبر ہے اس سے رد ہو گیا ان حضرات کا جنہوں نے کہا ہے کہ براءۃ مبتداء ہے اور الی الذین عاہدتم الخ، براءۃ کی خبر ہے، اس لئے کہ براءۃ نکرہ



ہے جس کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔

**قَوْلًا:** واصلة مفسر علام نے واصلة محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ مَنْ اللّٰہ میں من ابتدائیہ ہے جو واصلة محذوف سے متعلق ہے تقدیر عبارت یہ ہے هذه براءة واصلة الى الذين عاهدتم من اللّٰہ ورسوله۔

**قَوْلًا:** فسیحوا الخ، یہاں قولوا محذوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے فقولوا لهم سیحوا، سیحوا میں امر اجازت کے لئے ہے یعنی تم کو صرف چار ماہ تک امن کے ساتھ یہاں رہنے کی اجازت ہے۔

**قَوْلًا:** بدلیل ماسیاتی یہاں امر اجازت و اباحت کے لئے ہے اس کی دلیل آئندہ آنے والی آیت ”فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ“ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”فسیحوا اربعة اشهر“ شوال میں نازل ہوئی تھی اور اشہر حرم کا آخری مہینہ محرم ہے شوال کے شروع سے محرم کے آخر تک چار مہینے ہوتے ہیں۔

**قَوْلًا:** يوم النحر۔

**سُؤَال:** يوم الحج الاکبر کی تفسیر يوم النحر سے کیوں کی؟

**جَوَاب:** عمرہ کو چونکہ حج اصغر کہتے ہیں حج کو عمرہ سے ممتاز کرنے کے لئے حج اکبر کی تفسیر يوم النحر سے کر دی اسلئے کہ يوم النحر حج ہی میں ہوتا ہے نہ کہ عمرہ میں، حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی روایت سے بھی جسکو ترمذی نے روایت کیا ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حج اکبر سے مراد حج ہی ہے۔

**قَوْلًا:** بریء ایضاً اس میں اشارہ ہے کہ رَسُوْلُهُ مبتداء ہے اور بریء اسکی خبر محذوف ہے لفظ ایضاً سے یہ فائدہ ہو گیا کہ رسولہ کا عطف بریء کی ضمیر مستتر پر ہے نہ کہ اَنْ کے اسم کے محل پر اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اَنْ کے اسم کے محل پر عطف ہے اور وہ باء محذوفہ کے تحت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے حالانکہ وہ مرفوع ہے۔

**قَوْلًا:** إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس میں دو وجہ ہیں اول یہ کہ اَلَّذِیْنَ الخ کو مستثنیٰ منقطع قرار دیا جائے اور اَلَّا بمعنی لکن ہو اس صورت میں فاللَّذِیْنَ مبتداء اور فاتمّوا الیہم الخ جملہ ہو کر مبتداء کی خبر ہوگی، دوسری صورت یہ ہے کہ اَلَّذِیْنَ الخ کو مستثنیٰ متصل قرار دیا جائے تو اس صورت میں بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰہ وَرَسُوْلِهِ الى الذین عاهدتم من المشرکین، میں مذکور المشرکین سے مستثنیٰ ہوگا، مگر اس صورت میں فصل بالاجنبی لازم آئیگا جو کہ ممنوع ہے، اگر المشرکین میں الف لام کو عہد کا لے لیا جائے تو مشرکین خاص سے وہ مشرکین مراد ہوں گے جنہوں نے نقض عہد نہیں کیا۔

**قَوْلًا:** وہی مدة التاجیل اس عبارت کے اضافہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اشہر حرم سے معروف اشہر الحرم مراد نہیں ہیں، جو کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں بلکہ اربعة اشہر سے وہ چار مہینے مراد ہیں جن میں مشرکین کو قیام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، مطلب یہ کہ مذکورہ آیت کے نزول کے وقت سے جن چار ماہ تک مکہ میں قیام کرنے کی اجازت دی گئی تھی بایں طور کہ شوال سے لیکر آخر محرم تک مشرکین مکہ کو مکہ میں قیام کی اجازت ہے اس کے بعد اگر کوئی پایا جائیگا تو اس کو گرفتار

اور قتل کر دیا جائیگا اشہر حرم سے یہی چار مہینے مراد ہیں۔

قَوْلًا: مرفوع بفعل یفسره استجارك یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: اِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ میں اِنْ اسم پر داخل ہے حالانکہ ان اسم پر داخل نہیں ہوتا۔

جَوَابٌ: یہاں اِنْ کے بعد استجارك فعل محذوف ہے اور اس کی تفسیر بعد والا استجارك کر رہا ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

اس سورت کے تیرہ نام منقول ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

- ① براءة ② المقشقة ③ المبعثرة ④ المشردة ⑤ المخزية ⑥ الفاضحة
- ⑦ المثيرة ⑧ الحافرة ⑨ المدممة ⑩ سورة العذاب ⑪ المنكلة ⑫ البحوث
- ⑬ التوبة، ان تمام ناموں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں یعنی رسوا اور ذلیل کرنا، ان میں پہلا اور آخری نام زیادہ مشہور ہے، اس کا نام توبہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں اہل ایمان کی معافی کا ذکر ہے اور برآءۃ اس لئے نام رکھا گیا کہ اس کے آغاز ہی میں کفار و مشرکین سے برآءۃ کا اعلان ہے۔

## سورة برآءۃ کی خصوصیت:

اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور نہ پڑھی جاتی ہے جبکہ قراءت کا سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہو البتہ اگر سورۃ براءة ہی سے قراءت کی ابتداء کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی متعدد وجوہات مفسرین نے نقل کی ہیں مگر ان سب میں سے وہی صورت رائج ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے، یعنی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے اور نہ آپ ﷺ نے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام جب کوئی آیت لے کر آتے تو بحکم خداوندی یہ بھی بتاتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات اور سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو اس کے ساتھ اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نازل ہوتی مگر جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اور نہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم فرمایا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت کے زمانہ میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو دیگر سورتوں



کے برخلاف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی اس لئے یہ شبہ ہوا کہ شاید مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی سورت کا جزء ہو مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال اس کے مناسب معلوم ہوئی اسی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے آخر میں رکھا گیا، چونکہ سورہ توبہ کے بارے میں دو احتمال تھے ایک یہ کہ اول سورت کا جزء ہو دوسرے یہ کہ مستقل سورت ہو دونوں احتمالات کی رعایت اس طریقہ پر کی گئی کہ بسم اللہ تو نہ لکھی گئی مگر بسم اللہ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی اس ترکیب سے دونوں احتمالات کی رعایت ہو گئی۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی جو یہ وجہ منقول ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور سورہ توبہ میں کفار کے امان اور عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے لہذا مناسب یہی تھا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی جائے اور نہ پڑھی جائے، یہ محض ایک نکتہ اور لطیفہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ علت نہیں ہے۔

اس سورت کے مضامین کو کما حقہ سمجھنے کے لئے ان چند واقعات کا سمجھ لینا ضروری ہے جن کا ذکر اس سورت میں آیا ہے، سورہ توبہ میں چند غزوات اور ان کے متعلق احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے مثلاً تمام قبائل عرب سے معاہدات کا ختم کر دینا، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے ۸ھ میں پھر غزوہ حنین پھر اسی سال غزوہ تبوک رجب ۹ھ میں پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ ۹ھ میں ہوا۔

## معاہدات ختم کرنے کی تفصیل:

۶ھ میں رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کا قصد فرمایا اور قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا اور مقام حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی اس صلح کی مدت دس سال تھی، قریش کے علاوہ دیگر قبائل بھی مکہ میں رہتے تھے، معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں سے جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ آنحضرت ﷺ کا حلیف ہو کر ان کے ساتھ مل جائے، چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے آپ ﷺ کا حلیف بننا پسند کیا اور قبیلہ بنی بکر قریش کا حلیف بن کر قریش کے ساتھ ہو گیا، اس معاہدہ کی رو سے یہ لازمی تھا کہ دس سال کے اندر نہ باہمی جنگ ہوگی اور نہ کسی حملہ آور کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی اور جو قبیلہ جس کا حلیف ہے وہ بھی اس معاہدہ میں شریک سمجھا جائیگا اس پر حملہ کرنا یا حملہ آور کی مدد کرنا معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا جائیگا، یہ معاہدہ ۶ھ میں ہوا ۷ھ میں معاہدہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ مع صحابہ کرام کے عمرہ کی قضا کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور تین روز قیام فرما کر حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے، اس وقت تک کسی فریق کی جانب سے معاہدہ کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اس کے بعد پانچ یا چھ ماہ گزرے تھے کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت شب خون مارا ان دونوں قبیلوں کے درمیان زمانہ جاہلیت سے ان بن چلی آرہی تھی اسکا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مالک بن عباد حضرمی مال تجارت لے کر بنو خزاعہ کے علاقہ سے گزر رہا تھا کہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور تمام مال و سامان لوٹ لیا، بنو بکر نے موقع پا کر حضرمی کے بدلے میں بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا قبیلہ خزاعہ نے اپنے ایک آدمی کے بدلے میں بنو بکر کے تین سرداروں ذویب اور سلمیٰ اور کلثوم کو میدان عرفات میں حدود حرم کے قریب قتل کر ڈالا۔

حدیبیہ میں ایک میعادِ صلح ہو جانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے سے مامون اور بے خوف ہو گئے بنو بکر نے اپنی دشمنی نکالنے کا موقع غنیمت سمجھا چنانچہ بنو بکر میں سے نوفل اور معاویہ نے اپنے مددگاروں کے ساتھ ملکر بنو خزاعہ پر شب خون مارا رات کا وقت تھا خزاعہ کے لوگ پانی کے ایک چشمہ پر سوئے ہوئے تھے۔

قریش میں سے صفوان بن امیہ اور شیبہ بن عثمان وغیرہ نے پوشیدہ طور پر بنو بکر کی جانی اور مالی مدد کی۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی مگر ان کو حرم میں بھی قتل کر دیا گیا قریش یہ سمجھے ہوئے تھے کہ دور کا معاملہ ہے اور رات کا وقت ہے رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع نہ ہوگی اگرچہ قریش کو اپنی حرکت پر بعد میں ندامت ہوئی اور عہد شکنی پر بہت کچھتائے۔

ادھر ہوا یہ کہ عمرو بن سالم خزاعی چالیس آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، آنحضرت ﷺ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، عمرو بن سالم نے آپ ﷺ کے روبرو کھڑے ہو کر اشعار میں درد بھرے انداز میں واقعہ کی پوری روداد سنائی آپ ﷺ نے غداری اور عہد شکنی کی روداد سن کر فرمایا ”لَا نَصْرُ لَنَا إِنْ لَمْ أَنْصُرْكُمْ“ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو میری مدد نہ کی جائے۔

يَا رَبِّ اِنِّیْ نَاشِدُ مُحَمَّدًا حَلْفَ اٰیِنَا وَاٰیِہِ الْاٰتِلَادِ

اے میرے پروردگار! میں محمد ﷺ کو اپنے باپ اور ان کے باپ (عبدال مطلب) کا قدیم عہد یاد دلانے آیا ہوں، زمانہ جاہلیت میں خزاعہ حضرت عبدال مطلب کے حلیف تھے مطلب یہ کہ ہمارا اور تمہارا تحالف کا رشتہ قدیم ہے،

اِنَّ قَرِیْشًا اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَ وَنَقَضُوْا مِیْثَاقَكَ الْمَوْکِدَ

بلاشبہ قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور آپ کے پختہ عہد و پیمان کو توڑ ڈالا۔

ہم بیٹوں اب الوتیرہ ہجدا وقتلونا رگعا و سجدًا

ان لوگوں نے چشمہ و تیرہ پر سوتے ہوئے ہم پر شب خون مارا اور رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہم کو قتل کر دیا۔

آنحضرت ﷺ نے قریش کی عہد شکنی کی خبر پا کر قریش کے خلاف جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی قریش کو بدر، احد اور احزاب کے معرکوں میں مسلمانوں کی غیبی امداد اور تہور و شجاعت کا اندازہ ہو کر اپنی قوت و طاقت کا نشہ اتر چکا تھا جس کی وجہ سے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا، مجبور ہو کر ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ خود جا کر حالات کا اندازہ لگائیں اگر حالات بگڑے ہوئے دیکھیں تو عذر معذرت کر کے آئندہ کے لئے معاہدہ کی تجدید کر لیں، ابوسفیان نے مدینہ پہنچ کر ناگفتہ حالات دیکھے تو تجدید معاہدہ کی درخواست کی اور اکابر صحابہ سے سفارش کرنے کے لئے کہا مگر سب نے سابقہ اور لاحقہ حالات کی وجہ سے انکار کر دیا اور ابوسفیان نا کام واپس چلا گیا جس کی وجہ سے قریش پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔

تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان



لوگوں کے ساتھ چار مہینے کی مدت مقرر کر دی تھی جن لوگوں نے رسول ﷺ سے معاہدہ کیا تھا جیسے قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ مدج اور بنو ضمرہ اور جن لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان لوگوں سے پچاس راتوں کی حد مقرر فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ جن کفار سے تمہارا معاہدہ نہیں ہے ان سے دسویں ذی الحجہ سے لیکر آخر محرم تک نہ لڑو، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے ورنہ ان کے ساتھ قتال کرو اور جن کافروں سے معاہدہ ہے ان کا حکم یہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ سے ربیع الآخر کی دسویں تاریخ تک قتال نہ کرو اس مدت میں اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو فبہا ورنہ ان سے جہاد کرو جمہور کے قول کے مطابق ۶ھ میں حج فرض ہوا لیکن فتح مکہ سے پہلے تو آنحضرت ﷺ نے اس وجہ سے حج نہیں کیا کہ بیت اللہ اور صفاء مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے۔

**فائدہ:** اس مقام پر یہ جان لینا فائدہ سے خالی نہیں کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج ۸ھ میں قدیم طریقہ پر ہوا پھر ۹ھ میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقہ پر کیا اسکے بعد تیسرا حج ۱۰ھ میں ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں آپ ﷺ پہلے دو حجوں میں تشریف نہیں لے گئے تیسرے حج میں جبکہ جزیرۃ العرب سے کفر کا مکمل استیصال ہو گیا تب آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا اس دوران مذکورہ آیات نازل ہوئیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ برآۃ کی دس آیتیں دیکر روانہ فرمایا کہ مشرکین کو جا کر یہ آیتیں سنادیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ ۱۰ھ سے کوئی مشرک یا ننگا شخص طواف نہ کر سکے گا۔

### اعلان براءۃ کا مقصد:

اس اعلان براءت سے عرب میں شرک اور مشرکوں کا وجود گویا عملاً خلاف قانون قرار دیدیا گیا، اور ان کے لئے پورے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی، یہ لوگ تو اس بات کے منتظر تھے کہ روم اور فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ ہو یا نبی (ﷺ) وفات پا جائیں تو یکایک نقص عہد کر کے خانہ جنگی برپا کر دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ان کی ساعت منتظر آنے سے پہلے ہی بساط ان پر الٹ دی اور اعلان براءت کر کے ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ چھوڑا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اس اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو امن کی آغوش میں دیکر اسلامی نظم و ضبط کے تابع ہو جائیں۔

### فتح مکہ کے وقت مشرکین کی چار قسمیں اور ان کے احکام:

اس وقت مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا اور ”لا تشریب علیکم الیوم“ کہہ کر مکہ میں رہنے والے تمام مشرکوں کو جان و مال کا امان دیدیا گیا تھا، اس وقت مشرکین مکہ کے مختلف حالات تھے۔

## پہلی قسم:

ایک قسم تو وہ تھی جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا اور وہی فتح مکہ کا سبب بنا۔

## دوسری قسم:

کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے معاہدہ صلح ایک خاص مدت کے لئے کیا گیا تھا، اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے جیسے بنی کنانہ کے دو قبیلے بنی ضمرہ اور بنی مدج ان قبیلوں سے ایک خاص مدت کیلئے معاہدہ صلح ہوا تھا اور سورہ برآءت نازل ہونے کے وقت بقول خازن ان کی میعاد صلح کے نو مہینے باقی تھے۔

## تیسری قسم:

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے معاہدہ صلح غیر میعادى ہوا تھا۔

## چوتھی قسم:

چوتھے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہ تھا۔

## پہلی قسم کا حکم:

پہلی قسم جو قریش مکہ کی تھی جنہوں نے معاہدہ صلح حدیبیہ کو خود توڑ دیا اب یہ مزید مہلت کے مستحق نہ تھے، مگر چونکہ یہ زمانہ اشہر حرم کا تھا جن میں جنگ و قتال من جانب اللہ ممنوع تھا اس لئے ان کے متعلق وہ حکم آیا جو سورہ توبہ کی پانچویں آیت میں مذکور ہے ”فاذا انسלخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية“ اگرچہ مشرکین مکہ نے عہد شکنی کر کے اپنا کوئی حق باقی نہیں چھوڑا تھا مگر اشہر حرم کا احترام بہر حال ضروری تھا، اسلئے اشہر حرم ختم ہوتے ہی وہ یا تو جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی۔

## دوسری قسم کا حکم:

دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جن سے کسی خاص مدت کے لئے معاہدہ کیا گیا تھا اور وہ اس پر کاربند رہے ان کا حکم سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں یہ آیا ہے ”إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا كَمِ الْآيَةِ“ یعنی وہ مشرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ صلح کر لیا پھر انہوں نے معاہدہ پر قائم رہنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلہ میں تمہارے کسی دشمن کی مدد کی تو تم



ان کے معاہدہ کو اس کی مدت تک پورا کرو یہ حکم بنو ضمرہ اور بنو مدلج کا تھا، جس کی رو سے ان کو نو ماہ کی مہلت مل گئی۔

## تیسری اور چوتھی جماعت کا حکم:

ان دونوں جماعتوں کا ایک ہی حکم نازل ہوا، جو سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے، برآءة من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، فسیحوا فی الارض اربعة اشهر الخ، یعنی اعلان دست برداری کے بعد تم کو صرف چار ماہ جزیرۃ العرب میں قیام کی اجازت ہے اس کے بعد یا تو تم اپنا ٹھکانہ اور کہیں تلاش کر لو یا اسلام کی پناہ میں آ جاؤ بصورت دیگر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ، خوب سمجھ لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

**خلاصہ:** یہ کہ پہلی اور دوسری آیت کی رو سے ان لوگوں کو جن سے غیر میعادى معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہ تھا چار ماہ کی مہلت مل گئی، اور چوتھی آیت کی رو سے ان لوگوں کو جن کے ساتھ کسی قسم کا میعادى معاہدہ تھا تا اختتام مدت معاہدہ مہلت مل گئی، اور پانچویں آیت کی رو سے مشرکین مکہ کو اشہر حرم ختم ہونے تک مہلت مل گئی۔

## مذکورہ پانچ آیات سے متعلق چند مسائل و فوائد:

**فائدہ: ۱** یہ کہ فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ نے قریش مکہ اور دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جو عفو و درگزر اور رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اس نے مسلمانوں کو عملی طور پر یہ درس دیا کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آئے اور تمہارے سامنے عاجز ہو جائے تو اس سے گزشتہ عداوتوں اور ایذاؤں کا انتقام نہ لو بلکہ عفو و کرم سے کام لے کر اسلامی اخلاق کا ثبوت دو۔

**فائدہ: ۲** یہ کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اپنے غصہ کے جذبات کو دبا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی لڑائی اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ کے لئے تھی اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام بادشاہوں کی جنگ میں امتیاز اور فساد و جہاد میں فرق کرتا ہے۔

**فائدہ: ۳** یہ ہے کہ دشمن جب مقہور و مغلوب ہو جانے کے بعد ان اخلاق فاضلہ کا مشاہدہ کرے گا تو شرافت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی جو اس کیلئے کلید کامیابی ہے۔

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ، (الایۃ) حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے ایک رائے تو وہی ہے کہ اس سے معروف حرمت والے چار مہینے مراد ہیں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہاں اشہر حرم سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ اذی الحجہ سے اربعہ الثانی تک کے چار مہینے مراد ہیں انھیں اشہر حرم اسلئے کہا گیا ہے کہ اعلان براءۃ کی رو سے ان چار مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف اقدام کی کسی کو اجازت نہیں تھی، اعلان براءۃ کی رو سے یہ تاویل زیادہ مناسب ہے۔

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجْرْهُ، اس آیت میں مذکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی

ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دید یعنی اس کو امان میں رکھتا کہ کوئی مسلمان اس کو قتل نہ کر سکے، اور اس کو قرآن سننے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے ممکن ہے کہ اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اسکی جائے پناہ تک پہنچا دو۔

مَسْئَلَتْنِی: وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، مخصوص یہی دو عمل مراد نہیں ہیں یہ دونوں عمل بطور نمونہ کے ہیں، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کام کرنے لگیں، فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قتل سے بچنے کے لئے واقعۃً نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے صرف ان اعمال کے وجوب کا اعتقاد رکھنا ہے اسلئے کہ نماز کا وجوب اپنے وقت پر ہوتا ہے اور زکوٰۃ مالک نصاب پر سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔

مَسْئَلَتْنِی: فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جزیہ نہ لینا کفار عرب کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے یہ عدم اخذ و حصر اور تخلیہ سبیل کا حکم ان ہی کے ساتھ مخصوص رہے گا، باقی عام کفار و مشرکین کے لئے گرفتار ہونے کے بعد غلامی میں آجانے کا مسئلہ اپنی جگہ ثابت اور مسلم ہے۔

كَيْفَ اَي لَا يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَبِهِمْ كَافِرُونَ بِهِمَا غَادِرِينَ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَبِهِمْ قَرِيشٌ الْمُسْتَشْنُونَ مِنْ قَبْلِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ اَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ وَلَمْ يَنْقُضُوهُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ وَمَا شَرْطِيَّةٌ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑤ وَقَدْ اسْتَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِمْ حَتَّى نَقَضُوا بِإِعَانَةِ بَنِي بَكْرٍ عَلَى خُرَاعَةٍ كَيْفَ يَكُونُ لَهُمْ عَهْدٌ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَنْظُرُوا بِكُمْ لَا يَرْقُبُوا يُرَاعُوا فِيكُمْ إِلَّا قَرَابَةً وَلَا ذِمَّةً عَهْدًا بَلْ يُؤْذَوْنَ كَمَا اسْتَطَاعُوا وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ حَالٌ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ بِكَلَامِهِمُ الْحَسَنِ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ⑥ نَاقِضُونَ لِلْعَهْدِ اِشْتَرَوْا بِآيَةِ اللَّهِ الْقُرْآنَ ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا اَي تَرَكُوا اِتِّبَاعَهَا لِلشَّهَوَاتِ وَالنَّهْوِ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ دِينِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ بَشَرٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦ عَمَلُهُمْ بِهَذَا لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَا ذِمَّةً ⑧ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ⑨ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ اَي فَهْمُ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑩ يَتَدَبَّرُونَ وَإِنْ نَكَثُوا نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ مَوَائِقَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ عَابَوْهُ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ رُؤُسَاءَهُ، فِيهِ وَضَعَ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ عُهُودُهُمْ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْكَسْرِ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ⑪ عَنْ الْكُفْرِ اِلَّا لِلتَّخْضِيعِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ عُهُودَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ مِنْ مَكَّةَ لِمَا تَشَاوَرُوا فِيهِ بَدَارِ النَّدْوَةِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ بِالْقِتَالِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ⑫ حَيْثُ قَاتَلُوا خُرَاعَةَ حُلَفَاءِ كَمَ مَعَ بَنِي بَكْرٍ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوهُمْ اتَّخَشَنَهُمْ اتَّخَفُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ فِي تَرْكِ قِتَالِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑬



قَاتِلُوهُمْ بِعَدْوٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ بِقَتْلِهِمْ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنْ دَارِهِمْ بِالْأَسْرِ وَالْقَهْرِ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ  
 سَمَّا فَعَلَ بِهِمْ بِمَنْ بَنُو خَزَاعَةَ وَيَذْهَبْ غِيْظَ قُلُوبِهِمْ كَرَبِّهَا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ بِالرَّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ  
 كَابِي سَفِيَانَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۵ اَمْ بِمَعْنَى بِمِزَّةِ الْإِنْكَارِ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا لَمْ يَعْلَمْ اللَّهُ عِلْمَ ظُهُورِ  
 الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ بِإِخْلَاصٍ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ بَطَانَةٌ وَآلِيَاءُ الْمَعْنَى وَلَمْ  
 يَظْهَرِ الْمُخْلَصُونَ وَبِهِمُ الْمُوصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۶

**ترجمہ:** مشرکوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا، مراد وہ  
 مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ (عہد شکنی کر کے) غداری کی، البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد  
 حرام (حرم) کے قریب حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا اور وہ قریش ہیں جن کا ماقبل میں استثنا ہو چکا ہے، تو جب تک وہ تمہارے  
 ساتھ عہد پر قائم رہیں اور معاہدہ کو نہ توڑیں، تو تم بھی ان کے ساتھ وفاء عہد پر قائم رہو، اور ماحشر طیبہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ  
 متقیوں سے محبت رکھتا ہے، اور رسول ان کے ساتھ عہد پر قائم رہے یہاں تک کہ قریش نے خزاعہ کے خلاف بنی بکر کی مدد کر کے  
 عہد کو توڑ دیا ان مشرکوں کے ساتھ عہد کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں  
 (یعنی) فتح مند ہو جائیں تو نہ تمہاری قرابت داری کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا، بلکہ حتی المقدور تم کو ایذا پہنچائیں اور جملہ شرطیہ حال  
 ہے وہ اپنی باتوں سے یعنی (زبانی) خوش کن باتوں سے تم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل وفاء عہد سے  
 انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نقض عہد کر کے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی آیات کے بدلے دنیا  
 کی حقیر قیمت قبول کر لی ہے یعنی آیات کی اتباع کو شہوتوں اور خواہشوں کے بدلے ترک کر دیا ہے، پھر اللہ کے راستہ یعنی دین  
 کے راستہ میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، بہت برے کړتوت ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں یعنی انکے یہ اعمال، کسی مومن کے  
 معاملہ میں نہ یہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ (عہد کی) ذمہ داری کا، یہ ہیں ہی زیادتی کرنے والے پس اگر یہ لوگ توبہ  
 کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں (یعنی) غور و فکر کرنے والوں کے لئے ہم  
 احکام واضح کر دیتے ہیں، اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں (عہدوں) کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی (عیب  
 جوئی) کریں تو تم ان کفر کے پیشواؤں سے قتال کرو اس میں اسم ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لایا گیا ہے، (یعنی قاتلوہم کے  
 بجائے قاتلو ائمة الکفر کہا گیا ہے) اس لئے کہ ان کی قسموں (معاہدوں) کا کوئی اعتبار نہیں اور ایک قراءت میں ایمان  
 کسرہ کے ساتھ ہے، (یعنی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں) ممکن ہے کہ وہ اس طرح کفر سے باز آجائیں، کیا تم ایسے لوگوں  
 سے نہ لڑو گے کہ جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیئے اور رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کیا، جبکہ انہوں نے دارالندوہ میں اسی سلسلہ  
 میں مشورہ کیا، اور ان ہی نے اول مرتبہ تم پر قتال کی ابتداء کی، اس طریقہ پر کہ خزاعہ سے جو کہ تمہارے حلیف تھے بنی بکر کے ساتھ

مل کر قتال کیا، پس تمہارے لئے کیا چیز مانع ہے کہ تم ان سے قتال نہ کرو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی خوف کھاتے ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ترک قتال کے بارے میں اس سے ڈرو، تم ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں قتل کرا کے ان کو سزا دے گا اور قید و غلبہ کے ذریعہ ان کو رسوا کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جائیگا اس کے ذریعہ بہت سے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیگا اور وہ بنو خزاعہ ہیں اور ان کے قلوب کی بے چینی کو دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا اسلام کی طرف مائل کر کے توبہ کی توفیق دیگا، جیسا کہ ابوسفیان کو اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ اُمّ ہمزہ استفہام انکاری کے معنی میں ہے حالانکہ اللہ نے ابھی یہ ظاہر کیا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ جہاد کیا؟ (اور کس نے) اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار جگری دوست نہیں بنایا، مطلب یہ کہ مخلصوں کو غیر مخلصوں سے ابھی ممتاز نہیں کیا، اور مخلصین وہ ہیں جو مذکورہ صفات سے متصف ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے بخوبی واقف ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

**قَوْلًا:** ای لا اس میں اشارہ ہے کہ کَیْف استفہام تعجبی بمعنی نفی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اِلا سے استثناء درست ہے کَیْف، یکون کی خبر مقدم ہے اور عہد اسم مؤخر ہے کَیْف کو صدارت کلام کا مقتضی ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا ہے للمشرکین ثابتاً یا باقیاً کے متعلق ہو کر عہد کا حال مقدم ہے اور اگر للمشرکین عہد سے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکون، تامہ ہو اور کَیْف حال ہونے کی وجہ سے محل میں نصب کے ہو۔

**قَوْلًا:** ما شرطیۃ ما شرطیہ ہے نہ کہ موصولہ اور فاستقائموا الھم، جزاء ہے۔

**قَوْلًا:** کَیْف، کَیْف کے بعد یکون فعل محذوف ہے جس کو مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے ما قبل کے قرینہ کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔

**سُؤال:** کَیْف کو مکرر کیوں لائے ہیں؟

**جواب:** مشرکین کے عہد پر قائم رہنے کے استبعاد کو ظاہر کرنے کے لئے اور عدم ثبات کی علت کو بیان کر نیکے لئے، اور علت، وَاِنْ يَظْهَرُوا ہے۔

**قَوْلًا:** اِلا، اِل کے معنی متعدد ہیں، قرابت، عہد، پڑوس، عداوت، کینہ، حسد۔

**قَوْلًا:** وجملۃ الشرط حال، یعنی وَاِنْ يَظْهَرُوا علیکم شرط ہے اور لا یرقبوا الخ جزاء جملہ شرطیہ کَیْف یکون لھم سے حال ہے لہذا اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ جملہ شرطیہ کا عطف جملہ جملیہ پر درست نہیں ہے۔

**قَوْلًا:** ای فہم اخوانکم یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔



سُؤَال: یہ ہے کہ فہم مقدر ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔

جَوَاب: یہ ہے کہ اخوان کم چونکہ فَاِنْ تَابُوا کی جزاء ہے اور جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے مفسر علام نے ہم محذوف مان کر جملہ تامہ بنا دیا۔

قَوْلًا: خِزَاعَةُ حُلَفَاءِ كَمْ. خِزَاعُ موصوف ہے اور حلفاء کم اس کی صفت ہے۔

قَوْلًا: هُمْ بَنُو خِزَاعَةٍ اس کا مقصد مومنین کا مصداق متعین کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بنو خِزَاعَةِ غائبانہ طور پر ایمان لے آئے تھے۔

قَوْلًا: وَلَيَجَئَنَّ يَهُودُ لُجَّيْنِ سے ماخوذ ہے بمعنی دخول، جگری راز دار دوست، مفسر علام نے وَلَيَجَئَنَّ کا ترجمہ بَطَانَةِ سے کیا ہے بَطَانَةُ استر کو کہتے ہیں جو کہ پوشیدہ رہتا ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

اللہ اور رسول ﷺ کی جانب سے براءت کی حکمت:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ، یہ استفہام نفی کے لئے ہے یعنی جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا، سابقہ آیات میں براءت کی حکمت یہ ہے کہ اُن مشرکوں سے معاہدہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے اور معاہدہ سے کیا فائدہ؟ کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کسی وقت تم پر قابو حاصل کر لیں تو ایذا رسانی میں ہرگز نہ قرابت کا خیال کریں اور نہ قول و قرار کا، چونکہ اتفاق سے تم پر غلبہ حاصل نہیں ہے اسلئے محض زبانی عہد و پیمان کر کے تمکو خوش رکھنا چاہتے ہیں ورنہ تو ان کے دل اس عہد پر ایک منٹ کے لئے بھی راضی نہیں ہر وقت عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں خلاصہ یہ کہ ایسی دغا باز اور غدار قوم سے خدا اور رسول ﷺ کا کیا عہد ہو سکتا ہے؟ البتہ جن قبائل سے تم معاہدہ کر چکے ہو اور بالخصوص مسجد حرام یعنی حرم کے قریب حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے تو تم اپنی طرف سے عہد شکنی نہ کرو جب تک وہ وفاداری کے راستہ پر چلیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے طریقہ پر رہو تم اپنے دامن کو عہد شکنی کی گندگی سے محفوظ رکھو خدا کو ایسے ہی لوگ محبوب ہیں، چنانچہ بنو کنانہ وغیرہ نے مسلمانوں سے عہد شکنی نہیں کی تھی اور مسلمانوں نے بھی نہایت احتیاط اور دیانتداری کے ساتھ اپنا عہد پورا کیا، اعلان براءت کے وقت بنو کنانہ کی مدت معاہدہ نو ماہ باقی تھی ان کے ساتھ مسلمانوں نے مکمل طور پر معاہدہ کی پابندی کی۔

بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کَيْفَ مشرکین کے لئے ہے اور دوسرے سے مراد یہودی ہیں اسلئے کہ ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو حقیر دنیا کے لئے فروخت کر دیتے ہیں اور یہ خصلت یہود ہے بار بار وضاحت سے مقصد مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔

وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ خُ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ اپنا عہد توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی اور عیب جوئی کریں تو ائمہ کفر، پیشوایان شرک کو چُن چُن کر قتل کرو اسلئے کہ پورا فساد ان ہی کی وجہ سے ہے ان ہی لوگوں نے آپ ﷺ سے عہد کر کے اس کو توڑ ڈالا، اور نبی ﷺ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا (واقعہ اور مسائل کی پوری تفصیل سابق رکوع میں گزر چکی ہے)۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ بِدُخُولِهِ وَالْقُعُودِ فِيهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ لِعَدَمِ شَرْطِهَا ۖ وَفِي النَّارِهِمْ خُلْدٌ ۖ وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۖ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِيَّاهُ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْفَضْلِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ ۱۹ الكافرين نزلت ردًا على من قال ذلك وهو العباس أو غيره الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً رُتَبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۖ ۲۰ الظَّالِمُونَ بِالْخَيْرِ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ۖ ۲۱ دائم خُلْدِينَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۖ ۲۲ وَنَزَلَ فِيمَنْ تَرَكَ الْهَجْرَةَ لِأَجْلِ إِبِلِهِ وَتِجَارَتِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أِبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۖ ۲۳ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ أَاقْرَبُكُمْ وَفِي قِرَاءَةِ عَشِيرَاتِكُمْ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا اكْتَسَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا عَدَمَ نِفَاقِهَا وَمَسْكِنٍ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَقَعَدْتُمْ لِأَجْلِهِ عَنِ الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فَتَرَبَّصُوا أَنْتَظِرُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۖ ۲۴

**تَرْجُمہ:** مشرکین اس لائق ہی نہیں کہ مساجد میں آمد و رفت کے ذریعہ مساجد کو آباد کر سکیں (مساجد) مفرد اور جمع کے ساتھ ہے، حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال (شرائط صحت) نہ پانے کی وجہ سے ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ ہی میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، مساجد کا آباد کرنا تو بس ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈرتے ہوں امید ہے کہ ایسے لوگ راہ یاب ہو جائیں گے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے والوں کے عمل کو اس شخص کے عمل کے (برابر) قرار دے لیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک فضل میں برابر



نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں (یعنی) کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا، برابری کے قائل کے قول کو رد کرنے کے لئے (آئندہ) آیت نازل ہوئی اور وہ قائل حضرت عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یا ان کے علاوہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے نزدیک دوسروں سے مرتبہ میں بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں اور ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی اور رضا مندی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لئے دائمی نعمتیں ہوں گی خوشخبری دیتا ہے یہ ان میں ہمیشہ ہمیش کے لئے رہیں گے بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے اور آئندہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ہجرت کو اپنے اہل و عیال اور تجارت کی وجہ سے چھوڑ دیا، اے ایمان والو تم اپنے آباء کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اور تم میں سے ان کو جو دوست رکھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں (اے نبی) کہہ دو کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور ایک قراءت میں عشیرہ اتکمہ ہے اور تمہارے وہ اموال جن کو تم نے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم خوف کرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنا فیصلہ لے آئے یہ ان کے لئے تہدید ہے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔

## تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، كَانَ فِعْلٌ نَاقِصٌ لِلْمُشْرِكِينَ، يَنْبَغِي مَحْذُوفٌ كَـمُتَعَلِّقٍ بِهَوَكِرْ خَبْرٌ مُقَدَّمٌ أَوْ أَنَّ يَعْْمُرُوا مَسْجِدًا لِلَّهِ جُمْلَةٌ هَوَكِرْ كَانَ كَأَسْمٍ مَوْخَرٍ شَاهِدِينَ، يَعْمُرُوا كِي ضَمِيرٌ سَعَالٍ أَوْ شَاهِدِينَ عَلَي الْكَافِرِينَ كَامُتَعَلِّقٍ أَوَّلُ هُوَ أَوْ بِالْكَافِرِينَ مُتَعَلِّقٌ ثَانِي أَيْ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَي أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ.

جمہور کے نزدیک يَعْمُرُوا ہے عَمَرَ يَعْمُرُ سے یعنی آباد کریں اور ابن السمعع نے يَعْمُرُوا باب افعال سے پڑھا ہے حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا وغیرہ نے مسجد افراد کے ساتھ پڑھا ہے اور باقیوں نے مساجد جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔

(فتح القدیر شوکانی)

**قَوْلُهُ:** أَيْ أَهْلُ ذَلِكَ، اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَالٌ:** عِمَارَةٌ اور سَقَايَةٌ دونوں مصدر ہیں جو کہ ایک معنوی شے ہے لہذا ان کو جسم اور شے کے ساتھ تشبیہ دینا درست نہیں ہے جیسا کہ مذکورہ دونوں مصادر کو مَنْ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کہ شے مجسم ہے۔

**جَوَابٌ:** یہ ہے کہ العِمَارَةُ اور السَقَايَةُ سے پہلے مضاف محذوف ہے اور وہ اہل ہے یعنی اہل العِمَارَةُ و اہل السَقَايَةُ لہذا اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔

قَوْلًا: نزلت ردًا علی مَنْ قَالَ اس میں اشارہ ہے کہ اَجَعَلْتُمْ سَقَایَہ میں ہمزہ استفہام انکاری کا ہے اور اسی سے آئندہ آیت کے شان نزول کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔

قَوْلًا: ذَلْکَ کا مشارالیه مہاجرین اور مجاہدین کو ان کے غیر کے مساوی قرار دینا ہے۔

قَوْلًا: مَنْ غَیْرَہُمْ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات کو جامع نہیں ہیں، جن میں اہل سقایہ اور اہل عمارہ بھی شامل ہیں، لفظ اعظم سے شبہ ہوتا ہے کہ اہل سقایہ و عمارہ اگرچہ اعظم درجہ کے مستحق نہ ہوں مگر عظیم درجہ کے مستحق ہوں گے حالانکہ ایمان کے بغیر کسی بھی نیکی کرنے والے کے لئے آخرت میں کوئی درجہ نہیں ہوگا۔

قَوْلًا: نَفَاقَہَا نَفَاقُ بَفَتْحِ النُّونِ، رَوَاجٌ، یَقَالُ السَّکَّةُ النَّافِقَةُ، رَاجٌ سَکَہ۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مَسَاجِدُ سے مراد مسجد حرام (بیت اللہ) ہے، مَسَاجِدُ جمع اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ مسجد حرام تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے، یا اس لئے کہ عرب واحد کے لئے بھی جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں یَقَالُ فُلَانٌ كَثِيرُ الدَّرَاهِمِ، وَكَقَوْلِهِمْ فُلَانٌ يُجَالِسُ الْمُلُوكَ وَلَعَلَّہُ لَمْ یَجَالِسْ إِلَّا مَلِكًا وَاحِدًا اور یہ بھی درست ہے کہ مساجد سے تمام مسجدیں مراد ہوں اور تعمیر سے تولیت اور نظم و نسق مراد ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر (یعنی مسجد حرام) کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کریں جیسا کہ مشرکین تلبیہ میں کہا کرتے تھے، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكَاهُ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلِكُ (صحیح بخاری باب التلبیہ) یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والے کرتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی خود کو نصرانی کہتے ہیں۔ (فتح القدیر)

مطلب یہ ہے کہ جو مسجدیں خدائے واحد کی عبادت کے لئے بنی ہوں ان کے متولی اور منتظم اور خادم و آباد کار بننے کے لئے وہ لوگ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خداوندی صفات، حقوق و اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہوں، اور خود بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی و عبادت کو ایک خدا کے لئے مخصوص کر دینا قبول نہیں کر سکتے اور نہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک ذات اتنے بڑے کارخانہ قدرت کو تنہا چلا سکے، لہذا یہ کسی حالت میں درست نہیں کہ وہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی بنے رہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہو۔

## عمارت مسجد سے کیا مراد ہے؟

”عمارت مسجد“ کا جو لفظ مذکورہ آیت میں آیا ہے اس کے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں ایک ظاہری درود یوار کی تعمیر، دوسرے مسجد کی حفاظت و نگرانی اور صفائی وغیرہ اور دیگر ضروریات کا انتظام، تیسرے عبادت کے لئے مسجد میں حاضر ہونا، عمرہ کو عمرہ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لئے حاضری ہوتی ہے۔



مشرکین مکہ تینوں اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ مشرکین کو اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کا کوئی حق نہیں، جبکہ وہ خود اپنے کفر کی عمل و اقرار کے ذریعہ شہادت دیتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال جبط اور ضائع کر دیئے گئے ہیں یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

## مسجدوں کی آباد کاری کا حق صرف مومنین باعمل کو ہے:

دوسری آیت میں عمارت مساجد کا مثبت پہلو اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ”إِنَّمَا يَعْمُرُو مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ“

یعنی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں، ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔

## مذکورہ آیات سے متعلق بعض مسائل:

مَسْئَلَةٌ: کافروں کے لئے جس عمارت مسجد سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انتظامی ذمہ داری ہے رہی ظاہری درودیوار کی تعمیر سو اس میں غیر مسلم سے بھی کام لیا جاسکتا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

## مسجد کے تعمیر میں غیر مسلم کے چندہ کا حکم:

اگر کوئی غیر مسلم مسجد کی تعمیر کرادے اور تعمیر مسجد کے لئے چندہ دیدے تو اس کا قبول کر لینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا اندیشہ نہ ہو۔ (در المختار، شامی، مراغی)

## شان نزول:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ (الآية) مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے اس پر انھیں بڑا فخر تھا، اس کے مقابلہ میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا، اس غلط فہمی اور زعم باطل کو رد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ الخ کیا تم سقایۃ حاج اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی عند اللہ مقبول نہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں تین واقعات نقل کئے گئے ہیں۔

## پہلا واقعہ:

ایک روایت میں اس کا شان نزول مسلمانوں کی ایک آپسی گفتگو کو بتایا گیا ہے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز کچھ مسلمان منبر نبوی کے پاس جمع ہوئے ان میں سے ایک نے کہا اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے، دوسرے نے کہا مسجد کو آباد کرنا ہے، تیسرے نے کہا میرے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سب سے بڑا عمل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو آپس میں اس طرح بحث و تکرار اور اختلاف کرتے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں بلند نہ کرو یہ جمعہ کا دن تھا، راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی گفتگو کے بارے میں آپ سے استفسار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب فضل الشہادۃ فی سبیل اللہ)

## دوسرا واقعہ:

بہت سے مشرکین مسلمانوں کے مقابلہ میں اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی آبادی اور حجاج کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا اسلام لانے سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان کو اس پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ آپ لوگ ایمان و ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہو مگر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت اور حجاج کرام کو پانی پلانے کی اہم خدمت انجام دیتے ہیں جس کے برابر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

## تیسرا واقعہ:

مصنف عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد طلحہ بن شیبہ اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں چاہوں تو بیت اللہ کے اندر جا کر رات گزار سکتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حجاج کو پانی پلانے کا متولی اور منتظم ہوں اور مسجد حرام میں میرے اختیارات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے تم سب لوگوں سے چھ مہینہ پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی اعلیٰ اور



افضل ہو ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔

تینوں واقعات کے سبب نزول ہونے میں کوئی بعد نہیں کہ اصل آیات کا نزول مشرکین کے فخر و تکبر کے جواب میں ہوا ہو، پھر اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کے باہم پیش آئے ان میں بھی ان ہی آیات کو استدلال کے لئے پیش کیا گیا ہو جس سے سننے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آیات اس واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ خطاب قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لئے ہے اس کا مقصد مومنین اور کافرین کے درمیان قطع ولایت کو بیان کرنا ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہئے کہ ان کے ماں باپ اور بھائی بہن وغیرہ اگر کفر پر قائم ہوں تو انکو اپنا رفیق اور دوست نہ بنائیں اگر کوئی اسکے خلاف کرے گا تو وہ ظالموں اور نافرمانوں میں شمار ہوگا، اگرچہ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے اسی طرح عزیز واقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت و تاکید بار بار آئی ہے مگر اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر تعلق کی ایک حد ہے ان میں سے ہر تعلق خواہ والدین اور اولاد کا ہو یا حقیقی بھائی بہن کا اللہ اور اسکے رسول کے تعلق کے مقابلہ میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے جس موقع پر یہ دونوں رشتے ٹکراتے ہوں تو پھر رشتہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ ہی کا باقی رکھنا چاہئے۔

## شان نزول:

مجاہد اور قتادہ نے کہا ہے کہ یہ آیت بھی ماقبل میں مذکور حضرت عباس اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قصہ سے متعلق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں حضرات ابتداءً نہ ہجرت میں شریک تھے اور نہ ایمان میں بلکہ ان کو اپنے سقایہ و حجابہ پر فخر و غرور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تو بعض حضرات ان میں ایسے بھی تھے کہ ان کے بیوی بچے ان سے چمٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تم کو اللہ کی قسم دیتے ہیں تم ہم کو ضائع نہ کرو، ان حضرات کا اپنے اہل و عیال کی گریہ و زاری کی وجہ سے دل نرم ہو گیا جسکی وجہ سے ہجرت سے باز رہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے کہا ہے مذکورہ آیت ان نو لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو مرتد ہو کر مکہ چلے گئے تھے تو آپ ﷺ نے ان کے ساتھ تعلقات اور دوستی رکھنے سے منع فرمادیا تھا یہ آیت اسی سلسلہ میں نازل ہوئی، مگر اس آیت کو ہجرت کے واقعہ سے متعلق کرنے میں یہ قباحت لازم آتی ہے کہ یہ سورت نزول کے اعتبار سے آخری سورتوں میں سے ہے تو پھر ان آیات کا تعلق ہجرت نہ کرنے والوں سے کیسے ہو سکتا ہے اس سورت کا نزول تو فتح مکہ کے بعد ہوا ہے جبکہ ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو چکی تھی، لہذا زیادہ مناسب اور قرین قیاس واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مشرکین

سے اظہار بیزاری کریں اور ان سے دلی اور رازدارانہ دوستی نہ رکھیں تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے والدین نیز عزیز واقارب سے قطع تعلق کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ لِلْحَرْبِ كَثِيرَةً ۖ كَبَدِرَ وَقَرِيطَةَ وَالنَّضِيرَ ۚ وَ اذْكَرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۚ وَاِذْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ اِیْ یَوْمَ قَتَلَكُم فِیْهِ هَوَازِنَ وَذَلِكْ فِیْ شَوَالِ سَنَةِ ثَمَانَ اِذْ بَدَلْ مِنْ یَوْمِ اَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَقُلْتُمْ لَنْ نَغْلِبَ الْیَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ وَكَانُوا اِثْنِیْ عَشَرَ الْفَا وَ الْكُفَارُ اَرْبَعَةُ الْاَوَّلِ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ مَا مَصْدَرِیَّةٌ اِیْ مَعَ رَحْبِهَا اِیْ سَعَتِهَا فَلَمْ تَجِدُوْا مَكَانًا تَطْمَئِنُّوْنَ اِلَیْهِ لَشِدَّةِ مَا لِحَقُّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِیْنَ ۝ (۱۵) مُنْهَزَمِیْنَ وَثَبَّتَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلٰی بَغْلَتِهِ الْبِیضَاءِ وَلِیْسَ مَعَهُ غِیْرُ الْعَبَّاسِ وَابُو سَفِیَّانِ اخَذَ بِرِكَابِهِ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِیْنَتَهُ طَمَئِنَّتْهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَعَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ فَرَدُّوا اِلَی النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَادَاهُمُ الْعَبَّاسُ بِاِذْنِهِ وَقَاتَلُوا وَانْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا مَلَائِكَةُ وَعَذَّبَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَذَلِكْ جَزَاءُ الْكُفْرِیْنَ ۝ (۱۶) ثُمَّ یَتُوبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذَلِكْ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْهُمْ بِالْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ (۱۷) یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ قَلِیْلٌ لِّخُبْرٍ بَاطِنِهِمْ فَلَا یَقْرُبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِیْ لَا یَدْخُلُوْا الْحَرَمَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا عَامِ تِسْعٍ مِنَ الْهَجْرَةِ وَاِنْ خِفْتُمْ عِیْلَةً فَقُرْا بِانْقِطَاعِ تِجَارَتِهِمْ عَنْكُمْ فَسَوْفَ یُغْنِیْكُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَآءَ وَقَدْ اَغْنَاهُمْ بِالْفَتْوحِ وَالْجَزِیَّةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ۝ (۱۸) قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا اٰمَنُوْا بِالنَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا یُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَالْخَمْرِ وَلَا یَدِیْنُوْنَ دِیْنَ الْحَقِّ الثَّابِتِ النَّاسِخِ لْغِیْرِهِ مِنَ الْاَدِیَانِ وَهُوَ الْاِسْلَامُ مِنْ بَیْآنٍ لِلَّذِیْنَ اَوْتُوا الْكِتٰبَ اِیْ الْیَهُودَ وَالتَّصَارِیَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ الْخَرَاجَ الْمَضْرُوْبَ عَلَیْهِمْ كُلُّ عَامٍ عَنْ یَدٍ حَالٌ اِیْ مُنْقَادِیْنَ اَوْ بِاَیْدِیْهِمْ لَا یُؤْكَلُوْنَ بِهَا وَهُمْ صِغَرُوْنَ ۝ (۱۹) اِذْلَآءٌ مُنْقَادُوْنَ لِحُكْمِ الْاِسْلَامِ.

**تَرْجُمہ:** بے شک اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے مثلاً بدر و (بنو) قریظہ اور (بنو) نضیر (کے مقابلہ میں) اور حنین کے دن کو یاد کرو، یہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے، یعنی اس دن میں ہوازن کے ساتھ جنگ کو یاد کرو، اور یہ شوال ۸ھ میں پیش آئی جبکہ تم کو تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا تھا سو تم نے کہا تھا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، اور (مسلمانوں کی تعداد) بارہ ہزار تھی اور کفار چار ہزار تھے، اذ یوم سے بدل ہے، لیکن اس (کثرت) نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ما، مصدر یہ ہے یعنی اپنی وسعت کے باوجود، تم کو کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ تم اس میں اس شدید خوف کی وجہ سے جو تم کو لاحق ہو گیا تھا پناہ لے سکو، پھر تم شکست خوردہ ہو کر پیٹھ پھیر کر بھاگ



کھڑے ہوئے، اور نبی ﷺ اپنے سفید خچر پر اپنی جگہ جمے رہے حالانکہ آپ ﷺ کے ساتھ سوائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ ﷺ کے خچر کی رکاب تھامے ہوئے تھے کوئی باقی نہیں رہا تھا اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینت (تسلی) نازل فرمائی چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کہنے سے تم لوگوں کو آواز دی تو تم نبی ﷺ کی طرف لوٹ آئے اور (مشرکین سے) قتال کیا اور فرشتوں کا وہ لشکر نازل فرمایا جو تم کو نظر نہیں آ رہا تھا اور (اللہ نے) کافروں کو قتل و قید کی سزا دی اور یہی کافروں کی سزا ہے، پھر اس کے بعد ان میں سے اللہ جس کو چاہے اسلام کی توفیق دیکر توبہ نصیب کر دے اللہ بڑا مغفرت والا رحم والا ہے، اے ایمان والو! شرکین اپنے خبث باطن کی وجہ سے سراپا نجس ہیں لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں یعنی مسجد حرام میں داخل نہ ہوں اور ۹ھ میں یہ حکم نازل ہوا، اور اگر تم کو ان کے ساتھ تجارت منقطع ہو جانے کی وجہ سے فقر کا اندیشہ ہو سوا اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو ان سے عنقریب بے نیاز کر دے گا، چنانچہ (اللہ نے) مسلمانوں کو فتح اور جزیہ کے ذریعہ بے نیاز کر دیا، اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اگر وہ (اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے) تو نبی ﷺ پر ایمان لے آتے اور نہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے مثلاً شراب (نوشی) اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں جو کہ دائمی اور دیگر ادیان کے لئے ناسخ ہے اور وہ اسلام ہے اور وہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہیں م——— بیانیہ ہے، الذین کا بیان ہے، تا آں کہ وہ عائد کردہ سالانہ ٹیکس (جزیہ) تابع ہو کر بدست خود بغیر کسی کو سپرد کئے ادا کریں حال یہ کہ وہ ذلیل ہوں (یعنی) اسلام کے حکم کے تابع ہوں۔

## تَحْقِیْقِ شَرْکِیِّ تَسْهِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: مَوَاطِنَ، مَوَاطِنُ کی جمع ہے بمعنی موقع، مقامات، مفسر علام نے للحرب کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ موطن سے مراد جائے سکونت نہیں ہے بلکہ میدان حرب ہے۔

قَوْلُهُ: اِذْ کَر، مفسر علام نے اذ کر فعل محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ یَوْمَ فَعْل محذوف کا مفعول ہے نہ کہ موطن پر عطف جیسا کہ کہا گیا ہے اس لئے کہ یَوْمَ حُنَیْنِ ظرف زمان ہے اور مَوَاطِنَ ظرف مکان ہے اور زمان کا عطف مکان پر درست نہیں ہے دوسری وجہ یہ کہ اِذْ اَعْجَبْتُکُمْ، یَوْمَ حُنَیْنِ سے بدل ہے اگر یَوْمَ حُنَیْنِ کا عطف موطن پر کیا جائے تو اِذْ اَعْجَبْتُکُمْ کو بھی موطن سے بدل ماننا ہوگا اور یہ باطل ہے اسلئے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام مواقع پر عجب ہوا تھا۔

قَوْلُهُ: هُوَ اَزَن، تیر اندازی میں مشہور ایک قبیلہ کا نام ہے جو کہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے۔

قَوْلُهُ: حُنَیْنِ مکہ اور طائف کے درمیان۔ مکہ سے اٹھارہ میل کے فاصلہ پر ایک وادی کا نام ہے۔

قَوْلُهُ: بِمَا رَحُبَتْ، رُحْبَةٌ بضم الراء، بمعنی کشادگی وسعت، اور رَحْبَةٌ بالفتح کشادہ مکان، اور باء بمعنی مع 'مَا'

مصدر یہ ہے لہذا عدم عائد کا اعتراض نہیں ہوگا۔

قَوْلُهُ: فَلَمْ تَجِدُوا مَكَانًا اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: یہ ہے کہ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی حالانکہ زمین اپنی حالت پر باقی تھی۔

جَوَابُ: یہ ہے کہ زمین کی تنگی سے مراد مجازاً عدم وجود المكان المطمئن ہے۔

قَوْلُهُ: لَحُبْتُ بَاطِنَهُم یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: یہ ہے کہ نَجَسٌ مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہے۔

جَوَابُ: کا حاصل یہ ہے کہ نَجَسٌ سے مراد ذونجس ہے یا بطور مبالغہ حمل ہے بیان نجاست میں مبالغہ کرنے کے لئے، گویا کہ مشرک عین نجاست ہیں۔

سُئِلَ: یہ ہے کہ المشركون جمع ہے اور نجس مفرد ہے جسکی وجہ سے مبتداء خبر میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ نجس مصدر ہونے کی وجہ سے واحد ثنیہ اور جمع سب پر بولا جاتا ہے يقال رَجُلٌ نَجَسٌ رجالان نجس، رجال نجس، بعض ظاہر یہ اور زید یہ مشرک کو نجس العین مانتے ہیں۔

قَوْلُهُ: عَيْلَةً، الْفَقْرُ، یہ عَالٌ يَعِيْلُ (ض) کا مصدر ہے محتاج ہونا۔

قَوْلُهُ: وَالْأَلَامَنُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: یہ ہے کہ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اس سے اہل کتاب سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کی نفی کی گئی ہے حالانکہ یہ دونوں فرقے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

جَوَابُ: کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ صحیح معنی میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تو محمد ﷺ پر ضرور ایمان لاتے جب آپ ﷺ پر ایمان نہیں لائے تو ان کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر بھی نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: دِينَ الْحَقِّ اَي الدِّينِ الْحَقِّ اس میں اضافت الموصوف الى الصفت ہے۔

قَوْلُهُ: عَنْ يَدِ حَالٍ، يُعْطُوا کی ضمیر سے حال ہے، يَدٌ کی تفسیر منقادین سے تفسیر باللائم ہے کہا جاتا ہے اعطى فلان بیده اى اسلم وانقاد۔

قَوْلُهُ: بَايْدِكُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ عن ید میں عن بمعنی باء ہے اور یہ عن ید کی دوسری تفسیر ہے۔

قَوْلُهُ: يُوَكِّلُونَ یہ تو کیل سے مضارع جمع مذکر غائب ہے بمعنی سپرد کرنا وکیل بنانا۔

قَوْلُهُ: وَهُمْ صَاغِرُونَ اس حال میں کہ وہ اپنی زیر دستی کا احساس رکھتے ہوں، الصاغر الراضی بالمنزلة الدنية (راغب) امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صغار قانون اسلام کی بالادستی قبول کرنا ہے۔



## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

لَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ اس سے پہلے سورت انفال میں فتح مکہ اور اس کے متعلقات کا ذکر تھا، اس سورت میں غزوہ حنین کے واقعات، شکست و فتح کا اور ان کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل اور فوائد کا بیان ہے اس رکوع کی پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے عمومی احسان کا ذکر فرمانے کے بعد خصوصی انعام و احسان کے طور پر غزوہ حنین میں اپنی نصرت کا ذکر فرمایا، مسلمان اس سے پہلے بار بار نصرت غیبی اور تائید ایزدی کا مشاہدہ کر چکے تھے جن کی تعداد علماء تاریخ و سیرت اتنی تک گناتے ہیں۔

## غزوہ حنین کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ:

غزوہ حنین کو خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ اس میں بہت سے واقعات اور حالات خلاف توقع عجیب انداز سے ظاہر ہوئے جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔

## غزوہ حنین کا تفصیلی ذکر:

حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ سے اٹھارہ میل سے زیادہ فاصلہ پر واقع ہے لیکن ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے حال ہی میں موقع پر جا کر جو تحقیق کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنین اوٹاس کی ایک وادی کا نام ہے اور اوٹاس طائف کے شمال مشرق میں تقریباً ۳۰، ۴۰ میل کے فاصلہ پر ہے بہر حال اس کا محل وقوع جو بھی ہو، رمضان ۸ھ میں مکہ فتح ہو جانے اور قریش مکہ کے ہتھیار ڈال دینے کے دو ہفتہ کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذہبی حنین کے میدان میں کی اس کی صورت یہ پیش آئی کہ عرب کا ایک بہادر اور تیر اندازی میں مشہور، جنگجو اور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے ان میں ہل چل مچ گئی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ ان کا رخ ہماری طرف ہوگا اس لئے دانشمندی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں، اس کام کے لئے قبیلہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں جمع کر لیا، قبیلہ ہوازن کی تمام شاخیں جن کی تعداد سو کے قریب تھی سوائے بنو کعب اور بنو کلاب کے جو قبیلہ ہوازن کے خیال سے متفق نہیں تھے جمع ہو گئے، بنو کعب اور بنو کلاب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بصیرت عطا فرمادی تھی انہوں نے کہا اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا محمد ﷺ کے خلاف جمع ہو جائے گی تو وہ ان سب پر غالب آجائیں گے ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، حنین کے معرکہ میں قبیلہ ہوازن اور اس کے حلیفوں نے اپنی پوری قوت جھونک

دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روک دیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلہ میں پہنچ چکا تھا لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔

مشرکین کی فوج کی کمان مالک بن عوف کے ہاتھ میں تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، مالک بن عوف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رکھنے کی یہ تدبیر کی کہ ہر شخص کے تمام اہل و عیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا تمام مال بھی ساتھ لیکر نکلیں جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگیں تو بیوی بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن جائیں مشرکین کی فوج کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علامہ ابن حجر نے ۲۴ یا ۲۸ ہزار کی تعداد کو رائج قرار دیا ہے بعض حضرات نے ۴ ہزار تعداد بتائی ہے ممکن ہے کہ باقاعدہ فوجی چار ہزار ہوں اور ان کے اہل وغیرہ سب مل کر ان کی تعداد ۲۴ یا ۲۸ ہزار تک پہنچ گئی ہو۔

### آنحضرت ﷺ کو ان کے خطرناک عزائم کی اطلاع:

جب آنحضرت ﷺ کو قبیلہ ہوازن اور اس کے حلیفوں کے خطرناک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلہ پر جانیکا عزم فرمایا، مکہ مکرمہ پر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑا اور قریش مکہ سے کچھ اسلحہ اور سامان جنگ عاریت پر لیا، امام زہری کی روایت کے مطابق آنحضرت ﷺ چودہ ہزار صحابہ کا لشکر لے کر حنین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں بارہ ہزار انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لئے آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، اور دو ہزار وہ نو مسلم تھے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے ۶ شوال بروز ہفتہ ۸ھ مطابق یکم فروری آپ اس غزوہ کے لئے روانہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے اس مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ لکھا تھا، بہت سے نو مسلم اور منافقین بھی تماشائی کے طور پر اسلامی لشکر کے ساتھ ہوئے ان کا مقصد صورت حال کے مطابق حالات سے فائدہ اٹھانا تھا۔

### حنین کے مقام پر اسلامی لشکر کا ورود:

مقام حنین پر پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ کو یہ خبر دی کہ ایک گھوڑ سوار شخص ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ قبیلہ ہوازن مسلح ہو کر مع اپنے ساز و سامان کے مقابلہ پر آ گیا ہے آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ”پرواہ نہ کرو یہ پورا ساز و سامان مسلمانوں کے لئے ہے جو مال غنیمت ہو کر تقسیم ہوگا۔“

### عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور جاسوس روانگی:

اس مقام پر ٹھہر کر آپ ﷺ نے عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور جاسوس دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قوم میں جا کر دو روزہ کر حالات کا جائزہ لیا ان کے لیڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ



وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ محمد ﷺ کو اب تک کسی بہادر تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے ان کو اپنی طاقت کا زعم ہو گیا ہے اب ان کو پتہ چلے گا، تم صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہو اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو اور سب مل کر یکبارگی ہلہ بولدو یہ لوگ چونکہ جنگی معاملات کے بڑے تجربہ کار تھے اسلئے اپنی فوج کے چند دستوں کو مختلف گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا۔

## مسلمانوں کے لشکر کی صورت حال:

یہ تو لشکر کفار کی تیاریوں کا ذکر تھا، اسلامی لشکر کی صورت حال یہ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ چودہ ہزار مجاہد مقابلہ کے لئے نکلے تھے، اور سامان جنگ بھی ہمیشہ کی بہ نسبت زیادہ تھا مسلمان یہ دیکھ چکے تھے کہ بدر میں صرف تین سو تیرہ لوگوں نے ایک ہزار کے لشکر ہزار پر فتح پائی تو آج اپنی کثرت اور تیاری پر نظر کرتے ہوئے بعض لوگوں کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ”آج تو ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں“ چنانچہ اول اول مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو مشرکوں میں بھگ دڑ مچ گئی اور مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے معانصرت الہی نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا مشرکین موقع دیکھ کر پلٹ پڑے۔

خداوند قدوس کو مسلمانوں کی یہ بات ناپسند آئی کہ مسلمان خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی کثرت تعداد اور تیاری پر بھروسہ کریں چنانچہ مسلمانوں کو اس کی سزا اس طرح ملی کہ جب قبیلہ ہوازن نے طے شدہ پروگرام کے مطابق یکبارگی ہلہ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا اور گرد و غبار نے دن کو رات بنا دیا تو صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے عام طور پر پیر اکھڑ گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے صرف نبی ﷺ اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے، اور صرف چند صحابہ جمے رہے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ ﷺ آگے نہ بڑھیں، حضرت عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آپ کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے تھے آپ ﷺ کے ساتھ رہنے والوں میں حضرت ابو بکر حضرت عمر و عباس اور ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، عبد اللہ بن مسعود، مغیرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ میدان جنگ میں رہ گئے، آپ ﷺ تھے کہ اپنی صداقت پر مطمئن دشمن کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے اور بار بار پکار کر فرما رہے تھے، اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں الیٰ عباد اللہ انی رسول اللہ (ﷺ) آپ ﷺ نے حضرت عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حکم دیا کہ باواز بلند صحابہ کو پکاریں آپ نے مہاجرین و انصار کو پکارا اور راہ فرار پر غیرت دلائی آخر کار مسلمانوں کو غیرت آئی دوبارہ سب نے جمع ہو کر بے جگری کے ساتھ مقابلہ شروع کیا، آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل ہوئی مشرکوں کی فوج کے سپہ سالار نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی اور طائف کے قلعہ میں رو پوش ہو گیا، یہ صورت حال دیکھ کر دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اس معرکہ میں دشمن کے ستر آدمی مارے گئے، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے سختی سے منع فرمایا، غرضیکہ دشمن کو بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی جس میں چھ ہزار قیدی بنائے گئے ۲۴ ہزار اونٹ ۴۰ ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی ہاتھ آئی، اس معرکہ میں ۱۲ مسلمان شہید ہوئے۔

وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اس سے مراد عمومی رویت کی نفی ہے احاد و افراد کی رویت اس کے منافی نہیں ہے اور کافروں کی دنیوی سزا کا ذکر تھا آئندہ آیت میں اخروی سزا کا بیان ہے۔

## ہوازن اور ثقیف کے سرداروں کا مسلمان ہو کر حاضر ہونا اور قیدیوں کی رہائی:

جیسا کہ سابق میں بیان لیا گیا ہے کہ قبیلہ ہوازن کے کچھ سردار تو مارے گئے تھے اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جواہل و عیال اور اموال تھے وہ مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوسفیان بن حرب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کو مال غنیمت کا نگران مقرر فرمایا۔

شکست خوردہ ہوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا مگر ہر مقام پر شکست ہوئی، بے حد خوف زدہ اور مرعوب ہو کر طائف کے ایک مضبوط قلعہ میں قلعہ بند ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے پندرہ بیس روز اس قلعہ کا محاصرہ کیا محصور دشمن قلعہ کے اندر ہی سے تیر بھرتے تھے مگر سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُمْ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لئے بددعاء فرمادیں مگر آپ نے بددعاء کے بجائے ان کے لئے ہدایت کی دعاء فرمائی، صحابہ سے مشورہ کے بعد آپ نے واپسی کا قصد فرمایا، مسلمانوں کی فتح و کامرانی دیکھ کر وہ لوگ بھی جو تمنا شائی بن کر آئے تھے اور موقع سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھے مسلمان ہو گئے۔

بحرانہ کے مقام پر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا، ابھی مال غنیمت تقسیم ہو ہی رہا تھا کہ اچانک قبیلہ ہوازن کے چودہ سرداروں کا ایک وفد زہیر بن صرد کی قیادت میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ان میں آپ ﷺ کے رضاعی چچا ابو یرقان بھی تھے انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ درخواست بھی کی کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس کر دیئے جائیں۔

## آپ کے لئے دوہری مشکل:

رحمۃ للعالمین کے لئے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا، ایک طرف ان لوگوں پر رحم و کرم کا تقاضہ یہ تھا کہ ان کے سب قیدی رہا اور تمام اموال انہیں واپس کر دیئے جائیں، اور دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں مجاہدین کا حق ہوتا ہے ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا از روئے انصاف درست نہیں اس لئے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ ﷺ نے ان کے جواب میں فرمایا میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان اموال کا حقدار ہے، میں سچی اور صاف بات پسند کرتا ہوں اس لئے آپ لوگوں کو اختیار دے رہا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا مال غنیمت، ان دونوں میں سے جس کو تم اختیار کرو گے وہ تمہیں دیدیا جائیگا سب نے قیدیوں کی واپسی کو پسند کیا تو آپ ﷺ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔



یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دیدیے جائیں تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لئے تیار ہوں وہ احسان کریں اور جو اس کیلئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ اموال فنی میں سے اس کا بدلہ دیدیں گے ہر طرف سے آواز آئی کہ ہم خوش دلی سے تیار ہیں۔

حقوق العباد کے معاملہ میں رائے عامہ معلوم کرنے کیلئے عوامی جلسوں کی آوازیں کافی نہیں ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ رائے معلوم کرنا چاہئے، جب آپ ﷺ نے لوگوں کو قیدی آزاد کرنے کی ترغیب کی تو ہر طرف سے آواز آئی کہ ہم سب قیدی آزاد کرنے کے لئے تیار ہیں مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملہ میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لئے خوش دلی سے تیار ہیں اور کون ایسے ہیں کہ شرما شرمی خاموش رہے، معاملہ حقوق العباد کا ہے اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتائیں، اس کے مطابق سرداروں نے ہر ایک سے الگ الگ اجازت حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو بتلایا کہ سب لوگ خوش دلی سے اپنا حق چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تب رسول اللہ ﷺ نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیئے۔

یہی لوگ ہیں جن کی توبہ کی طرف ”ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ“ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

## احکام و مسائل:

آیات مذکورہ میں سب سے بڑی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی طاقت پر ناز و غرور نہیں ہونا چاہئے نظر ہر حال میں اللہ کی نصرت پر رہنی چاہئے۔

غزوہ حنین میں مسلمانوں کی عددی کثرت اور ساز و سامان حرب کے کافی ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کی زبان پر جو بڑا بول آ گیا تھا کہ آج تو کسی کی مجال نہیں کہ جو ہم سے بازی لیجاسکے اللہ کو اپنی اس محبوب جماعت کی زبان سے ایسے کلمات پسند نہ آئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی بلہ کے وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور پشت پھیر کر بھاگنے لگے، پھر اللہ ہی کی غیبی مدد سے یہ میدان فتح ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (الآية) مشرکوں کے نجس ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے نجس ہونا ہے، بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہیں اسلئے کہ وہ اس طہارت و صفائی کا لحاظ نہیں کرتے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے، بعض ناپاک چیزوں کو مثلاً گائے کا پیشاب اور گوبر وغیرہ کو ناپاک نہیں سمجھتے اور معنوی نجاست مثلاً غسل جنابت وغیرہ بھی ضروری نہیں سمجھتے اسی لئے مشرکوں کو آیت مذکورہ میں نجاست محض قرار دیکر فلا یقربوا المسجد الحرام السخ میں مشرکوں کو مسجد حرام کے پاس آنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد حرام عام طور پر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کے چاروں طرف چہار دیواری سے گھری ہوئی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بعض اوقات پورے حرم مکہ کیلئے بھی استعمال ہوا ہے جو کئی

مربع میل کا رقبہ ہے اور چاروں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے جیسا کہ واقعہ معراج میں من المسجد الحرام سے بالاتفاق یہی معنی مراد لئے گئے ہیں اسلئے کہ واقعہ معراج معروف مسجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ ام ہانی کے مکان سے ہوا اسی طرح ”إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ میں مسجد حرام سے پورا حرم ہی مراد ہے اسلئے کہ جس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے وہ مقام حدیبیہ میں پیش آیا تھا جو حدود حرم سے باہر اس سے متصل واقع ہے۔

(معارف، حصص)

لہذا اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہے اس سال سے بعض حضرات نے ایہ مراد لیا ہے مگر جمہور کے نزدیک ۹ھ رائج ہے اسلئے کہ آپ ﷺ نے اعلان براءت حضرت ابوبکر صدیق اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعہ موسم حج میں ۹ھ میں کرایا تھا اسلئے ۹ھ سے ایہ تک مہلت کا سال ہے ایہ سے یہ قانون نافذ ہوا۔

مسجد حرام میں مشرکین کے داخلہ کی ممانعت کا مطلب اور خصوصیت یا عدم خصوصیت

کا مسئلہ:

آیت مذکور میں مشرکوں کو حرم میں داخل نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس میں تین باتیں غور طلب ہیں۔

① یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے یا دنیا کی کسی بھی مسجد میں مشرک کے داخلہ پر پابندی ہے؟

② مشرکین کے داخلہ پر پابندی مطلقاً ہے یا صرف حج و عمرہ کے لئے داخلہ پر پابندی ہے؟

③ یہ کہ اس حکم میں کفار اہل کتاب بھی شامل ہیں یا نہیں؟

روایات کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان کئے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور فقہاء اہل مدینہ کا مسلک:

فرمایا کہ مشرکین ہر معنی کے اعتبار سے نجس ہیں خواہ ظاہری ہو یا معنوی اسلئے یہ حکم تمام مساجد کیلئے ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک:

امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لئے عام ہے مگر مسجد حرام کیلئے مخصوص ہے، دیگر مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہے (قرطبی) دلیل یہ کہ ثمامہ بن اثال جب اسلام لانے سے پہلے گرفتار ہو کر آئے تھے تو آپ ﷺ نے ان کو مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔



## امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا مسلک :

فرمایا کہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیگا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان مشرکوں کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی دلیل یہ پیش فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی کے ذریعہ اعلان براءت کرادیا گیا تو اس میں اعلان اسی کا تھا کہ ”لَا يَحْجُنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ“ اسلئے فلا یقربوا المسجد الحرام کے معنی بھی یہی ہوں گے دیگر کسی ضرورت سے امیر المومنین کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا وفد رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تھا، حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ یہ نجس قوم ہے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (حصص)

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ الْخ، حرم میں مشرکین کے داخلہ پر پابندی سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی تھی وہ متاثر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا روباہی نقصان کی وجہ سے فقر و فاقہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کو بکثرت مال حاصل ہوا اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا اور موسم حج میں حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے تجارتی نقصان کی کمی بھی پوری ہو گئی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی اور یہ سلسلہ روز افزوں ہی ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصاریٰ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے (اگر وہ اسلام قبول نہ کریں) یا پھر وہ جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی بالادستی قبول کر لیں، جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں، اسکے بدلے انکے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔

## جزیہ کی غایت اسلام نہیں :

قتال و جہاد کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ اسلام کی بالادستی قبول کریں وہ خود حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں بلکہ نظام زندگی کی باگ ڈور اور امامت کے اختیارات متعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں مطلب یہ ہے کہ قتال اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ ماتحت بن کر جزیہ دینا قبول نہ کر لیں۔

## جزیہ امان و حفاظت کا بدلہ ہے نہ کہ اسلام کا :

جزیہ بدلہ ہے اس امان و حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جاتی ہے نیز یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی تابع داری قبول کر لی ہے، ہاتھ سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے طریقہ سے بغیر کسی حیلہ و حجت کے مطیعانہ شان سے جزیہ ادا کریں۔

## جزیہ کی مقدار:

جزیہ کی مقدار کا تعین اگر باہمی مصالحت اور رضامندی سے ہو تو شرعاً اس کی کوئی تحدید نہیں جیسا کہ رسول ﷺ نے اہل نجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا تھا کہ انکی پوری جماعت سے سالانہ دو ہزار حلے (جوڑے، دو چادریں) جوڑوں کی قیمت کا تخمینہ بھی طے ہو گیا تھا اسی طرح نصاریٰ بنی تغلب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ اسلامی زکوٰۃ کے حساب سے وصول کیا جائیگا مگر زکوٰۃ سے دو گنا، ابتداء یہ حکم یہود و نصاریٰ کے لئے تھا لیکن بعد میں خود رسول اللہ ﷺ نے مجوس سے جزیہ لے کر انھیں ذمیوں میں شامل فرمایا اور اس کے بعد بالاتفاق صحابہ کرام نے بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا۔

## بذریعہ جنگ مفتوحہ قوموں کا حکم:

اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا اور وہاں کے باشندوں کو ان کی جائیدادوں پر برقرار رکھا، اور وہ اسلامی مملکت کی رعیت بن کر رہنے پر رضامند ہو گئے تو ان کے جزیہ کی مقدار کی شرح وہ ہوگی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فرمائی کہ مالداروں سے چار درہم ماہوار اور متوسط الحال لوگوں سے اس کا نصف اور غریب لوگوں سے جو تندرست ہوں اور محنت و مزدوری کر سکتے ہوں ان سے صرف ایک درہم ماہوار اور جو بالکل مفلس اور اپاہج ہوں ان سے کچھ نہ لیا جائیگا اسی طرح عورتوں، بوڑھوں، بچوں، تارک الدنیا راہبوں سے بھی کچھ نہ لیا جائے گا۔

## جزیہ پر اعتراض اور معذرت خواہانہ جواب:

جزیہ کے متعلق بعض حضرات نے انیسویں صدی عیسوی کے دور ذلت میں مسلمانوں کی طرف سے بڑی بڑی معذرتیں پیش کی ہیں اور اس دور کی کچھ یادگار شخصیتیں، نام نہاد دانشور آج بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یاد دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن انھیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ اقتدار و فرماں روائی کی باگیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں، یہ چیز جہاں ہوگی وہاں فساد برپا ہوگا، اہل ایمان پر فرض اور ضروری ہے کہ خدا کی زمین سے خدا کے باغیوں کو بے دخل کر کے نظام صالح قائم کریں جس سے زمین کا فساد ختم ہو کر امن و امان قائم ہو اور خدا کی مخلوق خدا کی زمین پر امن و امان کے ساتھ رہ سکے۔



وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ لَا تُسْتَنَدُ لَهُمْ عَلَيْهِ بَلْ يُضَاهِئُونَ يُشَابِهُونَ بِهِ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ مِنْ آبَائِهِمْ تَقْلِيدًا لَهُمْ قَاتَلَهُمْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ أَنَّى كَيْفَ يُؤْفَكُونَ ۝ يَصْرِفُونَ عَنِ الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ عُلَمَاءَ الْيَهُودِ وَمُرْهَبَانَهُمْ عُبَادَ النَّصْرَى رَبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ حَيْثُ اتَّبَعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ وَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِيَّاهُ بِانْ يَعْْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ تَنْزِيهًا لَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ شَرْعَهُ وَبِرَأْسِيهِمْ بِأَفْوَاهِهِمْ قَالُوا لَهُمْ قِيَمٌ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ يُظْهِرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ جَمِيعَ الْأَذْيَانِ الْمَخَالِفَةِ لَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ ذَلِكَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ كَالرَّشَى فِي الْحُكْمِ وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دِينِهِ وَالَّذِينَ مُبْتَدَأُ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّا لَا يُؤَدُّونَ مِنْهَا حَقَّهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْخَيْرِ فَبَشِّرْهُمْ إِيَّاهُ أَخْبَرَهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ يُؤْلِمُ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى تُحْرَقُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ تُوسَعُ جُلُودُهُمْ حَتَّى تُوَضَعَ عَلَيْهِمْ كُلُّهَا وَيُقَالُ لَهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ إِيَّ جَزَاءُ هَ إِِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ الْمُعْتَدَّةَ بِهَا لِلنَّسَةِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا إِيَّ الشُّهُورِ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۝ مَحْرَمَةُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ وَرَجَبُ ذَلِكَ إِيَّ تَحْرِيمُهَا الدِّينِ الْقِيَمَةُ الْمُسْتَقِيمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ إِيَّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَنْفُسَكُمْ بِالْمَعَاصِي فَإِنَّهَا فِيهَا أَكْثَرُ وَزُرَّا وَقِيلَ فِي الْأَشْهُرِ كُلِّهَا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً إِيَّ جَمِيعًا فِي كُلِّ الشُّهُورِ كَمَا يَقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ إِنَّْمَا النَّسِيءُ إِيَّ التَّأْخِيرُ لِحُرْمَةِ شَهْرٍ إِلَى آخِرِ كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ مِنْ تَأْخِيرِ حُرْمَةِ الْمَحْرَمِ إِذَا أَهْلٌ وَبِهِمْ فِي الْقِتَالِ إِلَى صَفَرٍ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ لِكُفْرِهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ فِيهِ يُضَلُّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحْلُونَهُ إِيَّ النَّسِيءِ عَامًا وَيَحْرِمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا يُوَافِقُوا بِتَحْلِيلِ شَهْرِ وَتَحْرِيمِ آخِرِ بَدَلُهُ عِدَّةٌ عَدَدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْأَشْهُرِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى تَحْرِيمِ أَرْبَعَةٍ وَلَا يَنْقُصُونَ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَغْيَانِهَا فَيُحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ فَظَنُّوهُ حَسَنًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

## تَرْجُمَہ:

یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصاریٰ نے کہا عیسیٰ مسیح، اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی (بے حقیقت) باتیں ہیں جن پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ بھی ان لوگوں کی تقلید میں ان ہی کی سی باتیں کرتے ہیں جو ان کے آباء (واجداد) میں سے پہلے کافر ہو چکے ہیں اللہ کی ان پر مار (لعنت) ہو دلیل قائم ہونے کے باوجود کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ یہود نے اپنے علماء کو اور نصاریٰ نے اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنالیا ہے، اس طریقہ پر کہ حرام کو حلال کرنے میں اور حلال کو حرام کرنے میں ان کی اتباع کی، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی (رب بنا لیا ہے) اور تورات و انجیل میں ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ فقط ایک معبود (برحق) کی بندگی کریں وہ معبود کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے (یہ کافر) یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھا دیں یعنی اس کی شریعت اور اس کے براہین میں قیل وقال کر کے مشکوک کر دیں اور اللہ اس (روشنی) کو مکمل طور پر ظاہر کئے بغیر مانے گا نہیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد ﷺ کو (اس نور کی تکمیل کیلئے) ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا ہے، تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو اے ایمان والو (یہود و نصاریٰ کے) اکثر علماء و رہبان لوگوں کے مالوں کو باطل طریقہ سے کھاتے، لیتے، ہیں مثلاً فیصلہ میں رشوت کے ذریعہ اور لوگوں کو اللہ کے دین سے باز رکھتے ہیں اور وہ لوگ الذین مبتداء ہے جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس جمع کردہ مال میں سے اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ کے ذریعہ اس کا حق ادا نہیں کرتے فبشر ہم مبتداء کی خبر ہے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو جس دن کہ اس جمع کردہ مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائیگا پھر اس کے ذریعہ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائیگا، انکی کھالوں کو وسیع کر دیا جائیگا تاکہ ان پر اس تمام مال کو رکھا جاسکے، اور انکو یہ جتا دیا جائیگا کہ یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا یعنی یہ اس کی سزا ہے، اب اپنے جمع کئے ہوئے خزانہ کا مزا چکھو حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جن کے ذریعہ سال کا حساب لگایا جاتا ہے اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے بارہ ہی ہیں ان مہینوں میں چار مہینے محترم ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ یعنی ان مہینوں کی حرمت ہی دین کا صحیح طریقہ ہے، لہذا ان چار مہینوں (کے باب) میں معاصی کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو اس لئے کہ ان چار مہینوں کی بے حرمتی گناہ عظیم ہے اور کہا گیا ہے کہ پورے بارہ مہینے مراد ہیں اور تمام مشرکوں سے تمام مہینوں میں لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کے ذریعہ متقیوں کے ساتھ ہے اور نسیئی یعنی مہینہ کی حرمت کو دوسرے مہینہ کی طرف مؤخر (منتقل) کر دینا جیسا کہ جاہلیت ماہ محرم کی حرمت کو دوسرے مہینے یعنی ماہ صفر کی طرف منتقل کر دیتی تھی جبکہ ماہ محرم کا چاند ان کی جنگ کی حالت میں نظر آ جاتا تھا، یہ (حرکت) کفر میں ایک اضافہ ہے اس ماہ کے بارے میں اللہ کے



حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے جس کے ذریعہ یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کئے جاتے ہیں (یُضِل) یا کے ضمہ اور فتح کے ساتھ ہے اس نسبی یعنی مؤخر کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام تاکہ ایک مہینہ کو حلال کر کے اور دوسرے کو اس کے بدلے میں حرام کر کے اللہ کے حرام کئے ہوئے یعنی اللہ کے محرم کئے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں چنانچہ چار محرم مہینوں میں نہ زیادتی کرتے تھے اور نہ کمی، البتہ ان کی تعیین کی رعایت نہیں کرتے تھے (چنانچہ) وہ اس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا (مہینہ) حلال کر لیتے ہیں ان کے برے اعمال ان کے لئے خوشنما کر دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان اعمال کو حسن ہی سمجھتے تھے، اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

### تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: عَزِيزٌ، ایک مشہور اسرائیلی بزرگ کا نام ہے جن کے متعلق بعض عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں عَزِيزٌ کو بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف پڑھا ہے، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، روح المعانی میں ہے ”اختلف فی عزیر هل هو نبی ام لا والا کثرون علی الثانی“ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی الاثقان فی علوم القرآن میں اسی کو ترجیح دی ہے، مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ عزیر سے مراد عزراء کا بہن ہے جس نے تورات کو اپنے اعجاز سے دوبارہ زندہ کیا تھا۔

قَوْلًا: يُضَاهِئُونَ یہ مُضَاهَاة (مفاعلة) سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مشابہت پیدا کر رہے ہیں، ضہیٰ مثل، مانند، شبیہ ضہیًا مصدر (س) ناقص یائی، عورت کا مرد کے مانند ہو جانا نہ حیض آئے اور نہ پستان ابھریں اور نہ حمل رہے، ضہیاء مرد نما عورت۔

قَوْلًا: يُؤْفَكُونَ، افكٌ (ض) سے جمع مذکر غائب مضارع، کہاں پھرے جاتے ہیں۔

قَوْلًا: بَانَ يَعْبُدُوا، اس میں اشارہ ہے کہ لِيَعْبُدُوا میں لام بمعنی باء ہے لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ الامر کا صلہ لام نہیں آتا۔

سُؤَالٌ: اَنْ کو کیوں مقدر مانا۔

جَوَابٌ: تاکہ حرف جر کا داخل ہونا صحیح ہو جائے۔

قَوْلًا: شَرَعًا۔

سُؤَالٌ: نور کی تفسیر شرع اور برہان سے کرنے میں کیا مصلحت ہے؟

جَوَابٌ: اس سے بھی ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے۔

سُؤَالٌ: یہ ہے کہ نور تو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو وہ اس نور کو بجھانیکا ارادہ کس طرح کر سکتے ہیں حالانکہ وہ عقلاء ہیں۔

جَوَابُ: یہ ہے کہ نور سے مراد اللہ کی شریعت ہے۔

قَوْلُهُ: باقوا الھم فیہ اس میں اشارہ ہے کہ محل بول کر حال مراد ہے اسلئے کہ منہ سے شریعت کو بجھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے مراد اقوال ہیں یعنی نکتہ چینی اور طعنہ زنی۔

قَوْلُهُ: ذلک. ذلک کمرہ کا مفعول محذوف ہے۔

قَوْلُهُ: یاخذون. یا کلون کی تفسیر یاخذون سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ کلام میں استعارہ ہے یعنی اکل سے اخذ مراد ہے اکل کی تخصیص مقصود اعظم ہونے کی وجہ سے ہے۔

قَوْلُهُ: ای الكنوز، اس میں اشارہ ہے کہ یُنْفِقُونَهَا کی ضمیر کنوز کی طرف راجع ہے جو کہ یکنزون سے مفہوم ہے یہ شبہ ختم ہو گیا کہ ما قبل میں ذہب اور فضة دو چیزوں کا ذکر ہے لہذا یُنْفِقُونَهَا ہونا چاہئے۔

قَوْلُهُ: ای لا یؤدُّونَ منها حقہ من الزکوۃ یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ لا یُنْفِقُونَهَا فی سبیل اللہ، میں مطلقاً عدم انفاق فی سبیل اللہ پر وعید ہے اس میں انفاق کی مقدار بیان نہیں کی گئی معلوم ہوا کہ تمام مال خرچ نہ کرنے پر بھی وعید ہے حالانکہ تمام مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے اسی سوال کے جواب کی طرف لا یؤدُّون الخ سے اشارہ کر دیا کہ کل بول کر جزء مراد ہے۔

قَوْلُهُ: یوم یحْمی علیہا فی نارِ جہنم، ای اَنَّ النار توقد علیہا وہی ذات حمی وحر شدید ولو قال یوم یحْمی ای الكنوز لم یعطی هذا المعنی فجعل الاحماء للنار مبالغة ثم حذف النار واسند الفعل الی الجار۔

قَوْلُهُ: اخبرھم، یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ فبشرھم، مبتداء کی خبر واقع ہے حالانکہ انشاء کا خبر واقع ہونا درست نہیں ہے جواب کا حاصل جس کی طرف مفسر علام نے واخبرھم کہہ کر اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ فبشرھم فی حقھم کی تاویل میں ہو کر مبتداء کی خبر ہے، (نوٹ) پیش نظر جلالین کے نسخے میں الخیر ہے جو کہ کتابت کی غلطی ہے اصل میں الخبر ہے۔

قَوْلُهُ: تُکْوِی، داغا جائیگا (ض) یہ گئی سے مضارع مجھول واحد مؤنث غائب ہے۔

قَوْلُهُ: ای جزاءہ حذف مضاف سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کنز چکھنے کی چیز نہیں ہے مراد عدم انفاق کی سزا بھگتنا ہے۔

قَوْلُهُ: للسنة، ای المعتد بہا لحساب السنة، یہاں دراصل الحساب مضاف محذوف ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں جن کے ذریعہ سال کا حساب ہوتا ہے، قمری سال ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال ۳۶۵ دن کے ذریعہ حساب ہوتا ہے، قمری سال شمسی سال سے دس دن چھوٹا ہوتا ہے۔



قَوْلًا: محرمة.

سُؤَال: حُرْمٌ مصدر ہے لہذا اس کا حمل اربعہ پر درست نہیں ہے۔

جَوَاب: حُرْمٌ، محرمة اسم مفعول کے معنی میں ہے لہذا اب کوئی اشکال نہیں۔

قَوْلًا: النَّسِيُّ، یہ نَسًا کا مصدر ہے مؤخر کرنا ہٹا دینا، يقال نَسَاهُ نَسًا وَنَسِيًا وَنَسَاءً اس کو مؤخر کیا جیسا کہ کہا جاتا ہے مَسَّاهُ مَسًّا وَمَسَّاسًا وَمَسِينًا چھونا مس کرنا، بعض حضرات نے نَسِيٌّ بمعنی منسوءٌ بروزن فعیل بمعنی مفعول بھی لیا ہے۔

## تَفْسِيرٌ وَتَشْرِيحٌ

رابط آیات:

گذشتہ آیات میں مشرکین کے قبائح کا بیان تھا، اب اہل کتاب کے قبائح اور عقائد شرکیہ کا بیان ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب گو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے مگر حقیقت میں جس طرح ایمان رکھنا چاہئے اس طرح نہیں رکھتے تھے جس کی وجہ سے ایمان رکھنا نہ رکھنا برابر تھا، اسی لئے گذشتہ آیت میں اہل کتاب کے متعلق ”لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق“ فرمایا تھا کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور نہ وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ تورات کے تلفظ میں عزرا (UZRA) ہے المتوفی ۴۵۸ ق م اور بعض نے ۴۵۰ ق م لکھا ہے، یہود ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں یہود کے مذہبی نوشتوں میں نبی سے زیادہ مجدد کے نام سے مشہور ہیں، بخت نصر ۶۰۴ تا ۴۵۸ ق م، کے یروشلیم پر حملے اور اس کی کامل تباہی کے بعد، نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے نا آشنا کر دیا تھا، آخر کار انہی عزراء نے اپنی یادداشت سے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور انکی شریعت کی تجدید کی، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، یہود کے بعض فرقے تعظیم میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کے بارے میں ابن اللہ تک کا عقیدہ بنالیا، ابن اللہ کا انگریزی میں ترجمہ (Child of God & Son of God) کی اصطلاح الگ الگ ہیں جیسا کہ اردو میں لڑکے اور بیٹے کے الگ الگ مفہوم ہیں اسی طرح عربی میں بھی ابن اور ولد دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے (Child of God) کے معنی صلبی یا حقیقی فرزند کے نہیں ہیں، بلکہ خدا کا لاڈلایا چھیتا یا فرزند معنوی مجازی کے ہیں جیسا کہ قرآن ہی میں ایک دوسری جگہ اہل کتاب ہی کی زبان سے استعمال ہوا ہے قالوا نحن ابناء الله وَاَحِبَّاؤُهُ یہاں ابناء کے معنی مجازی اور معنوی اولاد کے ہیں۔

وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، مسیحیت کی دو گمراہیاں تھیں پہلی شدید اور دوسری شدید تر، ایک ہے حضرت مسیح کو اللہ کا ولد (Son of God) قرار دینا اس کا ذکر قرآن مجید میں جہاں آیا ہے اکثر بہت سخت وعید کے ساتھ آیا ہے مثلاً تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، وغیرہ دوسری گمراہی حضرت مسیح کو خدا کا فرزند مجازی (child of god) قرار دینا قرآن نے اس عقیدہ کو ابن اللہیت سے تعبیر کیا ہے یہ عقیدہ تو بجائے خود شدید ہے پھر بھی ولد اللہیت کا عقیدہ اس سے شدید تر ہے (ماجدی) ہمارے بعض قدیم مفسرین بھی اس نکتہ تک پہنچ گئے ہیں، کہ یہاں ابنیت سے مراد ابنیت نسبی نہیں ہے بلکہ لاڈ پیار والی ابنیت ہے اور یہ بھی کفر ہے۔

قال ابن عطية ويقال إن بعضهم يعتقدونها بنوة حنو ورحمة وهذا المعنى ايضا لا يحل ان تطلق لبنوة عليه وهو كفر (قرطبی) ويقال ان بعضهم يعتقدونها بنوة حنو ورحمة.

ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یعنی بے سند محض زبان سے بک دینے والی بات ہے یعنی ان مہمل عقائد پر نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی، یہ تو محض ان جاہلی مشرک قوموں کی تقلید ہے جو باری تعالیٰ کی تجسیم کی قائل تھیں اور عقیدہ حلول اور اتار کے ماننے والی تھیں یہ اشارہ خاص یونان کے مشرکوں کی جانب ہے کہ ان کے حکماء و فلاسفہ کے اقوال سے پہلی صدی عیسوی کے یہود و نصاریٰ دونوں ہی متاثر ہو گئے تھے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے، عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے یہ آیت سنا کر عرض کیا کہ یہود و نصاریٰ نے تو اپنے علماء کی بھی عبادت نہیں کی پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی مگر یہ بات تو ہے نا، کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا یہی ان کی عبادت کرنا ہے، (ترمذی) کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے یہی حق اگر غیر اللہ کو دیدیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔

مذکورہ دونوں الزام یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کئے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں چاہے یہ خدا کی ہستی کو مانتے ہوں مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ الخ یعنی اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو جو ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا ہے یہود و نصاریٰ و مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افتراء سے اسے مٹا دیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو اور چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کو مٹانا بھی ناممکن ہے، وہ تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا، دلائل و براہین کے اعتبار



سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انھیں بے دینوں پر غلبہ بھی حاصل ہوا، اور اب بھی اگر مسلمان اپنے دین کے صحیح معنی میں عامل بن جائیں تو غلبہ ان کا یقینی ہے اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب اور فاتح ہوگا بشرطیکہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔

## رابط آیات:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الْخَتَمِينَ كَفَرُوا وَأَصَافَ بَيَانَ كَرْنِهِ كَعْدَابِ ان كَع رُؤَسَاءِ اور متبوعین کے اخلاق و صفات بیان فرماتے ہیں، احبار علماء یہود اور رہبان زہاد نصاریٰ کو کہتے ہیں احبار ”حبر“ کی جمع ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خوبصورت طریقہ سے بات پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، ”مخبر“ خوبصورت اور منقش کپڑے کو اسی مناسبت سے کہتے ہیں، ”رہبان“ بعض کے نزدیک صوفیاء نصاریٰ کو کہتے ہیں اور علماء نصاریٰ کو ”قسسین“ کہا جاتا ہے، یہ دونوں گروہ ایک تو کلام میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے تھے اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے تھے، دوسرے یہ کہ لوگوں کا مال ناجائز اور باطل طریقہ سے اٹھتے تھے، غرضیکہ یہ ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے تھے کہ فتوے بیچ کر رشوتیں لیتے تھے نذرانے بٹورتے تھے بلکہ ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے تھے کہ جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی اور غم کچھ بھی ان کو کھلائے پلائے بغیر نہ ہو سکے اور اپنی قسمتیں بنانے بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں اور تاریخ گواہ ہے جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لئے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ناخدا ترس اور خود غرض لوگ ہر زمانہ میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں جو خدا کی بھولی بھالی مخلوق کو اپنے دام مکر و فریب میں پھنسائے رہتے ہیں اور ان کے خون پسینے کی کمائی کا بڑا حصہ اپنی عیش و عشرت و عیاشی میں اڑاتے ہیں۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور زمین پیدا کئے ہیں اسی وقت سے یہ حساب چلا آتا ہے کہ سال کے بارہ مہینے ہی ہوتے ہیں اور چاند ایک ماہ میں ایک مرتبہ ہی طلوع ہوتا ہے یہ بات اس لئے فرمائی گئی ہے کہ عرب اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کی خاطر مہینوں کی تعداد ۱۲ یا ۱۳ کر لیتے تھے۔

اپنے اوپر ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے ان کو ضائع نہ کرو اور ان ایام میں بدامنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو محترم مہینوں کو مقدم و مؤخر کر دینا یہ کافرانہ دستوروں میں ایک اور دستور کا اضافہ ہے، ہندوستان میں سنہ فصلی حساب سے رائج ہے اس کے مہینوں میں حساب کو پور کرنے کے لئے ہندو پنڈت کبھی کبھی ایک مہینے کو دو ہر دیتے ہیں مثلاً اس سال دو ساڑھیں اس کو اصطلاح میں لوند کا مہینہ کہتے ہیں ایسا حسابی ضرورتوں سے کرتے تھے، مگر عرب اور ان کے رؤساء محض اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لئے سنہ قمری کے جس مہینے کو چاہتے مقدس قرار دے دیتے اور جس مقدس مہینے کو چاہتے غیر مقدس قرار

دیدتے اس سے تمام نظام تقویٰ میں خلل پڑتا تھا۔

عرب میں نسبی (تاخیر) دو طرح کی تھی۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدال اور غارت گری اور خون کا انتقام لینے کے لئے کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام قرار دے کر حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے مگر ترتیب باقی نہیں رہتی تھی دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی کے مطابق کرنے کیلئے اس میں کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیتے یہ طریقہ یہود سے سیکھا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس زمانہ میں قمری مہینوں کا امتیاز ہی دشوار ہو گیا تھا ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا اور ۹ ہجری میں آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق کو موسم حج میں اعلان براءت کرنے کے لئے بھیجا تو پرانے دستور کے مطابق اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ تھا پھر ۱۰ھ میں جب رسول اللہ ﷺ حج کے لئے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ یہ مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا اور اہل عرب کے حساب میں بھی ذی الحجہ قرار پایا تھا، اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ باوجود یکہ نیکی اور خیر کی طرف بہت زیادہ سبقت کرنے والے تھے مگر آپ نے ۹ھ میں خود حج کو جانے کے بجائے حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنا کر بھیجا تا کہ آپ کا حج اپنے صحیح وقت پر ادا ہو ۱۰ھ میں جب آپ نے حج ادا فرمایا تو منیٰ کے مقام پر آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا ”اَلَا اِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ“ یعنی زمانہ پھر پھر اپنی اصلی ہیئت پر آ گیا جس پر اس کو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت رکھا تھا۔

## عبادات کو شمسی مہینے کے بجائے قمری مہینے پر رکھنے کی حکمت:

اہل جاہلیت نے جو نسبی (تاخیر تقدیم) کا طریقہ اختیار کیا تھا اس کی دو اغراض تھیں ایک تو غارتگری اور جنگ و جدال اور انتقام لینے کی خاطر حلال مہینہ کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے، دوسری غرض قمری کو شمسی سال کے مطابق کرنے کیلئے اس میں کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیتے تھے، تا کہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آئے اور وہ ان زحماتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں، اس طرح ۳۳ سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف چونتیسویں مرتبہ اصل ذی الحجہ کی ۹-۱۰ کو ادا ہوا تھا، اس آیت کے ذریعہ جہلاء عرب کی دونوں اغراض کو باطل قرار دیدیا، دوسری غرض گو بظاہر مبنی بر مصلحت ہوتی ہے لیکن درحقیقت یہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لئے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانہ کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات و کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں، مثلاً رمضان ہے تو کبھی گرمی میں اور کبھی سردیوں اور کبھی برسات میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزہ رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں، اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں اسی طرح حج بھی قمری



حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے برے حالات میں خدا کی رضا کے لئے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں، اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں، اگر کوئی گروہ یا قوم اپنی تجارتی یا دیگر مصلحتوں اور سہولتوں کے پیش نظر کسی ایک ہی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لئے قائم کر دے تو خدائی قانون کے ساتھ بڑی جسارت اور بغاوت ہے اور اسی کا نام کفر ہے۔

علاوہ ازیں ایک عالم گیر دین جو سب انسانوں کے لئے ہے اگر کسی شمسی مہینہ کو روزے اور حج کے لئے مقرر کر دے جو مہینہ بھی مقرر کیا جائیگا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لئے یکساں سہولت کا موسم نہیں ہو سکتا کہیں وہ گرمی کا زمانہ اور کہیں سردی کا تو کہیں برسات کا کہیں فصلیں کاٹنے کا موسم ہوگا تو کہیں بونے کا، لہذا ایک عالم گیر دین و مذہب کے لئے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کیلئے یکساں طور پر مختلف موسموں میں عبادت کرنے کا موقع ملے تاکہ ہر شخص مختلف موسموں میں خواہ موافق ہوں یا مخالف فرائض و احکام ادا کرنے کا خوگر اور عادی ہو۔

وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانُوا فِي عُسْرَةٍ وَشِدَّةٍ حَرٍّ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَاتَلْتُمْ بِادْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الْمَثَلَةِ** واجتلاب بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ أَيْ تَبَاطُثْتُمْ وَبِلُغَتِهِمْ عَنِ الْجِهَادِ إِلَى الْأَرْضِ وَالْقُعُودِ وَالِاسْتِفْهَامِ لِلتَّوْبِيخِ **أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَذَاتِهَا مِنَ الْآخِرَةِ** أَيْ بَدَلِ نَعِيمِهَا **فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي جَنْبِ مَتَاعِ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ** ٢٨ حَقِيرٌ إِلَّا بِادْغَامِ نُونِ الْشَّرْطِيَّةِ فِي لَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ **تَنْفِرُوا تَخْرُجُوا** مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِهَادِ **يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** مَوْلَمًا **وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ** أَيْ يَأْتِ بِهَمِ بَذَلِكَ **وَلَا تَضُرُّوهُ** أَيْ اللَّهَ أَوِ النَّبِيَّ شَيْئًا بِتَرْكِ نَصْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ دِينِهِ **وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ٢٩ وَمِنْهُ نَصْرُ دِينِهِ وَنَبِيِّهِ **إِلَّا تَنْصُرُوهُ** أَيْ النَّبِيَّ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ حِينَ **أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا** مِنْ مَكَّةَ أَيْ الْجَائَةِ إِلَى الْخُرُوجِ لَمَّا أَرَادُوا قَتْلَهُ أَوْ حَبْسَهُ أَوْ نَفْيَهُ بَدَارِ النَّدْوَةِ **ثَانِي اثْنَيْنِ** حَالٌ أَيْ أَحَدَ اثْنَيْنِ وَالْآخِرُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَعْنَى نَصْرَهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يُخَذِّلُهُ فِي غَيْرِهَا إِذْ بَدَلٌ مِنْ إِذْ قَبْلَهُ **هُمَا فِي الْغَارِ** نَقِبٌ فِي جَبَلٍ ثَوْرٍ إِذْ بَدَلٌ ثَانٍ **يَقُولُ لِصَاحِبِهِ** أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ لَمَّا رَأَى أَقْدَامَ الْمُشْرِكِينَ لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَا بَصَرَنَا **لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** بِنَصْرِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ طَمَаниْنَتَهُ عَلَيْهِ قِيلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَيَّدَهُ أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا** مِلَّةً فِي الْغَارِ وَمَوَاطِنَ قِتَالِهِ **وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا** أَيْ دَعْوَةَ الشَّرِكِ **السُّفْلَى** الْمَغْلُوبَةَ **وَكَلِمَةَ اللَّهِ** أَيْ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ **هِيَ الْعُلْيَا** الظَّاهِرَةُ الْغَالِبَةُ **وَاللَّهُ عَزِيزٌ** فِي مُلْكِهِ **حَكِيمٌ** ٣٠ فِي صُنْعِهِ **إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا**

نَشَاطًا وَغَيْرَ نَشَاطٍ وَقِيلَ اقْوِيَاءَ وَاضْعَاءً أَوْ اغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ بِأَيَّةٍ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ اِنَّهٗ خَيْرٌ لَّكُمْ فَلَآ تَقْلُوبُوا، وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا لَوْ كَانَ مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا قَرِيبًا سَهْلَ الْمَآخِذِ وَسَفَرًا قَاصِدًا وَسَطًا لَا تَتَّبِعُوكَ طَلَبًا لِلْغَنِيمَةِ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط الْمَسَافَةُ فَتَخَلَّفُوا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرُوجَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۴۲﴾ فِي قَوْلِهِمْ ذَلِكَ.

**ترجمہ:** اور (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لئے نکلنے کے لئے کہا، حال یہ ہے کہ لوگ بڑی تنگی میں تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا تو ان کے لئے (نکلنا) گراں محسوس ہوا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین پر چمٹ کر رہ گئے تاء کو اصل میں تاء مثلثہ میں ادغام کر کے اور شروع میں ہمزہ وصل کا اضافہ کر کے (اِثَّاقِلْتُمْ اصل میں تاشاقلتم تھا) تاء کو تاء مثلثہ سے بدل کر تاء کو تاء میں ادغام کر کے ہمزہ وصل شروع میں لے آئے یعنی تم سست پڑ گئے اور جہاد کے مقابلہ میں وطن میں بیٹھ رہنے کو ترجیح دی، (مالکم) میں استفہام تو بیخ کے لئے ہے کیا تم نے دنیوی زندگی اور اس کی لذتوں کو آخرت کے مقابلہ میں یعنی اس کی نعمتوں کے بدلے میں پسند کر لیا ہے؟ (تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے) کہ دنیا کا یہ سامان عیش آخرت کے سامان عیش کے مقابلہ میں نہایت قلیل حقیر ہے (الا) میں ان شرطیہ کا لا میں ادغام ہے دونوں جگہ (یہاں اور آئندہ) اگر تم نبی ﷺ کے ساتھ نہ نکلو گے تو (اللہ) تمکو دردناک عذاب دیگا، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو بدل دیگا یعنی دوسری قوم کو تمہارے بجائے لے آئے گا، اور تم اس کی نصرت چھوڑ کر اس کا یا نبی کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اس لئے کہ اللہ اپنے دین کا خود ناصر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اسی میں اس کے دین کی اور اپنے نبی کی نصرت بھی شامل ہے، اگر تم اس کے نبی کی مدد نہ کرو گے (تو کچھ پرواہ نہیں) اللہ اس کی اس وقت مدد کر چکا ہے جبکہ کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا یعنی اس کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ دارالندوہ میں اس کے قتل یا قید کر دینے کا یا جلا وطن کر دینے کا (مشورہ) کیا تھا، جب وہ دو میں کا دوسرا تھا یہ حال ہے، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مطلب یہ کہ اس کی اس (نازک) وقت میں مدد کی تو اس کو دوسرے وقت میں رسوا نہ کرے گا جب وہ جبل ثور کی غار میں تھے دوسرا اذ، پہلے اذ سے بدل ہے جبکہ وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے یہ اذ، دوسرا بدل ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا تو رسول ﷺ سے کہا اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے کی طرف دیکھے گا تو یقیناً ہم کو دیکھ لے گا غم نہ کر یقیناً اللہ اپنی مدد کے ذریعہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنا سکون (یعنی) اطمینان قلبی نازل فرمایا، (علیہ) کی ضمیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی ﷺ کی طرف راجع ہے اور کہا گیا ہے کہ ابو بکر کی طرف راجع ہے، اور اس کی (یعنی) نبی ﷺ کی



مدد غار میں یا میدان قتال میں فرشتوں کے ایسے لشکر سے کی جو تم کو نظر نہیں آرہے تھے اور کافروں کا بول یعنی ان کے دعوائے شرک کو نیچا کر دیا (یعنی) مغلوب کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، (یعنی غالب) کلمہ شہادت، اللہ اپنے ملک میں زبردست ہے باحکمت ہے اپنی صنعت میں، نکلوا خواہ ہلکے ہو یا بوجھل یعنی خوش ہو یا ناخوش اور کہا گیا ہے کہ قوی ہو یا ضعیف یا مالدار ہو یا نادار یہ حکم آیت ”لَیْسَ عَلَی الضَّعْفَاءِ“ سے منسوخ ہے، اور اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم اس بات سے واقف ہو کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے، تو تم بوجھل نہ بنو، (یعنی جی نہ چراؤ) اور آئندہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو شریک غزوہ نہیں ہوئے، (اے نبی) اگر وہ بات جس کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں دنیوی متاع سہل الحصول ہوتا اور سفر متوسط ہوتا تو وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے ضرور آپ کے ساتھ چلتے مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن (دشوار) ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہے، جب آپ لوٹ کر ان کے پاس آئیں گے تو وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے (نکلنے کی پوزیشن میں ہوتے) تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے وہ اپنے آپ کو جھوٹی قسمیں کھا کر ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں۔

## تَحْقِیْقُ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِی فَوَائِدُ

**قَوْلٌ:** بادغام التاء فی الاصل فی المثلثة اصل میں ادغام کا مطلب ہے تعلیل سے پہلے تاء کو ثاء کیا اور ثاء کو ثاء میں ادغام کر دیا اور ابتداء بالسکون لازم آنے کی وجہ سے ہمزہ وصل ابتداء میں لے آئے۔

**قَوْلٌ:** اِثْنَا قُلْتُمْ اصل میں تَشَا قُلْتُمْ تھا، مذکورہ عبارت کے اضافہ کا مقصد اِثْنَا قُلْتُمْ میں ثاء کی تشدید اور شروع میں ہمزہ وصل لانے کی وجہ بیان کرنا ہے باوجودیکہ یہ باب تفاعل سے ہے۔

**قَوْلٌ:** تَبَا طُنْتُمْ، بطوء سے ماخوذ ہے بمعنی سستی کرنا یہ سرعت کی ضد ہے۔

**سُؤَالٌ:** مفسر علام نے اِثْنَا قُلْتُمْ کی تفسیر مِلْتُمْ سے کیوں کی؟

**جَوَابٌ:** چونکہ تشاقل کا صلہ الی نہیں آتا اس لئے مفسر علام نے مِلْتُمْ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ تشاقل، مِیْل کے معنی کو متضمن ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

**قَوْلٌ:** والقعود فیہا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَالٌ:** القعود فیہا کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے؟

**جَوَابٌ:** اس اضافہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جہاد میں شریک ہوتے تو تب بھی زمین ہی پر ہوتے شریک جہاد نہ ہونے کی صورت میں زمین پر رہنے کے کیا معنی ہیں؟ مفسر علام نے القعود فیہا کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں اِثْنَا قُلْتُمْ الی الارض کے معنی بزدلی دکھانا ہیں۔

**قَوْلًا:** ای بدل نعیمہا، اس اضافہ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ من الآخرة میں من مقابلہ کے لئے ہے نہ کہ ابتداءً یہ لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ آخرت سے حیات دنیا کے ابتداء کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں، نعیمہا کے اضافہ سے اشارہ کر دیا کہ مطلقاً آخرت کو چھوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے اس کی نعمتوں کو چھوڑنا مراد ہے۔

**قَوْلًا:** جنب متاع اس میں اشارہ ہے کہ، فَمَا، میں فاء مقابلہ کے لئے ہے نہ کہ ظرفیت کے لئے لہذا متاع دنیا کے لئے آخرت کا ظرف واقع ہونے کا اعتراض ختم ہو گیا۔

**قَوْلًا:** حال یعنی ثانی اثنین آپ ﷺ کی طرف راجع ضمیر سے حال ہے۔

**قَوْلًا:** ای احد الاثنین، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب ثانی کی اضافت عدد کی جانب کی جاتی ہے تو غیر مضاف الیہ مراد ہوتا ہے اس قاعدہ سے معلوم ہوا کہ آپ دو کے علاوہ تیسرے تھے حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، احد الاثنین کہہ کر بتا دیا کہ مراد دو میں سے ایک ہیں نہ کہ دو کے تیسرے۔

**قَوْلًا:** جبل ثور جبل ثور مکہ کی دائیں جانب ایک گھنٹہ کی مسافت پر واقع ہے۔

**قَوْلًا:** انه خیر لکم یہ تعلمون کا مفعول محذوف ہے۔

**قَوْلًا:** فلا تقاتلوا یہ شرط کی جزاء ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

### شان نزول:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ الْخِ يہاں سے لے کر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ تک پورے دور کو غزوہ تبوک اور اس میں شریک نہ ہونے والے منافقین کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔

### غزوہ تبوک:

روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے چنانچہ نبی ﷺ نے بھی اس کے لئے تیاری کا حکم دیدیا یہ سوال ۹ھ کا واقعہ ہے، موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا بعض مسلمانوں اور منافقوں پر یہ حکم گراں گذرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انھیں زجر و توبیخ کی گئی ہے یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے اس غزوہ میں معرکہ پیش نہیں آیا بیس روز تک مسلمان ملک شام کے قریب قیام کر کے واپس آ گئے اس غزوہ کو ”جیش العسرة“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سفر میں مسلمانوں کے لشکر کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔



## غزوہ تبوک کے اسباب پر اجمالی نظر:

رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتداء تو فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی نبی ﷺ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت دینے کے لئے عرب کے مختلف حصوں میں جو وفود روانہ فرمائے تھے ان میں سے ایک وفد شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا، یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان لوگوں نے ذات اطلاق کے مقام پر اس وفد کے پندرہ آدمیوں کو قتل کر دیا صرف وفد کے رئیس کعب بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے، اسی زمانہ میں آپ ﷺ نے بصری کے رئیس شرحبیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام دے کر حارث بن عمیر کو بھیجا تھا جن کو شرحبیل نے قتل کر دیا تھا یہ رئیس عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا ان وجوہ کی بنا پر آپ ﷺ نے جمادی الاولیٰ ۸ھ میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف روانہ کی تاکہ آئندہ کے لئے یہ علاقہ مسلمانوں کے لئے پر امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرأت نہ کریں، یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرحبیل بن عمرو ایک لاکھ کا لشکر لے کر مقابلہ پر آ رہا ہے اور خود قیصر بھی حمص کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی کی قیادت میں مزید ایک لاکھ فوج روانہ کی ہے، لیکن اس خوفناک اطلاع کے باوجود تین ہزار سرفروشنوں کا یہ مختصر لشکر آگے بڑھتا چلا گیا اور موت کے مقام پر شرحبیل کی ایک لاکھ فوج سے جا ٹکرایا، اس کا نتیجہ تو بظاہر یہ ہونا چاہئے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ ایک اور ۳۳ کے اس مقابلہ میں کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد قبائل کو بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو جو کسریٰ کے زیر اثر تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔

## رومی لشکر کے ایک کمانڈر کا قبول اسلام:

اسی زمانہ میں سلطنت روم کی عربی فوج کا ایک کمانڈر فروہ بن عمرو الجذامی مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے پختگی ایمان کا ایسا ثبوت دیا کہ سارے علاقے دنگ رہ گئے، قیصر کو جب فروہ کے قبول اسلام کی خبر ملی تو اس کو گرفتار کر کے اپنے دربار میں حاضر کر لیا اور اس سے کہا دو چیزوں میں سے ایک منتخب کر لو ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف یہ کہ رہا کر دیا جائیگا بلکہ تمہارے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائیگا یا اسلام، جس کے نتیجے میں تم کو سزائے موت دی جائیگی، اس نے زندگی اور عہدے کے مقابلہ میں موت اور آخرت کی راحت کو منتخب کر لیا اور راہ حق میں جان دیدی، یہی واقعات تھے جنہوں نے قیصر کو اس خطرہ کی حقیقی اہمیت کو محسوس کر دیا جو عرب سے اٹھ کر اسکی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔

## غزوہ تبوک کی تفصیل:

معجم طبرانی میں عمران بن حصین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نصارائے عرب نے ہرقل شاہ روم کے پاس یہ خط لکھ بھیجا کہ محمد ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگ قحط سالی کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں لہذا عرب پر حملہ کے لئے نہایت مناسب موقع ہے، ہرقل نے فوراً تیاری کا حکم دے دیا چالیس ہزار رومیوں کا لشکر جرار آپ ﷺ کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔

شام کے نبطی سوداگر جوڑیتوں کا تیل فروخت کرنے کیلئے مدینہ آیا کرتے تھے ان سے بھی اس امر کی تصدیق ہو گئی اور مزید یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رومیوں کا لشکر بلقاء کے مقام تک پہنچ گیا ہے اور ہرقل نے تمام لشکر کو ایک سال کی پیشگی تنخواہ بھی دیدی ہے۔







## قیصر روم کا جذبہ انتقام:

دوسرے ہی سال یعنی ۹ھ میں مسلمانوں سے غزوہ موتہ کا انتقام لینے کے لئے اور رسوائی و پسپائی کی خفت مٹانے کے لئے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے سردار بھی فوجیں جمع کرنے لگے، نبی ﷺ بھی اس سے بے خبر نہ تھے آپ ہر وقت اس چھوٹی بڑی بات سے باخبر رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لئے اور بغیر کسی تامل و تردد کے قیصر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، اس موقع پر ذرہ برابر بھی اگر کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنانا یا کام بگڑ جاتا، ایک طرف عرب کی جان بلب جاہلیت جس پر حنین میں کاری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی دوسری طرف منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ ساز باز کئے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دین داری کا پردہ ڈالنے کے لئے مدینہ سے متصل ہی مسجد خضراء تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چہرہ اگھونپ دیتے اور سامنے سے قیصر جس کا دبدبہ ایرانیوں کو شکست دینے کی وجہ سے تمام دور و نزدیک علاقوں پر چھایا ہوا تھا حملہ آور ہو جاتا، اور ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکا یک مات کھا جاتی، اس لئے اس کے باوجود کہ قحط سالی تھی، مسافت بعید تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، گرانی، فقر و فاقہ اور بے سروسامانی کا دور تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں غرضیکہ بڑا نازک وقت تھا جنگ کے لئے کسی طرح بھی بظاہر حالات سازگار نہیں تھے خدا کے نبی نے یہ سوچ کر کہ دعوت حق کے لئے یہ موت اور حیات کے فیصلے کی گھڑی ہے اسی حال میں جنگ کی تیاری کا اعلان عام کر دیا، اور دیگر غزوات کے برخلاف اس غزوہ میں آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے تاکہ اپنی وسعت کے مطابق ہر شخص تیاری کر سکے، منافق اس اعلان کو سنکر گھبرا اٹھے کہ ان کا پردہ فاش ہوا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہکانے لگے لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ اَيْسِيَّ غَرْمِي مِثْلَ مَتِّ نَكَو۔

## مومنین صادقین اور غزوہ تبوک:

ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لئے ۲۲ سال سے وہ سر بکف رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے اس وقت پر جرات دکھانے اور ہمت سے کام لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لئے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کمزوری دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے چنانچہ اس احساس کے ساتھ مخلصین سَمْعًا وَطَاعَةً کہہ کر جان و مال سے تیاری میں مصروف ہو گئے سب سے پہلے صدیق اکبر نے کل مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی آپ نے دریافت فرمایا کیا اہل و عیال کیلئے کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو، فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا عبدالرحمن بن عوف نے دو سو اوقیہ چاندی پیش کی حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے تین سو اونٹ مع ساز و سامان کے اور ایک ہزار دینار لا کر بارگاہ نبوی میں پیش کئے آپ بہت خوش ہوئے اور



بار بار ان کو پلٹتے اور یہ فرماتے جاتے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکے گا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو، حضرت عاصم بن عدی نے ستر و سق کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں، غریب صحابیوں نے محنت و مزدوری کر کے جو کچھ کمایا تھا لا کر حاضر کر دیا، عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دیدیئے غرضیکہ فدائیان حق نے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جنگ کی تیاری کی سرفروش رضا کاروں کے گروہ کے گروہ اٹھ اٹھ کر آنے شروع ہو گئے اور انہوں نے تقاضہ کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان ہونے کے لئے حاضر ہیں، جن کو سواری نہ مل سکی وہ روتے رہ گئے یہ موقع عملاً ایمان و نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا صحابہ کرام نبی ﷺ کو اس کی اطلاع دے دیتے تھے، اور جواب میں آپ ﷺ فرماتے تھے ”دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد ار احكم الله منه“ جانے دو اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا، اور اگر کچھ دوسری بات ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں خلاصی بخشی۔

### محمد بن مسلمہ انصاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا:

روانگی کے وقت آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو اپنا قائم مقام اور مدینہ کا والی مقرر فرمایا، اور حضرت علی کو اہل و عیال کی حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑا حضرت علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں، اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے ایسی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

### مسئلہ خلافت بلا فصل اور حضرت علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ:

اس حدیث سے شیعہ حضرات حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد خلافت حضرت علی کا حق ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سفر پر روانگی کے وقت حضرت علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اہل و عیال کی دیکھ بھال اور خبر گیری کے لئے مدینہ میں چھوڑا تھا کہ میری واپسی تک ان کی خبر گیری اور دیکھ بھال رکھنا اس سے حضرت علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی امانت و دیانت اور قرب و اختصاص تو بے شک معلوم ہوتا ہے اسلئے کہ اپنے اہل و عیال کی نگرانی اسی کے سپرد کرتے ہیں کہ جس کی امانت و دیانت پر اطمینان ہو فرزند اور داماد اس کام کے لئے زیادہ مناسب ہوتے ہیں، رہا یہ امر کہ میری وفات کے بعد تم ہی میرے خلیفہ ہو گے حدیث کو اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ چونکہ نہایت جری اور بہادر تھے اسی مناسبت سے آپ کا لقب ”اسد اللہ“ تھا، نہیں چاہتے

تھے کہ دیگر حضرات میدان کارزار میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں اور میں عورتوں اور بچوں میں معذوروں کی طرح مدینہ میں بیٹھا رہوں اس کے علاوہ کچھ منافقین نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ ﷺ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چونکہ پسند نہیں کرتے اسلئے ان کو اہل و عیال کی نگرانی کا بہانہ بنا کر مدینہ میں چھوڑ دیا ہے اس طعنہ زنی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی زیادہ رنج ہوا چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لئے فرمایا ”انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ“ اس سے مستقل اور دائمی خلافت پر استدلال کسی طرح مناسب اور صحیح نہیں ہے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی تک وقتی اور عارضی تھی اسی طرح حضرت علی کی نیابت وقائم مقامی بھی وقتی اور عارضی تھی اس وقتی اور عارضی خلافت کے علاوہ دونوں خلافتوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال پہلے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوا، ادھر آپ ﷺ کا انتقال پہلے ہوا اور حضرت علی کا انتقال بعد میں ہوا حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ادھر اس کا عکس ہے آپ ﷺ عمر میں حضرت علی سے بڑے تھے اور حضرت علی چھوٹے، اسکے علاوہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کو خلافت عامہ تو دور کی بات ہے مدینہ پر بھی حاکم نہیں بنایا تھا اسلئے کہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا حاکم و اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی نیابت صرف اہل خانہ کی نگرانی کیلئے تھی۔

### یوم پنجشنبہ ماہ رجب ۹ھ کو آپ کی تبوک کیلئے روانگی:

جب آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم ہوا کہ رومی لشکر بقاء کے مقام تک پہنچ چکا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ فوراً سفر کی تیاری شروع کی جائے تاکہ دشمن کی سرحد (تبوک) پر پہنچ کر مقابلہ کریں، آپ ﷺ ۳۰ ہزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اس پر گرمی کی شدت پانی کی قلت مستزاد، مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے حلیفوں نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹالی ہیں، اور اب کوئی دشمن موجود نہیں کہ اس سے جنگ کی جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی غزوہ موتہ میں تین ہزار مجاہدوں کی ایک لاکھ مسلح اور تربیت یافتہ فوج کے مقابلہ میں جوشان دیکھ چکے تھے اس کے بعد ان میں یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ ۳۰ ہزار مجاہدوں کے مقابلہ میں لاکھ دو لاکھ فوج لے کے آجائیں، جبکہ ۳۰ ہزار مجاہدوں کی قیادت خود آپ ﷺ فرما رہے تھے، غزوہ موتہ کے موقع پر جب ایک لاکھ فوج صرف تین ہزار مجاہدوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو بھلا تیس ہزار کے مقابلہ کی ہمت کیسے کر سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ رومی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔



## مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی فتح:

قیصر کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی اور سیاسی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی آپ ﷺ نے اس مرحلہ پر اس کو کافی سمجھا، اور بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی و حربی فائدہ حاصل کیا جائے، چنانچہ آپ ﷺ نے تبوک میں بیس روز قیام کر کے ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر تھیں فوجی دباؤ سے اسلامی سلطنت کا باج گزار اور تابع امر بنالیا، اسی سلسلہ میں دومۃ الجندل کے عیسائی رئیس اکیدر بن عبد الملک کنڈی، ایلہ کا عیسائی رئیس یوحنا بن ربیعہ ان کے علاوہ اور کئی سرداروں نے جزیہ دے کر مدینہ کی تابعیت قبول کر لی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی حد تک پہنچ گئے۔

مالکم اذا قیل لکم الخ یہ کلمہ ملامت و توبیخ ہے، یعنی آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے! فقہاء نے اس آیت سے یہ حکم نکالا ہے کہ جب جہاد کی نفیر عام ہو جائے تو ہر شخص پر جو معذور شرعی نہ ہو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔

امام جصاص تحریر فرماتے ہیں، اقتضیٰ ظاہر الآیۃ وجوب النفیر علی من لم یستنفر۔ (جصاص)  
قَوْلُ: لَا تَضُرُّوہ، کی ضمیر اللہ کے دین کی طرف راجع ہے، خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔

اذھما فی الغار الخ یہ اشارہ واقعہ ہجرت کی طرف ہے مشرکین مکہ آپ کے قتل پر تل گئے تھے اور آپ ﷺ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر راتوں رات حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور میں چھپتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، آپ دونوں حضرات غار ثور میں موجود ہی تھے کہ مشرکوں کی تلاش کرنے والی پارٹی نقش قدم کے نشانات کی مدد سے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئی، نشان شناس نے بتایا کہ قدموں کے نشانات یہیں تک ملتے ہیں، اسی غار کے اندر ہوں گے، کون انسان ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر خود کو جانی دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار دیکھ کر پریشان اور مضطرب نہ ہو جاتا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو طبعاً اضطراب پیدا ہوا، مگر آپ ﷺ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل مطمئن رہے، بلکہ آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی اور سمجھایا کہ ابوبکر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہم دو تنہا نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ کی تائید و نصرت موجود ہے۔

اذھما فی الغار، غار ثور مکہ کے مضافات میں مدینہ کے عام راستہ سے ہٹ کر چند میل کے فاصلہ پر واقع ہے، سفر ہجرت میں آپ نے حضرت ابوبکر کی معیت میں اس غار میں تین روز قیام فرمایا تھا، اس غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بمشکل انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے، بعض علماء نے آیت سے حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ اول ہونے کا بھی

(قرطبی)

اشارہ سمجھا ہے۔

فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ نص قرآنی کا انکار کرتا ہے اس سے اس کا کفر لازم آتا ہے یہ بات دوسرے صحابیوں کے لئے نہیں ہے۔ (مدارك)

جب بعض لوگوں نے تبوک کی طرف نکلنے سے جان چرائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اپنے رسول کی اس سے پہلے مختلف موقعوں پر مدد کر چکا ہے اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے اذہما فی الغار کہہ کر واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ہجرت کو قدرے تفصیل سے لکھ دیا جائے۔

## واقعہ ہجرت کی تفصیل:

ہجرت کے واقعہ کی تفصیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی روایتوں سے اس طرح منقول ہے، ہجرت سے پہلے آپ ﷺ نے خواب دیکھا تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کنکریلی زمین ہے اور اس سرزمین پر کھجوریں بکثرت ہیں وہاں کے لئے ہجرت کا حکم ہوا ہے، آنحضرت ﷺ کا یہ خواب سن کر کچھ لوگ مدینہ کو اور کچھ حبشہ کو چلے گئے، جب حضرت ابوبکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو کافروں نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چبوترہ مسجد کی طرح بنالیا تھا اسی پر نماز پڑھتے اور تلاوت فرماتے جب کفار نے اس سے بھی منع کیا تو مدینہ کا قصد کیا اور آپ ﷺ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کچھ روز اور ٹھہر جاؤ شاید مجھ کو بھی ہجرت کی اجازت مل جائے، ایک روز خلاف عادت ٹھیک دوپہر کے وقت آپ ﷺ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو بھی مدینہ کی ہجرت کا حکم ہو گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکابی کا شرف حاصل ہو سکے گا فرمایا: ہاں، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ خوشخبری سن کر فرط مسرت سے رو پڑے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ انسان فرط مسرت میں بھی رو پڑتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں ایک آپ کے لئے ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ اونٹنی میں قیمتا لیلوں گا۔

چنانچہ جب رات کے وقت قرارداد کے مطابق آپ کے مکان کو گھیر لیا کہ جب آپ سو جائیں تو آپ پر حملہ کر دیا جائے آپ نے حضرت علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت یہ لوگ تم کو کسی قسم کا گزند نہ پہنچا سکیں گے۔

## قریش کی امانتوں کو واپسی کا حکم:

قریش اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر آپ کو ”صادق الامین“ سمجھتے تھے آپ نے وہ سب امانتیں حضرت علی کے سپرد کیں اور حکم دیا کہ صبح کو یہ امانتیں لوگوں کو پہنچا دینا آپ ﷺ گھر میں سے ایک مشت خاک لے کر برآمد ہوئے اور اس مشت خاک پر سورہ یٰسین کی شروع کی تین آیتیں ”فاغشیناھم فھم لا یُبصرون“ تک پڑھ کر ان کے سروں پر ڈال دی، اللہ نے ان کی آنکھوں



پر پردہ ڈال دیا اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے، آپ کا شانہ مبارک سے نکل کر ابو بکر صدیق کے مکان پر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر کے لئے ناشتہ تیار کیا عجلت میں رسی نہ ملنے پر اپنا پٹکا پھاڑ کر ناشتہ دان باندھا اسی روز سے حضرت اسماء "ذات النطاقین" کے نام سے موسوم ہوئیں، عبد اللہ بن ابو بکر دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے، عامر بن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عشاء کے وقت آپ دونوں حضرات کو بکری کا دودھ پلاتے جو دن بھر آس پاس ہی بکریاں چرایا کرتے تھے، عبد اللہ بن اریقظ نے مزدوری پر رہبری کے فرائض انجام دیئے۔

## غار ثور کی طرف روانگی:

الغرض دونوں حضرات رات ہی میں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے، جب آپ دونوں حضرات غار ثور پر پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہریں میں پہلے اندر جا کر غار کو صاف کر دوں۔

## حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت:

دلائل بیہقی میں ضبہ بن محسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو یہ فرماتے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے رات تو غار ثور کی اور دن وہ کہ جب نبی ﷺ کی وفات ظاہری ہوئی تو عرب کے بہت سے قبائل زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر کے مرتد ہو گئے اور ابو بکر نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا تو میں اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خواہانہ عرض کیا اے خلیفہ رسول آپ ذرا نرمی کیجئے اور تالیف سے کام لیجئے تو ابو بکر نے غصہ ہو کر فرمایا جَبَّارٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ خَوَّارٌ فِی الْإِسْلَامِ، اے عمر زمانہ جاہلیت میں تو بہادر تھا اب کیا اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا۔

حضرت ابو بکر نے اول غار کو صاف کیا بعد ازاں آپ ﷺ غار میں تشریف لے گئے۔

اور باذن الہی غار کے دہانے پر مکڑی نے جالاتنا، یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی مذکور ہے۔ (سیرت مصطفیٰ)

## مشرکین مکہ غار ثور کے دہانے پر:

جب مشرکین مکہ نشان شناسوں کی مدد سے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور نشان شناس نے کہہ دیا کہ قدموں کے نشان یہیں تک ہیں، اسی غار میں ہونگے، تلاش کرنے والی پارٹی نے جب غار ثور کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو نشان شناس کو بے وقوف بنایا اور کہا اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا یہ مکڑی کا جالا باقی رہ سکتا تھا۔

فَرَأَوْ عَلَىٰ بَابِهِ نَسِيجَ الْعَنْكَبُوتِ فَقَالُوا لَوْ دَخَلَ هَذَا لَمْ يَكُنْ نَسِيجَ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ. تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی اس میں جاتا تو غار کے دہانہ پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا (حافظ عسقلانی اور ابن کثیر نے اس روایت کو حسن کہا ہے)۔

## مشرکین مکہ کی جانب سے دوسواونٹوں کے انعام کا اعلان:

جب مشرکین مکہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ دونوں کو گرفتار کرنے والے کے لئے دوسواونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا، اس انعام کی لالچ میں ایک شخص سراقہ بن مالک بن جعشم نے گھوڑے پر چڑھ کر آپ کا پیچھا کیا اور وہ جب آپ ﷺ کے قریب پہنچا تو اس کا نصف گھوڑا زمین میں دھنس گیا، آپ ﷺ سے امان چاہی تو آپ نے امان دیدی اور اس کا گھوڑا زمین سے نکل گیا سراقہ ایمان لا کر اور امان لے کر واپس ہو گیا اسی سفر ہجرت کے دوران ام معبد کا واقعہ پیش آیا۔

## ام معبد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کا واقعہ:

راستہ میں ام معبد کے خیمہ پر گذر ہوا، ام معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھیں، قافلہ نبوی نے ام معبد سے گوشت اور کھجوریں خریدنے کی غرض سے کچھ دریافت کیا مگر کچھ نہ پایا نبی ﷺ کی نظر خیمہ میں ایک بکری پر پڑی فرمایا یہ کیسی بکری ہے؟ ام معبد نے عرض کیا یہ بکری لاغر اور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کے گلے کے ساتھ جنگل نہیں جاسکتی، آپ نے فرمایا اس میں کچھ دودھ ہے ام معبد نے عرض کیا اس میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا دودھ دوہنے کی اجازت دو، کہا اجازت ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر اپنا دست مبارک رکھا تھن دودھ سے بھر گئے آپ نے دودھ نکالا ایک بڑا برتن جس سے آٹھ دس آدمی پی سکیں بھر گیا، اول آپ نے ام معبد کو دودھ پلایا اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو پلایا اور آخر میں آپ نے نوش فرمایا، اس کے بعد آپ نے پھر دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن دوبارہ بھر گیا وہ برتن ام معبد کو عطا کیا اور ام معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے شام کے وقت جب ام معبد کے شوہر ابو معبد بکریاں چرا کر آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا رکھا ہے، بہت تعجب سے معلوم کیا اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام تک نہیں، ام معبد نے عرض کیا آج یہاں سے ایک مرد مبارک گذرا خدا کی قسم یہ سب اسی کی برکت ہے اور پورا واقعہ بیان کیا، ابو معبد نے کہا ذرا ان کا کچھ حلیہ تو بیان کرو، ام معبد نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا، پوری تفصیل مستدرک میں مذکور ہے۔

ابو معبد نے کہا میں سمجھ گیا واللہ یہ وہی قریشی شخص ہے میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، مگر تلاش بسیار کے بعد بھی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، راستہ میں بريدة الاسلمی اپنے ۷۰ آدمیوں کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے، اور آپ کے ساتھ جھنڈا ہاتھ میں لیکر آگے آگے چل رہے تھے، آپ کی روانگی کی خبر اہل مدینہ کو مل چکی تھی اہل مدینہ کا ہر فرد بشر آپ کے شوق دیدار میں روزانہ مقام ۷ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جب دوپہر ہو جاتا تو مایوس ہو کر واپس چلا جاتا یہ روزانہ کا معمول تھا، ایک روز انتظار کے



بعد واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی نے ایک ٹیلے پر سے آپ کو آتے ہوئے دیکھا بے اختیار پکار کر یہ کہا یا بنی قیلہ هذا جدکم، اے بنی قیلہ یہ ہے تمہاری خوش نصیبی کا سامان، اس خبر کے سنتے ہی انصار والہانہ وبے تابانہ آپ کے استقبال کے لئے دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر سے بنی عمر و اور بنی عوف کی تمام آبادی گونج اٹھی۔

### مسجد قبا کا قیام:

مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں، یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے جب آپ قبا پہنچے تو آپ نے قبیلہ کے سردار کلثوم بن ہدم کے مکان پر قیام فرمایا، اور ابو بکر صدیق خبیب بن اساف کے مکان پر ٹھہرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین مکہ کی امانتیں واپس کر کے مقام قبا میں آئے اور آپ ﷺ کے پاس قیام فرمایا، قبا میں سب سے پہلے جو کام آپ نے کیا وہ ایک مسجد کی بنیاد تھی، سب سے پہلے آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا آپ کے بعد ابو بکر نے اور ان کے بعد عمر نے ایک پتھر رکھا اس کے بعد دیگر حضرات نے پتھر لا کر رکھنے شروع کئے اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، (مزید تفصیل کے لئے کتب سیرت کی طرف رجوع کریں)۔

(سیرت مصطفیٰ)

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَجَمَاعَةٍ فِي التَّخْلُفِ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ فَنَزَلَ عَتَابًا لَهُ وَقَدَّمَ الْعَفْوَ تَطْمِينًا لِقُلُوبِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ فِي التَّخْلُفِ وَبِهَلَا تَرْكِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي الْعَذْرِ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ۝۳۹ فِيهِ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فِي التَّخْلُفِ عَنْ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝۴۰ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ أَي فِي التَّخْلُفِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ شَكَّتْ قُلُوبُهُمْ فِي الدِّينِ فَهُمْ فِي مَرِيبَةٍ يَتَرَدَّدُونَ ۝۴۱ يَتَحَيَّرُونَ وَلَوْ أَمَرَا دُوا الْخُرُوجَ مَعَكَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً أُنْبِئْهُ مِنَ الْآلَةِ وَالزَّادِ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ أَيْ لَمْ يُرِدْ خُرُوجَهُمْ فَتَبَطَّهْمُ كَسَلَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيِّينَ ۝۴۲ الْمَرْضَى وَالنِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ أَيْ قَدْ رَأَى اللَّهُ ذَلِكَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا فَسَادًا بِتَخْذِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ أَيْ أَسْرَعُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَشْيِ بِالنَّمِيمَةِ يَبْغُونَكُمْ أَيْ يَطْلُبُونَ لَكُمْ الْفِتْنَةَ بِالِقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ مَا يَقُولُونَ سَمَاعٌ قَبُولٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝۴۳ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ لَكَ مِنْ قَبْلُ أُولَ مَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ وَقَلْبُكَ الْأُمُورَ أَيْ أَجَالُوا الْفِكَرَ فِي كَيْدِكَ وَابْطَالِ دِينِكَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ النَّصْرُ وَظَهَرَ عَزَّ أَمْرُ اللَّهِ دِينُهُ وَهُمْ كَرِهُونَ ۝۴۴ لَهُ فَدَخَلُوا فِيهِ ظَاهِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِذَنْ لِي فِي التَّخْلُفِ وَلَا تَفْتِنِي وَهُوَ الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ هَلْ لَكَ فِي جِلَادِ بَنِي الْأَصْفَرِ فَقَالَ إِنِّي مُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ وَأَخْشَى أَنْ رَأَيْتُ نِسَاءَ بَنِي الْأَصْفَرِ لَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ فَافْتَنَ قَالَ

تَعَالَى الْآفِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا بِالتَّخْلُفِ وَقُرِئَ سَقَطَ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ لَا مَحِيصَ لَهُمْ  
عَنْهَا إِنْ تَصِيبَكَ حَسَنَةٌ كُنْصِرْ وَغَنِيمَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تَصِيبَكَ مُصِيبَةٌ شِدَّةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا  
بِالْحَزْمِ حِينَ تَخَلَّفْنَا مِنْ قَبْلُ قَبْلُ قَبْلُ هَذِهِ الْمُصِيبَةُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝ بِمَا أَصَابَكَ قُلْ لَهُمْ  
لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا إِنْ أَصَابَتْهُ هُمُومُنَا نَاصِرُنَا وَمُتَوَلَّى أُمُورِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ فِيهِ حَدُثُ إِحْدَى التَّائِينَ فِي الْأَصْلِ أَيْ تَنْتَظِرُونَ أَنْ يَقَعَ بِنَا إِلَّا  
إِحْدَى الْعَاقِبَتَيْنِ الْحُسْنَيْنِ تَشْنِيعُ حُسْنِي تَانِيَتْ أَحْسَنَ، النَّصْرَ أَوِ الشَّهَادَةَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ نَنْتَظِرُ  
بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ بِقَارَعَةٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۝ بَانَ يَأْذَنَ لَنَا بِقِتَالِكُمْ فَتَرَبَّصُوا بِنَا  
ذَلِكَ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ ۝ عَاقِبَتَكُمْ قُلْ أَنْفِقُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ مَا أَنْفَقْتُمُوهُ  
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ وَالْأَمْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْخَبَرِ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا  
أَنَّهُمْ فَاعِلٌ مَنَعَهُمْ وَأَنْ تُقْبَلَ بِفَعُولَةٍ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى  
مُتَنَاقِلُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۝ النِّفْقَةُ لَانِهِمْ يَعُدُّونَهَا مَغْرَمًا فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
أَي لَا تَسْتَحْسِنُ نَعْمًا عَلَيْهِمْ فَهِيَ اسْتِدْرَاجٌ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَيْ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
بِمَا يَلْقَوْنَ فِي جَمْعِهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ وَفِيهَا مِنَ الْمَصَائِبِ وَتَزْهَقُ تَخْرُجُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ فَيُعَذِّبُهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَخَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ أَيْ مُؤْمِنُونَ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝ يَخَافُونَ  
أَنْ تَفْعَلُوا بِهِمْ كَمَا لِمَشْرُكِينَ فَيَخْلِفُونَ نَفْيَةً لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً يَلْجَأُونَ إِلَيْهِ أَوْ مَغْرَتٍ سَرَادِيبٍ أَوْ مَدْخَلًا  
مَوْضِعًا يَدْخُلُونَهُ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝ يُسْرِعُونَ فِي دُخُولِهِ وَالْأَنْصَرِفَ عَنْكُمْ اسْرَاعًا لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ  
كَالْفَرَسِ الْجَمُوحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمُزُكَ يَعْيبُكَ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ  
يَسْخَطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۝ مِنَ الْغَنَائِمِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ الْوَاحِشِيُّ كَافَيْنَا  
اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۝ مِنْ غَنِيمَةٍ أُخْرَى مَا يَكْفِينَا إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝ أَنْ يُغْنِيَنَا وَجَوَابُ  
لَوْ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.

**تَرْجَمَةُ:** آپ ﷺ نے اپنے اجتہاد سے ایک جماعت کو جہاد (غزوہ تبوک) میں شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی تھی، تو اظہار ناراضگی کے طور پر (آئندہ آیت) نازل ہوئی، اور آپ کے اطمینان قلبی کے لئے معافی کو پہلے ہی بیان کر دیا، (اے نبی) اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ان کو عدم شرکت کی کیوں اجازت دیدی؟ اور آپ نے ان کو کیوں نہ اپنی حالت پر چھوڑ دیا؟ تاکہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ عذر میں سچے ہیں؟ اور عذر کے معاملہ میں جھوٹوں کو بھی جان لیتے جو لوگ اللہ پر اور



یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ سے کبھی یہ درخواست نہ کریں گے کہ انھیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی عدم شرکت کی درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے قلوب دین کے معاملہ میں شک میں مبتلا ہیں اور وہ اپنے شک ہی میں حیران ہو رہے ہیں اگر ان کا (واقعی) آپ کے ساتھ نکلنے کا کچھ ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لئے آپ کے ساتھ نکلنے کے آلات اور زاد راہ کے ذریعہ کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو (جہاد کیلئے) ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، یعنی اللہ ہی نے ان کا (جہاد کیلئے) نکلنا نہ چاہا، اسلئے اللہ نے انھیں ست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں (یعنی) مریضوں اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے اندر مومنین کو ذلیل کر کے (بزدلی دکھا کر) فساد کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لئے خوب گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنہ ڈال کر یعنی تمہارے درمیان چغل خوری کے لئے خوب دوڑ دھوپ کرتے، اور ان کی باتوں کو ماننے والے خود تمہارے اندر موجود ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے اس سے پہلے بھی (یعنی) جب آپ مدینہ میں آئے ہی تھے انہوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں آپ کے لئے مکر کرنے اور آپ کے دین کو باطل کرنے کیلئے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ حق یعنی نصرت آگیا یہاں تک کہ اور اللہ کا امر (یعنی) اس کا دین غالب ہو گیا حالانکہ وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے لیکن وہ اس (اسلام) میں بظاہر داخل ہو گئے اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے شریک (جہاد) نہ ہونے کی اجازت دیدیتے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالئے، اور وہ جد بن قیس ہے اس سے نبی ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم بنی اصفہر کے ساتھ قتال (جہاد) کے لئے تیار ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں عورتوں کا دل دادہ ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں بنی اصفہر کی عورتوں کو دیکھوں گا تو میں ضبط نہ کر سکوں گا جس کی وجہ سے میں فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا خوب سن لو وہ شرکت نہ کر کے فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں اور سُقِطُ، بھی پڑھا گیا ہے، یقین جانو کافروں کا جہنم نے احاطہ کر رکھا ہے، ان کو اس سے نجات نہیں، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، مثلاً نصرت اور مال غنیمت تو ان کو ناگوار گذرتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ شریک نہ ہو کر احتیاطاً پہلے ہی درست کر لیا، یعنی اس مصیبت کے پیش آنے سے پہلے ہی اور آپ کی مصیبت پر خوش ہوتے ہوئے رخ پھیر کر چل دیتے ہیں ان سے کہو ہم کو کوئی (بھلائی یا برائی) ہر گز نہیں پہنچتی مگر وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے وہی ہمارا مولا (یعنی) مددگار اور ہمارے امور کا والی ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے آپ ان سے کہو تم جس چیز کے ہمارے بارے میں منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے (الحسنین) حسنی احسن کی تانیث کا تشبیہ ہے (اور وہ دو چیزیں) غلبہ یا شہادت ہے اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم کو آسمانی بجلی کے ذریعہ خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلو اتا ہے بایں طور کہ ہم کو تمہارے قتل کی اجازت دیتا ہے، تم اس کا ہمارے بارے میں انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں ترَبُّصُون میں اصل میں حذف تاء ہے، یعنی تم وقوع کا انتظار کر

رہے ہو تم ان سے کہو تم اللہ کی اطاعت میں خواہ بخوشی خرچ کرو یا بکراہت وہ تمہارے خرچ کرنے کو ہرگز قبول نہ کرے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو اور یہاں امرِ خبر کے معنی میں ہے ان کے خرچ کئے ہوئے مال کو قبول نہ کرنے کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے (یقبل) یا اور تاء کے ساتھ ہے، الا انہم منعہم کا فاعل ہے اور ان تقبل اسکا مفعول ہے نماز کو آتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہوئے سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور (راہِ خدا میں) وہ بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں اس لئے کہ وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں ان کے اموال اور ان کی اولاد (کی کثرت) تم کو تعجب (دھوکہ) میں نہ ڈالے، یعنی ہمارا ان کو خوش حالی دینا آپ کو بھلا معلوم نہ ہوا سئلے کہ یہ ڈھیل ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ ان کو دنیا کی زندگی میں لیعذبہم کی تقدیر ان یعذبہم ہے گرفتار عذاب رکھے ان مشقت و مصائب کے ذریعہ جو وہ مال جمع کرنے میں اٹھاتے ہیں اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں جسکی وجہ سے اللہ ان کو آخرت میں شدید ترین عذاب دے، وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں یعنی مومنوں میں سے حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں تم ان کے ساتھ بھی مشرکوں جیسا معاملہ کرو تو تقیہ (دکھاوے) کے طور پر قسم کھاتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی جائے پناہ پالیں جس میں وہ پناہ لے سکیں یا کوئی سرنگ پالیں یا کوئی گھسنے کی جگہ پالیں تو وہ اس میں جلدی سے جا گھسیں یعنی داخل ہونے میں عجلت سے کام لیں ایسی عجلت کے ساتھ تم سے پھر جائیں کہ کوئی چیز ان کو تمہاری طرف نہ لوٹا سکے جیسا کہ سرکش گھوڑا (ہوتا ہے) اور (اے نبی) ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر اعتراضات کرتے ہیں (عیب لگاتے ہیں) پس اگر صدقات میں سے (انکی مرضی کے مطابق) انھیں مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان صدقات میں سے (ان کی خواہش کے مطابق) نہیں ملتا تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے غنائم وغیرہ میں سے ان کو دیا اس پر راضی ہوتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے عنقریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول دوسرے مال غنیمت وغیرہ میں سے اتنا دے گا جو ہمارے لئے کافی ہوگا، تحقیق ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں اور لو کا جواب لکان خیراً لہم محذوف ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، جملہ دعائیہ ہے، مقام ناراضگی میں اظہارِ شفقت کے لئے مقدم کر دیا گیا ہے۔  
 قَوْلٌ: لِمَ، یہ دراصل لِمَا، جار مجرور تھا، اس قاعدہ سے کہ جب حرف جر ما استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے تو الف گر جاتا ہے، لہذا الف گر گیا ہے لِمَ میں لام تعلیلیہ ہے اور لہم تبلیغیہ لہذا دونوں کا اذنت کے متعلق ہونا درست ہے۔  
 قَوْلٌ: الَّذِينَ صَدَقُوا يَتَّبِعَنَّ كَا فاعل ہے، جملہ صدقوا صلہ ہے، تعلم کا يَتَّبِعَنَّ پر عطف ہے کاذبین مفعول لہ ہے۔  
 قَوْلٌ: لَمْ يَرْدْ خُرُوجَهُمْ، ”کراہۃ“ انقباض النفس للعلم بنقصانہ کو کہتے ہیں اور یہ حق تعالیٰ کیلئے محال ہے لہذا



کِرہ اللہ میں کراہت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست نہیں ہے۔

**جَوَابُ:** مفسر علام نے کِرہ کی تفسیر لمیرد خسرو جہم سے کر کے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ یہاں کراہت کے لازم معنی مراد ہیں اسلئے کہ جوشی مکروہ اور ناپسند ہوتی ہے اس کا ارادہ نہیں کیا جاتا۔

**قَوْلُهُ:** ثَبَّطَهُمْ (تفعیل) تشبیطاً، باز رکھنا، روکے رکھنا، ماضی واحد مذکر غائب، ہم ضمیر جمع مذکر غائب۔

**جَوَابُ:** تشبیط کے معنی روکنے کے ہیں اور اللہ کیلئے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ بندوں کو فرائض سے باز رکھے، لہذا مجازاً امر کی نسبت کسل کی جانب کردی کہ تقدیر خداوندی کے مطابق ان کے کسل نے ان کو باز رکھا۔

**قَوْلُهُ:** اِی قَدَّرَ اللّٰهُ ذٰلِكَ.

**سُؤَالُ:** اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اقعدوا مع القاعدین“ اس میں قعود عن الجہاد کا حکم دیا گیا ہے اور مامور محمود ہوتا ہے نہ کہ مذموم۔

**جَوَابُ:** جواب کا حاصل یہ ہے کہ مراد تقدیر ازیلی ہے اسی جواب کی طرف اشارہ کرنے کیلئے قَدَّرَ اللّٰهُ ذٰلِكَ کا اضافہ فرمایا، بعض حضرات نے ایک اور جواب دیا ہے۔

**کَوْنِیَّ جَوَابُ:** یہ ہے کہ یہ امر تہدید، اعملوا ما شئتم کے قبیل سے ہے اور قرینہ مع القاعدین ہے۔

**قَوْلُهُ:** اَلَا خَبَالًا، یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، یعنی مستثنیٰ منہ محذوف ہے، اِی مَا زَادُوْكُمْ شَيْئًا اِلَّا خَبَالًا.

**قَوْلُهُ:** خَبَالًا، بمعنی فساد، شر، یہ خَبَلٌ یَخْبُلُ سے ماخوذ ہے ایسا شر و فساد جس کی وجہ سے کسی جاندار میں جنون یا اضطراب پیدا ہو جائے، خَبَالًا مستثنیٰ متصل ہے۔

**قَوْلُهُ:** اَوْضَعُوا اِی لَسَعُوا بَیْنَكُمْ بِالْنَّمِیْمَةِ، ایضاع بمعنی اسراع، جلدی کرنا بولا جاتا ہے، وَضَعَ الْبَعِیْرُ وَضْعًا اِذَا اَسْرَعَ معلوم ہوا کہ یہاں وضع بمعنی نہادن، نہیں ہے۔

**قَوْلُهُ:** وَفِیْكُمْ سَمَاعُوْنَ، خوب کان لگا کر سننے والے، جاسوس سَمَاعٌ کبھی تو جاسوس کے معنی میں اور کبھی فرماں بردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

**قَوْلُهُ:** بَنِیَ الْاَصْفَرِ، اصفر روم کے اطراف کے رئیس کا نام تھا اس نے ایک رومی عورت سے نکاح کر لیا تھا اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بنی اصفر کہلائی یہ نسل کافی حسین و جمیل پیدا ہوئی، یہ اسی نسل کی جانب اشارہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** جَلَادٌ، کوڑے مارنے والا، تلوار مارنے والا، اسی سے جَلَادٌ ہے، یہاں قتال بالسیف مراد ہے، بعض نسخوں میں جَلَادٌ کے بجائے جہاد ہے جو کہ واضح ہے۔

**قَوْلُهُ:** اَنْفَقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا الْخ، یہ امر بمعنی خبر ہے معنی یہ ہیں کہ نفقتکم طوعًا او کرہًا غیر مقبولة.

قَوْلًا: فاعل مَنَعَهُمْ، یعنی اِلَا اَنَّهُمْ، مَنَعَ کا فاعل ہے، تقدیر عبارت یہ ہے مَامَنَعَهُمْ قَبُولَ نَفَقَاتِهِمْ اِلَّا كُفْرُهُمْ، ول مفعول ثانی ہے اور مَنَعَهُمْ میں ہم مفعول اول ہے۔

قَوْلًا: استدرّاج، بتدرّج قریب کرنا، بتدرّج ڈھیل دینا۔

قَوْلًا: تَقِيَّةً بَاطِنَ کے خلاف ظاہر کرنا، یہ لفظ اہل تشیع کی اصطلاح ہے یعنی اپنے مذہبی عقیدہ کے خلاف ظاہر کرنا۔

قَوْلًا: سرادیب، یہ سرداب کی جمع ہے، بمعنی تہہ خانہ، سرنگ۔

قَوْلًا: مُدْخَلًا، اصل میں مُدْخَلًا تھا، تاء کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کر دیا، موضع دخول۔

قَوْلًا: يَجْمَحُونَ، یہ جمح سے ماخوذ ہے اس سرکش گھوڑے کو کہتے ہیں جو لگام سے بھی قابو میں نہ آئے اور تیزی سے دوڑا پلا جائے یہاں مطلقاً تیز چلنا، دوڑنا مراد ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

### شان نزول:

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذْنْتَ لَهُمُ الْخِجْسَ طرَحِ بَدْرُ كَيْ قِيدِیوں سے وحی نازل ہونے سے پہلے فدیہ لے لیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے خفگی کا اظہار فرمایا تھا، اسی طرح تبوک کی لڑائی کے وقت بعض منافقوں نے بناوٹی عذر پیش کر کے نبی ﷺ سے رخصت چاہی تھی، اور آپ ﷺ نے اپنے طبعی حلم کی بنا پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ محض بہانہ بنا رہے ہیں رخصت عطا فرمائی تھی، اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ ﷺ کو تنبیہ فرمائی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے، اس رخصت کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا، اگر ان کو رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعوائے ایمان بے نقاب ہو جاتا۔

مگر خفگی کا یہ اظہار پیار بھرا ہے کہ خفگی سے پہلے معافی کا ذکر فرمادیا، مطلب یہ ہے کہ اجازت میں اس قدر عجلت سے کام نہیں لینا چاہئے تھا تھوڑا انتظار کرتے تو ان کے جھوٹے عذر کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔

بعض حضرات نے اس آیت کو سورہ نور کی آیت فَاَذْنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ سے منسوخ مانا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اسلئے کہ دونوں آیتوں میں سچے عذر والوں کو اجازت کا حکم ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ اس آیت میں حکم مجمل ہے اور سورہ نور کی آیت میں صاف ہے، اس صورت میں ایک آیت دوسری آیت کا بیان ہوگی۔

لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ الْخِجْسَ جب منافقوں نے جہاد میں عدم شرکت کی اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دیدی جیسا کہ اوپر مذکور ہے، اب اس کے بعد مومنین مخلصین کا ذکر فرمایا، کہ جو مومنین مخلصین ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں چاہتے۔



انھیں تو یہی پسند ہے کہ جس طرح ممکن ہو جان سے مال سے جہاد میں شریک ہوں بلکہ اگر ان کو رخصت دیدی جائے تو ان پر شاق گذرتی ہے، چنانچہ صحیح بخاری کے حوالہ سے سعد بن عبادہ کی حدیث گذر چکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت نے غزوہ تبوک ہی میں حکم دیا کہ تم مدینہ ہی رہ کر اہل و عیال کی نگرانی کرو حضرت علی پر یہ حکم نہایت گراں گذرا، جب آنحضرت ﷺ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی کیا تم کو مجھ سے وہ نسبت پسند نہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نیابت کی تھی، یہ سنا کر حضرت علی مدینہ میں رہ جانے پر رضا مند ہوئے۔

### منافقوں کی حالت کا بیان:

وَلَوْ ارَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا ہے، کہ ان لوگوں کا ارادہ اس لڑائی میں شریک ہونے کا پہلے ہی سے بالکل نہیں تھا، اگر ان کا ارادہ ہوتا تو دیگر لوگوں کی طرح یہ بھی کچھ تیاری کرتے، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان لوگوں کا شریک ہونا پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بزدلی اور سستی پیدا فرمادی، ان لوگوں کے جہاد میں شریک نہ ہونے میں بڑی مصلحت تھی، اسلئے کہ اگر یہ لوگ لڑائی میں شریک ہوتے تو مدد کے بجائے فتنہ برپا کرتے مسلمانوں کو خوف دلاتے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے کہ مسلمانوں کے دل ٹوٹنے لگتے ان میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہوتی، اس لئے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تمہاری جاسوسی کرتے ہیں اور تمہاری پوشیدہ خبریں دشمن کو پہنچاتے ہیں، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اگرچہ بعض مفسرین نے وفیکم سماعون لہم، کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان منافقوں کی باتیں سنتے اور مانتے ہیں لیکن حافظ ابو جعفر ابن جریر نے اپنی تفسیر میں قتادہ کے اس قول کو ضعیف ٹھہرایا ہے، اسلئے مجاہد کے صحیح قول کے مطابق پہلی تفسیر صحیح معلوم ہوتی ہے۔

### منافقوں نے ہمیشہ نازک موقع پر دھوکا دیا ہے:

غزوہ احد کے موقع پر عبد اللہ بن ابی منافقوں کا سردار تین سو مسلمانوں کی جمعیت کو میدان سے واپس لے آیا تھا، اسی عبد اللہ بن ابی نے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر اپنے قبیلے کے انصار کو بہکایا تھا اور کہا تھا کہ واپس مدینہ جانے کے بعد مہاجروں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ الْخ اس آیت میں بھی منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غدر و غل کچھ اسی لڑائی کے ساتھ خاص نہیں ہے ان کا تو شیوہ ہی یہ ہے اس سے پہلے بھی جب آپ شروع شروع میں مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت بھی یہ لوگ آمادہ جنگ و پیکار ہو گئے تھے اور انہوں نے یہود مدینہ کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔

## شان نزول:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي، طبرانی اور ابن ابی حاتم میں اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص قبیلہ بنی سلمہ کا سردار تھا جس کا نام جد بن قیس تھا اور اس کی کنیت ابو وہب تھی، نبوک کی لڑائی پر جانے اور نصرانیوں سے لڑنے کا جب آنحضرت ﷺ نے ذکر فرمایا تو اس نے کہا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا میں بے قابو ہو جاتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم نہ پھسل جائے لہذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، اور اس جہاد کی شرکت سے مجھے معاف رکھیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی، اور فرمادیا کہ بڑا فتنہ نفاق کا ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں اسی فتنہ کے سبب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اس فریب اور مکر کا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھالیں آخر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

## شان نزول:

اِنْ تُصِْبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِْبْكَ مُصِيبَةٌ لَنُحِصِنَنَّهَا تَفْسِيرُ ابْنِ ابِي حَاتِمٍ مِیْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كِی رَوَا یْت سَے جَوْشَانِ نَزُولِ اِنْ اَیَاتِ كَا بَیَانِ كِیَا گِیَا هَے اِس كَا حَاصِلُ یِه هَے كَہ عَبدُ اللّٰهِ بِنِ ابِی وَغَیْرِهِ مُنَافِقِیْنَ لُڑائی كَے وَقْتُ بِنَاوُثِیْ عَذْر كَر كَے جِس لُڑائی مِیْن شَرِیك نَہِیْن هَوَے تَھَے اِگر اِس لُڑائی مِیْن مُسْلِمَانُوں كُو فَتْحِ هَوْتِی اُور مَالِ غَنِیْمَتِ ہَا تَھَا آتا تُو دُوطَرَح سَے اِنْ مُنَافِقُوں پَر یِه اَمْر شَاقِ گَذَر تا تَھَا اِیك تُو اِس وَجہ سَے كَہ اِنْ كَے دِلُوں مِیْن مُسْلِمَانُوں كِی عِدَاوَت تَھِی اِسْلَمَے مُسْلِمَانُوں كِی فَتْحِ وَ كَا مَرَانِی اَنكُو اِچھی نَہِیْن لَگتی تَھِی دُوسرے اِنْ كُو یِه اَفْسُوسِ هُوتَا تَھَا كَہ هَم كِیوں نَہ شَرِیكِ هَوَے! هَمَارے ہَا تَھِی مَالِ لَگتا، اُور اِگر كِسی لُڑائی مِیْن مُسْلِمَانُوں كُو ضَرر پہنچتا تُو یِه مُنَافِقِ اِپنی دُور اَندِیشِی اُور دَانِشْمَنْدِی پَر نَا زَاں هُوكَر كَہتے هَم تُو ضَرر سَے بَچنے كَے لَئے پَہلے ہِی سَے عَذْر كَر كَے شَرِیك نَہِیْن هَوَے ورنہ هَم بَھِی اِس مُصِیْبَتِ مِیْن مُبْتَلَا هُوجَاتے، اللّٰهُ تَعَالٰی نَے اِنْ دُونُوں مُنْصُوبُوں كَے جَوَابِ مِیْن یِه اَیْتِیْن نَا زَلِ فرمائیں۔

## شان نزول:

قُلْ اِنْصَفُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ، تَفْسِيرُ ابْنِ جَرِیرِ مِیْن حَضْرَتِ عَبدِ اللّٰهِ بِنِ عَبَّاسِ كِی رَوَا یْت سَے اِس اَیْتِ كَا شَانِ نَزُولِ یِه مُعْلُومِ هُوتَا هَے كَہ قَبِیلَہ بنِی سَلْمَہ كَے سَرْدَارِ جَدِ بِنِ قَیْسِ مُنَافِقِ نَے تَبُوك كِی لُڑائی مِیْن جَانے سَے جَب یِه عَذْر كَر دِیا كَہ مِیْن وَہَاں جَا كَر رُومِی خُوبِ صُورَتِ عُورَتُوں كَے فَتْنِہ مِیْن مُبْتَلَا هُوجَاؤں كَا لَہذا مِیْن جَنگی خَدْمَتِ دِینے سَے تُو مُعْذُورِ هُوں اَلْبَتَہ مِیْن مَالِی مَدَدِ كَرنے كُو تِیَارِ هُوں اِس پَر اللّٰهُ تَعَالٰی نَے یِه اَیْتِیْن نَا زَلِ فرمائیں اُور فرمایا كَہ جَب اِنْ كَا عَقِیدَہ ہِی دُرست نَہِیْن هَے تُو اِنْ كِی كُوئی عِبَادَتِ خُواہِ مَالِی هُو یَا بَدَنِی قَبُولِ نَہِیْن هَے۔



فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم الخ اس مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو کر جو منافقانہ رویہ انہوں نے اپنایا ہے جیسا کہ جد بن قیس نے کہا تھا کہ جنگی خدمات سے مجھے معذور رکھے اگر آپ چاہیں تو میں کچھ مالی مدد کیلئے حاضر ہوں، اس لئے ان آیتوں میں فرمایا کہ اے محمد ﷺ لوگوں کی مال و دولت اور کثرت اولاد کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑیں، یہ مال و دولت خدا کی طرف سے ایک ڈھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہی چیزوں کے ذریعہ جن کی کمائی کے لئے انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں ان پر دنیوی اور اخروی عذاب مسلط کریگا، اس مال کی بدولت یہ لوگ ہمیشہ عذاب اور تکلیف ہی میں مبتلا رہیں گے کہ حاصل کرنے میں بھی تکلیف اٹھائی اور جب کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ مالی نقصان کی مصیبت بھی ان کیلئے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔

### اس کیفیت کا ایک دلچسپ واقعہ:

دلچسپ واقعہ یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پیش آیا، قریش کے چند بڑے شیوخ جن میں سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور مہاجرین میں کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے پاس بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لئے جگہ خالی کرو تھوڑی دیر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے مجلس کے بالکل آخر میں پہنچ گئے، باہر نکل کر حارث بن ہشام نے کہا تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ سہیل بن عمرو نے کہا اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ قصور نہیں قصور ہمارا ہے، جب ہمیں اس دین کی دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑا اور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے پھر یہ دونوں صاحب حضرت عمر کے پاس گئے اور عرض کیا آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے مگر کیا اب اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے، حضرت عمر نے زبان سے کچھ جواب نہ دیا اور صرف سرحد روم کی طرف اشارہ کر دیا، مطلب یہ تھا کہ اب میدان جہاد میں جان و مال کھپاؤ تو شاید اس کی تلافی ہو جائے۔

### شان نزول:

و یحلفون باللہ انہم لمنکم، مدینہ میں منافقین زیادہ تر مالدار اور سن رسیدہ تھے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کی فہرست دی ہے اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے یہ لوگ مدینہ میں جائداد اور پھیلے ہوئے کاروبار رکھتے تھے اور جہاندیدگی نے ان کو مصلحت اندیش اور موقع پرست بنادیا تھا اسلام جب مدینہ پہنچا تو آبادی کے ایک بڑے حصہ نے پورے اخلاص اور ایمانی جوش کے ساتھ قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب منحصر میں مبتلا پایا، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو خود ان کے قبیلے کی اکثریت بلکہ خود ان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو ایمان کے نشہ نے سرشار کر دیا ہے، ان کے خلاف اگر یہ کفر و انکار پر قائم رہتے ہیں تو ان کی یہ ریاست، عزت، شہرت سب خاک میں مل جاتی ہے دوسری

طرف اس دین کا ساتھ دینے کے یہ معنی ہیں کہ وہ سارے عرب بلکہ اطراف و نواح کی قوموں اور سلطنتوں سے بھی لڑائی مول لینے کے لئے تیار رہیں، اس لئے انھیں اپنے مفاد کے تحفظ کی بہترین صورت یہی نظر آئی کہ ایمان کا دعویٰ کریں اور ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ اپنی قوم میں اپنی ظاہری عزت اور اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکیں مگر مخلصانہ ایمان نہ اختیار کریں تاکہ ان خطرات و نقصانات سے دوچار نہ ہوں جو خلاص کی راہ اختیار کرنے سے لازماً پیش آنے تھے، ان کی اسی ذہنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے انھیں زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے جو چیز ان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے کو مسلمان کہیں وہ صرف یہ خوف ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے علانیہ غیر مسلم بن کر رہیں تو ان کی جاہ و منزلت ختم ہو جاتی ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اس آیت کے شان نزول کا واقعہ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ کچھ مال لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے کہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام حرقوص تھا اور ذوالخویصرہ کے لقب سے مشہور تھا آپ کی خدمت میں آیا اور کہا تقسیم میں ذرا عدل و انصاف سے کام لیجئے، آپ نے فرمایا اگر میں ہی نا انصافی کروں گا تو انصاف کون کریگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر ارشاد ہو تو میں ابھی اس شخص کی گردن مار دوں آپ نے فرمایا جانے دو اس کی نسل سے واجب القتل لوگ پیدا ہوں گے چنانچہ اسی شخص کی نسل سے خارجی لوگ پیدا ہوئے، اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت کے دیگر شان نزول بھی بیان کئے ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مضمون دوسری آیتوں پر بھی صادق آتا ہے ورنہ صحیح شان نزول کا یہی واقعہ ہے جو صحیحین کی روایت میں موجود ہے۔

### خارجی فرقہ کا تعارف اور اس کے عقائد:

اس فرقہ کے وجود میں آنے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ جج کے ارادہ سے مکہ گئی ہوئی تھیں، مکہ سے واپسی کے وقت کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت علی کو قاتلان عثمان کا پتہ لگانے پر مجبور کریں اگر حضرت علی اس سے انکار کریں تو ان سے جنگ کی جائے، یہ حضرات حضرت عائشہ کو بصرہ لے گئے بصرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی فوج لے کر بصرہ کے ارادہ سے نکلے ۳۶ھ میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی لڑائی ہوئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، اس لڑائی میں حضرت عائشہ چونکہ اونٹ پر سوار تھیں اور اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں اسلئے یہ جنگ، جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی، یہ جنگ ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے برپا ہوئی تھی، اس میں حضرت علی کو فتح حاصل ہوئی، حضرت عائشہ کی شکست کا حال سن کر حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ لگانے کا معاملہ حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ شروع کیا حضرت امیر معاویہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے اس لئے انہوں نے اس مسئلہ کو اٹھانا اپنا حق سمجھا۔



## جنگ صفین:

۳۷ھ میں اسی مسئلہ پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جو جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے صفین ملک عراق اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے یہ لڑائی تقریباً ایک ماہ چلی اگرچہ اس لڑائی میں پلڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھاری رہا لیکن حضرت عمرو بن العاص کے مشورہ سے صلح کے لئے بیچ مقرر کئے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص بیچ مقرر ہوئے اس پنچایت کی صلح سے ناراض ہو کر ان الحکم الا للہ کہتے ہوئے آٹھ ہزار آدمیوں کا ایک گروہ حضرت علی سے منحرف ہو کر ان کے لشکر سے جدا ہو گیا اسی فرقہ کو ”خارجی“ کہتے ہیں یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کو اسلام سے خارج مانتے ہیں، اسی فرقہ کو ”حروریہ“ بھی کہتے ہیں، یہ مقام حرور کی جانب منسوب ہے، عبدالرحمن بن ملجم اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا جس نے موقع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ الزَّكَاةُ مَصْرُوفَةٌ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَالْمَسْكِينِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا أَى الصَّدَقَاتِ مِنْ جَابِ وَقَاسِمٍ وَكَاتِبٍ وَحَاشِرٍ وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ لِيُسَلِّمُوا أَوْ يَثْبِتَ إِسْلَامُهُمْ أَوْ يُسَلِّمَ نَظَرًا أَوْ بِهَمٍّ أَوْ يُذَبُّوا عَنِ الْمُسْلِمِينَ أَقْسَامًا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ لَا يُعْطِيَانِ الْيَوْمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِعِزِّ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ فَيُعْطِيَانِ عَلَى الْإِصْحَ وَفِي فَكِّ الرِّقَابِ أَى الْمَكَاتِبِينَ وَالْغَرَمِيِّنَ أَهْلَ الدِّينِ إِنْ اسْتَدَانُوا لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ أَوْ تَابُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وَفَاءٌ أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَى الْقَائِمِينَ بِالْجِهَادِ بِمَنْ لَا فَيَ لَهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَأَبْنِ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعِ فِي سَفَرِهِ فَرِيضَةً نَحَبَ لِفَعْلِهِ الْمَقْدَرِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ ① حَكِيمٌ ② فِي صُنْعِهِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِ بَهْوََاءٍ وَلَا مُنْعَ صِنْفٍ مِنْهُمْ إِذَا وَجِدَ فَيُقْسِمُهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ أَحَادِ الصَّنَفِ عَلَى بَعْضِ وَأَفَادَتِ اللَّامُ وَجُوبَ اسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِهِ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ إِذَا قُسِمَ لِعُسْرِهِ بَلْ يَكْفِي إِعْطَاءُ ثَلَاثَةِ مَنْ كُلِّ صِنْفٍ وَلَا يَكْفِي دُونَهَا كَمَا أَفَادَتْهُ صِيغَةُ الْجَمْعِ وَبَيَّنَّتِ السَّنَةُ أَنْ شَرَطَ الْمُعْطَى مِنْهَا الْإِسْلَامُ وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَشْمِيًّا وَلَا مُطْلَبِيًّا وَمِنْهُمْ أَى الْمَنَافِقِينَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ بِعَيْنِهِ وَتَقْلٍ حَدِيثِهِ وَيَقُولُونَ إِذَا نَهَوْا عَنْ ذَلِكَ لَثَلَا يُبَلِّغَهُ هُوَ أَذْنٌ أَى يَسْمَعُ كُلَّ قِيلٍ وَيَقْبَلُهُ فَإِذَا حَلَفْنَا لَهُ إِنَّا لَمْ نَقُلْ صَدَقْنَا قُلْ بِهَذَا أَذْنٌ مَسْتَمِعٌ خَيْرٌ لَكُمْ لَا مَسْتَمِعٌ شَرٌّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِيمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ لَا لِغَيْرِهِمْ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ إِيْمَانِ التَّسْلِيمِ وَغَيْرِهِ وَرَحْمَةٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى أَذْنٍ وَالْجَرَ عَطْفًا عَلَى خَيْرٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ③ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ فِيمَا بَلَّغَكُمْ عَنْهُمْ

مِنْ أَدَّى الرَّسُولِ أَنَّهُمْ مَا آتَوْهُ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ بِالطَّاعَةِ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾  
 حَقًّا وَتَوْحِيدَ الضَّمِيرِ لِتَلَازِمِ الرِّضَائَيْنِ أَوْ خَبَرِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ مَحْذُوفِ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ أَيْ الشَّانِ  
 مَنْ يُحَادِدِ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ أَى جَزَاءَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾ يَحْذَرُ  
 أَى يَخَافُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ أَى الْمُؤْمِنِينَ سُورَةُ تَنْبِيئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ النِّفَاقِ وَبِهِمْ مَعَ  
 ذَلِكَ يَسْتَهْزِئُونَ قُلِ اسْتَهْزِئُوا أَسْرُ تَهْدِيدٍ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مظهرٍ مَا تَحْذَرُونَ ﴿١٥﴾ اخراجہ من نفاقکم  
 وَلَئِنْ لَمْ قَسَمَ سَأَلْتَهُمْ عَنْ اسْتِهْزَائِهِمْ بِكَ وَالْقُرْآنِ وَبِهِمْ سَائِرُونَ مَعَكَ إِلَى تَبُوكَ لَيَقُولَنَّ مُعْتَذِرِينَ  
 إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ فِي الْحَدِيثِ لِنَقْطَعَ بِهِ الطَّرِيقَ وَلَمْ تَقْصِدْ ذَلِكَ قُلْ لَهُمْ أَيْلَهُ وَآيَتِهِ وَرَسُولُهُ  
 كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٦﴾ لَا تَعْتَذِرُوا عَنْهُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَى ظَهَرَ كُفْرُكُمْ بَعْدَ إِظْهَارِ الْإِيمَانِ إِنْ نَعَفَ  
 بِالْبِأْسِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَالنُّونُ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ بِاخْلَاصِهَا وَتَوْبَتِهَا كَمَخْشَى بْنِ حَمِيرٍ  
 نَعَذَّبَ بِالتَّاءِ وَالنُّونِ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ مُصَرِّينَ عَلَى النِّفَاقِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ.

**ترجمہ:** صدقات (واجبہ) (مثلاً) زکوٰۃ فرض صرف ان فقراء کے لئے ہیں جو اتنی مقدار بھی نہ پائیں جو اپنی  
 حاجت میں صرف کر سکیں (یعنی ان کے پاس مال بالکل نہ ہو) اور مساکین کے لئے ہے جو بقدر کفایت مال نہ پائیں، اور  
 صدقات کے کارکنوں کے لئے اور صدقات (زکوٰۃ) وصول کرنے والوں کے لئے ہے، اور (مستحقین) پر تقسیم کرنے والوں کے  
 لئے ہے، اور کاتبین کے لئے ہے اور (ارباب اموال کو) جمع کرنے والوں کے لئے ہے، اور ان لوگوں کیلئے ہے جن کی تالیف  
 قلب مقصود ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں یا اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں یا ان کے امثال اسلام لے آئیں یا مسلمانوں کا دفاع  
 کریں، یہ (چار) قسمیں ہیں پہلی اور آخری قسم کو آج کل امام شافعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک نہیں دیا جائیگا، اسلئے کہ اسلام قوی ہو  
 گیا ہے، بخلاف باقی دونوں قسموں کے صحیح مذہب کے مطابق ان کو دیا جائے گا، اور مکاتبتین کو آزاد کرانے میں اور قرضداروں  
 کے لئے ہے جنہوں نے غیر معصیت کے لئے قرض لیا ہو، یا (معصیت کے لئے لیا ہو مگر) معصیت سے توبہ کر لی ہو، اور ان کے  
 پاس قرض ادا کرنے کے لائق مال نہ ہو، اور آپس میں صلح کرانے کے لئے اگرچہ وہ مالدار ہوں، اور مجاہدین کے لئے ہے یعنی  
 ایسے مجاہدین کے لئے جو جہاد میں مشغول ہوں اور وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کا مال غنیمت میں حصہ نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہی  
 کیوں نہ ہوں، اور ایسے مسافروں کے لئے ہے کہ جن کیلئے مال سے منقطع ہونے کی وجہ سے سفر جاری رکھنا دشوار ہو گیا ہو اور یہ اللہ  
 کی طرف سے فرض کردہ حکم ہے (فریضۃ) فعل مقدر (فَرْض) کی وجہ سے منصوب ہے، اللہ اپنی مخلوق (کی ضرورتوں) سے  
 بخوبی واقف ہے اور اپنی صنعت میں باحکمت ہے لہذا مذکورہ مصارف کے علاوہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہے اور مذکورہ اصناف  
 کے موجود ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کو محروم نہیں کیا جائیگا، لہذا امام وقت کو چاہئے کہ ان میں برابر تقسیم کرے اور امام کو اختیار



ہے کہ کسی ایک صنف کو دوسری صنف پر ترجیح دیدے اور لام سے تمام افراد کے استغراق کا وجوب مستفاد ہوتا ہے، لیکن صاحب مال پر بوقت تقسیم تمام افراد کا احاطہ کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بلکہ (اصناف ثمانیہ میں سے) ہر صنف کے تین افراد کو دینا کافی ہے اس سے کم میں کافی نہ ہوگا، جیسا کہ جمع کے صیغوں سے مستفاد ہوتا ہے، اور سنت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ ہاشمی اور مُطَّلَعی سید نہ ہو، اور ان منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نکتہ چینی کر کے اور (رازوں کو) افشا کر کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جب ان کو نکتہ چینی سے آپس میں اس خیال سے منع کیا جاتا ہے مبادا ایسا نہ ہو کہ آپ کو اطلاع ہو جائے تو کہتے ہیں وہ تو کان ہیں ہر بات کو سن لیتے ہیں اور (سچ) مان لیتے ہیں اور جب ہم (بھی) ان سے قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی تو ہماری بات کو بھی سچ مان لیں گے، (ان سے) کہو تمہارے بھلے کی باتیں سنتے ہیں نہ کہ تمہارے نقصان کی باتیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی اس بات میں تصدیق کرتے ہیں جس کی اس کو خبر دیتے ہیں نہ کہ دوسروں کی، اور (للمؤمنین) میں لام زائدہ ایمان تسلیم اور ایمان تصدیق میں فرق کرنے کیلئے ہے اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لئے رحمت ہے رحمة رفع کے ساتھ ہے اذن پر عطف کرتے ہوئے، اور جر کے ساتھ ہے خیر پر عطف کرتے ہوئے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اے ایمان والو! رسول کو ایذا کی اس بات کے بارے میں جو ان کی طرف سے تم کو پہنچی ہے تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تاکہ وہ تم کو خوش کر دیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ان کو طاعت کے ذریعہ خوش کریں، اگر وہ سچے مومن ہیں دونوں کی رضا مندی کے لازم ملزوم ہونے کی وجہ سے (یرضوه) کی ضمیر کو واحد لائے ہیں، یا اللہ کی یا رسول کی خبر محذوف ہے، کیا انھیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتا ہے کہ ان کی سزا نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بڑی رسوائی کی بات ہے منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مومنین پر کوئی سورت نازل ہو جائے جو ان پر اس نفاق کو ظاہر کر دے جو ان کے دل میں ہے اور وہ اس کے باوجود استہزاء کرتے ہیں (اے نبی) کہہ دو (اور) مذاق اڑاؤ یہ امر تہدید کے لئے ہے، اللہ اس نفاق کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر کرنے سے تم ڈرتے ہو اور اگر آپ ان سے آپ کے اور قرآن کے استہزاء کے بارے میں دریافت فرمائیں حال یہ کہ وہ آپ کے ساتھ تہوک کی طرف جارہے ہوں قسمیہ بات ہے کہ وہ عذر پیش کرتے ہوئے یقیناً کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، تاکہ ہنسی مذاق میں سفر کٹ جائے اور یہ (یعنی استہزاء) ہمارا مقصد نہیں تھا آپ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو اس کے بارے میں عذر نہ بیان کرو تم نے ایمان کے بعد کفر کیا یعنی ایمان کے اظہار کے بعد تمہارا کفر ظاہر ہو گیا اگر تم میں کی ایک جماعت کو اس کے اخلاص اور توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا جائے جیسا کہ بخشی بن حمیر کو تو ایک جماعت کو ہم ضرور سزا دیں گے اس لئے کہ وہ مجرم ہیں تعذب تا اور نون کے ساتھ ہے اور ن (نعف) یاء کے ساتھ مبنی للمفعول ہے اور نون کے ساتھ مبنی للفاعل ہے، (یعنی) نفاق اور استہزاء پر مصر ہیں۔

## تحقیق و تزکیہ تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ، إِنَّمَا کلمہ حصر ہے، یہاں قصر موصوف علی الصفت کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی صدقات (زکوٰۃ) کا مصرف صرف مذکورین ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، لِّلْفُقَرَاءِ میں لام سے متعلق بڑی قیل و قال ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ لام تملیک کے لئے ہے جیسا کہ امام شافعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا یہی مسلک ہے، اور بعض نے کہا کہ اختصاص و استحقاق کے لئے ہے اس کے قائل امام ابوحنیفہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی ہیں، (بحر) الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ، دونوں لفظوں کی تعبیر و تفسیر میں متعدد اقوال نقل ہوئے ہیں۔

حنفیہ نے کہا ہے کہ ”فقیر“ وہ نادار ہے جو سوال نہ کرے اور ”مسکین“ وہ نادار ہے جو سوال کرے، اور ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا، حسن بصری، جابر بن زید، مجاہد، زہری سے بھی یہی منقول ہے، امام ابوحنیفہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا قول ان حضرات کے قول کے مطابق ہے (بصا ص) لفظ فقیر اور مسکین کی تشریح و تعبیر میں خواہ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو مسئلہ زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا زکوٰۃ دونوں کو دینا جائز ہوگا، البتہ وصیت کے مسئلہ میں فرق پڑے گا، اگر فقراء کے لئے وصیت کی ہے تو وہی مستحق ہوں گے اور اگر مساکین کے لئے کی ہے تو صرف وہ مستحق ہوں گے۔

مصارف ثمانیہ کے بارے میں ایک ازہری عالم کی مفید بحث:

زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہیں:

- ۱ فقیر وہ شخص ہے کہ جو اتنے مال کا مالک نہ ہو جو اس کی ضرورت کے لئے کافی ہو، بایں طور کہ اپنی ضرورت کی مقدار سے نصف سے کافی کم کا مالک ہو، مثلاً اس کی ضرورت دس درہم کی ہے مگر اس کے پاس صرف دو یا تین درہم ہیں۔
- ۲ المسکین، مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال تو ہو مگر بقدر ضرورت نہ ہو، مثلاً اس کو دس درہم کی حاجت ہے مگر اس کے پاس سات درہم ہیں۔
- ۳ العاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ وصولی کے سلسلہ کے کارندے مثلاً کاتب، حاسب وغیرہ۔
- ۴ المؤلفة قلوبہم وہ نو مسلم جن کا اسلام ابھی راسخ نہیں ہوا ہے یا وہ لوگ کہ جن کو تالیف قلوب کے طور پر دینے سے دیگر حضرات کے اسلام کی توقع کی جاسکتی ہو۔
- ۵ الرقاب، مکاتین کو آزاد کرانے میں۔
- ۶ الغارم، وہ شخص کہ جس نے جائز مقصد کے لئے قرض لیا اور اب وہ ادائیگی پر قادر نہیں ہے یا اصلاح ذات البین کی وجہ سے مقروض ہو گیا اگرچہ وہ غنی ہو۔



۷ اہل السبیل وہ مالدار کہ جو جہاد میں شرکت کے خواہشمند ہیں۔

۸ ابن السبیل، مباح سفر کا مسافر جو اپنے شہر سے دور ہوا یا شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر

پہنچ سکے۔ (اعراب القرآن للدرویش ملخصاً)

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

مؤلفۃ القلوب، سے مراد ایسے غیر مسلم ہیں جن کے مسلمان ہو جانے کی امید ہو یا ان کے شر و فساد سے بچنا مقصود ہو، اور ایسے مسلمان جو ضعیف الایمان ہوں اور اس طریقہ سے ان کے ایمان کے قوی ہونے کی امید ہو، غرض یہ کہ انسان کا ہر وہ گروہ جس کی طرف سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ درپیش ہو۔

مورخ ابن حبیب نے سولہ شخصوں کے نام کی ایک فہرست دی ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مؤلفۃ القلوب قرار دیکر ان میں سے چودہ کو سو سو (۱۰۰،۱۰۰) اونٹ اور باقی کو پچاس پچاس اونٹ عطا کئے تھے، اس فہرست کا آغاز ابوسفیان بن حرب اموی اور معاویہ بن ابی سفیان کے نام سے ہوتا ہے (کتاب المجرس ص ۴۷۳، بحوالہ ماجدی) اکثریت کا قول ہے کہ یہ حکم آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے لئے مخصوص تھا، اور اس رائے میں حنفیہ کے ساتھ مالکیہ اور امام ثوری اور امام اسحاق بن راہویہ اور امام شعمی اور عکرمہ تابعی بھی ہیں۔ (بیضاوی، ماجدی)

## علماء محققین کی رائے دربارہ مؤلفۃ القلوب:

بعض علماء محققین نے کہا ہے کہ تعامل صحابہ سے یہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا بلکہ محض بہ سبب عدم ضرورت وقتی رفع حکم تھا اور استغناء اور حکم کا اجرا ہر دور میں امام المسلمین کی رائے اور مصلحت کے تابع رہے گا۔

والصحيح انّ هذا الحكم غير منسوخ وان للامام ان يتالف قوماً على هذا الوصف ويدفع اليهم، هم المؤلفة لانه لا دليل على نسخه البتة۔ (کبیر، ماجدی)

## فاضل گیلانی کی تحقیق:

انہی مصارف میں ایک مدّان لوگوں کی بھی ہے جو محض مالی کمزوریوں کی وجہ سے اسلامی حکومت اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ اس زمانہ میں سیاسی شورش پسندوں کے ایک گروہ کی یہی حالت ہے، ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے بھی صدقات کے مصارف میں قرآن نے مؤلفۃ القلوب کی ایک مدرکھی ہے، اگرچہ عام طور پر فقہاء کہتے ہیں کہ مصرف صرف ابتداء اسلام کی حد تک محدود تھا، اور اب ساقط ہو گیا، دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کے بعض افراد کو دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا تھا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی

ضرورت نہیں رہی نبی ﷺ کی رحلت کے بعد عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے انہوں نے آپ سے ایک زمین طلب کی آپ نے عطیہ کا فرمان لکھ دیا انہوں نے چاہا کہ مزید بختگی کے لئے اعیان صحابہ سے بھی دستخط کرا لیں چنانچہ گواہیاں ہو گئیں مگر جب یہ لوگ گواہی کے لئے حضرت عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمان پڑھ کر ان کے روبرو اسے پھاڑ دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بے شک تم لوگوں کی تالیف قلوب کے لئے آپ ﷺ کو تمکو دیا کرتے تھے مگر اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر گئے اور طعنہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ لیکن نہ ابوبکر ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا نہ دوسرے صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا حالانکہ قصہ صرف اس قدر ہے کہ چند خاص لوگوں کو دینے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ، اِنَّ اللّٰهَ اَعَزَّ اِلَّا سَلَامٌ فَاذْهَبَا۔ اب اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمادی لہذا تم دونوں جاؤ (کچھ نہ ملیگا) لیکن اس کا یہ مطلب قرار نہیں دیا جاسکتا کہ ہر شخص کے لئے حضرت عمر نے اس مد کو ساقط کر دیا غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن نے جس مصرف کو منصوص کیا ہے اس کو اولاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوخ ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ نیز ایک ایسی خبر واحد سے قرآن کے ایک قانون پر خط نسخ نہیں پھیرا جاسکتا، بلکہ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ امام اور حکومت وقت کی صواب دید پر موقوف ہے، جس وقت لوگوں کے لئے اس کی ضرورت سمجھے دے اور جن کے لئے ضرورت نہ سمجھے نہ دے۔

(اسلامی معاشیات بحوالہ ماجدی)

فقیہ ابن عربی نے دونوں قول نقل کر کے ترجیح دوسرے ہی قول کو دی ہے، اور کہا ہے کہ اسلام جس طرح اس دور میں قوی اور معزز ہو گیا تھا اب پھر ضعیف ہو گیا ہے۔

## مقروضوں کے ساتھ اسلام کی ہمدردی:

دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے مقروضوں کے ساتھ عملی ہمدردی کا سبق دیا ہے اور اس گروہ کو بھی فقراء اور حاجت مند سمجھ کر زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے۔

مقروض دنیا کا وہ مظلوم ہے جس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک تو بڑی بات ہے اس وقت تک دنیا کی حکومتوں نے ان کو ستانے والوں اور ان پر تشدد کے پہاڑ توڑنے والے قرض خواہوں کو صرف مالی نہیں بلکہ قانونی امداد و تعاون کو اپنا فریضہ قرار دے رکھا ہے ہر حکومت کی پولیس فورس اور فوجی و عسکری قوت اس کے لئے تیار رہتی ہے کہ مقروضوں کے ذمہ قرض خواہوں کا جو قرض ہے صرف اصل ہی نہیں بلکہ سود و رشوت کے ساتھ اس سے وصول کرایا جائے، خواہ مقروض کی ساری جائیداد اور گھر کا سارا اثاثہ ہی کیوں نہ نیلام ہو جائے یہ ایک واقعہ ہے۔

وفی الرقاب، فكُ رقاب کہتے ہیں مکاتب کی گردن چھڑانے (آزاد کرنے میں مدد کرنا) اگر مولیٰ نے اپنے غلام سے کہہ دیا کہ تو اگر اتنی رقم لا کر دیدے تو تو آزاد ہے اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں ایسے غلام کو مال زکوٰۃ دے کر مدد کی جاسکتی ہے اس پر



علماء متفق ہیں اور اعتناق کا مطلب ہوتا ہے غلام خرید کر آزاد کرنا، زکوٰۃ کے مال کو اس صورت میں خرچ کرنے میں اختلاف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن جبیر، لیث، ثوری، ابراہیم نخعی، حنفیہ، شافعیہ ناجائز کہتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن بصری، امام مالک، امام احمد جائز کہتے ہیں۔

وفی سبیل اللہ، لفظی معنی کے اعتبار سے اس مد میں ہر وہ خرچ آجاتا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہو لیکن مفسرین نے احادیث نبوی اور آثار صحابہ کی روشنی میں خرچ کی اس مد کو عموماً مجاہدین تک محدود رکھا ہے۔

اراد بها الغزاة فلهم سهم من الصدقة (معالم) فمنهم الغزاة الذی لا حق لهم فی الدیوان (ابن کثیر) اور بعض حضرات نے اس میں دینی طالب علموں کو بھی شامل کیا ہے، قیل المراد طلبۃ العلم واقتصر علیہ فی الفتاویٰ ظہیریہ۔

مصارف ثمانیہ میں سے ہر صنف کو دینا ضروری ہے یا بعض کو دینا بھی کافی ہو سکتا ہے؟

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک:

ایک مرتبہ زیاد بن حارث آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صدقہ میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرمادیجئے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدقات میں کسی نبی کا حکم پسند نہیں کیا ہے بلکہ اس نے خود ہی آٹھ مصرف بتلا دیئے ہیں اگر تم ان آٹھوں میں سے ایک بھی ہو تو صدقہ کے مستحق ہو گے ورنہ نہیں، علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصارف ثمانیہ قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو زکوٰۃ دی جائے یا ان میں سے بعض کو دینا بھی کافی ہو سکتا ہے؟ زیاد بن حارث کی مذکورہ حدیث کی بنا پر امام شافعی اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ان آٹھوں قسموں پر صدقہ تقسیم کرنا چاہئے یہ حدیث ابوداؤد میں ہے اور اسکی سند میں ایک راوی عبدالرحمن بن زیاد بن النعم افریقی کو اکثر علما نے ضعیف قرار دیا ہے۔

مصارف صدقات میں امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کا مسلک:

مذکورہ حدیث کی سند میں چونکہ عبدالرحمن بن زیاد ضعیف ہے اس لئے ان حضرات نے فرمایا کہ مذکورہ آٹھ اصناف میں سے سب کو دینا ضروری نہیں ہے اگر ایک کو بھی دیدیا جائے تو کافی ہوگا، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد زکوٰۃ کے اصناف ثمانیہ بیان کرنے سے مصرف زکوٰۃ کو بیان کرنا ہے نہ کہ تعداد کو۔

## زکوٰۃ وصدقہ واجبہ آپ ﷺ کی آل کے لئے جائز نہیں:

صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ آنحضرت ﷺ کے لئے اور آپ ﷺ کی آل کے لئے حلال نہیں ہے، ظاہر روایت کے اعتبار سے یہ مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے البتہ نقلی صدقہ کو آل محمد کے حق میں جائز قرار دیا ہے، یہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔

## سادات میں کون لوگ شامل ہیں؟

امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک فقط ہاشم بن عبد مناف کی اولاد آل محمد ہے، اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ اور ایک روایت میں امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنی مطلب بھی آل محمد میں شامل ہیں۔

## زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات غیر مسلم کو بھی دیئے جاسکتے ہیں:

زکوٰۃ کے علاوہ عام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیئے جاسکتے ہیں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”تصدقوا علی اہل الادیان کلہا“ یعنی ہر مذہب والے پر صدقہ کرو، لیکن صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے لی جائے اور غریب مسلمانوں کو دی جائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق صرف مسلمان ہی ہیں۔

## ایک مفید بحث:

قرآن مجید میں تیسرا مصرف العاملین علیہا، بیان فرمایا ہے یہاں عاملین سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں مشغول کرتے ہیں اسلئے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے قرآن کریم کی اس آیت نے مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ان کا حق الخدمت اسی مد زکوٰۃ سے دیا جائیگا۔

اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی وصولی کا فریضہ براہ راست نبی ﷺ کو ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً“ کہہ کر سپرد فرمایا ہے، اس آیت کی رو سے مسلمانوں کے امیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے صدقات وصول کرے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ امیر بذات خود بغیر معاونین کے یہ کام انجام نہیں دے سکتا لہذا اس کو معاونین اور مددگاروں کی ضرورت ہوگی ان ہی معاونین کو و العاملین علیہا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، اسی حکم کی تعمیل میں حضور ﷺ نے بہت سے صحابہ کو



صدقات وصول کرنے کیلئے مختلف خطوں میں بھیجا تھا، اور مذکورہ ہدایت کے مطابق زکوٰۃ ہی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کو حق الخدمت دیا ہے، حالانکہ ان حضرات میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو اغنیاء تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ کسی غنی کے لئے حلال نہیں بجز پانچ شخصوں کے ① ایک وہ جو جہاد کے لئے نکلا ہو اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہو ② دوسرے عامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو، ③ وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر موجودہ مال سے زیادہ کا قرضہ ہے ④ وہ شخص جو صدقہ کا مال کسی غریب مسکین سے خرید لے، ⑤ وہ مالدار شخص جسکو کسی غریب شخص نے صدقہ سے حاصل شدہ مال بطور ہدیہ دے دیا ہو۔

عالمین صدقہ کو جو رقم دی جاتی ہے وہ صدقہ کے طور پر نہیں بلکہ معاوضہ خدمت کے طور پر دی جاتی ہے اسی لئے مالدار ہونے کے باوجود عالمین کے لئے اس کا لینا جائز ہے اس مد کے علاوہ اگر صدقہ کا مال دوسرے کسی کام کے معاوضہ میں دیا گیا تو وہ جائز نہ ہوگا، مصارف ثمانیہ میں عالمین ہی کی صرف ایک مد ہے جس میں حق الخدمت دینا جائز ہے۔

## دوسوال اور ان کے جواب:

اب یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں، اول یہ کہ مال زکوٰۃ کو معاوضہ خدمت کے طور پر کیسے دیا گیا؟ دوسرے یہ کہ مالدار کے لئے یہ مال حلال کیسے ہوا؟ ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ کہ عالمین حضرات فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہوتا ہے، جب عالمین نے زکوٰۃ کی رقم فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کر لی تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور وکیل انہوں نے وصول کی ہے، اب جو رقم حق الخدمت کے طور پر دی جاتی ہے وہ مالداروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہے اور فقراء کو اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے۔

## ایک اہم سوال:

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فقراء نے تو ان کو وکیل و مختار بنایا نہیں، یہ ان کے وکیل کیسے بن گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کو امیر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پر من جانب اللہ پورے ملک کے فقراء کا وکیل ہوتا ہے کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے امیر الملک جن کو صدقات کی وصولی پر عامل بنادے وہ سب ان کے نائب اور وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ عالمین کو جو کچھ حق الخدمت کے طور پر دیا گیا ہے وہ درحقیقت زکوٰۃ نہیں بلکہ زکوٰۃ جن فقراء کا حق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا ہے۔

## فائدہ جلیلہ:

تفصیل مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آجکل جو اسلامی مدارس اور مکاتب و انجمنوں کے مہتمم حضرات یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفراء صدقات و زکوٰۃ وغیرہ مدارس و انجمنوں کے لئے وصول کرتے ہیں ان کا وہ حکم نہیں ہے جو عاملین صدقہ کا ہے لہذا سفراء حضرات کی تنخواہ مال زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں ہیں بلکہ اصحاب زکوٰۃ مالداروں کے وکیل ہیں ان کی طرف سے مال زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصرف میں لگانے کا اختیار دیا گیا ہے، اسی لئے ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے مصرف میں صرف نہ ہو جائے سفراء کا حقیقۃً فقراء کا وکیل نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ ان کو کسی فقیر نے وکیل بنایا ہی نہیں ہے اور امیر المؤمنین کی طرف سے ولایت عامہ جو عاملین کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے لہذا بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو اصحاب زکوٰۃ مالداروں کا وکیل قرار دیا جائے، اور جب تک وکیل کا قبضہ رہے وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ خود مؤکل کا لہذا مصرف زکوٰۃ میں خرچ نہ ہونے تک زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

وَمِنْهُمْ اِی الْمُنَافِقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ النَّبِیَّ، یہ بھی منافقوں کی ہرزہ سرائی اور بیہودہ بکواس کا ذکر ہے جس کا مقصد آنحضرت ﷺ کو تکلیف پہنچانا ہے، جو باتیں منافقین آپ ﷺ کے بارے میں کہا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ محمد ﷺ تو کان کے کپے ہیں یعنی جو سنتے ہیں اس کو سچ مان لیتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے اگر کوئی مسلمان ان کی باتیں جا کر کہہ دیتا ہے تو اس کو سچ مان لیتے ہیں اور جب ہم قسم کھا کر اس کا انکار کر دیتے ہیں ہماری بات کو سچ مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم انھیں (کان کا کچا) کہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ انھیں جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے انھیں جھوٹ اور سچ کی خوب تمیز ہے مگر تمہاری طرف سے تغافل اور چشم پوشی کرتے ہیں اور اہل نفاق کے حق میں رحمت ہیں کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ کر ان کا پردہ فاش نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایسی باتیں کر کے آپ ﷺ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں عبد اللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حُنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب ایک منافق جس کا نام معتب بن قشیر تھا اس نے مال غنیمت کے بارے میں اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے امت کے لوگوں کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ اذیتیں برداشت کی تھیں۔

(صحیح بخاری)

یَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لَبِئْسَ الضَّوْکُمُ الخ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے پوشیدہ راز کو ظاہر فرمادیا کہ یہ لوگ خلوتوں میں آنحضرت ﷺ اور مومنوں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور اس کی اطلاع آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹی قسمیں کھا کر انکار کر دیتے ہیں، اس جھوٹی قسم سے ان کا منشا آپ کو اور مومنوں کو خوش کرنا ہوتا ہے حالانکہ ہونا یوں



چاہئے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرتے اور نفاق چھوڑ کر مخلص مومن ہو جاتے، کیا انھیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہے گا۔

## شان نزول:

لَنْ سَأَلْتَهُمْ، تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ سے اس آیت کا جو شان نزول مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ایک جماعت منافقین کی تھی کبھی تو وہ آپ ﷺ کی شان میں خفیہ طور پر بدگوئی کرتے اور کبھی قرآن کے بارے میں نکتہ چینی کرتے اور جب ان سے کہا جاتا تو فوراً مکر جاتے اور قسمیں کھانے لگتے، اور کہہ دیتے کہ ہم تو آپس میں یوں ہی ہنسی مذاق کر کے ٹائم پاس کر رہے تھے، ان کے حال کو ظاہر کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔

اِنْ يُغْفَ ياء کے ساتھ بصیغہ مجہول اور نون کے ساتھ بصیغہ معروف، اگر تم میں کی کوئی جماعت اس حرکت سے باز آجائے اور دل سے توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائیگا، جیسا کہ مخشی بن حمیر اور بعض نسخوں میں جحش بن حمیر ہے یہ شخص بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اللہ کے رسول اور قرآن کا مذاق اڑایا کرتے مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور جنگ یمامہ میں شہید ہوا، اس نے دعاء کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب فرما، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے غسل دیا گیا یا مجھے کفنا یا مجھے دفن کیا گیا چنانچہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی جائے شہادت کہاں تھی اور کس نے ان کو کفن دیا؟

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ اِی مُتَشَابِهُونَ فِی الدِّیْنِ کَأَبْعَاضِ الشَّیْءِ الْوَاحِدِ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ الْکُفْرِ وَالْمَعَاصِیِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ الْاِیْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَیَقْبِضُونَ اَیْدِیَهُمْ عَنِ الْاِنْفَاقِ فِی الطَّاعَةِ نَسُوا اللّٰهَ تَرْکُوا طَاعَتَهُ فَنَسِیَهُمْ تَرْکَهُمْ مِنْ لُطْفِهِ اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝۶۷ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْکُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا هِیَ حَسْبُهُمْ جَزَاءُ وَعِقَابًا وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ اَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ۝۶۸ دَائِمٌ اَنْتُمْ اِیْهَا الْمُنَافِقُونَ کَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ کَانُوا اَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَاکْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا تَمَتَّعُوا بِخَلْقِهِمْ نَصِیْبُهُمْ مِنَ الدُّنْیَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ اِیْهَا الْمُنَافِقُونَ بِخَلْقِكُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ فِی الْبَاطِلِ وَالطَّغْنِ فِی النَّبِیِّ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَالَّذِیْ خَلَصُوا اِیْ کَخَوْضِهِمْ اُولٰٓئِکَ حِطَّتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝۶۹ اَلَمْ یَاۤتِهِمْ نَبَاُ خَبَرُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَثَمُوْدَ قَوْمِ صَالِحٍ وَقَوْمِ اِبْرٰهیمَ وَاَصْحٰبِ مَدِیْنٍ قَوْمِ شُعَیْبٍ وَالْمُؤْتَفِکِ قُرَی قَوْمِ لُوطٍ اِیْ اٰهْلِهَا اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ بِالْمُعْجَزَاتِ فَکَذَّبُوْهُمْ فَاٰهْلُکُمْ

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ بَأَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۷﴾ بارتکاب الذُّنُوبِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ أَنْجَازِ وَعْدِهِ وَوَعْدِهِ  
حَكِيمٌ ﴿۸﴾ لَا يَضَعُ شَيْئًا إِلَّا فِي مَحَلِّهِ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ أَقَامَةٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ أَغْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ﴿۹﴾

**ترجمہ:** منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی دین کے معاملہ میں ایک شئی کے اجزاء کے  
مشابہ ہیں، برائی کا (یعنی) کفر و معاصی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی (یعنی) ایمان و طاعت سے روکتے ہیں اور طاعت میں  
خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں اللہ کو بھول گئے ہیں یعنی اسکی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، تو اللہ نے بھی انھیں  
بھلا دیا ہے یعنی ان کو اپنے کرم سے محروم کر دیا ہے، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں  
سے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی جزا و سزا کے اعتبار سے ان کے لئے ہے، اللہ نے ان  
پر لعنت کی ہے یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے اے منافقو! تمہارے رنگ ڈھنگ  
ویسے ہی ہیں جیسے تم سے پہلے والوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور تھے اور مال و اولاد میں تم سے بڑھے ہوئے تھے انہوں  
نے دنیا میں اپنے حصہ کے مزے لوٹ لئے پھر اے منافقو! تم نے بھی اپنے حصہ کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح  
تمہارے پیش روؤں نے اپنے حصہ کے مزے لوٹ لئے، اور تم بھی نبی ﷺ پر طعن کرنے اور باطل کی بحثوں میں اسی طرح پڑ  
گئے جس طرح وہ پڑ گئے تھے یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال (خیر) دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی خسارے میں ہیں،  
کیا ان کے پاس ان لوگوں کی تاریخ نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، (مثلاً) قوم نوح اور عاد جو کہ ہود علیہ السلام کی  
قوم تھی اور شمود (کی تاریخ) جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی اور اصحاب مدین کی جو قوم شعیب  
علیہ السلام تھی، اور ان بستی والوں کی جنہیں الٹ دیا گیا تھا (اور وہ) قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں والے تھے ان کے رسول  
ان کے پاس کھلی نشانیاں معجزات لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے ان کی تکذیب کی چنانچہ انھیں ہلاک کر دیا گیا، یہ اللہ کا کام  
نہیں تھا کہ وہ ان پر ظلم کرے بایں طور کہ بلا وجہ ان کو عذاب دے مگر (حقیقت یہ ہے کہ) وہ خود ہی گناہوں کا ارتکاب کر کے  
اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے  
روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ جن پر اللہ  
عنقریب رحم کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے، وعید کو نافذ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا باحکمت



ہے، ہر شئی کو اس کے محل (و موقع) پر کرتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ایسی جنت عطا کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی اسمیں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان باغوں میں انکے لئے پاکیزہ قیام گاہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انھیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی جو کہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** تَرَكَوْا طَاعَتَهُ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ نسیان پر کسی سے مواخذہ نہیں ہوتا اور نہ نسیان قابل مذمت، اسلئے کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مقام مذمت میں کیوں ذکر فرمایا؟

**جَوَابُ:** یہاں اور آئندہ نسیان سے اس کے لازم معنی مراد میں اسلئے کہ نسیان کے لئے ترک لازم ہے اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا مطلب ہے اپنی رحمت خاصہ سے محروم کر دینا۔

**قَوْلُهُ:** انْتُمْ اَيُّهَا الْمُنْفِقُونَ، انتم محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ کالذین من قبلکم مبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے نہ کہ فعل محذوف کی وجہ سے منصوب اسلئے کہ اس صورت میں کثرت حذف لازم آئے گا حالانکہ حذف میں تقلیل اولیٰ ہے۔

**قَوْلُهُ:** نَصِيبُهُمْ، اس میں خلاق کے معنی کی طرف اشارہ ہے، یہ خلق سے مشتق ہے بمعنی تقدیر۔

**سُؤَالُ:** فکذبوہم کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے؟

**جَوَابُ:** تاکہ ”فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ“ کا عطف فاء تعقیبیہ کے ذریعہ درست ہو جائے۔

**قَوْلُهُ:** اِقَامَةٍ اس میں اشارہ ہے کہ عَذْن بمعنی خلود، ہے لہذا تکرار کا اعتراض دفع ہو گیا۔

**قَوْلُهُ:** رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ، رضوان میں تنوین تنکیر کی ہے یعنی اللہ کی ادنیٰ رضامندی بھی بڑی چیز ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

المنفقون والمنفقت بعض، آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں تین سو منافق مرد اور ۷۰ منافق عورتیں تھیں آپ ﷺ کے زمانہ میں وہ لوگ منافق کہلاتے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنی جان اور اپنا مال بچانے کی غرض سے ظاہر میں تو اسلام قبول کر لیتے تھے مگر ان کے دل میں کفر جمار ہوتا تھا اگرچہ دل کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا مگر آپ ﷺ کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ کو ان کے نفاق کی اطلاع کر دیتا تھا، البتہ عملی منافق کا اسکے اعمال سے اور انکی علامات سے جو آپ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں علم ہو جاتا ہے وہ شرعی احکام میں سستی کرتا ہے، اکثر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، گالیاں منہ سے نکالتا ہے، امانت میں خیانت اس کا شیوہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ عملی منافق کہلاتے ہیں ایسے

لوگ اس زمانہ میں بھی ہیں اور ہر زمانہ میں رہیں گے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے اعمال ایک جیسے ہیں، تمام منافقوں کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے نفرت و عداوت ہے، اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے پروان چڑھنے سے ان کو راحت قلبی نصیب ہوتی ہے اور اسی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کے برخلاف ان کو ہر بھلے کام سے صدمہ پہنچتا ہے ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، ایک مشترکہ خاصیت ان کی یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کیلئے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، بدی میں خرچ کرنے کیلئے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں خوب خرچ کرتے ہیں۔ مگر نیکی میں خرچ کرنے کیلئے ان سے زیادہ کوئی مفلس نہیں۔

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ الْخ یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے، بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لئے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لیجانیوالا تھا، اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا پورا موقع دیا، انکی فہمائش کیلئے رسول بھیجے رسولوں نے نہایت واضح طریقہ سے بتا دیا کہ کامرانی اور فلاح کا راستہ کونسا ہے؟ اور ہلاکت و ناکامی کا راستہ کونسا ہے؟

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں، اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، لیکن ان کے مزاج، اخلاق، اطوار اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِاللِّسَانِ وَالْحُجَّةِ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْتِهَارِ وَالْمَقَاتِ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُسُّ الْمَصِيرُ ۖ الْمَرْجِعُ هِيَ يَحْلِفُونَ أَيِ الْمُنَافِقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا مَا بَلَغَكَ عَنْهُمْ مِنَ السَّبِّ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ أَظْهَرُوا الْكُفْرَ بَعْدَ إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَهُمْ أَوْ بِمَا لَمْ يَنْتَوُوا مِنَ الْفِتَنِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ عِنْدَ عَوْدِهِ مِنْ تَبُوكَ وَهُمْ بِضْعَةِ عَشَرَ رَجُلًا فَضَرَبَ عَمَّا رُبْنُ يَاسِرٍ وَجُوهَ الرُّوَاحِلِ لَمَّا غَشَوْهُ فَرُّدُوا وَمَا نَقَمُوا أَنْكُرُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ بِالْغَنَائِمِ بَعْدَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ، الْمَعْنَى لَمْ يَنْلُكْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا وَلَيْسَ بِمَا يَنْقُمُ فَإِنْ يَتُوبُوا عَنْ النِّفَاقِ وَيُؤْمِنُوا بِكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ يَحْفَظُهُمْ مِنْهُ وَلَا نَصِيرٌ ۖ يَمْنَعُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لِنِ اسْتِئْذِنَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ فِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَهُوَ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُو لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَالًا وَيُؤَدِّيَ مِنْهُ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَدَعَا لَهُ فَوَسَّعَ عَلَيْهِ فَانْقَطَعَ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْعَ الزَّكَاةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ



تعالیٰ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞۷۶ فَاَعْقِبَهُمْ اِی فَصِیْرَ عَاقِبَتِهِمْ نِفَاقًا ثَابِتًا فِی قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یُّوْمِ یَلْقَوْنَهُ اِی اللّٰہُ وَیَوْمَ الْقِیَمَةِ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰہَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ۞۷۷ فِیْہِ فَجَآءٌۢ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلٰی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ بِرِکَاثِہٖ فَقَالَ اِنَّ اللّٰہَ مَنَعَنِ اَنْ اَقْبَلَ مِنْكَ فَجَعَلَ یَحْثُوْا التُّرَابَ عَلٰی رَاسِہٖ ثُمَّ جَآءَ بِہَا اِلٰی اَبِیْ بُکْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ فَلَمْ یَقْبَلْہَا ثُمَّ اِلٰی عُمَرَ فَلَمْ یَقْبَلْہَا ثُمَّ اِلٰی عُثْمَانَ فَلَمْ یَقْبَلْہَا ثُمَّ مَاتَ فِی زَمَانِہِ الْمُرِیْعَمُوْا اِی الْمُنَافِقُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ مَا اَسْرُوْهُ فِی اَنْفُسِہِمُ وَنَجْوَاهُمْ مَا تَنَاجَوْا بِہِ بَیْنَهُمْ وَاَنَّ اللّٰہَ عَلَامُ الْغُیُوْبِ ۞۷۸ مَا غَابَ عَنِ الْعِیَانِ وَلَمَّا نَزَلَتْ اٰیَةُ الصَّدَقَةِ جَآءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَیْءٍ کَثِیْرٍ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ مُرَآءٍ وَجَآءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰہَ لَغَنِیٌّ عَنْ صَدَقَہٖ ہَذَا فَنَزَلَ الَّذِیْنَ مُبْتَدَاً یَلْمِزُوْنَ یَعِیْبُوْنَ الْمُطَّوِّعِیْنَ الْمُتَنَفِّلِیْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ فِی الصَّدَقَاتِ وَالَّذِیْنَ لَا یَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ فِیَاتُوْنَ بِہِ فِیَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ وَالْخَبِرُ سَخِرَ اللّٰہُ مِنْهُمْ جَازَاہُمْ عَلٰی سَخْرِیَّتِہِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۞۷۹ اِسْتَغْفِرُ یَا مُحَمَّدُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ تَخِیْرٌ لِّہٖ فِی الْاِسْتَغْفَارِ وَتَرٰکِہٖ قَالَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اِنِّیْ خِیْرْتُ فَاخْتَرْتُ یَعْنِی الْاِسْتَغْفَارَ رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ اِنَّ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللّٰہُ لَهُمْ قِیْلَ الْمَرَادُ بِالسَّبْعِیْنَ الْمُبَالَغَةُ فِی کَثَرَةِ الْاِسْتَغْفَارِ وَفِی الْبُخَارِیِّ حَدِیْثٌ لِّوَاَعْلَمُ اِنِّیْ لَوَزِدْتُ عَلٰی السَّبْعِیْنَ غُفْرًا لَزِدْتُ عَلَیْہَا وَقِیْلَ الْمَرَادُ الْعَدَدُ الْمَخْصُوصُ لِحَدِیْثِہٖ اِیضًا وَسَازِیْدُ عَلٰی السَّبْعِیْنَ فَبَیِّنَ لَہٗ حَسَنَ الْمَغْفِرَةِ بِاٰیَةِ سَوَآءٍ عَلَیْہِمُ اَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ کَفَرُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَاللّٰہُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۞۸۰

۱۸

**تَرْجُمہ:** اے نبی کافروں کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان و برہان سے جہاد کیجئے، اور ان منافقوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ اور خفگی کے ذریعہ سختی سے پیش آئیے، (آخر کار) ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور منافق اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ گالی کی جو بات ہماری طرف سے آپ کو پہنچی ہے وہ ہم نے نہیں کہی، حالانکہ یقیناً وہ کافرانہ بات انہوں نے کہی، اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے یعنی اسلام ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے کفر ظاہر کیا، اور انہوں نے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جو وہ نبی ﷺ کو قتل کے ارادہ سے تبوک سے لوٹتے وقت لیلۃ العقبہ میں کرنا چاہتے تھے اور وہ دس سے کچھ زائد لوگ تھے، اور عمار بن یاسر نے ان کی سواریوں کے منہ پر مار مار کر ان کا رخ پھیر دیا، جب وہ ڈھانٹے مار کر آپ ﷺ پر یکبارگی چڑھ آئے اور ان (منافقوں کو) جو بات ناپسند آئی وہ صرف یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل (وعنایت) سے مال غنیمت کے ذریعہ ان کی شدید حاجت کے وقت غنی کر دیا حاصل یہ ہے کہ ان (منافقوں) کو اس کی طرف سے جو کچھ پہنچا وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، اور یہ ایسی بات نہیں کہ جس سے اظہار ناراضگی کیا جائے، اگر یہ لوگ نفاق سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر یہ لوگ ایمان سے اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دنیا میں قتل کے

ذریعہ اور آخرت میں آگ کے ذریعہ دردناک عذاب دے گا اور دنیا میں ان کا نہ کوئی یار ہوگا جو ان کی (اس کے عذاب سے) حفاظت کر سکے اور نہ مددگار جو ان کو بچا سکے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر ہمیں (اللہ) اپنے فضل سے (دولت) عطاء کرے گا تو ہم ضرور صدقہ (وخیرات کیا) کریں گے (لنصدقن) میں دراصل تاء کا صا د میں ادغام ہے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے اور یہ شخص ثعلبہ بن حاطب تھا کہ اس نے نبی ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے لئے دعاء فرمادیں کہ اللہ مجھے خوب دولت مند کر دے، اور میں اس مال سے ہر حقدار کا حق ادا کر دوں، چنانچہ آپ نے دعاء فرمادی جس کی وجہ سے اس کے لئے فراخی کر دی گئی تو وہ جمعہ و جماعت کا بھی تارک ہو گیا، اور زکوٰۃ دینی بند کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب ان کو اس نے اپنے فضل سے (مال) عطا کر دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور اللہ کی اطاعت سے بھی روگردانی کرنے لگے حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اعراض کرنے والے ہی ہیں (اس بخل) کا انجام یہ ہوا کہ ان کے قلوب میں اللہ کے روبرو پیشی کے وقت تک کیلئے نفاق پیوست کر دیا گیا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اس وجہ سے کہ وہ عہد کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے پھر اس کے بعد آپ ﷺ کی خدمت میں زکوٰۃ (کا مال) لیکر حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں تیرا مال قبول کروں، تو اس نے اپنے سر پر خاک ڈالنی شروع کر دی، پھر اس (مال زکوٰۃ) کو ابو بکر صدیق کے پاس لے گیا تو انہوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں (مال زکوٰۃ لے کر) حاضر ہوا، آپ نے بھی قبول نہ کیا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا، کیا منافق جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی راز کی باتوں کو جن کو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور ان سرگوشیوں کو جن کو وہ آپس میں کرتے ہیں جانتا ہے، یقیناً اللہ ان مغیبات کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور جب آیت (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ نَازِلَ هُوَ) تو ایک شخص (حضرت عبدالرحمن بن عوف) آئے اور بڑی مقدار (چار ہزار دینار) صدقہ کیا تو منافقوں نے کہا ریا کار ہے، اور ایک دوسرے شخص (حضرت ابو عقیل انصاری) آئے انہوں نے ایک صاع کھجور صدقہ کیا تو (منافقوں) نے کہا اللہ تو اس (قلیل صدقہ) سے مستغنی ہے، تو آئندہ آیت (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْخ) نازل ہوئی، اور ان (دولتمند منافقوں) کو بھی خوب جانتا ہے (الذین) مبتداء ہے، جو خوش دلی سے دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں (صدقات) پر باتیں بگھارتے ہیں (نکتہ چینی) کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس (راہ خدا میں دینے کے لئے) اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ محنت مزدوری کر کے لاتے ہیں تو یہ (دولتمند) ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا یعنی ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ دیا، (سخر اللہ منہم) مبتداء کی خبر ہے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اے محمد ﷺ تم ایسے لوگوں کیلئے معافی طلب کرو یا نہ کرو یہ آپ ﷺ کو استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے، آپ نے فرمایا مجھے (استغفار کرنے یا نہ کرنے) کا اختیار دیا گیا تو میں نے استغفار کو اختیار کیا، (رواہ البخاری) اگر تم ستر مرتبہ بھی ان لوگوں کو معاف کرنے کی



درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور ستر کے عدد سے کثرت استغفار میں مبالغہ کرنا مقصود ہے اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اگر میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں تو وہ معاف کر دے گا تو میں اس سے زیادہ کرتا، اور کہا گیا ہے کہ (ستر کا) عدد مخصوص مراد ہے بخاری کی حدیث کی وجہ سے کہ میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا، آپ ﷺ کو سواء علیہم استغفرت لہم اَمْ لَمْ تستغفر لہم، کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ ان سے مغفرت کو کاٹ دیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہنمائی نہیں فرماتے۔

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلٌ:** الْمُنْفِقُونَ، (مفاعلة) اسم فاعل جمع مذکر غائب مرفوع، دورخی کرنے والا شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے مگر دل میں اس کے برخلاف ہو، نفق کے اصل معنی خرچ ہو جانے اور چلے جانے کے ہیں، نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ، روپیہ سب ختم ہو گیا، نَافِقَاءُ (ضَبَّ) گوہ کا بل، سوراخ، جس کے کم از کم دو دہانے ہوتے ایک دہانے سے داخل ہوتی ہے شکاری اس سوراخ کی طرف متوجہ رہتا ہے گوہ دوسرے سوراخ سے نکل کر باہر چلی جاتی ہے منافق بھی زبانی اقرار سے اسلام میں داخل ہوتا ہے مگر دلی عقیدہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ ﷺ کے زمانہ میں منافق مردوں کی تعداد (۳۰۰) اور منافق عورتوں کی تعداد (۱۷۰) تھی۔ (جمل)

**قَوْلٌ:** بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، بعضهم مبتداء ہے اور من بعض اس کی خبر ہے اور من اتصالیہ ہے۔  
**قَوْلٌ:** یَقْبِضُونَ اَیْدِیْہُمْ، قبض ید، بخل سے کنایہ ہے حقیقتہً مٹھی بند کرنا مراد نہیں ہے اسی طرف مفسر علام نے عن الانفاق فی الطاعة کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

**قَوْلٌ:** تَرَکُوا طَاعَتَهُ دُنُوں جگہ نسیان سے اس کے لازم معنی یعنی ترک مراد ہیں، اول جگہ اس لئے کہ نسیان پر مواخذہ نہیں ہے اور نہ قابل مذمت اور دوسری جگہ اس لئے کہ نسیان کی نسبت اللہ کی طرف محال ہے لہذا لازم معنی محروم کرنا مراد ہیں۔

**قَوْلٌ:** اَنْتُمْ اَیُّهَا الْمُنَافِقُونَ، اس میں اشارہ ہے کہ کاف، کالذین میں مبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے نہ کہ فعل محذوف کی وجہ سے محل نصب میں۔

**قَوْلٌ:** کَخَوْضِہُمْ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَالٌ:** منافقین کے خوض کو کفار کی ذوات کے ساتھ تشبیہ درست نہیں ہے اس لئے کہ خوض صفت ہے اور کفار ذوات۔

**جَوَابٌ:** جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے اور وہ مصدر ہے، ای خضتم خوضاً کخوضہم۔

**قَوْلٌ:** الْمُؤْتَفِکَتِ، یہ مؤتفکة کی جمع ہے ایتفاک، (افتعال) مصدر ہے، اِفْکُ مادہ ہے الٹی ہوئی، زیروزبر کی ہوئی مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، جو بحر مردار کے ساحل پر آباد تھیں، جس کا مرکزی شہر سندوم یا سدوم تھا۔

قَوْلًا: فکذبوہم اس اضافہ کا مقصد فما کان اللہ لیظلمہم کے عطف کو درست کرنا ہے تاکہ فاء تعقیبیہ کے ذریعہ عطف درست ہو جائے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

### شان نزول:

سابقہ آیات میں منافقوں کا حال اور ان کا انجام اس کے بعد مومنوں کے اوصاف اور آخرت میں ان کے لئے درجات عالیہ کا بیان تھا، اب آپ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار اور منافقوں سے جہاد کرو، خطاب اگرچہ آپ ﷺ کو ہے مگر حکم پوری امت کو ہے اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنی عادت کے خلاف ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اطوار بیان فرمائے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ ایک بات کہہ کر مکر جاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے آپ ﷺ کی شان میں گستاخانہ اور کافرانہ کلمے نکالے جب اس کی خبر آپ ﷺ کو پہنچی تو صاف انکار کر دیا، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے کئی سبب بیان کئے ہیں۔

### پہلا سبب:

کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت جلاس بن سوید بن صامت اور ودیعہ بن ثابت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کی صورت یہ ہوئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی مذمت کے بارے میں بکثرت آیات کا نزول ہونے لگا تو منافقوں نے کہا کہ اگر محمد کا کہنا ہمارے بھائیوں کے بارے میں کہ جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں صحیح ہے اگر وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ محمد ﷺ کہتے ہیں تو پھر تو ہم گدھے ہیں، عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں کیا شک ہے واللہ محمد ﷺ صادق و مصدوق ہیں اور تو گدھے سے بھی بدتر ہے، اور عامر بن قیس نے اسکی اطلاع آپ ﷺ کو بھی کر دی، جب جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی کہی ہوئی بات سے مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ عامر بن قیس جھوٹا ہے اور عامر نے قسم کھائی کہ واللہ اس نے ایسا ہی کہا تھا اور دعاء کی اللھم انزل علی نبیک شیئاً“ فنزلت، عامر بن قیس نے اللہ سے دعاء کی کہ یا اللہ تو اس بارے میں اپنے نبی پر کچھ نازل فرما، چنانچہ مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس بات کے سننے والے عاصم بن عدی تھے اور بعض نے کہا ہے حذیفہ بن یمان تھے۔

### دوسرا سبب:

کہا گیا ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جبکہ اس نے غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت یہ بات کہی تھی کہ ہماری مثال تو محمد کے بارے میں ایسی ہے جیسی کہ کسی نے کہا ہے سَمِّنْ کَلْبَكَ



یا کَلِّکَ ”لئن رجعنا الی المدینة لیخرجنَّ الاعزَّ منها الا ذلَّ“۔ کہاوت مشہور ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر اور تجھ ہی کو کاٹنے کو آئے، وطنی زبان میں کہا جاتا ہے ”ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں“ مدینہ پہنچ کر عزت دار ذلت دار کو نکال دے گا، اس کی اطلاع آپ ﷺ کو پہنچی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا تو صاف انکار کر دیا اور قسم کھا گیا کہ اس نے یہ بات ہر گز نہیں کہی۔

### تیسرا سبب:

ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں آپ ﷺ کی اونٹنی گم ہو گئی مسلمان اس کو تلاش کر رہے تھے اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں پٹھکر خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟

وہمّوا بما لمرینالوا الخ یہ اشارہ ان سازشوں کی طرف ہے جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر کی تھیں، ان میں ایک سازش کے واقعہ کو محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر مسلمانوں کا لشکر جب ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں سے راستہ پہاڑوں کے درمیان درّے سے گذرتا تھا تو بعض منافقین نے طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں گذرتے ہوئے نبی ﷺ کو گڑھے میں پھینک دیں گے، آپ ﷺ کو اس کی اطلاع ہو گئی آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستہ سے نکل جائیں اور آپ ﷺ عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو ساتھ لیکر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے اثناء راہ یکا یک معلوم ہوا کہ دس بارہ آدمی ڈھالے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آرہے ہیں یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں مگر وہ دور ہی سے حذیفہ رَحِمَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں پہچان نہ لئے جائیں فوراً بھاگ نکلے۔

### دوسری سازش:

جس کا اس سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ منافقوں کو رومیوں کے مقابلے سے نبی ﷺ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بخیریت بچ کر واپس آنے کی امید نہیں تھی اس لئے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جوں ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے ادھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ مذکورہ سازشیں جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کی گئی تھیں ان میں سے ایک مقصد بھی ان کو حاصل نہیں ہوا؟ رکوع کے آغاز ہی میں ایک اہم ہدایت ہے کہ کفار و منافقین سے تلوار اور زبان سے جہاد کرو اور سختی سے پیش آؤ جس کا حکم مسلمانوں کو دیا جانا ضروری تھا اس کے بغیر اسلامی معاشرہ کو تنزل و انحطاط کے اندرونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا، کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھریلو سانپ عزت اور تحفظ کے ساتھ آستین میں بٹھائے جاتے ہوں اخلاقی زوال اور بالآخر

کامل تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی نفاق کا حال طاعون کا سا ہے اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراثیم لئے پھرتا ہے اس کو آزادی سے چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کو موت کے خطرہ میں ڈالنا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس گروہ کے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے ان کو مخلصین سے بالکل الگ تھلک کر دیا جائے۔

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ اغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﷺ کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا، اور اوس اور خزرج کے قبیلے مال یا جان کے لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہ رکھتے تھے، مگر جب آپ ﷺ وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دیکر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا تو آٹھ نو سال کے اندر یہی متوسط قصبہ تمام عرب کا دار السلطنت بن گیا، وہی اوس و خزرج کے کاشتکار سلطنت کے اعیان اور اکابر بن گئے، اور ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تجارت کی برکات اس کے مرکزی شہر پر بارش کی طرح برسنے لگیں، اللہ تعالیٰ منافقین کو اسی پر شرم دلارہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمہارا یہ غصہ کیا اسی قصور کی پاداش میں ہے کہ اس کی بدولت یہ نعمتیں تمہیں بخشی گئیں، یہ کلمہ بطور طنز فرمایا گیا ہے یعنی تم احسان فراموش ہو، احسان مند ہونے کے بجائے عداوت رکھتے ہو۔

الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی ﷺ نے ہنگامی چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ روک کر بیٹھے رہے، مگر جو مخلصین اہل ایمان تھے بڑھ چڑھ کر دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر آوازیں کسنی شروع کر دیں، اگر کوئی ذی استطاعت مسلمان (مثلاً عبدالرحمن بن عوف وغیرہ) اپنی حیثیت کے مطابق بڑی رقم پیش کرتا تو اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے اور اگر کوئی غریب مسلمان (مثلاً ابو عقیل وغیرہ) اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی رقم پیش کرتا یا رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کرتا اور وہی لا کر پیش کرتا یہ اس پر آوازیں کتے کہ لو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آگئی تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح کئے جائیں، تبوک سے واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمان تھے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لئے آپ کا کرتہ مانگا، آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ عنایت کر دیا، پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں آپ اسکے لئے بھی تیار ہو گئے حضرت عمر نے باصرار عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو ایسا ایسا کر چکا ہے مگر آپ ان کی یہ سب باتیں سنکر مسکراتے رہے، اور اس رحمت کی بنا پر جو سب کیلئے عام تھی آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں دعاء مغفرت کرنے میں بھی تامل نہ کیا آخر جب آپ ﷺ نماز پڑھانے کھڑے ہو ہی گئے تو آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا گیا۔

استغفر لهم اولا تستغفر لهم الخ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کی اطلاع دی ہے کہ ان منافقوں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اور ایسے لوگوں کی مغفرت نہ ہونے کا اللہ کا وعدہ ہے اسلئے یہ لوگ ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ ان کیلئے دعاء مغفرت کی جائے، لہذا اگر آپ ان کیلئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی خدا ان کو معاف نہ کرے گا، اسلئے کہ استغفار تو گنہگاروں کے حق میں سود مند ہوتا ہے نہ کہ اس کے لئے جو خدا اور رسول کے ساتھ کفر کر کے بغیر توبہ کے



مرگیا اور نہ ان کے زندوں کو توبہ پر مجبور کیا جائیگا۔

حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حق میں استغفار کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے تو آپ نے فرمایا میں ستر بار سے زیادہ ان کیلئے استغفار کروں گا شاید خدا انھیں معاف کر دے، اس پر اللہ تعالیٰ نے خفگی کے ساتھ فرمایا کہ استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے خاتمہ کا حال معلوم ہے لہذا انکی مغفرت نہ ہوگی یہ خفگی کی آیت سورہ منافقون میں ہے۔

ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ شعمی سے یوں روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی قریب المرگ ہوا تو اس کا بیٹا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے معلوم کیا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا حباب بن عبداللہ آپ نے فرمایا حباب شیطان کا نام ہے اب تیرا نام عبداللہ بن عبداللہ ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنا کرتہ اسے پہنایا، اور آپ نے اسکے واسطے مغفرت کی دعاء فرمائی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ عَنْ تَبُوكَ بِمَقْعَدِهِمْ بِقُعُودِهِمْ خَلْفَ اَيِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْا اَنْ يُجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا اَيُّ قَالٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَا تَنْفِرُوْا لَا تَخْرُجُوْا اِلَى الْجِهَادِ فِي الْحَرْثِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا مِنْ تَبُوكَ فَاَلَا وُلٰى اَنْ تَتَّقُوْهُمُ لِتَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ هُوَ الْغَنِيُّ اَمْ كُنْتُمْ تَخْلَفُوْنَ ۙ اَيَّ يَسْئَلُ اللّٰهُ مِنْ تَبُوكَ اِلَى طَآئِفَةٍ مِنْهُمْ مِّمَّنْ تَخْلَفُ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ ۙ فَاسْتَازَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ مَعَكَ اِلَى غَزْوَةٍ اُخْرٰى فَقُلْ اَيُّ لَهْمُ لَنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخُلَفَآءِ ۙ الْمُتَخَلِّفِيْنَ عَنِ الْغَزْوِ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَغَيْرِهِمْ وَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ابْنِ اَبِيْ نَزَلٍ وَلَا تَصِلْ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ لِيَدْفِنَ اَوْ زِيَارَةً اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۙ كَافِرُوْنَ وَلَا تَعْجَبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ تَخْرُجَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۙ وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَيُّ طَآئِفَةٍ مِنَ الْقُرٰنِ اَنْ اَيُّ بَانَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَازَنَكَ اَوَّلُو الطَّلُوْلِ ذُو الْغَنٰى مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ۙ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ جَمْعُ خَالِفَةٍ اَيُّ النِّسَاءِ اللَّاتِي تَخْلَفْنَ فِي الْبُيُوتِ وَطَبَعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۙ الْخَيْرُ لَكِنَّ الرُّسُوْلَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرُ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۙ

**تَرْجُمہ:** غزوہ تبوک سے پیچھے چھوڑے گئے لوگ رسول اللہ ﷺ کے (نکلنے) کے بعد اپنے (گھروں) میں بیٹھ

رہنے پر خوش ہوئے، اور انھیں یہ بات ناگوار گزری کہ وہ اپنی جان و مال سے اللہ کے راستہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا گرمی میں جہاد کے لئے نہ نکلو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تبوک کی گرمی سے زیادہ سخت ہے لہذا بہتر ہے کہ تم ترکِ تحلف کر کے اس آگ سے بچو، اگر وہ اس حقیقت کو سمجھتے (تو غزوہ میں شرکت سے) پیچھے نہ رہتے، تھوڑے دنوں دنیا میں ہنس لیں آخرت میں بہت روئیں گے اور یہ رونا ان کے اعمال کی بدولت ہوگا یہ (خبر) بصیغہ امر ان کی حالت کی خبر ہے پس اگر اللہ آپ کو تبوک سے ان منافقوں کے درمیان جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے (بخیر) واپس لائے اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے غزوہ میں آپ کے ساتھ شرکت کی اجازت طلب کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز کبھی بھی نہیں نکل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے کبھی ہرگز لڑ سکے ہو تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہنے والی عورتوں بچوں وغیرہ ہی کے ساتھ بیٹھ رہو اور جب آپ ﷺ نے (عبداللہ) بن ابی پر نماز جنازہ پڑھنی چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا اور دفن یا زیارت کے لئے اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہونا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور حالت کفر ہی میں مرے ہیں، اور ان کے مال اور اولاد (کی کثرت) آپ کو تعجب میں نہ ڈالے اللہ ارادہ کر چکا ہے کہ ان کو (اس مال و اولاد) کے ذریعہ ہی دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور جب کبھی قرآن کا کوئی حصہ اس مضمون کا نازل ہوا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے جو قدرت والے تھے وہی آپ سے (غزوہ) میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کرنے لگے کہ انھیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل رہنا پسند کیا، خوالف، خالفہ کی جمع ہے یعنی وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھ رہیں، اور ان کے قلوب پر ٹھپہ لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ خیر کی بات کو نہیں سمجھتے اس کے برخلاف رسول نے اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اور اپنی جان و مال سے جہاد کیا دنیا اور آخرت میں ساری بھلائیاں ان ہی کے لئے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: الْمُخَلْفُونَ (تفعیل) اسم مفعول جمع مذکر غائب، پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ، تخلیف کسی کو پیچھے کر دینا، پیچھے چھوڑ دینا، یہاں وہ بارہ آدمی مراد ہیں جو غزوہ تبوک میں اپنی کسمندی اور نفاق کی وجہ سے آپ ﷺ کے ہمراہ نہیں گئے تھے۔

قَوْلٌ: خِلَفَ رَسُولَ اللَّهِ اِی خِلْفَهُ، خِلَفَ یا تو مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اِی قَعَدُوا لِمُخَالَفَتِهِ یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اِی مُخَالَفِیْنَ لَہ، اور فعل مقدر کی وجہ سے بھی منصوب ہو سکتا ہے اِی تَخَلَّفُوا

خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ اور یہ بھی جائز ہے کہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہو اِی بعد رسول اللہ علامہ سیوطی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی



نے اسی ترکیب کو اختیار کیا ہے۔

**قَوْلُهُ**: بقعدہم اس سے اشارہ کر دیا کہ مقعد مصدر میسی ہے نہ کہ ظرف۔

**قَوْلُهُ**: وگرہوا ان یجاہدوا کا عطف فرح المخلفون پر ہے اور ان یجاہدوا، کرہوا کا مفعول ہے۔

**قَوْلُهُ**: ما تخلفوا یہ لو کا جواب ہے جو کہ محذوف ہے۔

**قَوْلُهُ**: خبر عن حالہم، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ضحک (ہنسنے) کا حکم نہیں فرماتے حالانکہ یہاں فلیضحکوا امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضحک (ہنسنے) کا حکم فرمایا۔

**جواب**: جواب یہ ہے کہ امر بمعنی خبر ہے، یعنی ان کی حالت کی خبر دینا مقصود ہے نہ کہ ضحک کا حکم کرنا۔

**قَوْلُهُ**: طائفة من القرآن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سورت سے پوری سورت مراد نہیں ہے بلکہ قرآن کا ایک حصہ مراد ہے اس میں پوری اور اس سے کم دونوں داخل ہیں۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

### رابط آیات:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، اوپر سے منافقوں کے حالات کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے، یہاں بھی ان منافقوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے جو غزوہ تبوک میں نفیر عام ہونے کے باوجود اپنے نفاق اور کسل مندی کی وجہ سے آپ ﷺ کے ہمراہ شریک غزوہ نہیں ہوئے تھے اور جھوٹے اعذار بیان کر کے شریک غزوہ نہ ہونے کی اجازت چاہی آپ ﷺ نے ان کو اجازت بھی دیدی، یہاں ان کو یہ وعید بھی سنائی جا رہی ہے کہ ان کا نام مجاہدین کی فہرست سے کاٹ دیا گیا ہے اب آئندہ بھی کسی غزوہ میں شریک نہ ہو سکیں گے۔

خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، لفظ ”خلاف“ کے معنی یہاں پیچھے اور بعد کے بھی ہو سکتے ہیں، علامہ سیوطی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے یہی معنی لئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ آپ ﷺ کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ سے پیچھے رہ جانے پر خوش ہو رہے ہیں یہ درحقیقت خوشی کی بات نہیں۔

دوسرے معنی یہاں خلاف کے مخالفت کے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کر کے گھر میں بیٹھے رہے اور صرف خود ہی نہیں بیٹھے بلکہ دوسروں کو بھی ”لا تنفروا فی الحر“ کہہ کر پست ہمت کر کے روکنے کی کوشش کی، غزوہ تبوک نہایت شدید گرمی کے زمانہ میں ہوا تھا، حق تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب آپ ﷺ کی معرفت یہ دیا کہ ”قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا“، یعنی یہ بدنصیب اس وقت کی گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں مگر آخرت میں نار جہنم کی ابدال آباد کی گرمی کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں اعذار بارہ بیان کر کے مدینہ میں بیٹھ رہنے پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ یہ موقع خوشی

منانے اور ہنسنے کا نہیں ہے بلکہ خون کے آنسو رونے کا ہے اپنے مصنوعی اور جھوٹے اعذار کے ذریعہ چند روز کی گرمی سے اگر بچ بھی گئے تو ہمیشہ ہمیش کی گرمی اپنے اوپر لازم کر لی، دنیا کی گرمی کی نار جہنم کی گرمی کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی آگ بھی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔

غزوہ تبوک میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سب ہی منافق نہیں تھے بعض حقیقی عذر کی وجہ سے اور بعض آجکل امروز و فردا کرتے کرتے شریک نہیں ہو سکے، اور آنحضرت ﷺ نے واپس آنے کے بعد ان کے اعذار کو قبول بھی فرمالیا تھا اور بعضوں کو کچھ دنوں کی مہلت بھی ملی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول فرمائی تھی جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔

فَبِأَن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ سِی جَمَاعَتِ تَحْقِی تفسیر ابن ابی حاتم میں قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا قول ہے کہ ان منافقوں کی تعداد صرف بارہ تھی جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے صحیح بخاری میں انس بن مالک اور صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے جو روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ تبوک کے سفر سے واپسی کے وقت آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ بعضے لوگوں نے گھر بیٹھے وہی ثواب حاصل کیا جو اور لوگوں نے سفر کر کے پایا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیونکر؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجبوری کے سبب سے مدینہ میں رہ گئے تھے ورنہ وہ اس سفر میں ضرور شریک ہوتے ان حدیثوں سے اس بات کی پوری تائید ہوتی ہے کہ جو لوگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے وہ سب منافق نہیں تھے۔

وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ الْخِ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی اسلول کی موت اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیحین کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی، پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ ﷺ کے عبد اللہ بن ابی اسلول کے جنازہ کی نماز پڑھنے اور اپنا پیرا ہن مبارک اس کے کفن میں شامل کرنے نیز حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بہ اصرار منع کرنے کی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے۔

## واقعہ مذکورہ سے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات:

پہلا سِوَال: عبد اللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا کہ جس کا نفاق جگ ظاہر تھا صرف یہی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا یہ امتیازی سلوک کس بنا پر ہوا؟ کہ اس کے کفن کے لئے اپنا قمیص مبارک بھی عطا فرما دیا!

جَوَاب: اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں اول اس کے صاحبزادے جو کہ مخلص صحابی اور بدرین میں سے تھے محض ان کی دلجوئی کیلئے ایسا کیا، دوسرا سبب ایک اور بھی ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں بروایت حضرت جابر منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی سردار گرفتار ہو کر آئے تھے تو آپ ﷺ کے چچا عباس بھی ان میں تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کرتہ نہیں ہے تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انھیں قمیص پہنا دیا جائے حضرت عباس چونکہ دراز قد تھے عبد اللہ بن ابی کے سوا کسی کا کرتہ ان کے بدن پر



درست نہ آیا تو عبد اللہ بن ابی کا کرتہ لے کر آپ نے اپنے چچا کو پہنا دیا، اس کے اسی احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ نے اپنا کرتہ اس کو عطا فرمادیا۔ (قرطبی، معارف)

**سُئِلَ سَائِلٌ**: یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہ کس بنا پر کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے صراحت کے ساتھ آپ کو منافق کی نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورت کی سابقہ آیت استغفر لہم اولاً تستغفر لہم سے ممانعت کا مضمون سمجھا تو آپ ﷺ نے اس سے کیوں نہ ممانعت قرار دی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس آیت میں مجھے اختیار دیا گیا ہے۔

**جَوَابٌ**: یہ ہے کہ درحقیقت الفاظ آیت کا ظاہری مفہوم اختیار ہی دینا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ستر کا ذکر تحدید کے لئے نہیں ہے بلکہ کثرت بیان کرنے کے لئے ہے، تو اس کا ظاہری مفہوم یہ ہوگا کہ منافق کی مغفرت تو نہ ہوگی خواہ آپ کتنی ہی مرتبہ استغفار کر لیں لیکن اس میں صراحت کے ساتھ آپ کو استغفار سے روکا نہیں گیا۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ بَادِغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَيْ الْمُعْتَذِرُونَ بِمَعْنَى الْمَعْذُورِينَ وَفَرَّغَ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ فِي الْقُعُودِ لِعُذْرِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي ادِّعَاءِ الْإِيمَانِ مِنْ مُنَافِقِي الْأَعْرَابِ عَنِ الْمَجْئِ لِلْإِعْتِذَارِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ كَالشُّيُوخِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى كَالْعَمَى وَالزَّمَنِيُّ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ فِي الْجِهَادِ حَرَجٌ إِنْهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فِي حَالِ قُعُودِهِمْ بَعْدَ الْإِرْجَافِ وَالتَّشْيِيطِ وَالطَّاعَةِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ بِذَلِكَ مِنْ سَبِيلٍ طَرِيقٍ بِالمُؤَاخَذَةِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ لَهُمْ فِي التَّوَسُّعَةِ فِي ذَلِكَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِيُحْمِلَهُمْ مَعَكَ إِلَى الْغَزْوِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقِيلَ بَنُو مُقَرِّنٍ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ حَالٌ تَوَلَّوْا جَوَابُ إِذَا أَيْ أَنْصَرَفُوا وَأَعَيْنَهُمْ تَفِيضٌ تَسِيلٌ مِنَ اللَّيْلِ الدَّمْعِ حَزَنًا لِأَجْلِ الْأَجْدُومِ وَمَا يَنْفِقُونَ ۙ فِي الْجِهَادِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ فِي التَّخَلُّفِ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ تَقَدَّمَ بِمَثَلِهِ.

**تَرْجُمَةٌ**: اور آئے عذر کرنے والے آپ ﷺ کے پاس عرب کے کچھ بدو، اصل میں تاء کو ذال میں ادغام کر کے یعنی مُعْتَذِرُونَ میں (اور معتدرون) معنی میں معذورین کے ہے، اور ایک قراءت میں معتدرون بھی پڑھا گیا ہے تاکہ ان کو (مدینہ ہی میں) بیٹھ رہنے کی اجازت مل جائے ان کے عذر کی وجہ سے چنانچہ ان کو اجازت دیدی گئی، اور بدو منافقین میں سے جنہوں نے دعوائے ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی وہ تو عذر کرنے سے بھی بیٹھ گئے (یعنی عذر کرنے بھی نہ آئے)

ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب لاحق ہوگا اور کمزوروں مثلاً بوڑھے اور مریمضوں پر مثلاً اندھے اور اپاہج پر اور ان لوگوں پر جن کو جہاد کا خرچ میسر نہ ہو جہاد سے پیچھے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص رکھیں یعنی (گھر) بیٹھ رہنے کی صورت میں فتنہ پردازی نہ کریں اور لوگوں کو جہاد سے نہ روکیں اور اطاعت میں لگے رہیں، ان نکوکاروں پر اس بیٹھ رہنے کی وجہ سے کوئی الزام کی راہ نہیں ہے (مواخذہ نہیں) اور اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے اس معاملہ میں ان کو وسعت دیکر ان پر رحم کرنے والا ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی الزام عائد نہیں ہوتا جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سواریاں بہم پہنچا کر اپنے ساتھ غزوہ میں لے چلیں اور وہ سات انصاری تھے اور کہا گیا ہے کہ بنو مقرن کے لوگ تھے آپ نے ان سے کہہ دیا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں اور قُلْتُ، اتوٰک کی ضمیر سے حال ہے تو وہ (مجبوراً) واپس چلے گئے حال یہ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے من بیان یہ ہے اور انھیں اس بات کا بڑا غم تھا کہ انھیں وہ (وسعت) میسر نہیں کہ جس کو جہاد میں خرچ کریں، البتہ الزام ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں پھر بھی آپ سے پیچھے رہنے کی درخواست کرتے ہیں، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اسلئے اب یہ کچھ جانتے نہیں ہیں ایسی ہی آیت سابق میں گزر چکی ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: الْمُعْذِرُونَ (تَعْذِيرٌ، تَفْعِيلٌ سے) اسم فاعل جمع مذکر، جھوٹا عذر پیش کرنے والے، مفسر علام نے مُعْذِرُونَ، کی اصل مُعْذِرُونَ بتا کر اشارہ کر دیا کہ مُعْذِرُونَ باب افتعال سے ہے، اس وقت اس کے معنی ہوں گے حقیقت میں معذور، الْمُعْذِرُونَ کو باب افتعال سے قرار دینے کے دو مقصد ہیں اول یہ کہ باب تفعیل متعدی ہوتا ہے حالانکہ یہاں غیر متعدی استعمال ہوا ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ مُعْذِرُونَ باب افتعال ہی سے ہے اس میں تاء کو ذال سے بدل کر ذال کو ذال میں ادغام کر دیا گیا ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرے یہ شبہ بھی دفع ہو گیا کہ عَذَرَ (تفعیل) کے معنی ہیں جھوٹا عذر ظاہر کرنا، حالانکہ آنے والے حقیقت میں معذور تھے اس شبہ کو الْمُعْذِرُونَ بمعنی معذورین کا ذکر آگے جملہ ”وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا“ الخ میں آرہا ہے۔

قَوْلٌ: الزَّمَنِي یہ زَمَانٌ سے ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں اپاہج، عاجز۔

قَوْلٌ: اِرْجَافٌ، افواہ پھیلانا، فتنہ پردازی کرنا مومنوں میں بری خبر کی اشاعت کرنا۔

قَوْلٌ: بَعْدُ اِلَّا رِجَافٌ، نصحو، کے متعلق ہے۔

قَوْلٌ: التَّشْبِيطُ، روکنا، باز رکھنا۔

قَوْلٌ: وَالطَّاعَةِ، اس کا عطف عدم اِلَّا رِجَافٌ پر ہے نہ کہ اِرْجَافٌ پر لہذا اب معنی درست ہو گئے۔

قَوْلٌ: حَالٌ يَعْنِي قُلْتُ لَا اَجِدُ، اتوٰک کے کاف سے تقدیر قد کے ساتھ حال ہے لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ ماضی بغیر قد



کے حال واقع نہیں ہوتا۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ النخ، ان معذّرین کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی تھے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی، ان میں دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے آپ کی خدمت میں آکر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور بیٹھے رہے، اس طرح آیت میں گویا منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب الیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں، اور منہم سے بھی دونوں گروہ مراد ہیں، اور دوسرے مفسرین نے مُعَذِّرُونَ سے بادیہ نشین (بدوی) مسلمان مراد لئے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت چاہی تھی، اور مُعَذِّرُونَ ان کے نزدیک اصل میں مُعَذِّرُونَ تھا تا کو ذال کر کے ذال کو ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے اور مُعَذِّرُ کے معنی ہیں واقعی عذر رکھنے والا، اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے، پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دوسرے میں ان منافقین کا جو بغیر عذر پیش کئے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری حصہ میں جو وعید ہے وہ اسی دوسرے گروہ کے لئے ہے۔

## یہ عذر بیان کرنے والے کون تھے:

مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عذر کیا تھا بعضوں نے کہا کہ یہ لوگ قبیلہ بنی اسد اور غطفان کے لوگ تھے انہوں نے یہ عذر کیا تھا کہ ہمارے اہل و عیال ہیں جن کے لئے ہمیں بڑی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے آپ ہمیں گھر ہی پر رہ جانے کی اجازت دیدیں اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عامر بن طفیل کے قبیلے کے یہ لوگ تھے انہوں نے آپ ﷺ سے آکر یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں اور شریک غزوہ ہو جائیں تو ہمارے بیوی بچے اور مویشی اکیلے رہ جائیں گے اور قبیلہ بنی طے کے بدو آکر ہمارے پیچھے انھیں برباد کر دیں گے اور سب مال لوٹ کر لے جائیں گے، آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ خیر خدا نے میرے لئے تمہاری ضرورت نہیں رکھی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قبیلہ غفار کے چند لوگوں نے کہا تھا، صحیح قول یہ ہے کہ اطراف مدینہ میں چند قبیلے رہتے تھے ان میں سے بعضے لوگ جھوٹے عذر بیان کر کے اور بعضے بغیر عذر بیان کئے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے اور اس غزوہ میں لشکر اسلام کا ساتھ نہیں دیا۔

## شان نزول:

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى النخ تفسیر ابن ابی حاتم اور مغازی محمد بن اسحاق میں زید بن ثابت کی روایت سے ان آیات کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ تو انا و تندرست اور مالدار لوگ جو بلا کسی معقول عذر کے

شریک غزوہ نہیں ہوئے تھے جب مذکورہ آیات میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خفگی اور وعید ظاہر کی گئی تو ناتواں بوڑھے، بیمار اور ایسے مفلس صحابہ کہ جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ سواری اور زادراہ کا خرچ برداشت کر سکیں، اور آنحضرت ﷺ کے ہم رکاب ہو سکیں، وہ لوگ بہت ہراساں ہوئے کہ شاید ہم لوگ بھی اس خفگی اور وعید میں داخل ہیں تو ان کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

صحیح بخاری میں انس بن مالک اور صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ کی روایتیں موجود ہیں جن میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا بہت سے ہمارے ساتھی مدینہ میں ایسے ہیں کہ ہر کام میں گویا ہمارے ساتھ ہیں جو راستہ ہم نے طے کیا ہے انہوں نے بھی گویا وہی راستہ طے کیا ہے اسلئے کہ عذر کے سبب وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، ایسے معذورین سے اللہ تعالیٰ نے سرزنش اٹھالی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط بھی لگادی ہے کہ اس طرح کا معذور آدمی گھر بیٹھے کوئی فساد کی ایسی بات نہ نکالے جس سے معلوم ہو کہ وہ دین کا خیر خواہ نہیں ہے۔

## شان نزول:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّ، صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے اس آیت کا جو شان نزول معلوم ہوتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے شرکت جہاد کے لئے سواری کی درخواست کی اس وقت آپ کسی وجہ سے غصہ میں تھے آپ نے سواری دینے سے قسم کھا کر انکار کر دیا اس وجہ سے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی پچشم گریاں اور بدل بریاں مایوس ہو کر واپس چلے گئے، اتنے میں آپ ﷺ کے پاس مال غنیمت کے کچھ اونٹ آ گئے، تو آپ نے ان لوگوں کو واپس بلایا اور چھ اونٹ ان کو عنایت فرمائے، جب یہ لوگ اونٹ لے کر واپس چلے گئے تو ان کو راستہ میں خیال آیا کہ شاید آپ ﷺ کو اپنی قسم یاد نہیں رہی، واپس چل کر آپ کو قسم یاد دلانی چاہئے چنانچہ یہ لوگ واپس آئے اور آپ کو قسم یاد دلانی تو آپ نے فرمایا، جاؤ تمہیں اللہ نے سواری دیدی، میں جب قسم کھاتا ہوں اور جس کام پر وہ قسم ہو اس کام سے بہتر اگر کوئی کام مجھے نظر آئے تو قسم کا کفارہ دیکر میں اس کام کو کر لیتا ہوں۔

(احسن التفاسیر)

## بلاغۃ:

لَتَحْمِلَهُمْ، محاورہ میں اس کے معنی ہیں کہ آپ ان کے لئے سواری کا انتظام کر دیں، احمِلْنی ای اعطنی ظہراً ارکبہ۔ (تاج)  
أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ طرز زیادہ بلیغ ہے یفیض دمعہا سے اس لئے کہ اس میں آنکھ ہی کو بہتا آنسو بنا دیا ہے یہ زید عدل کے قبیل سے ہے۔



اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ الْخ او پر کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اپنا حج، بوڑھے، ضعیف، معذور، مریض یا مفلس ہونے کے سبب غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان لوگوں کو معذور قرار دیکر یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ سرزنش کے قابل نہیں، ان آیتوں میں فرمایا کہ اصل سرزنش کے قابل وہ لوگ ہیں جو بیٹے کئے اور دولت مند ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ فِي التَّخَلُّفِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ مِنْ الْغَزْوِ قُلْ لَهُمْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَكُمْ لَكُمْ نُصَدِّقْكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ اِی اخبَرْنَا بِأَحْوَالِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ بِالْبُعْثِ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اِی اللّٰهُ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>۹۵</sup> فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ مِنْ تَبُوكَ أَنَّهُمْ مَعَذِرُونَ فِي التَّخَلُّفِ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ بِتَرْكِ الْمَعَاتِبَةِ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ قَذِرٌ لَخَبِثَ بَاطِنُهُمْ وَمَا وَهُمْ بِجَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ<sup>۹۶</sup> يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ<sup>۹۷</sup> اِی عَنْهُمْ وَلَا يَنْفَعُ رِضَاكُمْ مَعَ سَخَطِ اللَّهِ الْأَعْرَابُ أَهْلُ الْبَدْوِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا مِنْ أَهْلِ الْمَدَنِ لِجَفَائِهِمْ وَغِلْظِ طَبَاعِهِمْ وَبُعْدِهِمْ عَنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَجْدَرُ أُولَىٰ إِلَّا أَىٰ بَانَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيمٌ<sup>۹۸</sup> فِي صُنْعِهِ بِهِمْ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَغْرَمًا غَرَامَةً وَخُسْرَانًا لِأَنَّهُ لَا يَرْجُوا ثَوَابَهُ بَلْ يُنْفِقُ خَوْفًا وَهُمْ بَنُو أَسَدٍ وَغُطْفَانٍ وَيَتَرَبَّصُّ يَنْتَظِرُ بِكُمْ الدَّوَابَّ دَوَائِرَ الزَّمَانِ أَنْ يَنْقَلِبَ عَلَيْكُمْ فَيَتَخَلَّصَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ اِی يَدُورُ الْعَذَابُ وَالْهَلَاكُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ لَا قَوْلَ عِبَادِهِ عَلِيمٌ<sup>۹۹</sup> بِأَفْعَالِهِمْ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَجَهِيْنَةٍ وَمُزِيْنَةٍ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ فِي سَبِيلِهِ قُرْبَةً تَقْرِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَوَسِيلَةً إِلَىٰ صَلَوَاتِ دَعَوَاتِ الرَّسُولِ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهَُا اِی نَفَقَتِهِمْ قُرْبَةً بَضْمِ الرِّاءِ وَسُكُونِهَا لَهُمْ عِنْدَهُ سَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ جَنَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَّاهِلِ طَاعَتِهِ رَحِيمٌ<sup>۱۰۰</sup> بِهِمْ.

**تَرْجُمَةُ:** جب آپ غزوہ سے لوٹ کر ان کے پاس جائیں گے تو وہ پیچھے رہ جانے کے (طرح طرح) کے اعذار پیش کریں گے (مگر) آپ کہہ دینا بہانے نہ کرو، ہم تمہاری بات کا ہرگز اعتبار نہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، یعنی تمہارے حالات کی خبر دیدی ہے، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر بعث کے بعد تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے یعنی اللہ کی طرف اور وہ تمہیں بتا دیگا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے

ہو جس کی جزاء وہ تم کو دے گا، اب جب تم تبوک سے لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم پیچھے رہنے میں وہ معذور تھے تاکہ تم اظہار ناراضگی کو ترک کر کے ان سے صرف نظر کرو تو تم ان سے صرف نظر کر ہی لو (یعنی ان سے ترک تعلق کر لو) وہ لوگ بالکل گندے ہیں یعنی خبث باطن کی وجہ سے وہ نجس ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ان کے اعمال کی سزا ہے یہ اس لئے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا یعنی ان سے تمہاری رضا مندی خدائی غضب کی موجودگی میں کوئی فائدہ نہیں دے گی اعرابی (یعنی) بد و کفر و نفاق میں اپنی قساوت قلبی اور اپنی طبیعت کی سختی اور قرآن کے سننے سے دور ہونے کی وجہ سے بہ نسبت شہریوں کے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور یہ بات بہت قرین قیاس ہے کہ وہ ان حدود (احکام) سے واقف نہ ہوں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کئے ہیں (یعنی) احکام و شرائع سے، اور اللہ اپنی مخلوق سے واقف اور ان کے ساتھ اپنی صنعت کے معاملہ میں باحکمت ہے اور ان بد وں میں بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ اور نقصان سمجھتے ہیں اسلئے کہ وہ اس کے ثواب کی امید نہیں رکھتے بلکہ ڈر کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں اور وہ بنوا سعد اور غطفان ہیں، اور وہ تمہارے لئے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں یعنی گردش ایام کا زمانہ تمہارے اوپر (مصائب کیساتھ) پلٹ پڑے تو وہ (خرچ کرنے سے) چھٹکارا پا جائیں، بُرا وقت ان ہی پر پڑنے والا ہے (السَّوَاءُ) ضمہ اور فتح کے ساتھ ہے یعنی عذاب اور ہلاکت ان پر پڑے گی نہ کہ تمہارے اوپر اور اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے اعمال کو جاننے والا ہے اور بعض با دویہ نشین ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ جہینہ اور مزیٰنہ اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ مقرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعاء کا وسیلہ بناتے ہیں، یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لئے اللہ کے نزدیک بے شک موجب رحمت ہے ان کو اللہ ضرور اپنی جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اہل طاعت کو بڑا معاف کرنے والا (اور) ان پر رحم کرنے والا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ یہ جملہ مستانفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس جملہ میں منافقین کے آئندہ حالات کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے کہ جب منافقوں سے تمہاری ملاقات ہوگی تو وہ اعذار بار دہ بیان کریں گے، یہاں قل کے مخاطب اگر رسول اللہ ﷺ ہی ہیں جیسا کہ ظاہر یہی ہے تو کُم ضمیر جمع احتراماً و تعظیماً لائی گئی اور اگر ضمیر کُم سے اصحاب رسول مراد ہوں تو خطاب میں آپ کی تخصیص سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہوگی۔

**قَوْلُهُ:** نَصَدَقْكُمْ سے اشارہ کر دیا کہ لکم میں لام زائدہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** وَرَسُولُهُ اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے اور درمیان میں رویت کے مفعول کو یہ ظاہر کرنے کے لئے لائے کہ اجر و ثواب زجر و عقاب کا تعلق رویت حق تعالیٰ سے ہے۔



**قَوْلًا:** الْأَعْرَابُ، یہ اسم جمع بصورت جمع ہے یہ عرب کی جمع نہیں ہے اسلئے کہ عرب عربی بولنے والے کو کہتے ہیں خواہ دیہاتی ہو یا شہری، اور اعراب، اعرابی کی جمع ہے دیہاتی کو کہتے ہیں۔

**قَوْلًا:** جَفَاءً، قساوت قلبی، ظلم و ستم۔

**قَوْلًا:** الدَّوَائِرُ، دائرۃ کی جمع ہے بمعنی بلا، مصیبت، دوائر الزمان، حوادث زمانہ، مصائب۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

### ربط آیات:

اوپر کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو درحقیقت معذور تھے یا مفلس اور نادار ہونے کی وجہ سے شریک غزوہ نہیں ہو سکے تھے، ان لوگوں کو معذور قرار دیکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قابل سرزنش نہیں ہیں، ان آیتوں میں فرمایا کہ اصل سرزنش کے لائق وہ لوگ ہیں جو باوجود ولتمند اور تندرست و توانا ہونے کے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بیٹھ رہے۔

### متخلفین کی تین قسمیں:

آئندہ آیات میں متخلفین کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ سے جھوٹے عذر کئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی نہیں اور اللہ نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دوسرے وہ کہ جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، جن کی توبہ جلدی ہی قبول ہو گئی تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آنحضرت کے مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد آپ ﷺ کے روبرو اپنے قصور کا سچا اقرار کیا اور کوئی جھوٹا عذر نہیں تراشا، ان کی توبہ پونے دو ماہ بعد قبول ہوئی، ان آیات میں پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے باقی دونوں قسموں کا ذکر آئندہ آئے گا۔

آگے یہ بیان فرمایا کہ اے ہمارے رسول! جب تم غزوہ سے فارغ ہو کر مدینہ جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے مختلف قسم کے جھوٹے عذر بیان کریں گے تو آپ ان لوگوں کو یہ جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہم کو تمہارے حالات کی خبر دیدی ہے اسلئے اب ہم تمہارے عذروں کی تصدیق نہیں کر سکتے، البتہ تمہاری آئندہ کی حالت پر اللہ اور اس کے رسول کی نظر رہے گی کہ آئندہ تم اسلام کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو؟ جیسا معاملہ تم اسلام کے ساتھ کرو گے قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔

آگے فرمایا تمہاری واپسی کے وقت قسمیں کھا کھا کر عذر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کو سرزنش نہ کرو، ان لوگوں کے قلوب بد اعتقادی اور نفاق کے سبب ایسے نجس ہو چکے ہیں کہ اب کوئی نصیحت ان کو پاک نہیں کر سکتی، لہذا تم ان کو ان کے

حال پر چھوڑ دو اور اگر بالفرض وہ تم کو اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعہ راضی کر بھی لیں تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کو ان کے حالات کا علم ہے اور اللہ کے علم ازلی میں دوزخی قرار دیئے جا چکے ہیں، لہذا تمہاری رضامندی ان کے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔

الاعرابُ اشد کفرًا و نفاقًا، تحقیق و ترکیب کے زیر عنوان جیسا کہ سابق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ یہاں اعراب سے مراد دیہاتی و صحرائی عرب ہیں، جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر اول تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آمیزش کے ذریعہ ایک مدت تک موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز و نجد کے ایک بڑے حصے پر قائم ہو گیا، اور مخالفوں کا زور اس کے مقابلہ میں ٹوٹنے لگا تو ان لوگوں نے مصلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائیں، بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو دین حق سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور مخلصانہ طور پر اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں، ان کے ایمان اور اسلام کی حیثیت محض ایک مصلحت اور پالیسی کی تھی، ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ ان کے حصہ میں وہ فوائد آجائیں جو برسر اقتدار جماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں انھیں جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنے معاشی مفاد، اپنی آسائش، اپنی زمینوں، اپنی اونٹ بکریوں اور اپنے خیموں کی آس پاس کی محدود دنیا سے تھی۔

ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی بہ نسبت یہ دیہاتی اور صحرائی لوگ زیادہ شدید منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، پھر اسکی وجہ بھی بتادی کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کے حدود و احکام کو جان بھی لیتے ہیں مگر یہ بد و چونکہ اپنی ساری زندگی معاشی فکر میں ایک حیوان کی طرح زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، اس لئے دینی حدود و احکام سے ناواقف رہتے ہیں۔

ان آیات کے نزول کے تقریباً دو سال بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے ابتدائی دور میں ارتداد اور منع زکوٰۃ کا جو طوفان برپا ہوا تھا اس کے اسباب کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا جس کا ذکر سابق میں ہوا۔

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا اس آیت میں بدوؤں اور صحرائی نشینوں کی دوسری قسم کا بیان ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ راہ خدا میں خرچ تو کرتے ہیں مگر ناخوشی اور تنگدلی سے کرتے ہیں ان کو ہمہ وقت یہ خیال لگا رہتا ہے کہ زمانہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا ممکن ہے کہ گردش زمانہ سے مشرکین غالب آجائیں یا اور کوئی حادثہ پیش آجائے اور برے دن دیکھنے پڑیں اسلئے احتیاط ضروری ہے، دراصل اس آیت میں بنو اسد اور غطفان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ لوگ خرچ تو کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں وہ خدشہ لگا رہتا تھا جس کا ذکر اوپر ہوا، یعنی ان سے جو زکوٰۃ وغیرہ وصول کی جاتی ہے اسے تاوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں۔

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الخ یہ صحرائی اور بادیہ نشینوں کی تیسری قسم کا ذکر ہے جو اللہ پر اور روز قیامت پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور خدا کی راہ میں اس امید پر خرچ کر رہے ہیں کہ خدا کا قرب اور آپ کی دعاء



حاصل ہو کیونکہ آپ ﷺ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کیلئے دعاء فرمایا کرتے تھے۔

عبدالرحمن بن مغفل فرماتے ہیں کہ ہم مقرر کے دس بیٹے تھے، یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت کا یہی شان نزول بیان کیا ہے، عبدالرحمن بن مغفل ثقہ تابعی ہیں بعض علماء نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے مگر یہ درست نہیں ہے کلبی کا قول ہے کہ اسلم، غفار، جہینہ، مزینہ کے لوگ اسی امید پر خرچ کرتے تھے کہ ان کو خدا کا تقرب حاصل ہو اور آپ ﷺ ان کے لئے دعاء خیر فرمائیں، مقرر قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں لہذا کلبی اور مجاہد کے قول میں کوئی تعارض نہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نیک کمائی میں سے معمولی چیز بھی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ اس کو اپنے دست راست میں لیتا ہے اور اس کے اجر کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے اگر چہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں لیکن نیک کمائی کے صدقہ و خیرات کی شان بڑھانے کیلئے سیدھے ہاتھ کا لفظ حدیث میں فرمایا۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَبِهِمْ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِإِحْسَانٍ فِي الْعَمَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرِضْوَانِهِ بِثَوَابِهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَفِي قِرَاءَةِ بَزِيَادَةَ بْنِ خَلِيدٍ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۝ كَاسَلِمَ وَأَشْجَعَ وَغَفَارٍ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۝ سَنَافِقُونَ أَيْضًا مَرْدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَجُّوا فِيهِ وَاسْتَمَرُّوا لَا تَعْلَمُهُمْ ۝ خُطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعِدُ بِهِمْ مَرَّتَيْنِ بِالْفُضِيحَةِ أَوِ الْقَتْلِ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ثُمَّ يُرَدُّونَ فِي الْآخِرَةِ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ هُوَ النَّارُ وَ قَوْمٌ آخَرُونَ مُبْتَدَأُ اعْتِرَافِهِمْ بِذُنُوبِهِمْ مِنْ التَّخَلُّفِ نَعْتُهُ وَالْخَبَرُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَبِهِمْ جَاهِدُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ اعْتَرَفَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَخْرَسِيًّا ۝ وَهُوَ تَخَلُّفُهُمْ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَةَ وَجَمَاعَةٍ أَوْثَقُوا أَنْفُسَهُمْ فِي سَوَارِي الْمَسْجِدِ لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا نَزَلَ فِي الْمُتَخَلِّفِينَ وَحَلَفُوا أَنْ لَا يَحْلُوهُمْ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّاهُمْ لَمَّا نَزَلَتْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَ ثُلُثَ أَمْوَالِهِمْ وَتَصَدَّقَ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ أَدْعُ لَهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ رَحْمَةٌ لَهُمْ وَقِيلَ طَمَانيْنَةُ بَقْبُولِ تَوْبَتِهِمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ بِالصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ عَلَى عِبَادٍ بَقْبُولِ تَوْبَتِهِمُ الرَّحِيمُ ۝ بِهِمْ وَالِاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيرِ وَالْقَصْدُ بِهِ تَهْيِيجُهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَقُلْ لَهُمْ أَوَّلُ النَّاسِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ

بِالْبَعْثِ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِيَّاهُ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۵۰ فَيَذَرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۵۱ فَيَجَازِيكُمْ بِهِ وَآخَرُونَ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ ۝۱۵۲ مَرْجُونَ بِالْهَمَزَةِ وَتَرْكِهِ مُؤَخَّرُونَ عَنِ التَّوْبَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِمْ بِمَا يَشَاءُ إِمَّا يَعَذِّبُهُمْ بِأَنْ يُمِيتَهُمْ بِلا تَوْبَةٍ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ ۝۱۵۳ حَكِيمٌ ۝۱۵۴ فِي صُنْعِهِ بِهِمْ وَهُمْ الثَّلَاثَةُ الْأَتُونُ بَعْدَ مَرَارَةِ بَنِي الرَّبِيعِ وَكَعْبُ بَنِي مَالِكٍ وَهَلَالُ بَنِي أُمَيَّةَ تَخَلَّفُوا كَسَلًا وَمِيلًا إِلَى الدَّعَةِ لَانْفَاقًا وَلَمْ يَعْتَذِرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغَيْرِهِمْ فَوَقَفَ أَمْرُهُمْ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَهَجَرَهُمُ النَّاسُ حَتَّى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ بَعْدَ وَ مِنْهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ضَرَارًا مَضَارَةً لِأَهْلِ مَسْجِدِ قَبَاءَ وَكَفَرًا لَأَنَّهُمْ بَنَوْهُ بِأَمْرِ أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبِ لِيَكُونَ مَعْقَلًا لَهُ يَقْدُمُ فِيهِ مَنْ يَأْتِي مِنْ عِنْدِهِ وَكَانَ ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِجُنُودٍ مِنْ قِيصَرَ لِقِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ بِقَبَاءَ بِصَلَاةٍ بَعْضُهُمْ فِي مَسْجِدِهِمْ وَإِرْصَادًا تَرْقُبًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ إِي قَبْلَ بِنَائِهِ وَهُوَ أَبُو عَامِرٍ الْمَذْكُورُ وَلِيَحْلِفَنَّ إِنْ مَا أَرَدْنَا بِنَائِهِ إِلَّا الْفَعْلَةَ الْحُسْنَىٰ مِنَ الرِّفْقِ بِالْمَسْكِينِ فِي الْمَطَرِ وَالْحَرِّ وَالتَّوَسُّعِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۵۷ فِي ذَلِكَ وَكَانُوا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَنَزَلَ لَا تَقُمْ تُصَلِّ فِيهِ أَبَدًا فَأَرْسَلَ جَمَاعَةً بِدَمُوءِهِ وَحَرَّقُوهُ وَجَعَلُوا مَكَانَهُ كُنَاسَةً تُلْقَى فِيهَا الْجِيفُ لِمَسْجِدِ أَسَسَ بُنِيَتْ قَوَاعِدُهُ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَضَعُ يَوْمَ حَلَلَتْ بَدَارُ الْهَجْرَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ قَبَاءَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ أَحَقُّ مِنْهُ أَنَّ إِي بَأَنَّ تَقُومَ تَصَلِّيَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ بِهِمُ الْإِنصَارُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۝۱۵۸ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝۱۵۹ إِي يُشِيبُهُمْ وَفِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قَبَاءَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهْوِ فِي قِصَةِ مَسْجِدِكُمْ فَمَا بِذَا الطَّهْوِ الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ فَقَالُوا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَعْلَمُهُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ فَقَالُوا كُنَّا نَتَّبِعُ الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ مَوْهُ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مَخَافَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَجَاءِ رِضْوَانٍ مِنْهُ خَيْرًا مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا طَرَفٍ جُرْفٍ بَضَمِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا جَانِبِ هَارٍ مُشْرِفٍ عَلَى السَّقُوطِ فَأَنْهَارَ بِهِ سَقَطَ مَعَ بَانِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَيْرٌ تَمْثِيلٌ لِلْبِنَاءِ عَلَى ضِدِّ التَّقْوَىٰ بِمَا يُؤَلُّ إِلَيْهِ وَالِاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْوَىٰ أَيْ الْأَوَّلُ خَيْرٌ وَهُوَ مِثَالُ مَسْجِدِ قَبَاءَ وَالثَّانِي مِثَالُ مَسْجِدِ الضَّرَارِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۱۶۰ لَا يُزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً شَكَا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ تَنْفَصَلَ قُلُوبُهُمْ بَانَ يَمُوتُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيمٌ ۝۱۶۱ فِي صُنْعِهِ بِهِمْ ۝۱۶۲

ترجمہ: وہ مہاجر و انصار جنہوں نے (دعوت ایمان کی طرف) سب سے پہلے (لیک) کہنے میں سبقت کی اور وہ، وہ



لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے یا جمیع صحابہ مراد ہیں نیز وہ لوگ جو عمل میں راستبازی کے ساتھ تاقیامت ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ ان کی طاعت سے راضی ہوا اور وہ اللہ کے اجر سے راضی ہوئے، اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات مہیا کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی، اور ایک قراءت میں مَنْ کی زیادتی کے ساتھ ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم الشان کامیابی ہے، اے اہل مدینہ تمہارے گرد و پیش جو بد ورہتے ہیں ان میں (بہت سے) منافق ہیں جیسا کہ اسلم اور اشجع، اور غفار، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں، جو نفاق میں مشاق اور طاق ہیں تم انہیں نہیں جانتے یہ نبی ﷺ کو خطاب ہے ہم ان کو جانتے ہیں ہم عنقریب ان کو رسوائی یا قتل کا دنیا میں اور عذاب قبر کا دواہر عذاب دیں گے پھر وہ بڑی سزا کے لئے آخرت میں لائے جائیں گے وہ آگ ہے، اور کچھ لوگ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے پیچھے رہ جانے کے قصور کا اعتراف کر لیا ہے (آخرت میں لائے جائیں گے وہ آگ ہے) (اعترفوا بذنوبہم) صفت ہے (خلطوا عملاً صالحاً) خبر ہے، ان کا عمل مخلوط ہے کچھ نیک ہے اور وہ (عمل نیک) اس سے پہلے ان کا جہاد میں شریک ہونا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف وغیرہ ہے اور کچھ بد اور وہ انکا (جہاد سے) پیچھے رہ جانا ہے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائیگا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے، (یہ آیت) ابولبابہ اور ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے خود کو مسجد (نبوی) کے ستونوں سے باندھ لیا تھا جب ان کو اس کی اطلاع ہوئی کہ یہ آیت پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور انہوں نے قسم کھالی کہ ان کو سوائے نبی ﷺ کے کوئی اور نہ کھولے، چنانچہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے انکو کھولا، اور جب (خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ الْاَيَةَ) نازل ہوئی، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے آپ اس کے ذریعہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے اموال میں سے ایک تہائی لے لیا اور اس کو صدقہ کر دیا، اور آپ ان کے لئے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعاء ان کے لئے (باعث) تسکین ہے (یعنی) باعث رحمت ہے، اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لئے اطمینان ہے اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے؟ اور بلاشبہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر کے ان پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اور استفہام تقریر کے لئے اور اس سے مقصد ان کو توبہ اور صدقات پر آمادہ کرنا ہے اے نبی! تم ان (منافقوں) سے یا عام لوگوں سے کہو کہ تم جو چاہو عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ طرز عمل اب تمہارا کیا رہتا ہے؟ اور بعث کے ذریعہ تم عالم الغیب والشہادہ یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور وہ تمہارے عمل کی جزاء دے گا، اور متخلفین میں سے کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کا معاملہ خدا کا حکم آنے تک ملتوی ہے ان کے بارے میں وہ جو چاہے حکم دے (مُرجئون) ہمزہ اور ترک ہمزہ دونوں طرح ہے یعنی ان کی توبہ مؤخر کر دی گئی ہے یا تو بغیر توبہ کے موت دیکر ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں خوب جاننے والا ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں باحکمت ہے اور وہ تین ہیں جن کا ذکر آئندہ آتا ہے مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک، اور ہلال بن امیہ (یہ تینوں حضرات) سستی اور راحت پسندی کی وجہ سے پیچھے

رہ گئے تھے نہ کہ نفاق کی وجہ سے، اور نہ دوسروں کے مانند انہوں نے نبی ﷺ کے سامنے (جھوٹے) عذر پیش کئے جس کی وجہ سے ان کا معاملہ پچاس راتوں تک معلق رہا، اور لوگوں نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا (بایکٹ کر دیا) یہاں تک کہ بعد میں ان کی توبہ کی (قبولیت) نازل ہوئی اور ان میں کچھ لوگ اور ہیں وہ بارہ منافقین ہیں جنہوں نے اہل مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لئے ایک مسجد بنائی، اسلئے کہ منافقوں نے وہ مسجد ابو عامر راہب کے کہنے سے بنائی تھی تاکہ اس کے لئے جائے پناہ ہو اور اس کی طرف آنے والا اس میں قیام کرے اور وہ نبی ﷺ سے لڑنے کے لئے قیصر روم کا لشکر لانے کے لئے چلا گیا تھا، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کیلئے کہ جو ان میں سے مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں اپنی کچھ نمازیں ان کی مسجد (ضرار) میں پڑھیں (اس طرح مومنین کی جمیعت منتشر ہو جائے) اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس مسجد کے بنانے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسرِ پیکار رہا ہے اور یہ شخص وہی ابو عامر مذکور ہے اور وہ ضرور قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہے کہ وہ مسکین کے ساتھ بارش اور گرمی میں سہولت کرنا ہے اور مسلمانوں پر وسعت کرنا ہے، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ اس معاملہ میں قطعاً جھوٹے ہیں اور ان لوگوں نے نبی ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھ دیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، آپ اس میں ہرگز نماز نہ پڑھیں، چنانچہ آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا جنہوں نے اس کو منہدم کر دیا اور نذر آتش کر دیا اور اس جگہ کو کوڑی بنادی تاکہ اس میں مردار ڈالے جائیں جو مسجد اول روز سے تقوے پر بنائی گئی ہے اس روز اس کی بنیاد رکھی گئی جس روز آپ ﷺ دارِ ہجرت میں نزول فرما ہوئے، وہ مسجد قباء ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے وہ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک دل بننے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں یعنی ان کو اجر عطا کرے گا، اور اس میں تاء کا طاء میں ادغام ہے اصل میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں عویم بن ساعدہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ (انصار) کے پاس مسجد قباء میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے قصہ میں تم لوگوں کی طہارت کی تعریف فرمائی ہے تو بتاؤ وہ طہارت کیا ہے جس کو تم اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا واللہ یا رسول اللہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے (نہیں کرتے) کہ ہمارے پڑوسی کچھ یہود تھے کہ وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے تو ہم بھی ان کی طرح کرنے لگے اور ایک حدیث میں جس کو بزار نے روایت کیا ہے (انصار) نے کہا کہ ہم پتھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ بات یہی ہے، تم اس کو لازم پکڑے رہو، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی بنیاد خوفِ خدا اور اس کی رضا مندی کی امید پر رکھی یا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد ندی کے ایسے کھوکھلے کنارہ پر رکھی جو گرنے ہی والا ہے (جُـرُف) راء کے ضمہ اور سکون کے ساتھ ہے بمعنی کنارہ، تو وہ کنارہ اپنے بانی کو لیکر نارِ جہنم میں گر پڑا یہ تقوے پر بناء کی تمثیل ہے اپنے انجام کے اعتبار سے اور استفہامِ تقریر کے لئے ہے یعنی پہلا شخص بہتر ہے، اور وہ مسجد قباء کی مثال ہے اور دوسری مثال مسجدِ ضرار کی ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی (شبہ پیدا کرتی رہے گی) سوائے اس کے کہ ان کے قلوب ہی پارہ پارہ ہو جائیں بایں طور کہ وہ مرجائیں،



اللہ اپنی مخلوق کے حالات سے بخوبی واقف اور ان کے معاملات میں حکمت والا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ (الآیة) اس جملہ کی ترکیب جو رائج اور ظاہر ہے وہ یہ ہے، السَّابِقُونَ موصوف الاولون صفت دونوں مل کر مبتداء من المهاجرین والانصار حال، والذین معطوف السَّابِقُونَ پر، اتبعوہم، الذین کا صلہ اور باحسان محذوف سے متعلق ہو کر حال، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جملہ ہو کر السَّابِقُونَ مبتداء کی خبر۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے دو ترکیبیں اور کی ہیں مگر صاحب اعراب القرآن نے ان کو ضعیف بلکہ غلط کہا ہے۔

**پہلی:** السَّابِقُونَ مبتداء اور الْأَوَّلُونَ اس کی خبر۔

**دوسری:** السَّابِقُونَ مبتداء اور من المهاجرین والانصار اس کی خبر۔

**قَوْلٌ:** مَنْ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ، اس عبارت میں سابقین اولین میں دو قولوں کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ:** وَفِي قِرَاءَةٍ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَيْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَارُ.

**قَوْلٌ:** مَرَدُوا ماضی جمع مذکر غائب ای تمرنوا علیہ، وہ مشاق ہو گئے، ہر خیر سے خالی ہو گئے، اسی سے الشیطان المارد ہے، یعنی برائی پڑٹ گیا۔

**قَوْلٌ:** قَوْمٌ لَفْظٌ قَوْمٌ مَقْدَرٌ مان کر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ مبتداء کے لئے ذات ہونا ضروری ہے حالانکہ آخرون ذات نہیں بلکہ وصف ہے قوم محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ الآخرون صفت ہے اور اس کا موصوف جو کہ مبتداء ہے قوم محذوف ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

**قَوْلٌ:** نَعْتَهُ یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ قوم آخرون نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے اس کا جواب دیا کہ اعترفوا بذنوبہم، قوم کی صفت ہے جس کی وجہ سے قوم نکرہ نہیں رہا لہذا مبتداء واقع ہونا درست ہے۔

**قَوْلٌ:** سَوَارِي يَه سَارِيَةِ کی جمع ہے ستون کو کہتے ہیں۔

**قَوْلٌ:** صَدَقَةُ تَطَهَّرُهُمْ، تَطَهَّرُهُمْ، صَدَقَةُ کی صفت ہے تَطَهَّرَ کی ضمیر صدقہ کی طرف راجع ہے تَطَهَّرَ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اگر تَطَهَّرَ حاضر کا صیغہ ہو اور مخاطب آپ ﷺ ہوں تو بھا کا تعلق تَطَهَّرَ اور تُزَكِّيهِمْ دونوں سے ہوگا، ای تَطَهَّرَ ہم بھا وتزکيہم بھا۔

**قَوْلٌ:** مَرَجُّونَ اس میں دوسری قراءت بغیر ہمزہ کے ہے، ای مَرَجُّونَ ای مؤخرون و موقوفون، مَرَجُّونَ اِرْجَاء سے اسم مفعول جمع مذکر غائب، وہ لوگ جن کا معاملہ ٹال دیا گیا ہو، یا معلق کر دیا گیا ہو۔

**قَوْلٌ:** ابی عامر یہ حضرت حنظلہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غَسِيل ملائکہ کے والد ہیں انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس نے آپ ﷺ کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔

قَوْلٌ: مَعْقَلًا، ٹھکانہ، جائے پناہ۔

قَوْلٌ: الْفِعْلَةُ اس میں اشارہ ہے کہ الحسنی صفت ہے اور اس کا موصوف الفعلة یا الخصلة وغیرہ محذوف ہے۔

قَوْلٌ: بِالْمَسْكِينِ، بعض نسخوں میں بِالْمَسْكِينِ کے بجائے بِالْمُسْلِمِينَ ہے جو کہ زیادہ مناسب ہے۔

قَوْلٌ: شَفَا، طرف، کنارہ۔

قَوْلٌ: جُرْفٌ، کنویں کا کچا کنارہ، ندی وغیرہ کا کنارہ جس کو پانی نے خالی کر دیا ہو۔

قَوْلٌ: هَارٍ، اسم فاعل۔ گرنے کے قریب، مادہ هَوْرٌ، هَارٍ کی اصل هَاوِرٌ یا هَائِرٌ تھی هَاوِرٌ کے واو کو یا هَائِرٌ کے ہمزہ کو قلب مکانی کر کے راء کے بعد کر دیا هَاوِرٌ یا هَائِرٌ ہو گیا پھر واو اور ہمزہ کو یاء سے بدل کر هَاوِيَرٌ کر دیا حالت جر کی وجہ سے یاء ساقط ہو گئی، بعض حضرات نے کہا ہے کہ هَاوِرٌ کے واو اور هَائِرٌ کے ہمزہ کو بغیر قلب مکانی کے تخفیفاً حذف کر دیا۔

قَوْلٌ: مَعَ بَانِيهِ اس میں اشارہ ہے کہ بہ میں باء بمعنی مع ہے نہ کہ سیبہ۔

قَوْلٌ: خَيْرٌ، یہ مَنْ کی خبر ہے۔

قَوْلٌ: تَمْثِيلٌ لِلْبِنَاءِ بِمَا يُؤَلِّیْهِ، الیہ کا مرجع سقوط ہے، یہ اس بناء کی تمثیل ہے جو تقوے کی ضد پر بنائی گئی ہو، یعنی مشبہ بہ وہ عمارت ہے جو ایسی جگہ بنائی گئی ہو کہ جو گرنے اور دھسنے کے قریب ہو اور مشبہ دینی احکام و اعمال کو کفر و نفاق پر مرتب کرنا ہے۔

قَوْلٌ: رِبَّةٌ اِی سَبَبٌ رِبَّةٌ۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ (الآیة) سابق میں بدوی عربوں کا ذکر تھا یہاں شہری عربوں کا ذکر ہے اس میں اختلاف ہے کہ سابقین سے کون لوگ مراد ہے، عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما کے شاگردوں میں سے جہاں مجاہد کا قول نہ ہو تو سعید بن مسیب کے قول کے مطابق رفع اختلاف کیا جاتا ہے، سعید بن مسیب کے قول کے مطابق سابقین میں مہاجرین و انصار میں سے وہ صحابہ ہیں جو بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں قبلوں کی طرف آپ ﷺ کے ساتھ نماز میں شریک تھے۔

عطاء بن ابی رباح کے قول کے مطابق وہ صحابہ سابقین الاولین میں داخل ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ایمان لائے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، دونوں قبلوں کی طرف نماز اور غزوہ بدر چونکہ ایک ہی سال ۲ھ کے واقعے ہیں اسلئے سعید بن مسیب اور عطاء بن ابی رباح کے قول میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا، لیکن سعید بن مسیب عطاء بن ابی رباح سے زیادہ ثقہ ہیں اس لئے اس تفسیر میں ان ہی کا قول رائج ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس قول کی بناء پر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ باحسان سے دونوں صورتوں میں باقی صحابہ مراد ہوں گے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ صحابہ کے آپس میں درجات مختلف ہیں مگر اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے اور تمام صحابہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، اور ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ سچ ہے لہذا یہ لوگ قطعی جنتی ہیں، جس کے دل میں ان کی



طرف سے بغض ہو یا ان میں سے کسی کو برا سمجھے اس کا ایمان باقی نہیں رہا، اس تفسیر کے مطابق اس آیت میں صرف صحابہ کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں ابوسعید خدری کی روایت ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”میرے صحابہ کے حق میں کوئی شخص کسی طرح کی کوئی بری بات منہ سے نہ نکالے میرے صحابہ کا بڑا درجہ ہے ان کا تھوڑا عمل دوسروں کے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔“

### صحابہ مقتدایان امت ہیں:

محققین اہل سنت نے یہیں سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ اصحاب نبی مقتدایان امت ہیں، مشاجرات صحابہ کی جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لئے یہ روا نہیں کہ ہم ایک کی اتباع کے زور میں دوسرے کی عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنے لگیں، امیر المومنین حضرت علیؓ تو اجل صحابہ اور خلفاء راشدین میں سے ہیں امیر معاویہ جو کہ یہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بہر حال صحابی ہیں ان کے حق میں بھی زبان طعن کھولنا درست نہیں۔

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ (الآیۃ) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت رسول خدا ﷺ نے جمعہ کا خطبہ پڑھتے پڑھتے چار پانچ آدمیوں سے فرمایا کہ تم منافق ہو نکل جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آرہے تھے ان لوگوں کو مسجد سے آتے دیکھ کر سمجھے کہ شاید نماز ہو چکی اور چھپ گئے ان لوگوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا وہ بھی چھپ گئے تاکہ ان کا حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر نہ ہو، جب حضرت عمر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی، ایک شخص بولا کہ آج تو منافق بڑے ذلیل ہوئے خدا نے ان کو مسجد سے نکلوا دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عذاب تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجد سے یہ لوگ نکالے گئے اور بھری محفل میں رسوائی ہوئی اور دوسرا عذاب قبر کا اور پھر آخرت کا۔

مدینہ کے اطراف و مضافات میں قبیلہ جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، اور غفار رہتے تھے ان میں بھی کچھ لوگ منافق تھے اور مدینہ میں عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت کے لوگ منافق تھے، کچھ لوگوں کے نفاق کا علم تو آپ ﷺ کو بذریعہ وحی ہو گیا تھا اور کچھ کا نفاق کی علامات کے ذریعہ آپ کو علم ہو گیا تھا، مگر بعض اپنے نفاق کو چھپانے میں بڑے مشاق تھے کہ نبی ﷺ کو بھی کمال درجہ فراست اور دانشمندی کے باوجود ان کے نفاق کا علم نہ ہو سکا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ“۔

### اس آیت میں آپ ﷺ کے علم غیب کلی کی بصراحت نفی ہے:

اس آیت میں آپ ﷺ کے علم غیب کلی کی صریح نفی موجود ہے جس کا دعویٰ ہمارے زمانہ میں بعض عالم نما جاہلوں نے کیا ہے۔

وَأَخْرَوْا اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابوالشیخ میں جو شان نزول ان آیتوں کا بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس گروہ صحابہ نے اپنے قصور کا اعتراف کر کے آپ ﷺ کے تبوک سے مدینہ آنے سے پہلے

خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوگی وہ نہ کھلیں گے، جب ان کی توبہ قبول ہوگئی تو انہوں نے اپنا تمام مال آپ ﷺ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ جس مال کی محبت نے ہم کو غزوہ کی شرکت سے باز رکھا آپ اس کو قبول فرمائیں یہ راہ خدا میں صدقہ ہے آپ نے پورا مال قبول کرنے سے انکار کر دیا البتہ ایک تہائی مال قبول فرما کر صدقہ کر دیا، پونے دو ماہ بعد ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی۔

محدثین نے ان آیات کے شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ غیر منافق سے غیر مخلصانہ عمل کے صدور کے باوجود کس کو محض گنہگار مومن سمجھا جائے؟ تو اس کے لئے قرآن کی سابقہ آیات میں تین معیار بتائے گئے ہیں۔

۱ اپنے قصور کے لئے اعدا رنگ اور تاویلات و توجیہات پیش نہیں کریگا، بلکہ جو قصور سرزد ہوا ہے اسے صاف صاف اور سیدھی طرح مان لے گا۔

۲ اس کے سابق طرز عمل کو نگاہ ڈال کر دیکھا جائیگا کہ یہ عدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فرد رہا ہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخلصانہ خدمات، ایثار و قربانی اور سبقت الی الخیرات کا ریکارڈ موجود ہے تو باور کر لیا جائیگا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ عدم ایمان و اخلاص کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما ہوگئی ہے۔

۳ اس کے آئندہ طرز عمل پر نظر رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساسِ ندامت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے قصور کی تلافی کے لئے بیتاب ہے۔

## محدثین کا بیان کردہ شان نزول:

محدثین نے ان آیات کے شان نزول کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات ابولبابہ بن عبدالمندراور ان کے چھ ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ابولبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے پھر جنگ بدر اور جنگ احد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے مگر غزوہ تبوک میں کسی عذر شرعی کے بغیر شریک نہ ہوئے، ایسے ہی مخلص ان کے ساتھی تھے، جب آپ ﷺ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ غزوہ میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے، تو انھیں سخت ندامت ہوئی، قبل اس کے کہ ان سے کوئی باز پرس ہوتی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور اس وقت تک کھولے جانے پر راضی نہ ہوئے جب تک کہ انکی توبہ قبول نہ ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کو آپ ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے ایک روز صبح کی نماز کے بعد کھول دیا اور ان کو توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی، ان حضرات نے اس کی خوشی اور صدقہ میں اپنا تمام مال آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا مگر آپ نے ثلث مال ہی قبول فرمایا۔



## ملے جلے اعمال نیک و بد کیا تھے؟

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا، اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے کچھ اعمال نیک اور کچھ بد تھے، ان کے نیک اعمال تو ان کا ایمان، روزہ نماز کی پابندی اور تہوک سے پہلے جہاد و غزوات میں شرکت اور اس واقعہ تہوک میں اپنے جرم کا اعتراف اور اس پر ندامت اور توبہ کرنا وغیرہ ہیں، اور برے اعمال عذر شرعی کے بغیر غزوہ تہوک میں شریک نہ ہونا اور منافقوں کے ساتھ عملی موافقت تھی۔

## جن مسلمانوں کے اعمال ملے جلے، اچھے برے ہوں وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں:

اگرچہ یہ آیت ایک مخصوص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر حکم اس کا قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے عام ہے بشرطیکہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، یعنی ان کے لئے بھی معافی اور مغفرت کی امید ہے۔

ابو عثمان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لئے بڑی امید دلانے والی ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت سمرہ بن جندب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ ساتویں آسمان پر جب آپ ﷺ کی ملاقات حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام سے ہوئی تو آپ نے ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جنکے چہرے روشن تھے اور کچھ ایسے کہ ان کے چہروں پر کچھ داغ تھے، یہ دوسرے قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور جب غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی صاف تھے، جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام نے آپ کو بتایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور گناہ سے اجتناب کیا ”الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ“ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے برے عمل کئے اور پھر توبہ کر لی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ (معارف)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا (الآیۃ) اس آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مدینہ میں دو مسجدیں تو پہلے سے تھیں ایک مسجد قباء اور دوسری مسجد نبوی منافقوں نے ایک تیسری مسجد بنائی جس کو قرآن میں ”مسجد ضرار“ کہا گیا ہے اور نبی ﷺ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ بارش اور گرمی و سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی آنے میں دقت پیش آتی ہے ان کی سہولت کے لئے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہاں چل کر برکت کے طور پر نماز پڑھ دیں۔

اس مسجد کے بنانے کا واقعہ جس کی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص جس کا نام ابو عامر تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا اس کا شمار علماء اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کی درویشی کا سکہ بھی مدینہ کے اطراف کے جاہلوں میں خوب چل رہا تھا، جب آپ ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو اس کی مشیخت خوب چل رہی تھی یہ شخص آپ ﷺ کو اپنا حریف سمجھ کر مخالفت پر آمادہ ہو گیا، دو سال تک تو اسے یہ امید رہی کہ قریش کی

طاقت ہی اسلام کو مٹانے کے لئے کافی ہوگی، لیکن جنگ بدر میں جب مشرکین مکہ نے شکست فاش کھائی تو اس سے ضبط نہ ہوسکا اور اسلام کے خلاف قریش اور دیگر قبائل میں تبلیغ شروع کر دی اور تمام معرکوں میں یہ خود بھی دشمنوں کی جانب سے شریک جنگ رہا آخر کار جب اس کو اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو روک سکے گی، اس نے عرب کو چھوڑ کر روم کا رخ کیا تا کہ قیصر کو اس خطرہ سے آگاہ کرے جو عرب سے اٹھ رہا تھا یہ وہی موقع تھا کہ جب مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ قیصر عرب پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے آپ ﷺ کو تبوک کی مہم پر جانا پڑا۔

ابو عامر راہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ شریک سازش تھا، جب ابو عامر راہب روم روانہ ہونے لگا تو اس کے اور مدینہ کے منافقوں کے درمیان یہ تجویز منظور ہوئی کہ مدینہ میں اپنی ایک الگ مسجد بنائی جائے تاکہ اس میں اپنی منافقانہ سرگرمیوں کو جاری رکھا جاسکے اس طرح آسانی سے ان پر کوئی شبہ بھی نہ کرے گا، اور ابو عامر کے جوائینٹ مدینہ آیا کریں گے وہ بھی اس مسجد میں آسانی سے ٹھہر سکیں گے، یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی، جب مسجد تیار ہو گئی تو اشرار و منافقین کی ایک جماعت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بطور برکت اس میں نماز پڑھنے کی درخواست کی مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اس وقت جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں آئندہ دیکھوں گا، اس کے بعد آپ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، واپسی پر جب آپ ﷺ مدینہ کے قریب ذی او ان کے مقام پر پہنچے تو مذکورہ آیات نازل ہوئیں، آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مسجد ضرار کو مسمار کر دیں۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ جَمَلُهُ اسْتِيفَ بَيَانٌ لِلشَّرَاءِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَقْدِيمِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ أَيْ فَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ وَيُقَاتِلُ الْبَاقِي وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا مَصْدَرًا مِنْ مَنصُوبَانِ بِفَعْلِهِمَا الْمَحْذُوفِ فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ أَلْبَسَ مِنْ اللَّهِ أَيْ لَا أَحَدٌ أَوْفَى مِنْهُ فَاسْتَبَشَرُوا فِيهِ التَّفَاتُ عَنْ الْغَيْبَةِ بِبَيْعِهِمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ النِّيلُ غَايَةُ الْمَطْلُوبِ التَّابُّونَ رَفْعٌ عَلَى الْمَدْحِ بِتَقْدِيرِ مَبْتَدَأِ مِنَ الشَّرِكِ وَالنَّفَاقِ الْعِيدُونَ الْمُخْلِصُونَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ السَّائِحُونَ الصَّائِمُونَ التَّرَكُّعُونَ السَّجْدُونَ أَيْ الْمُصَلُّونَ الْأُمُورُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ لَا حَكَمَ بِالْعَمَلِ بِهَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بِالْجَنَّةِ وَنَزَلَ فِي اسْتِغْفَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَهُ أَبِي طَالِبٍ وَاسْتِغْفَارِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِأَبَوَيْهِ الْمُشْرِكَيْنِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبَىٰ ذَوِي قَرَابَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ النَّارُ بَأَنَّ مَا تَوَا عَلَى الْكُفْرِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ بِقَوْلِهِ سَأَسْتَغْفِرُ



لَكَ رَبِّي رَجَاءٌ اِنْ يُسَلِّمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ بِمَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَتَرَكَ الْاِسْتِغْفَارَ لَهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَا وَاَهٗ كَثِيْرُ التَّضَرُّعِ وَالِدَعَاءِ حَلِيْمٌ ۝۱۱۹ صَبُوْرٌ عَلَى الْاَذٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ لَلْاِسْلَامِ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ اِىْ مِنْ الْعَمَلِ فَلَا يَتَّقُوْهُ فَيَسْتَحِقُّوا الْاِضْلَالَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۲۰ وَمِنْهُ مَسْتَحِقُّ الْاِضْلَالِ وَالْهٰدِيَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَمَا لَكُمْ اِثْمًا النَّاسُ مِمَّنْ دُوْنَ اللّٰهِ اِىْ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيٍّ يَحْفَظُكُمْ مِنْهُ وَلَا نَصِيْرٌ ۝۱۲۱ يَمْنَعُ عَنْكُمْ ضَرَرَهُ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ اِىْ اٰدَمَ تَوْبَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اِىْ وَقْتِهَا وَهٰى حَالُهُمْ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكٍ كَانَ الرِّجَالُ يَقْتَسِمُوْنَ تَمْرَةً وَالْعَشِيْرَةُ يَعْتَقِبُوْنَ الْبَعِيْرَ الْوَاحِدَ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ حَتّٰى شَرَبُوا الْفَرْثَ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَمِيْلُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ عَنْ اتِّبَاعِهِ اِلَى التَّخَلُّفِ لِمَا بِهِمْ مِنْ الشَّدَةِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ بِالْثَبَاتِ اِنَّهٗ بِهِمْ رَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۲۲ وَ تَابَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خَلَفُوْا عَنْ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ بِقَرِيْنَةٍ حَتّٰى اِذَا ضَاغَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اِىْ مَعَ رَحِبِهَا اِىْ سَعَتِهَا فَلَا يَجِدُوْنَ مَكَانًا يَطْمَئِنُّوْنَ اِلَيْهِ وَضَاغَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ قُلُوْبُهُمْ لِلْغَمِّ وَالْوَحْشَةِ بِتَاخِيْرِ تَوْبَتِهِمْ فَلَا يَسْمَعُهَا سُرُوْرٌ وَلَا اِنْسٌ وَظَنُّوْا اَيَقْنُوْا اَنْ مَّحْفَفَةٌ لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَفَقَّهَهُمُ لِلتَّوْبَةِ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝۱۲۳

**تَرْجُمہ:** حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کا جنت کے بدلے سودا کر لیا ہے اس طریقہ پر کہ وہ ان کو اس کی اطاعت میں مثلاً جہاد میں خرچ کریں وہ اللہ کے راستہ میں قتال کرتے ہیں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں (یُقاتِلُ) بیانِ ثراء کے لئے جملہ مستانفہ ہے، اور ایک قراءت میں یُقْتَلُوْنَ (مجبور) مقدم ہے (اور یُقاتِلُ) معروف مؤخر ہے، یعنی انہیں سے بعض قتل کئے جاتے ہیں اور باقی قتال کرتے ہیں، ان سے اللہ کی جانب سے (جنت) کا تورات اور انجیل اور قرآن میں پختہ وعدہ ہے (وعدداً اور حقاً) دونوں اپنے فعل محذوف کی وجہ سے مصدر منصوب ہیں، اور اللہ سے بڑھکر کون اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں، لہذا تم اپنے اس بیع کے معاملہ پر جو تم سے کیا ہے خوشیاں مناؤ اس میں غیبت سے (خطاب) کی جانب التفات ہے، یہ عظیم کامیابی ہے (یعنی) انتہائی مقصد کا حصول ہے، (وہ مجاہدین) شرک و نفاق سے توبہ کرنے والے ہیں (التائبون) مرفوع بالمدح ہے مبتداء کی تقدیر کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہر حال میں اسکی حمد بیان کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں رکوع سجدہ کرنے والے ہیں یعنی نماز پڑھنے والے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے اور بدی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کے احکام پر عمل کر کے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور (اے نبی) ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور

(آئندہ آیت) نبی ﷺ کے اپنے چچا ابوطالب کیلئے اور بعض صحابہ کے اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کرنے کے بارے میں نازل ہوئی نبی کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لئے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کفر پر مرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کیلئے دعاء مغفرت کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی کہ انہوں نے اپنے قول ”ساستغفر لک ربی“ سے استغفار کا وعدہ کیا تھا، اس امید پر کہ وہ ایمان لے آئیں گے، مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کے والد انکے کفر پر مرنے کی وجہ سے اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے اس سے اظہار بیزاری کر دیا، اور ان کے لئے دعاء مغفرت کرنی ترک کر دی، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور دعاء کرنے والے اور بردبار تکلیف پر صبر کرنے والے تھے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام کی ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرے جب تک کہ صاف صاف ان کو یہ نہ بتا دے کہ ان کو کن کاموں سے بچنا چاہئے پھر (بھی) اگر وہ اس سے نہ بچیں تو وہ گمراہی کے مستحق ہو جاتے ہیں، درحقیقت اللہ ہر شئی کا علم رکھتا ہے اور اسی میں سے استحقاق اضلال و ہدایت ہے یہ بھی واقعہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہی جلاتا اور مارتا ہے، اے لوگو! اللہ کے سوا اب نہ تمہارا کوئی حامی ہے جو اس سے تمہاری حفاظت کر سکے اور نہ مددگار کہ تم کو اس کے ضرر سے بچا سکے اللہ نے نبی کے حال پر اور مہاجرین و انصار کے حال پر توجہ فرمائی یعنی ان کی توبہ کو دوام بخشا، جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا ان کی یہ حالت غزوہ تبوک کے وقت تھی کہ دو آدمی ایک کھجور کو آدھا آدھا کرتے تھے اور دس آدمی ایک اونٹ پر باری باری سے سوار ہوتے تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا، یہاں تک کہ اوجھ (کاپانی) بھی پی گئے، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل آپ کی اتباع سے کچی یعنی تخلف کی طرف مائل ہو چلے تھے (تزیغ) یاء اور تاء کے ساتھ ہے اسلئے کہ وہ اس وقت بڑی تکلیف میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرما کر ان کی طرف توجہ فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ ان پر بڑا شفیق بڑا مہربان ہے اور ان تینوں حضرات کی طرف بھی توجہ فرمائی جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا تھا، یہ معنی حتیٰ اذا ضاقت کے قرینہ کی وجہ سے ہیں، جب زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو وہ کوئی ایسی جگہ نہ پاتے تھے جس میں ان کو اطمینان حاصل ہو سکے اور تاخیر (قبولیت) توبہ اور وحشت نیز غم کی وجہ سے خود ان کی اپنی جانیں بھی ان کو بار معلوم ہونے لگیں جس کی وجہ سے نہ ان کے قلوب میں سرور تھا اور نہ انس، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کیلئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا یعنی ان کو توبہ کی توفیق بخشی تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: بِأَنْ يَبْذُلُوهُ فِي طَاعَتِهِ، یہ ایک تمثیل ہے، یعنی مجاہدین کے اپنی جانوں اور مالوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کے عوض جنت دینے کو شراء سے تعبیر کیا ہے، لہذا حقیقت بیع و شراء ہونا ضروری نہیں ہے۔



**قَوْلٌ:** جملة استیناف، یہ ماسبق سے عدم وصل کی علت کا بیان ہے۔

**قَوْلٌ:** فَيُقْتَلُ بعضهم ويقاتلُ الباقي، یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ مجہول کے مقدم ہونے کی صورت میں جب وہ مقتول ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قتال کیسے کرتے ہیں؟

**جَوَابٌ:** کا حاصل یہ ہے کہ مسند الیہ جمیع مؤمنین ہیں، یعنی جب ان میں سے بعض مقتول ہو جاتے ہیں تو باقی پست ہمت ہو کر راہ فرار اختیار نہیں کرتے بلکہ قتال کرتے ہیں۔

**قَوْلٌ:** مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف، یعنی وعدًا اور حقًا دونوں اپنے اپنے فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہیں تقدیر عبارت یہ ہے وَعَدَهُمْ وَعَدًا وَحَقَّ الوعدُ حَقًّا، اور اس کا قرینہ شراء بمعنی وَعْد ہے۔

**قَوْلٌ:** رفع على المدح، نہ یہ کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے اسلئے کہ اس صورت میں بلا فائدہ حذف خبر کی ضرورت ہوگی، مرفوع بالمدح ہو نیکی صورت میں بھی اگرچہ حذف لازم آتا ہے مگر وہ فائدہ سے خالی نہیں ہے کما هو ظاهر۔

**قَوْلٌ:** بتقدير المبتدأ، اور وہ ہم ہے۔

**قَوْلٌ:** من الشرك والنفاق یہ دونوں التائبون سے متعلق ہیں۔

**قَوْلٌ:** الصائمون، یہ السائحون کے معنی کا بیان ہے آپ ﷺ نے فرمایا،، سَيَاحَةُ امْتِي الصَّوْمُ“۔

**قَوْلٌ:** ونزل في استغفاره ﷺ لعِمة ابی طالب، خواجہ ابوطالب جب زیادہ بیمار ہوئے تو آپ ﷺ نے خواجہ ابوطالب سے کہا یہ کلمہ (شہادت) کہہ لو تا کہ میں اسکے ذریعہ اللہ کے روبرو حجت پیش کر سکوں مگر خواجہ ابوطالب نے انکار کر دیا، تو اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا ”لَا أَزَالُ استغفر لك ما لم أُنه عنه“ (رواہ الشیخان) اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اپنے والدین کیلئے دعاء مغفرت کر رہا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ تو اپنے والدین کے لئے دعاء مغفرت کر رہا ہے حالانکہ وہ کافر تھے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لئے دعاء استغفار کی تھی حالانکہ ان کے والد مشرک تھے، یہ واقعہ آپ ﷺ کے روبرو ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(رواہ الترمذی)

**قَوْلٌ:** آوَاهُ، یہ فَعَالٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت آہ کر نیوالا، نرم دل۔

**قَوْلٌ:** أَدَامَ تَوْبَتَهُ، یہ اس سوال مقدر کا جواب ہے کہ قبولیت توبہ کے لئے اول ارتکاب معصیت لازم ہے اس لئے کہ قبولیت توبہ ارتکاب معصیت کی فرع ہے حالانکہ آپ ﷺ معصوم ہیں اور صحابہ نے بھی اس واقعہ میں کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا تو پھر توبہ کی قبولیت کا کیا مطلب ہے؟

**جَوَابٌ:** دوام اور ثبات علی التوبة مراد ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

## رابط آیات:

سابقہ آیات میں جہاد سے بلا عذر بیٹھ رہنے کا بیان تھا، ان آیات میں جہاد میں شریک ہو کر اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔

## شان نزول:

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳ نبوی میں ستر شرفاء مدینہ نے مکہ میں آ کر آپ ﷺ سے بیعت کی اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے اس وفد کے قائد حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، جب وفد کے شرکاء آپ ﷺ سے بیعت کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ”اشترط لربك ولنفسك“ آپ ﷺ اپنے رب اور اپنے لئے شرط لگائیے! آپ نے فرمایا ”اشترط لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاً“ میرے رب کی شرط یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے لئے شرط یہ ہے کہ جس طرح تم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو میری بھی حفاظت کرو، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اے اللہ کے رسول اسکے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”جنت“ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ”ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل“ سودا نفع کا ہے نہ ہم اس بیع کو توڑیں گے اور نہ توڑنے کی درخواست کریں گے، تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ قرآن مجید تو اس مضمون کی تکرار سے بھرپڑا ہے، قرآن کے ساتھ تورات اور انجیل کے ناموں کا اضافہ بیان کی تاکید کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔

## اعتراض اور جواب:

اس بات پر بہت سے اعتراضات کئے گئے ہیں کہ جس وعدہ کا یہاں ذکر ہے وہ تورات اور انجیل میں موجود نہیں ہے۔  
جواب: تورات میں تحریفات اور ترمیمات دوست و دشمن سب کے نزدیک مسلم ہیں، اگر موجودہ تورات میں اس قسم کا مضمون نہ ملے جب بھی کوئی مضائقہ نہیں جہاں تک انجیل کا تعلق ہے تو یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں تمام تر تحریفات کے باوجود جو انجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعدد اقوال ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے مضمون کے ہم معنی ہیں مثلاً۔  
”جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں سے یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتیوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو



(متی ۱۹: ۲۹)

سوگنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔

”مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت ان ہی کی ہے۔“ (متی ۱: ۵)

## کعب بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کی کہانی خود ان کی زبانی:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، یہ وہی تین آدمی ہی جن کی طرف مذکورہ آیت میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، جن کی توبہ قبول کرنے میں پچاس روز کی مہلت دی گئی تھی، اس کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں خود کعب بن مالک کی روایت سے اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ میں سوائے تبوک اور بدر کے ہر لڑائی میں شریک رہا ہوں حالانکہ غزوہ تبوک کے وقت میں بہت آسودہ حال تھا، آپ ﷺ کی عادت مبارکہ اگرچہ مصلحتاً اپنے جنگی سفر کی تفصیلات اور رخ کو پوشیدہ رکھنے کی تھی، تبوک کا سفر چونکہ بعید اور دشوار تھا اسلئے آپ نے مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا کہ میرا ارادہ تبوک جانیکا ہے تم دشمن کے مقابلہ کے لئے تیاری کرو، میں چونکہ خوشحال تھا اسلئے میں نے سوچا کہ جب چاہوں گا سامان سفر تیار کر لوں گا مگر آج کل کرتے کرتے وقت گزر گیا اور آپ ﷺ سفر پر روانہ ہو گئے، پھر بھی میں یہ سوچتا رہا ان کو جانے دو میں ایک دوروز میں ان سے جا کر مل جاؤنگا، حتیٰ کہ اسلامی لشکر منزل مقصود پر پہنچ کر اور وہاں کچھ روز قیام کر کے واپس بھی آ گیا، مگر میں شریک نہ ہو سکا، مجھے اس بات کا بڑا رنج تھا، جب میں مدینہ میں گھر سے باہر نکلا کرتا تھا تو مجھے سوائے معذورین اور منافقوں کے کوئی نظر نہ آتا تھا آپ ﷺ نے تبوک پہنچنے پر لوگوں سے میرے بارے میں دریافت کیا کہ کعب کیوں نہیں آئے، بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہا وہ آجکل کرتے کرتے رہ گئے جب آپ واپس تشریف لائے تو میں پیش بندی کے طور پر حیلے بہانے سوچنے لگا بلکہ اس سلسلہ میں اپنے گھر والوں اور دیگر حضرات سے بھی مشورہ کرتا مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر یہ بات سمجھ میں آئی کہ چاہے جو کچھ ہو میں سچ بات کہہ دوںگا، اگر نجات ہوگی تو اسی میں ہوگی، آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب سفر سے تشریف لاتے تو اول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے اس مرتبہ بھی آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، تقریباً اسی آدمی تھے جنہوں نے اپنے عذر بیان کئے اور آپ نے ان کا عذر قبول فرمالیا اور انکے لئے مغفرت کی دعاء کی جب میرا نمبر آیا میں نے سلام کیا اور آپ مسکرائے اور غصہ میں فرمایا، آج میں سامنے بیٹھ گیا آپ ﷺ نے فرمایا تو کیوں رہ گیا تھا؟ کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آج اگر میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو جھوٹ بولکر عذر و حیلہ کر لیتا اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو اصل حقیقت اللہ آپ پر ظاہر کر دے گا، اور اگر سچ بولوں گا تو آپ اگر خفاء بھی ہونگے تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے یہاں انجام بخیر ہوگا، واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور میں پہلے کی بہ نسبت خوشحال بھی تھا، آپ نے فرمایا ”تو نے سچ کہا“ اچھا جاؤ اللہ تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ کرے گا میں چلا آیا لوگ کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا؟ تو بھی دوسروں کی طرح عذر بیان کر دیتا، آپ ﷺ کی مغفرت کی دعاء تیرے لئے کافی تھی، میں نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ میرے بعد اور کون کون آیا

تھا؟ بتایا گیا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ آئے تھے انہوں نے بھی تمہاری طرح سچ کہا آپ ﷺ نے ان سے بھی وہی فرمایا جو تم سے فرمایا، پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو ہم تینوں سے بات کرنے سے منع فرمادیا غرضیکہ سب لوگوں نے ہم سے بات چیت بند کر دی پچاس روز اسی حالت میں گزرے اور بیچارے وہ دونوں تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے رویا کرتے تھے میں نماز کے لئے مسجد میں جایا کرتا تھا تو آنحضرت ﷺ میری طرف سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، ابو قتادہ جو میرے چچا زاد بھائی تھے میں جب ان کو سلام کرتا تو وہ بھی جواب نہیں دیتے تھے، جب چالیس راتیں گزر گئیں تو آپ ﷺ نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں میں نے اس کو میکے چلے جانے کو کہہ دیا ہلال بن امیہ ایک ضعیف آدمی تھے ان کی بیوی نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ کوئی خادم نہیں ہے ان کو بہت تکلیف ہوگی آپ ﷺ نے ہلال کی بیوی کو خدمت کی اجازت دیدی اور فرمایا کہ اسکے پاس نہ جانا (مباشرت نہ کرنا) جب پچاس راتیں پوری ہو گئیں اور میں فجر کی نماز اپنے مکان کی چھت پر پڑھ رہا تھا، یہ آواز میرے کانوں میں آئی خوش ہو جاؤ اے کعب بن مالک پھر تو میں سجدے میں گر پڑا، اور سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی صبح کو لوگ میرے اور ان دونوں کے پاس مبارک باد دینے کے لئے آنے لگے جب میں مسجد میں آیا تو طلحہ بن عبید اللہ نے مجھ سے مصافحہ کر کے مبارک باد دی پھر میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا پھر آپ نے توبہ کی خوش خبری سنائی، میں نے عرض کیا میں اس خوشی میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دیتا ہوں آپ نے سارا مال قبول نہیں فرمایا بلکہ ایک تہائی قبول فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ بترك معاصيه وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۹﴾ فِي الْإِيمَانِ وَالْعَهْدِ بَأَنْ تَلْزَمُوا الصَّدَقَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا غَزَا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ بَأَنْ يَصُونُوهَا عَمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَهُوَ نَهَى بِلَفْظِ الْخَبَرِ ذَلِكَ أَيِ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلُّفِ بِأَنَّهُمْ بِسَبَبِ انْهَمَ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمًا عَطَشٌ وَلَا نَصَبٌ تَعَبٌ وَلَا خُمَصَةٌ جُوعٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤُونَ مَوْطِئًا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى وَطْئًا يَغِيظُ يَغْضِبُ الْكُفَّارَ وَلَا يِنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ نَيْلًا قِتْلًا أَوْ اسْرًا أَوْ نَهْبًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ لِيَجْزَوْا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾ أَيِ أَجْرِهِمْ بَلْ يَشِبُّهُمْ وَلَا يَنْفَقُونَ فِيهِ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا تَمْرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا بِالسَّرِيرِ إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ ذَلِكَ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ أَيِ جَزَاءٍ وَلَمَّا وَبَّخُوا عَلَى التَّخَلُّفِ وَارْسَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً نَفَرُوا جَمِيعًا فَنَزَلَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا إِلَى الْغَزْوِ كَافَّةً فَلَوْلَا فَهْلًا نَفَرَتْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ قَبِيلَةٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ جَمَاعَةٌ وَمَكَثَ الْبَاقُونَ لِيَتَفَقَّهُوا أَيِ الْمَاكُثُونَ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ بِتَعْلِيمٍ مَا تَعَلَّمُوهُ مِنَ الْأَحْكَامِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲﴾ عِقَابُ اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَهَذِهِ مَخْصُوصَةٌ بِالسَّرَايَا وَالَّتِي قَبْلَهَا بِالنَّهْيِ عَنِ التَّخَلُّفِ أَحَدٍ فِيمَا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



**تَرْجُمَہ:** اے ایمان والو ترک معصیت کر کے اللہ سے ڈرو اور ایمان اور معاہدوں میں سچوں کے ساتھ رہو بایں صورت کہ سچ کو لازم پکڑے رہو، مدینہ والوں کے لئے اور اسکے اطراف کے دیہاتی باشندوں کے لئے ہرگز یہ مناسب نہیں تھا کہ غزوہ کے وقت رسول ﷺ سے پیچھے رہتے اور نہ یہ زیبا کہ اپنی جانوں کو آپ ﷺ کی جان سے عزیز سمجھیں بایں صورت کہ اپنی جانوں کو ان شدائد سے بچائیں کہ جن کو آپ ﷺ نے اپنے لئے پسند فرمایا ہے، (لایسرغبون) بصورت نہیں خبر ہے، یہ یعنی تخلف سے ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو جسمانی مشقت اٹھانی پڑی اور جو بھوک اللہ کی راہ میں ان کو لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے کہ جو کفار کے لئے موجب غضب ہو مَوْطِئًا مصدر بمعنی و طأ ہے اور جو کچھ ان کو دشمن کی طرف سے قتل یا قید یا لوٹ کی شکل میں پیش آیا (ان سب پر) ان کے نام نیک عمل لکھا گیا تا کہ ان (اعمال) پر ان کو جزا دی جائے، یقیناً اللہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا (اجر المحسنین، ای اجر ہم) بلکہ ان کو اجر عطا کرے گا اور راہ خدا میں جو کچھ انہوں نے قلیل یا کثیر خرچ کیا اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اور جو وادیاں ان کو طے کرنی پڑیں مگر یہ کہ اس کو (ان کے اعمال ناموں میں) لکھ دیا گیا تا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ دے یعنی ان کی جزاء اور جب پیچھے رہ جانے والوں کو ان کے پیچھے رہ جانے پر ڈانٹ پلائی گئی اور آپ ﷺ نے سریہ روانہ فرمایا تو سب کے سب نکل پڑے تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی، اور مومنین کو یہ نہ چاہئے کہ سب کے سب غزوہ کے لئے نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جا لے کرے اور باقی ٹھہرے رہیں تاکہ یہ ٹھہرے رہنے والے دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب غزوہ سے وہ لوگ ان کے پاس واپس آئیں تو ان کو وہ تعلیم دیکر جو انہوں نے احکام کی حاصل کی ہے ڈرائیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے اسکے امر و نہی کی اتباع کر کے ڈر جائیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ (حکم) سرایا کے ساتھ خاص ہے، اور سابقہ آیت جو کسی کے پیچھے رہ جانے کی ممانعت کے بارے میں ہے وہ اس وقت ہے جبکہ آپ ﷺ بھی غزوہ کیلئے نکلے ہوں۔

## تَحْقِيقُ تَرْكِ تَسْبِيلٍ وَ تَفْسِيرُ فَوَائِدِ

**قَوْلُہ:** فی الایمان والعہود، اس میں اشارہ ہے کہ مع الصادقین میں معیت سے معیت فی الایمان مراد ہے نہ کہ معیت فی المعاملات والمکان، اسلئے کہ اس معیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو۔

**قَوْلُہ:** تلزموا الصدق یہ معیت کے طریقہ کا بیان ہے۔

**قَوْلُہ:** بان یصونوا الخ یہ حاصل معنی کا بیان ہے، بانفسہم، میں باء تعدیہ کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ جن شدائد ومصائب میں خود کو ڈالا ہے آپ کو جو تکالیف پیش آرہی ہیں تم اس سے خود کو بچانے کی کوشش نہ کرو۔

قَوْلًا: وهو نهى بلفظ الخبر، یہ بطور مبالغہ کے ہے۔

قَوْلًا: ای النهی، یہ ذلك کے مرجع کا بیان ہے اور نہی سے وہ نہی مراد ہے جو ماکان لاهل المدينة الخ سے مفہوم ہے۔

قَوْلًا: مصدر بمعنی وطنًا یعنی موطنًا، وطأ کے معنی میں مصدر میمی ہے نہ کہ ظرف۔

قَوْلًا: ولا ینالون ای لا یصیبون، پیش آنا یعنی دقت اور پریشانی کا پیش آنا۔

قَوْلًا: نبالًا، ای اصابة، ای یصیبون اصابة یہ ہر تکلیف اور مصیبت کو عام ہے۔

قَوْلًا: ای اجرهم اس اضافہ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ المحسنین، ضمیر، ہم، کی جگہ ان کی صفت

احسان کو بیان کر نیکے لئے لایا گیا ہے، ورنہ تو اجرهم کہنا کافی ہوتا مگر اس میں دلالت علی الاحسان نہ ہوتی۔

قَوْلًا: ذلك، اس میں اشارہ ہے کہ کتب کی ضمیر، اتفاق اور قطع وادی دونوں کی طرف بتاویل مذکور لوٹ رہی ہے لہذا عدم

مطابقت کا شبہ ختم ہو گیا۔

قَوْلًا: لَمَّا وَبَّخُوا عَلَى التَّخَلْفِ اس میں آئندہ آیت (وماکان) کے سبب نزول کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلًا: قبيلة، فرقة کی تفسیر قبيلة سے کر کے اشارہ کر دیا کہ فرقہ سے بڑی جماعت مراد ہے۔

قَوْلًا: مکث الباقون، اس میں اشارہ ہے کہ لیتفقہوا کی ضمیر محذوف کے متعلق ہے نہ کہ نفرو کے لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ

غزاة جہاد میں کس طرح فقہ حاصل کریں گے۔

قَوْلًا: والَّتِي قَبْلَهَا بِالنَّهْيِ عَنِ التَّخَلْفِ الخ اس اضافہ کا مقصد دونوں آیتوں میں تعارض کو دفع کرنا ہے، ماکان

لَا هَلَّ الْمَدِينَةِ الخ میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کو بھی غزوہ میں شرکت سے پیٹھنا جائز نہیں ہے اور وماکان المؤمنون

لَيَنْفِرُوا الخ میں سب کو نکلنے سے منع فرمایا گیا ہے دونوں آیتوں کے مفہوم میں تعارض ہے، الَّتِي قَبْلَهَا الخ سے اسی شبہ کا

جواب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں جو نہی ہے وہ اس صورت میں ہے، جبکہ نفیر عام ہو اور آپ ﷺ بذات خود

نکلیں اور قلیل جماعت کے نکلنے اور بڑی جماعت کے مدینہ میں رہنے کا حکم سرایا کا ہے جبکہ اعلان عام نہ ہو اور آپ بذات

خود شریک نہ ہوں۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

### رَبطُ آیَاتِ:

اس آیت کا سابقہ آیت سے ربط یہ ہے بعض لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے اور بعض وہ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے

تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے ان پر اظہار ناراضگی کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی اس میں فرمایا کہ ان لوگوں

کو یہ بات زیبا نہیں تھی کہ اپنی جان کو آپ ﷺ کی جان سے عزیز رکھتے، اگر یہ شریک ہوتے تو ان کی بھوک پیاس ساری



مشقتیں اور خدا کی راہ میں ایک ایک قدم دشمنوں کو ڈرانا دھمکانا ان کو قتل کرنا اور قتل و قید ہونا، سب نیکی میں شمار کئے جاتے گھر بیٹھ کر انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔

خلاصہ یہ کہ یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں اور خدا کے رسول راہ خدا میں مشقتیں اور صعوبتیں اٹھائیں، فقہاء مفسرین نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ یہ معیت اور نصرت صرف عرب تک محدود یا شان رسالت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ نصرت دین مقصود ہے، اسلئے ہر مسلم پر ہر زمانہ میں واجب ہے کہ امام وقت کی اطاعت و حفاظت میں مستعد رہے آیت میں کلام اگرچہ بصیغہ خبر ہے مگر مراد نہی ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے۔ (ماجدی)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً الخ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جب پیچھے رہ جانے والوں کے لئے سخت وعید اور زجر و تنبیخ بیان کی گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے، اس آیت میں ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک جماعت ہی کی شرکت کافی ہے، ان مفسرین کے نزدیک لیتفقہوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا گروہ ہے یعنی ایک گروہ جہاد میں چلا جائے اور ایک گروہ مدینہ میں مقیم رہے (وَمَكَثَ الْبَاقُونَ) سے اسی کی طرف اشارہ ہے، مدینہ میں مقیم رہنے والا گروہ علم دین حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آجائیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کرے اور انہیں معصیت اور خلاف ورزی سے ڈرائیں۔

## آیت کی دوسری تفسیر:

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان اور اس کے طریقے کی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت اور قبیلہ میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کیلئے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس و مراکز علم میں جا کر علم حاصل کریں اور پھر آکر اپنی قوم میں وعظ و نصیحت کے ذریعہ دین پھیلائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ۚ إِيَّاهُمُ الْأَقْرَبُ ۚ فَالْقُرْبَ مِنْهُمْ وَلَئِنْ جَدُّوا فِيكُمْ غُلَظَّةً شِدَّةً ۚ إِيَّاهُمْ غُلَظُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝۳۳ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ ۚ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ فَمِنْهُمْ أِي الْمُنَافِقِينَ ۚ مَنْ يَقُولُ لَا صَحَابَةَ لِّهَٰؤُلَاءِ ۚ أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ تَصْدِيقًا ۚ قَالَ تَعَالَىٰ فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۚ فَتَصَدَّقُوا ۚ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝۳۴ يَفْرَحُونَ بِهَا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ ضَعُفُ عَقْدِهِمْ ۚ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ۚ فَكَرُّوا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ ۚ لَكُفْرِهِمْ بِهَا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝۳۵ أَوَلَا يَرَوْنَ ۚ أَيْ الْمُنَافِقُونَ ۚ وَالتَّاءُ إِيَّاهَا الْمُؤْمِنُونَ ۚ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ۚ يَبْتَلُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ۚ بِالقَحْطِ وَالْأَمْرَاضِ ۚ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ۚ مِّنْ نَّفَاقِهِمْ ۚ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝۳۶

یَتَعٰظُوْنَ وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فِیْهَا ذِکْرُہِمَّ وَقْرَآہَا النَّبِیُّ نَظَرَ بَعْضُہُمْ اِلٰی بَعْضٍ یَّرِیْدُوْنَ السَّهْرَ یَقُوْلُوْنَ هَلْ یَرٰیْکُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِذَا قُمْتُمْ فَاِنْ لَّمْ یَرِہِمُ اَحَدٌ قَامُوا وَالَاثْبُتُوا ثُمَّ اَنْصَرَفُوْا عَلٰی کُفْرِہِمَّ صَرَفَ اللّٰہِ قُلُوْبُہُمْ عَنِ الْہُدٰی بِاَنْہُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَہُوْنَ ﴿۱۷﴾ الْحَقُّ لَعْدَمِ تَدْبِیْرِہِمُ لَقَدْ جَآءَکُمْ رَّسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اٰی مِنْکُمْ مُحَمَّدٌ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَمٌ عَزِیْزٌ شَدِیْدٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ اٰی عَنْتُکُمْ اٰی مَسَقَّتُکُمْ وَلَقَاؤُکُمْ الْمَكْرُوۃَ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ اِنْ تَهْتَدُوْا بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ شَدِیْدُ الرَّحْمَةِ رَّحِیْمٌ ﴿۱۸﴾ یَرِیْدُ لَہُمْ الْخَیْرَ فَاِنْ تَوَلَّوْا عَنْ الْاِیْمَانِ بِکَ فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ بِہِ وَتَقَاتُ لَا بَغِیْرَہِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۹﴾ خَصَّہُ بِالذِّکْرِ لِاَنَّهُ اعْظَمُ الْمَخْلُوْقَاتِ رَوٰی الْحَاکِمُ فِی الْمُسْتَدْرِکِ عَنْ اَبِیْ بَنْ کَعْبٍ قَالَ اٰخِرَایَۃٌ نَزَلَتْ لَقَدْ جَآءَکُمْ رَّسُوْلٌ اِلٰی اٰخِرِ السُّوْرَةِ۔

**ترجمہ:** اے ایمان والو! تم اپنے آس پاس والے منکرین (کفار) سے قتال کرو یعنی ان سے الاقرب فالاقرب کے قاعدہ کے مطابق بالترتیب، اور چاہئے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں یعنی تم ان کے ساتھ سخت رویہ رکھو، اور یقین رکھو اللہ مدد اور نصرت کے ذریعہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور جب (نئی) سورت قرآن کی نازل ہوتی ہے تو ان منافقین میں سے کچھ لوگ آپ ﷺ کے اصحاب سے استہزاء کرتے ہیں (بتاؤ) اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں تصدیق کا اضافہ کیا سو (سنو) جو لوگ اہل ایمان ہیں (اس سورت نے) ان کے ایمان میں ان کے اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اضافہ کر دیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں یعنی اس سورت کے نزول سے خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ضعف اعتقاد کا مرض ہے (اس سورت نے ان) کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کر دیا اس سورت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے کفر میں مزید کفر کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ حالت کفر ہی پر مر گئے کیا یہ منافق نہیں دیکھتے (یٰرَوْنَ) یا اور تاء کے ساتھ ہے، اے مومنو! ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ خشک سالی اور امراض کے ذریعہ آزمایا جاتا ہے مگر یہ لوگ پھر بھی نفاق سے باز نہیں آتے اور نہ وہ سبق لیتے ہیں اور جب کوئی (نئی) سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں (یعنی آنکھوں کے اشارہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں) (در اصل) وہ کھسک جانا چاہتے ہیں حال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کو کھسکتے ہوئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اگر انھیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ورنہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر یہ لوگ کفر کی طرف پلٹ گئے اللہ ان کے قلوب کو ہدایت سے پھیر دے اور یہ اس لئے ہوا کہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں یعنی ان کے عدم تدبر کی وجہ سے حق کو سمجھتے نہیں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، یعنی تم ہی میں سے ہیں (اور) وہ محمد ﷺ ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے یعنی تمہاری تکلیف مشقت اور تم کو نا پسندیدہ چیز کا پیش آنا (اس پر شاق ہے) تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے یہ کہ تم ہدایت پر آ جاؤ اور ایمان والوں کے لئے وہ شفیق اور مہربان ہے، ان کے لئے خیر چاہتے ہیں اب اگر یہ لوگ تم پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں تو تم



کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی اسی پر اعتماد کیا ہے نہ کہ کسی اور پر، اور عرش عظیم کرسی کا مالک ہے عرش کے ذکر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعظم مخلوقات میں سے ہے، حاکم نے مستدرک میں ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ”لقد جاء کمر رسول، آخر سورت تک ہے۔“

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: يَلُونَكُمْ، وَلِيٌّ سے جمع مذکر غائب، وہ جو تم سے قریب ہیں۔

قَوْلُهُ: اِيْ اَغْلَظُوا عَلَيْهِمْ، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: یہ ہے کہ وَلِيٍّ جِدُّوْا، یہ کفار کو امر ہے کہ وہ مسلمانوں میں غلظت اور سختی پائیں حالانکہ کفار پر وجدان غلظت واجب نہیں ہے۔

جَوَابٌ: یہ ہے کہ گو بظاہر امر کفار کو ہے مگر حقیقت میں امر مومنین کو ہے، آیت میں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: يَقُولُونَ الْخ.

سُؤَالٌ: يَقُولُونَ مقدر ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جَوَابٌ: چونکہ هل يَرَاكُمْ، کا ماقبل یعنی نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ میں بظاہر کوئی ربط نہیں ہے اسلئے کہ هل يَرَاكُمْ حاضر ہے اور نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ غائب ہے، اس میں ربط پیدا کرنے کے لئے يَقُولُونَ محذوف ماننے کی ضرورت پیش آئی۔

قَوْلُهُ: مِنْ اَحَدٍ، اِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

قَوْلُهُ: صَرَفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ دَرَاْصِلَ مَنَافِقِيْنَ کے لئے بددعاء ہے اسلئے کہ یہ مقام کے مناسب ہے نہ خبر۔

قَوْلُهُ: بَاْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ يَهْ انصرفوا کے متعلق ہے نہ کہ صَرَفَ اللّٰهُ، کے اسلئے کہ یہ جملہ معترضہ دعائیہ ہے۔

قَوْلُهُ: مِنْكُمْ اِيْ مِنْ جَنْسِكُمْ، اِيْ عَرَبِيٍّ، قَرِيشِيٍّ مِثْلَكُمْ.

قَوْلُهُ: اِيْ عَنْتَكُمْ اس میں اشارہ ہے کہ مَا عَنِتُّمْ میں ما مصدر یہ ہے نہ کہ موصولہ اس میں عائد کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا عدم عائد کا شبہ ختم ہو گیا۔

## تفسیر و تشریح

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ الخ اس آیت میں منکرین حق سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے یعنی الاول فالاول اور الاقرب فالاقرب کے مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے پہلے

جزیرۃ العرب کے عربوں سے جہاد کیا جب ان سے فارغ ہو گئے اور مکہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور عرب کے تمام قبائل اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا اس کے بعد ۹ھ میں رومیوں سے قتال کے لئے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرۃ العرب کے قریب ہے اسی کے مطابق آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال کیا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْخُ اس سورت میں منافقین کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی ہے یہ آیت اسی کا تتمہ ہے، اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور ان کے علم میں بات آتی ہے تو وہ استہزا اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



سُورَةُ يُنُسُ هِيَ مَكِّيَّةٌ وَتَتَقَسَّعُ آيَاتُهَا عَشْرًا

سُورَةُ يُنُسُ مَكِّيَّةٌ اِلَّا فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ الْاِيتَيْنِ اَوْ الثَّلَاثِ

اَوْ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ الْاِيَةُ مِائَةٌ وَتَسْعُ اَوْ عَشْرُ آيَاتٍ.

سورہ یونس مکی ہے سوائے فان کنت فی شک دو آیتیں یا تین آیتیں،

یا ومنہم من یؤمن بہ، ایک آیت، ایک سو نو یا ایک سو دس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَرَادِهِ بِذَلِكَ تِلْكَ اَيْ هَذِهِ الْاَيَاتُ  
اَيْتُ الْكِتَابِ الْقُرْآنِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنَى مِنَ الْحَكِيمِ الْمَحْكَمِ اَكَانَ لِلنَّاسِ اَيْ اِهْلٍ مَكَّةَ اسْتَفْهَامُ اِنْكَارٍ وَالْجَارُ  
وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ عَجَبًا بِالنَّصْبِ خَيْرٌ كَانَ وَبِالرَّفْعِ اسْمُهَا وَالْخَيْرُ وَهُوَ اسْمُهَا عَلَى الْاَوَّلَى اَنْ اَوْحَيْنَا  
اَيْ اِيْحَاوْنَا اِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ مَفْسِرَةٌ اَنْذِرْ خَوْفَ النَّاسِ الْكَافِرِينَ بِالْعَذَابِ  
وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَيْ اَيَّانَ لَهُمْ قَدَمٌ سَلَفَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَيْ اَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوا مِنْ الْاَعْمَالِ  
قَالَ الْكُفْرُونَ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمَشْتَمِلَ عَلَى ذَلِكَ لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۝ بَيِّنٌ وَفِي قِرَاءَةِ لِسَاحِرٍ وَالْمَشَارُ اِلَيْهِ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَيْ فِي قَدَرِهَا لِاَنَّهُ  
لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٌ وَلَا شَيْءٌ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَمَحَةٍ وَالْعَدُولُ عَنْهُ لِتَعْلِيمِ خَلْقِهِ التَّثْبِتُ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى  
الْعَرْشِ اسْتَوَاءً يَلِيقُ بِهِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ مَا مِنْ زَائِدَةٍ شَفِيعٍ يَشْفَعُ لِاحِدٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ رَدُّ  
لِقَوْلِهِمْ اِنَّ الْاَصْنَامَ تَشْفَعُ لَهُمْ ذَلِكُمْ الْخَالِقُ الْمَدْبُرُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝ وَحُدُودُهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ بِادْغَامِ التَّاءِ  
فِي الْاَصْلِ فِي الذَّالِ اِلَيْهِ تَعَالَى مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا مُصَدِّرَانِ مَنْصُوبَانِ بِفَعْلِهِمَا الْمَقْدَرُ اِنَّهُ  
بِالْكَسْرِ اسْتِيفَاً وَالْفَتْحُ عَلَى تَقْدِيرِ الْاَلَامِ يَبْدُو الْخَلْقَ اَيْ بَدَأَهُ بِالْاِنْشَاءِ ثُمَّ يُعِيدُهُ بِالْبَعْثِ لِيُجْزِيَ لِيُثَبِّتَ  
الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ مَاءٍ بَالِغِ نَهَايَةِ الْحَرَارَةِ وَعَذَابُ الْيَمِّ مُؤْلِمٌ

يَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④ اِی لَشِبَّ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً ذَاتَ ضِيَاءٍ اِی نُورٍ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ  
 مِنْ حَيْثُ سَيَّرَهُ مَنَازِلَ ثَمَانِيَةٍ وَعَشْرَيْنَ مَنَازِلًا فِي ثَمَانٍ وَعَشْرِينَ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَسْتَرْ لَيْلَتَيْنِ اِنْ كَانَ  
 الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَلَيْلَةً اِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعَشْرِينَ يَوْمًا لِنَعْمُوا بِذَلِكَ عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ  
 الْمَذْكُورَ اِلَّا بِالْحَقِّ لَا عَبَثًا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ يَفْصِلُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ يُبَيِّنُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمُونَ ⑤ يَتَدَبَّرُونَ  
 اِنْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالذِّهَابِ وَالْمَجَى وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَشَمْسٍ  
 وَقَمَرٍ وَنَجْمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي الْأَرْضِ مِنْ حَيَوَانَ وَجِبَالٍ وَبَحَارٍ وَأَنْهَارٍ وَأَشْجَارٍ وَغَيْرِهَا لَايَاتٍ دَلَالَاتٍ  
 عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥ فَيُؤْمِنُونَ خُصَمَهُم بِالذِّكْرِ لَأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا  
 بِالْبَعْثِ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَدَلَ الْآخِرَةِ لَأَنكَارَهُمْ لَهَا وَاطْمَأْنُوْا بِهَا سَكَنُوا إِلَيْهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا  
 دَلَائِلٍ وَحَدَائِثِنَا غَفَلُونَ ⑦ تَارِكُونَ النَّظَرَ فِيهَا أُولَئِكَ مَا أَوْفَى النَّارِ يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ مِنْ الشَّرِكِ وَالْمَعَاصِي  
 اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ يُرْشِدُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ بِهِ بِأَن يَجْعَلَ لَهُمْ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ  
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨ دَعَوْهُمْ فِيهَا طَلَبُهُمْ لِمَا يَشْتَهُونَهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولُوا  
 سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ اِی يَا اللَّهَ فَاِذَا مَا طَلَبُوهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَتَحْتَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخِرْ دَعْوُهُمْ أَنْ  
 مَفْسِرَةٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩

**ترجمہ:** شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرء اس سے اپنی مراد کو اللہ ہی بہتر  
 جانتا ہے یہ محکم کتاب (یعنی) قرآن کی آیتیں ہیں (آیت الکتاب) میں اضافت بمعنی من ہے کیا ان لوگوں کو یعنی اہل  
 مکہ کو اس بات سے تعجب ہوا، استفہام انکاری ہے اور جار مجرور اس کے قول عجباً سے حال ہے، عجباً نصب کے ساتھ  
 کان کی خبر ہے اور رفع کے ساتھ کان کا اسم ہے اور خبر أن اَوْحَيْنَا الْخ ہے اور اَوْحَيْنَا اسم ہے پہلی (یعنی نصب کی)  
 صورت میں أن اَوْحَيْنَا، اِیْحَاؤُنَا مصدر کے معنی میں ہے، کہ ہم نے ان میں کے ایک شخص محمد ﷺ کے پاس وحی بھیج  
 دی کہ لوگوں یعنی کافروں کو عذاب سے ڈرائیے اُن مفسرہ ہے اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری سنائیے، کہ ان کے  
 لئے ان کے رب کے پاس سچی عزت ہے یعنی ان کے کئے ہوئے اعمال کا اچھا بدلہ ہے، کافر کہنے لگے یہ قرآن جو انذار  
 و تبشیر پر مشتمل ہے بلاشبہ کھلا جادو ہے اور ایک قراءت میں لساحر ہے (اس صورت میں) ذلک کا مشاڑ الیہ آپ ﷺ  
 ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو دنیا کے دنوں کے اعتبار سے چھ دنوں میں  
 یعنی ان کی مقدار میں پیدا فرمایا اس لئے کہ اس وقت سورج اور چاند نہیں تھے، اور اگر خدا چاہتا تو ایک لمحہ میں ان کو پیدا  
 فرما دیتا مگر اس سے عدول کرنے میں اپنی مخلوق کو عدم عجلت کی تعلیم دینی مقصود تھی پھر تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا جیسا کہ



اس کی شایان شان ہے، وہ مخلوق کے ہر امر کی تدبیر کرتا ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے، (من شفیع میں) من زائدہ ہے، یہ (کفار) کے اس عقیدہ کا رد ہے کہ بت ان کی سفارش کریں گے، یہی خالق مدبر اللہ تمہارا رب ہے صرف اسی کی بندگی کرو کیا تم (ان دلائل کے سننے کے بعد بھی) نہیں سمجھتے، (تذکرون) میں دراصل تاء کا ذال میں ادغام ہے، تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے اس نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، (وعدداً اور حقاً) دونوں مصدر ہیں جو اپنے فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہیں بے شک (انہ) کسرہ کے ساتھ ہے استیناف کی وجہ سے اور فتح تقدیر لام کی صورت میں ہے، وہی ابتداء پیدا کرتا ہے یعنی اس نے پیدائش کی ابتداء کی، پھر بعث کے ذریعہ دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پینے کے لئے انتہائی گرم پانی ملے گا یعنی حرارت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے یعنی ان کے کفر کے سبب ان کو سزا دی جائے گی وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا یعنی روشنی والا یعنی چمکدار بنایا اور چاند کو نور عطا کیا اور چاند کے لئے اس کی رفتار کے اعتبار سے ہر ماہ میں اٹھائیس راتوں میں اٹھائیس منزلیں بنائیں اور دو راتیں پوشیدہ رہتا ہے اگر مہینہ تیس دنوں کا ہو اور ایک رات پوشیدہ رہتا ہے اگر مہینہ ۲۹ دنوں کا ہو، تاکہ تم اس کے ذریعہ برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ با مقصد بنایا ہے نہ کہ (عبث) بے مقصد اللہ اس سے وراء الوراء ہے وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں (یعنی) آنے اور جانے میں بڑھنے اور گھٹنے میں اور ہر اس چیز میں جو اس نے آسمانوں میں پیدا فرمائی مثلاً فرشتے، سورج چاند ستارے وغیرہ اور زمین میں پیدا فرمائیں مثلاً حیوان، پہاڑ، دریا اور نہریں اور درخت وغیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں خدا کا ڈر رکھنے والوں کے لئے کہ وہ ایمان لے آئیں، مخصوص طور پر متقیوں کا ذکر فرمایا اس لئے کہ یہی لوگ ان نشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو بعث کے ذریعہ ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے اور وہ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت کے بدلے دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر اطمینان کر لیا ہے (یعنی) اس سے دل لگا بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری وحدانیت پر دلالت کرنے والی ہماری آیتوں سے غافل ہیں (یعنی) ان میں غور و فکر کے تارک ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے شرکیہ اعمال اور معاصی کی وجہ سے جہنم ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی کرے گا بایں صورت کہ ان کے لئے نور مہیا کریگا جس کے ذریعہ وہ قیامت کے روز اپنے مقصد تک رسائی حاصل کریں گے، بھری جنتوں باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کی طلب (کا طریقہ) جنت میں جس چیز کی ان کو خواہش ہوگی سبحانک اللہم کہنا ہوگا یعنی اے اللہ، اور جب وہ اس کو طلب کریں گے تو وہ شی ان کے سامنے موجود ہوگی، اور ان کا آپسی سلام جنت میں السلام علیکم ہوگا اور ان کی آخری بات الحمد للہ رب العالمین ہوگی، ان، مفسرہ ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ عَجَبًا، لِلنَّاسِ در اصل محذوف سے متعلق ہو کر عجباً کی صفت ہے اور صفت جب موصوف پر مقدم ہوتی ہے تو وہ حال کہلاتی ہے اس لئے کہ صفت کا موصوف پر مقدم ہونا درست نہیں ہے، اور نہ للناس، عجباً کے متعلق ہے اسلئے کہ مصدر عامل ضعیف ہوتا ہے اپنے ماقبل میں عمل نہیں کرتا، عجباً کان کی خبر مقدم ہے اور اُن اَوْ حَيْنًا، کان کا اسم مؤخر ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، اُكَانَ اِيْحَاوُنَا عَجَبًا لِلنَّاسِ، اور عجبُ رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں عجبُ کان کا اسم ہوگا، اور اُن اَوْ حَيْنًا جو نصب کی صورت میں اسم تھا وہ رفع کی صورت میں خبر ہوگا، اور ابن مسعود نے عجبُ کو مرفوع کان کو تامہ مانتے ہوئے پڑھا ہے اور اُن اَوْ حَيْنًا کو عجبُ سے بدل قرار دیا ہے۔

**قَوْلُهُ:** قَدَمَ صَدَقٍ، یہ اضافت موصوف الی الصفت کے قبیل سے ہے جیسا کہ مسجد الجامع میں، قَدَمَ بِمَعْنَى مَرْتَبَةٍ، عزت، گزشتہ نیک کام کا اچھا اجر، مفسر علام نے قدم کی تفسیر سلف، سے کر کے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، علامہ سیوطی نے اجراً حَسَنًا بِمَا قَدَمُوا مِنَ الْاَعْمَالِ کہہ کر یہی معنی مراد لئے ہیں۔

**قَائِلًا:** سبقت چونکہ قدم کے ذریعہ ہوتی ہے سابقہ کو قدم کہہ دیا جاتا ہے جیسا کہ نعمت کو یذ کہہ دیا جاتا ہے قدم کی صدق کی طرف اضافت زیادتی فضل کے لئے ہے، یا اس لئے کہ مقام صدق قول صادق سے حاصل ہوتا ہے۔

**قَوْلُهُ:** مَذْكُورٌ، ذلک کی تفسیر مذکور سے کر کے ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے۔

**سُؤَالٌ:** یہ ہے کہ ماقبل میں شمس و قمر کا ذکر ہے لہذا اسم اشارہ تثنیہ لانا چاہئے حالانکہ ذلک مفرد لائے ہیں۔

**جَوَابٌ:** کا حاصل یہ ہے کہ مذکور کے معنی میں لے کر ذلک مفرد لائے ہیں۔

**قَوْلُهُ:** اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْخِ يَهْدِيْهِمْ، اِنَّ کی خبر اول ہے اور تجری من تحتها الانهار خبر ثانی ہے اور فی جَنَّتِ نعیم خبر ثالث ہے۔

**قَوْلُهُ:** سَبِّحْكَ اللّٰهُمَّ یعنی جنتی جب کسی پسندیدہ شئی کی خواہش کریں تو طلب کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللّٰهُمَّ کہیں گے تو فوراً ہی مطلوبہ شئی موجود ہو جائے گی، اللّٰهُمَّ چونکہ کلمہ نداء ہے لہذا دعاء بمعنی طلب ہوگی۔

**قَوْلُهُ:** اِذَا مَا طَلَبُوْهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ، اِذَا مَفَاجَاتِيْہِ ہے یعنی اہل جنت جب کسی شئی کی خواہش کریں گے تو وہ سَبِّحْكَ اللّٰهُمَّ کہیں گے فوراً ہی وہ شئی حاضر ہو جائے گی۔

**قَوْلُهُ:** ذَاتِ ضِيَاءٍ اس اضافہ کا مقصد الشمس ضیاء کے حمل کو درست قرار دینا ہے اسلئے کہ ضیاء مصدر ہے اس کا حمل ذات پر درست نہیں ہے۔



## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحِ

## سورت کا نام:

اس سورت کا نام ”یونس“ موضوع کے طور پر نہیں ہے بلکہ اثناء کلام میں چونکہ حضرت یونس عَلَيْهِ السَّلَام کا نام آگیا ہے اسلئے اسم الکل باسم الجزء کے طریقہ پر اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔

## مقام نزول:

روایات سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے البتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں دو یا تین آیتیں مدنی ہیں۔

## فضائل:

حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ الخ صبح اور شام سات سات مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہموم اور تفکرات کے لئے کافی ہو جائیگا۔

اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا الخ استفہام انکار تعجبی کے لئے ہے جس میں توہین کا پہلو بھی شامل ہے، یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایک شخص کو وحی رسالت کے لئے چن لیا، کیونکہ اس کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے صحیح معنی میں وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے اور اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا مثلاً فرشتہ یا جن ہوتا تو دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا مقصد فوت ہو جاتا، اسلئے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کے بجائے وحشت محسوس کرتا دوسرے یہ کہ انسانوں کے لئے ان کا دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اگر کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجا جاتا تو وہی اعتراض لازم آتا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے اسلئے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔

قدم صدق، اس کا مطلب ہے بلند مرتبہ، اجر حسن، اور وہ اعمال صالحہ کہ جن کو ایک مومن آگے بھیج چکا ہے۔  
قال الکافرون اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مبين کافروں کو جب انکار کے لئے کوئی اور بات نہ ملتی تو جادو گر یا جادو کی پھبتی کس دیتے مگر یہ نہ سوچتے کہ وہ چسپاں بھی ہوتی ہے یا نہیں۔

اِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ، اس آیت میں تو حید کو اس ناقابل انکار حقیقت کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور پھر پورے عالم کی تدبیر کرنے میں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت و بندگی میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں

پیدا فرمایا مگر عرف میں دن طلوع شمس سے غروب شمس تک کی مدت کو کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ آسمان وزمین اور سیاروں کے پیدا کرنے سے پہلے آفتاب ہی کا وجود نہیں تھا تو طلوع وغروب کا حساب کیسے ہوا؟ اس لئے یہاں طلوع وغروب سے وقت کی وہ مقدار مراد ہے جو طلوع وغروب کے اعتبار سے اس دنیا میں ہونے والی تھی۔

چھ دن کی قلیل مدت میں اتنے بڑے جہان کو جو آسمانوں اور زمین اور سیارات اور تمام کائنات عالم پر مشتمل ہے بنا کر تیار کر دینا اسی ذات قدوس کا مقام ہے جو قادر مطلق ہے اور یہ چھ دن کی مدت بھی ایک خاص مصلحت و حکمت کی بنا پر ہے ورنہ اس خالق مطلق کے لئے تخلیق کا صرف ارادہ بھی کر لینا کافی ہے جس کو قرآن میں کن فیکون سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، اتنی بات تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عرشِ رحمن کوئی ایسی مخلوق ہے جو تمام آسمانوں اور زمین اور تمام کائنات پر محیط ہے، سارا جہان اس کے اندر سمایا ہوا ہے، اس سے زائد اس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، جو انسان اپنی سائنسی انتہائی ترقی کے زمانہ میں بھی صرف نیچے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہے اور بہت سے سیارے ایسے بھی ہیں جن کی شعاع اپنی تخلیق کے وقت سے اب تک زمین تک نہیں پہنچی جبکہ روشنی کی رفتار فی منٹ ۱۸۶۰۰۰ میل کی ہے جب ستاروں اور سیاروں تک انسان کی رسائی کا یہ حال ہے تو آسمان جو ان سب ستاروں اور سیاروں سے اوپر ہے اس کا یہ مسکین انسان کیا حال معلوم کر سکتا ہے اور پھر جو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہو اور سب پر حاوی اور محیط ہو وہ عرشِ رحمن ہے اس کی حقیقت تک رسائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

نہ ہر جائے مرکب تو اں تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن  
جن متاخرین علماء نے ان چیزوں کے جو معنی بیان کئے ہیں وہ صرف تخمینی اور احتمالی درجہ رکھتے ہیں نہ کہ یقینی اور حتمی، اس لئے صاف اور بے غبار مسلکِ صالحین اور صحابہ و تابعین ہی کا ہے جنہوں نے ان چیزوں کی حقیقت کو علمِ الہی کے حوالہ کیا ہے۔

وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، قَدَرَهُ مَنَازِلَ مَاسْبِقِ مِی سَوْرَجِ اور چاند دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار فرمایا تھا مگر یہاں قدرہ کی ضمیر چاند کی طرف لوٹ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منزلیں صرف چاند ہی کی ہیں حالانکہ منزلیں دونوں کی ہیں۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآنی احکامات پوری نوعِ انسانی کے لئے ہیں خواہ دیہاتی ہو یا شہری عالم ہو یا جاہل، چاند کے ذریعہ ماہ و سال کا حساب لگانا اور تاریخوں کو معلوم کرنا ہر شخص کے لئے آسان ہے چاند کو دیکھ کر ہر شخص چاند کی تاریخ کا اندازہ لگا سکتا ہے بخلاف شمسی تاریخوں کے کہ ان کا معلوم کرنا دیہاتی اور جاہل تو کیا پڑھے لکھے کے لئے بھی آسان نہیں ہے شمسی تاریخ معلوم کرنے کے لئے تقویم، جنتری، کیلنڈر کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے بخلاف چاند کی تاریخوں کے کہ رات کو چاند دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے، شمسی تاریخوں کا حساب رصد گاہوں اور آلات پر موقوف ہے جو ہر شخص کو نہ میسر ہیں اور نہ آسان، یہی وجہ ہے کہ شریعت کے بہت سے احکام مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ قمری تاریخوں سے متعلق ہیں۔



مَنَازِل، منزل جائے نزول، پڑاؤ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر دونوں کے لئے حدود مقرر فرمائی ہیں چاند چونکہ اپنا دورہ ہر مہینہ میں پورا کر لیتا ہے اسلئے اس کی منزلیں ۲۹ یا ۳۰ ہیں، مگر چونکہ ہر مہینہ میں چاند ایک یا دو دن ضرور غائب رہتا ہے جس کو محاق کہتے ہیں اسلئے عموماً چاند کی منزلیں ۲۸ کہی جاتی ہیں، آفتاب کا دورہ ایک سال میں پورا ہوتا ہے اس کی منزلیں ۳۶۵ ہوتی ہیں۔

### فائدہ جلیلہ :

زمین سے چاند کی اوسط دوری ۲۸۰۰۰۰ میل ہے، اس کا حجم زمین کے حجم کا ۱/۲۹ حصہ ہے اور وزن زمین کے وزن کا ۱/۸۱ حصہ ہے، چاند کی سطحی کشش زمین کی سطحی کشش کا تقریباً ۱/۶ حصہ ہے لہذا جس چیز کا وزن سطح زمین پر ۶ پونڈ ہے سطح قمر پر اس کا وزن ایک پونڈ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آدمی چاند پر بغیر وزن لئے نہیں چل سکتا۔

چاند زمین کے ارد گرد ۲۷ دن ۷ گھنٹے ۲۴ منٹ میں دورہ پورا کرتا ہے، مگر زمین کی سالانہ حرکت کے سبب سے ایک نئے چاند سے دوسرے نئے چاند تک ساڑھے انتیس دن لگتے ہیں، چاند کا دن تقریباً ہمارے ۱۴ دنوں کے برابر ہوتا ہے اسی طرح چاند کی ایک رات ہماری ۱۴ راتوں کے برابر ہوتی ہے۔ (فلکیات جدیدہ)

وَنَزَلَ لَمَّا اسْتَعْجَلَ الْمُشْرِكُونَ الْعَذَابَ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ اِی کاستعجالہم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ  
بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ اَلِيَهُمْ اَجَلُهُمْ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بَانَ اِلَهُمَّ وَلَكِنْ يُمَهِّلُهُمْ فَتَذَرُ نَتْرُكُ  
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ يَتَرَدَّدُونَ مَتَحَيَّرِينَ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الْكَافِرُ الضُّرُّ الْمَرَضُ  
وَالْفَقْرُ دَعَانَا لِجَنبِهِ اِی مضطجعاً اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا اِی فی کلِّ حال فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّ عَلَى كَفَرِهِ  
كَانَ مَخْفَفًا وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ اِی كَانَهُ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى ضَرْمَسَةٍ كَذَلِكَ كَمَا زَيْنَ لَهُ الدُّعَاءُ عِنْدَ الضَّرْرِ  
وَالْاِعْرَاضِ عِنْدَ الرِّخَاءِ زَيْنٌ لِلْمُسْرِفِينَ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونََ الْاِمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
يَا اِهْلَ مَكَّةَ لَمَّا ظَلَمُوا بِالشِّرْكِ وَ قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الدَّلَالِ عَلَى صَدَقِهِمْ  
وَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا عِطْفًا عَلَى ظَلَمُوا كَذَلِكَ كَمَا اِهْلَكْنَا اُولَئِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ الْكَافِرِينَ  
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ يَا اِهْلَ مَكَّةَ خَلِيفَةً جَمْعُ خَلِيفَةٍ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ فِيهَا وَهَلْ تَعْتَبِرُونَ  
بِهِمْ فَتَصَدِّقُوا رُسُلَنَا وَاِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا الْقُرْآنَ بَيِّنَاتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّذِي لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَا  
يَخَافُونَ الْبَعْثَ اِنَّكَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا لَیْسَ فِيهِ عَيْبٌ اَلِهْتَنَا اَوْ بَدَّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِكَ قُلْ مَا يَكُونُ يَنْبَغِي  
لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي قَبْلَ نَفْسِي اِنْ مَا اتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحَى اِلَيَّ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ تَبْدِيلُهُ

عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵ ہُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ أَغْلَمُكُمْ بِهِ ۖ وَلَا نَافِيَةٌ عَطَفْتُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَفِي قِرَاءَةِ بِلَامِ جَوَابِ لَوْ أَيْ لَا عَلَّمَكُمْ بِهِ عَلَى لِسَانِ غَيْرِي فَقَدْ لَبِثْتُ مَكْثُ فَيْكُمْ عُمْرًا سِنِينَ أَرْبَعِينَ مِّنْ قَبْلِهِ لَا أَحْدَثُكُمْ بِشَيْءٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۶ اِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي فَمَنْ أَيْ لَا أَحَدٌ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِنِسْبَةِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ أَوْ كَذَبَ بِآيَتِهِ الْقُرْآنَ إِنَّهُ أَيْ الشَّانَ لَا يُفْلِحُ يَسْعُدُ الْمُجْرِمُونَ ۝۷ الْمُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ أِنْ لَمْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ إِنْ عْبَدُوهُ وَهِيَ الْأَصْنَامُ وَيَقُولُونَ عَنْهَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ لَهُمْ اتَّخِذُوا اللَّهَ تَخْبِرُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ اسْتَفْهَامُ انْكَارِ أَيْ لَوْ كَانَ لَهُ شَرِيكَ لَعَلَّمَهُ إِذْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَنَهُ تَنْزِيهًا لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۸ مَعَهُ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ وَهِيَ الْإِسْلَامُ مِنْ لَدُنْ أَدَمَ إِلَى نُوحٍ وَقِيلَ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عِمْرٍ وَبْنِ لُحْيٍ فَاخْتَلَفُوا ۖ بَانَ ثَبَتَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ بِمَا خَيْرُ الْجَزَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ أَيْ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝۹ مِنَ الدِّينِ بِتَعْذِيبِ الْكَافِرِينَ وَيَقُولُونَ أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةً مِّن رَّبِّهِ كَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّاءِ مِنَ السَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ فَقُلْ لَهُمْ إِنَّمَا الْغَيْبُ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ أَيْ أَمْرُهُ لِلَّهِ وَمِنْهُ الْآيَاتُ فَلَا يَأْتِي بِهَا إِلَّا هُوَ وَإِنَّمَا عَلَى التَّبْلِيغِ فَانْتَظِرُوا الْعَذَابَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝۱۰

**ترجمہ:** اور (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مشرکین نے عذاب کے جلد آنیکا مطالبہ کیا، اور اگر اللہ لوگوں کے لئے شر کے معاملہ میں جلدی کرتا جیسا کہ یہ خیر کے معاملہ میں جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا کر دیا گیا ہوتا قُضِيَ مَجْھول اور معروف دونوں طرح پڑھا گیا ہے، (اجلُہُمْ) رفع اور نصب کے ساتھ ہے بایں صورت کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہوتا، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے سو ہم ان کو جن کو ہمارے پاس آنے کی توقع نہیں ہے ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے رہتے ہیں، (یعنی) تردد کے ساتھ حیران رہتے ہیں، اور جب کافر انسان کو مرض اور فقر وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی، کھڑے بھی، یعنی ہر حال میں، پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں، تو پھر اپنے کفر کی سابقہ حالت پر آ جاتا ہے گویا کہ جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کو ہٹانے کے لئے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا (کان) مخففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے کائنہ، جس طرح کہ ان کے لئے بوقت تکلیف ہم سے دعاء کرنا اور بوقت خوشحالی اعراض کرنا خوشنما بنا دیا گیا ہے اسی طرح مشرکوں کے اعمال کو ان کے لئے خوشنما بنا دیا گیا ہے اے مکہ والو بلاشبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے شرک کر کے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر اپنی سچائی پر دلائل لے کر آئے تھے اور وہ ایسے کہاں تھے کہ ایمان لے



آتے؟ اس کا عطف ظلموا پر ہے، جس طرح ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا اسی طرح ہم کافروں مجرموں کو سزا دیتے ہیں اے مکہ والو اب ان کے بعد ہم نے تم کو ان کی جگہ زمین میں جگہ دی ہے (خَلِیْفَہ) خلیفہ کی جمع ہے تاکہ ہم دیکھیں تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو؟ آیا تم ان سے عبرت حاصل کرتے ہو کہ ہمارے رسولوں کی تصدیق کرو، جب انھیں ہماری صاف صاف قرآنی باتیں سنائی جاتی ہیں بیناتِ حال ہے، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے یعنی بعث کا خوف نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ جس میں ہمارے معبودوں کی عیب جوئی نہ ہو یا اسی میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کر دو (اے محمد) ان سے کہہ دو میرا یہ کام نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کچھ تغیر تبدیل کروں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اگر میں اس میں ترمیم کر کے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے، اور کہہ دو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تمہیں یہ قرآن کبھی نہ سناتا اور اللہ تم کو اس کی خبر تک نہ دیتا، اور لا نافیہ ہے اپنے ماقبل (یعنی لو شاء اللہ ماتلوتہ الخ) پر عطف ہے اور ایک قراءت میں لام کے ساتھ ہے جواب لو واقع ہونے کی وجہ سے یعنی میرے علاوہ کسی اور کی زبانی تم کو بتا دیتا، آخر میں اس (قرآن کے نزول) سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر یعنی چالیس سال گزار چکا ہوں کہ میں نے تم سے (اپنی طرف سے) کوئی چیز بیان نہیں کی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ (قرآن) میری طرف سے نہیں ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں، جس نے اللہ پر اس کی طرف شرک کی نسبت کر کے جھوٹا بہتان لگایا اس کی آیات یعنی قرآن کو جھٹلایا یقیناً نشان یہ ہے کہ مجرم (مشرک) کبھی فلاح نہیں پاسکتے یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں جو کہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر یہ ان کی بندگی نہ کریں، اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر یہ ان کی بندگی کریں، اور وہ بت ہیں، اور ان بتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں (اے محمد) تم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس کی خبر دیتے ہو کہ وہ اسے آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں استفہام انکاری ہے یعنی اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ اس کو ضرور جانتا اسلئے کہ اس سے کوئی شئی پوشیدہ نہیں ہے وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں (ابتداء) سارے لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی دین پر تھے اور وہ اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک اور کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر عمرو بن لُحی کے زمانہ تک، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا بایں طور کہ بعض اسلام پر ثابت قدم رہے اور بعض نے انکار کر دیا، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات کا (یعنی) قیامت تک تاخیر عذاب کا فیصلہ نہ کر لیا گیا ہوتا تو لوگوں کے درمیان دنیا ہی میں کافروں کو عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا جس دین کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور اہل مکہ کہتے ہیں محمد پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ جیسی کہ انبیاء سابقین پر اتاری گئی تھی، کہ وہ اونٹنی، عصا اور ید بیضاء ہیں، تو ان سے کہو کہ غیب کا یعنی جو چیز بندوں سے غائب ہے یعنی اللہ کا حکم، مالک و مختار تو صرف اللہ ہی ہے ان (نشانوں کو) صرف وہی لاسکتا ہے میرے ذمہ تو صرف تبلیغ ہے اگر تم ایمان نہیں لاتے تو عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں۔

## تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: ای کا سْتَعْجَالِهِمْ.

سُؤَال: استعجالہم کی تفسیر کا استعجالہم سے کاف کے اضافہ کے ساتھ کرنے کا کیا فائدہ؟

جَوَاب: استعجال بالخیر بعینہ استعجال بالشر نہیں ہے، حرف تشبیہ کاف کا اگر اضافہ نہ کیا جائے تو دونوں کا ایک ہونا لازم آتا ہے اسی فرق کو واضح کرنے کے لئے استعجالہم کی تفسیر کا استعجالہم سے کی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا استعجالہم، منصوب بنزع الخافض ہے۔

قَوْلًا: بالرفع والنصب رفع قُضِيَ کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے اور نصب قضی کے معروف ہونے کی صورت میں مفعول ہونے کی وجہ سے، اس صورت میں فاعل اللہ ہوگا۔

قَوْلًا: يُمْهَلُهُمْ.

سُؤَال: يُمْهَلُهُمْ، کو محذوف ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جَوَاب: فَذَرُ، میں فاء عاطفہ ہے اس کو معطوف علیہ کی ضرورت ہے حالانکہ اس کا معطوف علیہ ماسبق میں مذکور نہیں ہے اور نہ اس کا عطف قُضِيَ پر صحیح ہے نہ لفظاً اور نہ معنًاً، لفظاً اس وجہ سے کہ لِقُضِيَ جواب لو ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے اگر فَذَرُ کا عطف لِقُضِيَ پر ہو تو فَذَرُ مجزوم ہونا چاہئے حالانکہ مجزوم نہیں ہے معنی کے اعتبار سے عطف درست نہ ہونا فساد معنی کی وجہ سے ظاہر ہے، لہذا فَذَرُ کا عطف اس نفی پر ہوگا جو لَوْ شرطیہ سے مفہوم ہے اسلئے کہ لَوْ يُعْجَلُ، نفی تعجیل کے معنی کو متضمن ہے اسی نفی تعجیل کے مفہوم بیان کرنے کے لئے مفسر علام نے وَلَکِن يُمْهَلُهُمْ کا اضافہ فرمایا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ فَذَرُ کا عطف يُمْهَلُهُمْ محذوف پر ہے نہ کہ فَقُضِيَ پر۔

قَوْلًا: وَقَدْ جَاءَ تَهُم.

سُؤَال: وَجَاءَ تَهُم ظَلَمُوا اسے حال ہے حالانکہ ماضی بغیر قد کے حال واقع نہیں ہو سکتا۔

جَوَاب: اسی اعتراض کو دفع کرنے کے لئے مفسر علام نے قَدْ محذوف مانا ہے۔

قَوْلًا: حَالٌ يَعْنِي بَيِّنَةٌ، اَيْتِنَاء سے حال ہے نہ کہ صفت اسلئے کہ آیتنا اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور بَيِّنَةٌ نکرہ ہے حالانکہ موصوف و صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔

قَوْلًا: وَفِي قِرَاءَةِ بِلَامٍ يَعْنِي لَا اِدْرَاكُم کے بجائے لَا ذَرَاكُم ہے یعنی لام تاکید کے ساتھ۔

قَوْلًا: جَوَاب لَوْ، یعنی جواب لَوْ پر عطف ہے جو مَا تَتْلُوْنَهٗ ہے۔



## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

## آیت کے دو مفہوم:

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ (الآیۃ) اس آیت کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ انسان جس طرح خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ شر (عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے گویا کہ یہ اس کی فطرت جلد بازی کا اثر ہے اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمکو ڈراتے ہو، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ میں اگرچہ عام انسانوں کی یہ فطرت بیان کی گئی ہے مگر مراد یہاں منکرینِ بعثت ہیں جب ان کو عذاب آخرت سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو کہاں ہے؟ اگر سچے ہو تو وہ عذاب جلدی لے آؤ جیسا کہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابنِ اسحق سے اور مقاتل نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ یہ قول نصر بن الحارث کا ہے کہ اس نے ایک موقع پر کہا تھا ”اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ“ یا اللہ اگر یہ بات (نزل قرآن کی) سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسادے، مذکورہ آیت میں اسی کا جواب دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق جلدی عذاب بھیج دیتے تو یہ کبھی کے موت و ہلاکت سے دوچار ہو گئے ہوتے لیکن ہم مہلت دیکر انھیں پورا موقع دیتے ہیں کہ اب بھی اپنی سرکشی سے باز آجائیں مگر یہ اپنی روش بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

یہ امر واقعہ ہے کہ ابھی کچھ ہی مدت پہلے کا وہ مسلسل اور سخت بلا خیز قحط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے اہل مکہ چیخ اٹھے تھے، اس قحط کے زمانے میں قریش کے متکبروں کی اکڑی ہوئی گردنیں کافی حد تک ڈھیلی پڑ گئی تھیں بت پرستی میں بھی کمی آگئی تھی خدائے واحد کی طرف رجوع بھی بڑھ گیا تھا نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آخر کار ابوسفیان نے آکر نبی ﷺ سے درخواست کی کہ آپ خدا سے اس بلا کو ٹالنے کے لئے دعاء فرمائیں آپ ﷺ نے دعاء فرمائی اور جب قحط ختم ہو گیا، بارش ہونے لگی اور خوشحالی کا دور دورہ شروع ہو گیا، تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بد اعمالیاں اور دین حق کے خلاف وہی سابقہ سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں، جو دل خدا کی طرف رجوع ہونے لگے تھے وہ اپنی سابقہ غفلتوں میں پھر ڈوب گئے۔

## آیت کا دوسرا مفہوم:

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لئے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں اسی طرح انسان جب غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اور اپنے مال وغیرہ کے لئے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لئے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے ہلاکت مانگ رہا ہے مگر دل میں اس کے ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انھیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلدی ہی یہ لوگ موت اور

تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے لئے، اپنی اولاد کے لئے اور اپنے مال و کاروبار کے لئے بددعاء مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعاء قبول کی جاتی ہے پس وہ تمہاری بددعاء قبول فرمالے۔

(سنن ابی داؤد کتاب الوتر، مسلم کتاب الزہد)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، (الآیۃ) اس آیت میں منکرین تو حید و آخرت بلکہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسان کی اکثریت کا شیوہ ہے بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں، مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہوتی ہے دعائیں کی جاتی ہیں نمازوں کی پابندی بھی ہوتی ہے مسجدیں خوب آباد نظر آتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ سخت وقت اپنی رحمت سے نکال دیتا ہے تو پھر انسان بارگاہ الہی میں دعاء و تضرع تو کجا فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ مِنْ قَبْلِكُمْ (الآیۃ) اس آیت میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں عذاب آہی نہیں سکتا پہلی بہت سی امتوں کو ان ہی اسباب کی وجہ سے جو تم میں بدرجہ اتم موجود ہیں ہلاک کیا جا چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی پہلی امتوں کی طرح ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ۔

## قوموں کی ہلاکت کی دوسری صورت:

قرآن کریم میں ”قرون“ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرون قرن کی جمع ہے جس سے عربی زبان میں عام طور پر ایک عہد کے لوگ مراد ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے جس انداز سے مختلف قوموں پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرن سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں برسر عروج اور کُلّی یا جزوی طور پر امامت عالم پر سرفراز رہی ہو ایسی قوم کی ہلاکت کے لازماً یہی معنی نہیں کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے، بلکہ اس کو مقام عروج و امامت سے گرا دیا جانا، اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا، اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجزاء کا پارہ پارہ ہو جانا، یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اس آیت میں خطاب خاص طور پر اہل مکہ کو اور عام طور پر اہل عرب کو ہے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانہ میں کام کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا گیا تھا مگر انہوں نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کی اور نہ کار مفوضہ کو انجام دیا بلکہ بغاوت و سرکشی کی روش اختیار کی، اور جو انبیاء علیہم السلام ہم نے ان کو راہِ راست دکھانے کے لئے بھیجے تھے ان کی بھی ایک نہ سنی آخر کار وہ امتحان میں ناکام ہوئے اور انھیں میدان سے ہٹا دیا گیا، اے اہل مکہ! اور اہل عرب! اب تمہاری باری آئی ہے تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تم اسی امتحان گاہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو نام کام ہونے کی وجہ سے نکالے جا چکے ہیں اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی انجام وہی ہو جو ان کا ہوا تو اس موقع سے جو تم کو دیا گیا ہے صحیح فائدہ اٹھاؤ، پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی و ہلاکت کی موجب ہوئیں۔



## مشرکین مکہ کی ناروا فرمائش اور اس کی تردید:

وَإِذَا تَلَّسَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ (الآية) ان چار آیتوں میں مشرکین کی ناروا فرمائش کی تردید ہے مشرکین مکہ کی ناروا فرمائش یہ تھی کہ یہ قرآن تو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہے جن بتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے ہیں اور ان کو حاجت روا مانتے آئے ہیں قرآن ان سب کو باطل اور لغو قرار دیتا ہے اور بہت سی چیزیں جنہیں ہم استعمال کرتے چلے آئے ہیں قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے اور قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں ان کو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنادیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم از کم اسی میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکال دیں، مشرکین مکہ کا یہ خیال اول تو اس مفروضہ پر مبنی تھا کہ محمد ﷺ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے دماغ کی تصنیف ہے اس کو خدا کی طرف منسوب کر کے صرف اس لئے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جائے۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ، یہ مذکورہ دونوں باتوں کا جواب ہے اس میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ اس کتاب کا مصنف میں نہیں ہوں بلکہ یہ توحی کے ذریعہ میرے پاس آئی ہے جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں اور نہ اس معاملہ میں مصالحت کا قطعاً کوئی امکان ہے، قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو قبول کرو ورنہ پورے کو رد کر دو۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، یعنی ہمارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سنا تا نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی، بعض حضرات نے ”ما ادراکم بہ“ کے معنی کئے ہیں اَعْلَمْ کُمْ بہ علی لسانی، کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بات کچھ نہ بتلاتا، میری کیا طاقت کہ میں اپنی طرف سے کلام بنا کر پیش کروں اور کہہ دوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آخر میری عمر کے چالیس سال تمہارے درمیان گزرے ہیں، اس قدر طویل مدت میں تمہیں میرے حالات سے متعلق ہر قسم کا تجربہ ہو چکا ہے میری دیانت اور صدق و عفاف تم میں ضرب المثل ہے، میرا امی ہونا اور کسی ظاہری معلم کے سامنے زانوئے ادب نہ نہ کرنا ایک معروف و مسلم واقعہ ہے پھر چالیس سال تک جس نے نہ کوئی قصیدہ لکھا ہو اور نہ شاعروں میں شریک ہوا ہو نہ کبھی کتاب کھولی ہو اور نہ کبھی قلم ہاتھ میں پکڑا ہو اور نہ کسی درس گاہ میں بیٹھا ہو دفعۃً ایسا کلام بنا لائے جو اپنی فصاحت و بلاغت، شوکت و جزالت، جدت اسلوب اور سلاست و روانی سے جن و انس کو عاجز کر دے یہ بات کسی کی سمجھ میں آسکتی ہے؟ تم کو سوچنا چاہئے کہ جس پاک سرشت انسان نے چالیس سال تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگایا ہو وہ ایک دم ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ خداوند قدوس پر جھوٹ باندھے ناچار ماننا پڑے گا کہ جو کلام الہی تم کو سنایا جا رہا ہے یہ خدائی کلام ہے اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے ایک زیر یا زبر کو بھی تبدیل کر سکے۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ، اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ ہے، جیسے قوم ثمود کے لئے اونٹنی کا ظہور ہوا، ان کے لئے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور کوئی اس قسم کا معجزہ

صادر کر کے دکھلایا جائے، خدا تعالیٰ کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق معجزہ ظاہر فرمادے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے اس لئے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو دکھائے گئے تو انھیں کتنی مہلت دی جائے گی؟ اسی لئے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

در اصل یہ منکرین کی مریض ذہنیت کا بیان ہے کہ ان کو تسلی تو کسی معجزے یا کسی نشانی یا کسی آیت سے نہیں ہوتی اور ان کو تسلی مقصود نہیں بلکہ ہر اعجازی واقعہ کی کوئی نہ کوئی مادی توجیہ و تاویل کر لیتے ہیں اور فوراً ہی دوسرے معجزے کی فرمائش کر دیتے ہیں۔

وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ اٰی كَفَارِ مَكَّةَ رَحْمَةً مَّطَرًا وَخَصَبًا مِّنْ بَعْدِ زُرَّاءٍ ۖ بَئْسَ وَجَدَ مَسْتَهْمُهُمْ إِذْ هُمْ مَكْرُوفٌ فِي آيَاتِنَا ۚ  
بِالْاِسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِیْبِ قُلْ لِّهٖمُ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۚ مَّجَازَةً اِنَّ رُسُلَنَا الْحَفْظَةَ یَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ۝۱۱ ۚ بِالتَّاءِ وَالِیَاءِ  
هُوَ الَّذِیْ یُسَیِّرُكُمْ وَفِی قِرَآءَةِ یُنْشَرُكُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰی اِذَا كُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ السَّفَنِ وَجَرَّیْنَ بِهٖمُ فِیهِ التَّفَاتُ  
عَنِ الْخَطَابِ بِرِیْحٍ طَیِّبَةٍ لِّیْنَةٍ وَفَرَحُوْا بِهَا جَآءَ تَهَاوُیْحٌ عَاصِفٌ شَدِیْدَةُ السَّهْبِ تَكْسِرُ كُلَّ شَیْءٍ وَجَآءَهُمُ  
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِیْطُ بِهٖمْ اٰی اُھْلِكُوْا دَعَا اللّٰهُ مُخْلِصِیْنَ لِّهٖ الدِّیْنَۙ الدَّعَاءُ لَیْنٌ لَا مُقْسِمَ  
اَنْجِیْتَنَا مِنْ هٰذِهِ الْاَسْوَالِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكْرِیْنَ ۝۱۲ ۚ الْمَوْحِدِیْنَ فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ یَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ  
بِالشَّرْكِ یَاۤیُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغِیْكُمْ ظَلَمُكُمْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ ۚ لَآ اَثْمَ عَلَیْهَا ۙ مَتَاعُ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا ۚ تَمْتَعُوْنَ فِیْهَا قَلِیْلًا  
ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُكُمْ ۚ بَعْدَ الْمَوْتِ فَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۳ ۚ فَجَازِیْكُمْ عَلَیْهِ وَفِی قِرَآءَةِ بِنَصَبِ مَتَاعِ اٰی  
تَمْتَعُوْنَ اِنَّمَا مَثَلُ صَفَةِ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا كَمَا ۙ مَطَرٌ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْتَلَطَ بِهٖ سَبَبٌ نَّبَاتُ الْاَرْضِ وَاشْتَبَكَ  
بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِّمَّا یَاْكُلُ النَّاسُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعْرِیْرِ وَغَیْرِہِمَا ۚ وَالْاَنْعَامُ مِنَ الْكَلَاۤءِ حَتّٰی اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا  
بِمَھْجَتِہَا مِنَ النَّبَاتِ وَامْرِیْنَتْ بِالزَّہْرِ وَاصْلَہُ تَزَیْنَتْ اُبْدِلَتْ التَّاءُ زَاءً وَاُدْغِمَتْ فِی الزَّاءِ ثُمَّ اجْتَلَبَتْ  
بِمِزَّةِ الْوَصْلِ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَدِرُوْنَ عَلَیْهَا ۚ مُمْكِنُوْنَ مِنْ تَحْصِیْلِ ثَمَارِہَا اَتَتْہَا اَمْرُنَا قَضَاؤُنَا اَوْ عَذَابُنَا  
لَیْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰہَا اٰی زَرْعِہَا حَصِیْدًا كَالْمَحْصُوْدِ بِالْمَنَاجِلِ ۚ كَاَنَّ مَخْفَفَةً اٰی كَاَنَّہَا لَمْ تَغْنِ تَكُنْ  
بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نَفِصَّلُ نُبِیْنَ الْاٰیَاتِ لِقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۴ ۚ وَاللّٰهُ یَدْعُوْا اِلَیْ دَارِ السَّلَامِ اٰی السَّلَامَةِ وَہِیَ الْجَنَّةُ  
بِالدَّعَاءِ اِلَی الْاِیْمَانِ وَیَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ۚ بِہِدَایَتِہٖ اِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝۱۵ ۚ دِیْنِ الْاِسْلَامِ لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا بِالْاِیْمَانِ الْحَسَنِ  
الْجَنَّةُ وَزِیَادَةُ ہِیَ النَّظَرُ اِلَیْہِ تَعَالٰی كَمَا فِی حَدِیْثِ مُسْلِمٍ وَلَا یَرْهَقُ یَغْشٰی وَجُوْہُہُمْ قَتْرٌ سَوَادٌ وَلَا ذِلَّةٌ  
كَآبَةٌ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ ۝۱۶ ۚ وَالَّذِیْنَ عَطَفَتْ عَلٰی الدِّیْنِ اَحْسَنُوْا اٰی وَالَّذِیْنَ كَسَبُوا السَّیِّاَتِ  
عَمِلُوْا الشَّرْكَ جَزَاءُ سَیِّئَةٍۢ بِمِثْلِہَا وَتَرْهَقُہُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَہُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٍ عَاصِمٌ مَّانِعٌ كَاَنَّمَا اَغْشٰیَتِ الْبَسِیْتُ



وَجُوهَهُمْ قُطْعًا بِفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قِطْعَةٍ وَاسْكَانِهَا اِیْ جُزْأً مِّنَ اللَّیْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴿۷۷﴾  
 وَ اِذْ كُرِّیْوْمَرُ نَحْشُرُهُمْ اِیْ الْخَلْقَ جَمِیْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِیْنَ اَشْرَكُوا مَا كَانَ لَكُمْ نَصَبٌ بِالزُّمُوْا مَقْدَرًا اَنْتُمْ تَاكِدُوْنَ  
 لِلضَّمِیْرِ الْمُسْتَرَفِی الْفَعْلِ الْمَقْدَرِ لِيُعْطَفَ عَلَیْهِ وَشُرَكَاءُكُمْ اِیْ الْاَصْنَامُ فَزَيَّلْنَا سِیْرَنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِیْنَ كَمَا فِیْ اٰیَةِ وَامْتَاَزُوا الْیَوْمَ اَیُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ وَقَالَ لَهُمْ شُرَكَاءُؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِیَّاَنَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۷۸﴾ مَا نَافِیَةٌ  
 وَقُدِّمَ الْمَفْعُولُ لِلْفَاصِلَةِ فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِیْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ مَخْفَفَةٌ اِیْ اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَفْلِیْنِ ﴿۷۹﴾ هُنَالِكَ  
 اِیْ ذَلِكِ الْیَوْمَ تَبَلَّوْا مِّنَ الْبَلَوِیْ وَفِیْ قِرَاءَةِ بَتَائِیْنٍ مِّنَ التَّلَاوَةِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا اسْلَفَتْ قَدَّمَتْ مِّنَ الْعَمَلِ  
 وَرَدَّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ الثَّابِتِ الدَّائِمِ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ﴿۸۰﴾ عَلَیْهِ مِنَ الشُّرَكَاءِ .

۶۰  
۵۰  
۸

**ترجمہ:** اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو یعنی کفار مکہ کو تکلیف اور قحط سالی کے بعد جو ان کو پیش آچکی ہوتی ہے  
 رحمت یعنی بارش اور خوشحالی کا مزا چکھا دیتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں کے بارے میں استہزاء اور تکلیف کے ذریعہ چالبازیاں  
 کرنے لگتے ہیں ان سے کہو کہ اللہ چالبازی کا جواب دینے میں تم سے زیادہ تیز ہے (اور) بلاشبہ ہمارے فرشتے ان کی مکاریوں  
 کو قلمبند کر رہے ہیں (تم مکرون) یاء اور تاء کے ساتھ ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور ایک قراءت  
 میں ینشرون ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ ان کو نرم (موافق) ہوا کے ذریعہ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس  
 سے خوش ہوتے ہیں تو (اچانک) ہوا کا ایک شدید بگولا آتا ہے جو ہر شئی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور ہر طرف سے موجیں آنے  
 لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ (برے) آگھرے یعنی وہ اب ہلاک کئے گئے، اس وقت یہ لوگ دین کو اللہ کے لئے خالص  
 کر کے (اخلاص کے ساتھ) اللہ سے دعاء کرنے لگتے ہیں اور قسمیہ کہتے ہیں (لئن میں) لام قسمیہ ہے اگر تو نے ہم کو ان  
 ہولناکیوں سے نجات دیدی تو ہم تیرے شکر گزار موحد بندوں میں سے ہو جائیں گے مگر جب ہم نے ان کو بچا لیا تو پھر وہی لوگ  
 زمین پر شرک کر کے ناحق سرکشی کرنے لگے، لوگو یہ سرکشی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے اس لئے کہ اس کا گناہ تمہارے اوپر ہے  
 دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، چند روز لوٹ لو موت کے بعد تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم  
 (دنیا میں) کیا کچھ کیا کرتے تھے، پھر ہم تم کو اس کا بدلہ دیں گے اور ایک قراءت میں متاع کے نصب کے ساتھ ہے، (ای  
 تتمتعون متاع الحیوة الدنیا) دنیوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برساجس کی وجہ سے زمین کی پیداوار  
 خوب کھنی ہوگئی، جس میں سے انسان کھاتے ہیں مثلاً گندم، جو وغیرہ، اور جانور کھاتے ہیں مثلاً گھاس وغیرہ، پھر عین اس وقت  
 جبکہ زمین اپنی پوری بہار پر تھی یعنی ہریالی کی وجہ سے پر رونق تھی، اور اس کی رونق کی وجہ سے خوب زیبائش ہوگئی (ازینت) کی  
 اصل تزینت تھی، تاء کو زاء سے بدل کر زاء کو زاء میں مدغم کر دیا پھر اس کے شروع میں ہمزہ وصل کا اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے  
 مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم اس (سے فائدہ حاصل کرنے) پر قادر ہیں یعنی اس کے پھلوں (پیداوار) سے فائدہ اٹھانے پر قادر

ہیں یکا یک رات میں یا دن میں ہمارا حکم یعنی فیصلہ یا عذاب اس پر آپڑا تو ہم نے اس کھیتی کو صاف کر دیا جیسا کہ درانتی سے کٹی ہوئی کھیتی، ایسی جیسا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، اسی طرح کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اور اللہ ایمان کی دعوت دے کر سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جنت ہے اور وہ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم (یعنی) دین اسلام کی جانب رہنمائی کرتا ہے جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نیکی کی ان کے لئے خوبی (یعنی) جنت ہے، اور مزید برآں بھی، اور وہ (مزید) اللہ کا دیدار ہے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت مشقت، یہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بدی کی ہوگی اس (الذین) کا عطف الذین احسنوا پر ہے (تقدیر عبارت) وَلِلَّذِينَ كَسَبُوا ہے، ان کی بدی کی سزا ان کی بدی کے مثل ہوگی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی ان کو اللہ (کے عذاب) سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، من زائدہ ہے گویا کہ ان کے چہروں پر سیاہ رات کا ایک حصہ ڈال دیا گیا ہوگا (قطعاً) طاء کے فتح کے ساتھ، قِطْعًا قِطْعَةً کی جمع ہے، اور سکون طاء کے ساتھ بمعنی حصہ ہے یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک بت اپنی جگہ ٹھہرو (مکانکم) الزموا مقدر کی وجہ سے منصوب ہے (انتم) فعل مقدر (الزموا) میں ضمیر مستتر کی تاکید ہے تاکہ (ضمیر مستتر) پر عطف درست ہو سکے، تو ہم ان کے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے جیسا کہ (آیت) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ، میں ہے، اور ان سے وہ شرکاء کہیں گے تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے مَا، نافیہ ہے فواصل کی رعایت کی وجہ سے مفعول (ایانا) کو مقلد کر دیا گیا ہے، سو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے اِنْ مَخْفَہُ عَنِ الْمَثَلِ ہے اِیْ اِنَّا، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے اس دن ہر شخص اپنے کئے کا مزا چکھ لے گا تبسوا، بلوی، سے ماخوذ ہے اور ایک قراءت میں دو تاؤں کے ساتھ ہے (اس وقت) یہ تلاوة سے ماخوذ ہوگا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مولائے حقیقی ہے ثابت و دائم ہے، لوٹائے جائیں گے اور جو جھوٹ انہوں نے شرکاء کے بارے میں گھڑ رکھے تھے غائب ہو جائیں گے۔

## تَحْقِيقُ تَرْكِيبِ تَسْمِيْلٍ وَ تَفْسِيْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ ..... اِلَى ..... إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِیْ آیَتِنَا، وَ اَوْ اسْتِیْنَافِیَّةٌ إِذَا ظَرْفِیَّةٌ مُتَضَمِّنٌ بِمَعْنَى شَرْطٍ، إِذَا لَهُمْ، جَزَاءٌ شَرْطٍ هُوَ إِذَا مَفَاجَاتِیْہِہٖ.

قَوْلُهُ: مَجَازَاةٌ.

سُؤَالٌ: مَكْرٌ كِی تَفْسِیْرُ مَجَازَاةٍ سَے كَرْنِے كَا كِیَا مَقْصَدُ هَے؟

جَوَابٌ: چُونكہ مَكْر كِی نِسْبَتُ اللّٰہِ تَعَالٰی كِی طَرَفُ مَنَاسِبِ نَہِیْں ہَے اسلئے مَكْر كِی تَفْسِیْرُ جَزَاءِ مَكْر سَے كِی ہَے۔



**قَوْلٌ:** السفن، فُلُكُ کا صیغہ چونکہ مفرد اور جمع کے لئے مشترک ہے اسلئے فُلُكُ کی تفسیر سُفُن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں جمع مراد ہے۔

**قَوْلٌ:** فِيهِ التَّفَاتُّ عَنْ الْخَطَابِ، سابق میں خطاب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں جَرَيْنَ بہم میں غائب کی ضمیر لائی گئی ہے ایسا زیادتی تفسیح کو بیان کرنے کے لئے کیا گیا ہے جَرَيْنَ ماضی جمع مَوْنُث غائب کا صیغہ ہے وہ چلیں، وہ جاری ہوئیں، متعدی بالباء کی وجہ سے اس کے معنی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر چلیں۔

**قَوْلٌ:** رِيحٌ، الْهَوَاءُ الْمَسْخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ریح فضاء میں معلق ہوا کو کہتے ہیں (المصباح) رِيحُ اصل میں رَوْحٌ تھا واو کو ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یاء سے بدل دیا رِيحٌ ہو گیا اس کی جمع اَرْوَاحٌ اور رِيَاحٌ آتی ہے رِيحٌ مَوْنُث سماعی ہے۔

**قَوْلٌ:** وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ اس کا عطف جَاءَ هُمْ پر ہے اور اِنَّ اور جو اس کے ماتحت ہے وہ ظَنُّوا کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے اور أُحِيطَ بِهِمْ اَنَّ کی خبر ہے اور جملہ دَعَوْا اللّٰهَ الْخَ ظَنُّوا سے بدل الاشتمال ہے اسلئے کہ ان کی دعاء ان کے ہلاکت کے گمان کے لوازم میں سے ہے، اور سوال مقدر کا جواب ہونے کی صورت میں جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے (یعنی) مَاذَا صَنَعُوا؟ قِيلَ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

**قَوْلٌ:** اصله تَزَيَّنْتَ، باب تَفَعَّلٌ.

**قَوْلٌ:** زَرَعَهَا.

**سَوَال:** یہاں حذف مضاف سے کیا فائدہ ہے؟

**جَوَاب:** اگر زرع مضاف محذوف نہ مانا جائے تو نفس ارض کو کاٹنا لازم آئے گا حالانکہ زمین کے کاٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے زرع مضاف محذوف مانا، اور اظہار مبالغہ کے لئے مضاف کو حذف کر دیا یعنی کھیتی کو کاٹ کر ایسا صاف کر دیا گویا زمین ہی کو کاٹ کر صاف کر دیا۔

**قَوْلٌ:** عَطَفٌ عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا، یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق ہے جو فی الدار زید والحجرۃ عمرو کی ترکیب کو جائز کہتے ہیں۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً (الآیۃ) یہ اسی سات سالہ خشک سالی کے ابتلاء کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر ابھی آیت نمبر ۱۱-۱۲ میں گذرا ہے جس میں وہ درختوں کے پتے اور سوکھا چڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے ضعف اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اور آسمانوں پر دھواں نظر آنے لگا تھا اور جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اپنے معبودوں سے مایوس ہو کر جن کو مشرکوں نے اللہ کے یہاں سفارشی ٹھہرا رکھا تھا، ابوسفیان نے آپ ﷺ کی خدمت میں مدینہ آ کر بارانِ رحمت

کی دعاء کرائی تھی اور آپ کی دعاء کی بدولت ان کی یہ سات سالہ مصیبت دور ہوئی تھی اور جب یہ مصیبت دور ہوگئی تو بجائے اس کے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لاتے اور آپ ﷺ کی رسالت کو قبول کرتے اس خشک سالی کی مختلف تاویل و توجیہ کر کے کہنے لگے کہ یہ خشک سالی کوئی نئی بات نہیں ہے خشک سالی تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہی رہتی ہے اور ہمارے یہاں بھی اس سے پہلے بارہا خشک سالی ہوئی ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اس مرتبہ ذرا طویل ہوگئی، مشرکین کی اسی حرکت کو مکرو چال بازی سے تعبیر کیا ہے۔

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا، عربی لغت کے اعتبار سے مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی یہاں اردو محاورہ کا مکر مراد نہیں ہے جو کہ دھوکہ اور فریب کو کہتے ہیں، جس سے حق تعالیٰ بری ہے، بلکہ یہاں جزاء مکر مراد ہے اور وہ اس طرح کہ اگر تم اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں اسی باغیانہ روش پر چلتے رہنے کی چھوٹ دے گا اور جیتے جی اپنے رزق اور اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا جس سے تمہارا نشہ زندگی تمہیں یوں ہی مست رکھے گا، اور اس مستی کے دوران جو کچھ تم کرو گے وہ سب اللہ کے فرشتے خاموشی کے ساتھ بیٹھے لکھتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک موت کا پیغام آجائے گا اور تم اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لئے گرفتار کر لئے جاؤ گے۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ، یہاں دار السلام سے مراد جنت ہے جنت کو دار السلام اسلئے کہا گیا ہے کہ وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے نہ وہاں کسی قسم کا غم اور نہ تکلیف نہ بیماری کا خطرہ اور نہ موت کا غم جنت کا دار السلام نام رکھنے کی ایک دوسری وجہ احادیث میں یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا۔

### جنت میں خدا کا دیدار:

لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحَسَنٰی وَزِيَادَةً، زیادہ سے مراد حق تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگا، صحیح مسلم میں حضرت صہیب کی روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتلاؤ ہم اسے پورا کریں گے، اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں؟ اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تب معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا جو رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے بے مانگے عطا فرمائی۔

قُلْ لَهُمْ مِّنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ بِالنَّبَاتِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ بِمَعْنٰی الْاَسْمَاعِ اٰی خَلَقَهَا وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ فَسَيَقُولُونَ هُوَ اللّٰهُ فَقُلْ لَهُمْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦﴾ فَتَوَمِّنُونَ فَذَلِكُمْ الْفَعَالُ لِهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ الثَّابِتُ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ ﴿١٧﴾ استفہام تقریر ای لیس بعدہ غیرہ فَمَنْ اِخْطَا الْحَقَّ وَهُوَ عِبَادَةُ اللّٰهِ وَقَعَ فِي الضَّلَالِ فَانِّ كَيْفَ تُصَرِّفُونَ ﴿١٨﴾



عن الايمان مع قيام البرهان كَذَلِكَ كَمَا صُفِّرَ هَوْلًا عَنِ الْاِيْمَانِ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا كَفَرُوا وَبِهِ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ الْاَيَةُ اَوْبَى اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلُوبُ اللَّهِ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاقُلْ تَوَفَّكُونَ ۝ تُصَرِّفُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ بِنَصَبِ الْحُجَجِ وَخَلَقَ الْاِبْتِدَاءِ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَهُوَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي يَهْتَدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ اسْتَفْهَامُ تَقْرِيرٍ وَتَوْبِيخٍ أَيْ الْاَوَّلُ أَحَقُّ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ بِذَا الْحَكْمِ الْفَاسِدِ مَنْ اتَّبَعَ مَا لَا يَحِقُّ اتِّبَاعُهُ وَمَا يُتَّبَعُ أَكْثَرُهُمْ فِي عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ الْاِظْنَاءُ حَيْثُ قَلَّدُوا فِيهِ اِبَائَهُمْ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فِيمَا الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الْعِلْمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى أَيْ افْتِرَاءٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ وَلَكِنْ أَنْزَلَ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ وَتَفْصِيلَ الْكُتُبِ تَبَيِّنَ مَا كَتَبَ اللَّهُ مِنَ الْاَحْكَامِ وَغَيْرِهَا لَا رَيْبَ شَكٍّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ متعلق بتصديق او بانزال المحذوف وقرئ برفع تصديق وتفصيل بتقدير هو أم بل يقولون افتريه اختلقه محمد قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ عَلَى وَجْهِ الْاِفْتِرَاءِ فَانَّكُمْ عَرَبِيُونَ فَصَحَاءُ مِثْلِي وَادْعُوا لِلْعَاقَةِ عَلَيْهِ مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فِي أَنَّهُ افْتِرَاءٌ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ أَيْ بِالْقُرْآنِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوهُ وَلَمَّا لَمْ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ عَاقِبَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ كَذَلِكَ التَّكْذِيبُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ بتكذيب الرسل أَيْ آخِرُ امْرِئِهِمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَكَذَلِكَ يَهْلِكُ هَوْلًا وَمِنْهُمْ أَيْ اِهْلُ مَكَّةَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّ اللَّهَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اَبَدًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝ تهديد لهم

**ترجمہ:** ان سے پوچھو آسمان سے بارش کے ذریعہ اور زمین سے نباتات کے ذریعہ تم کو کون رزق دیتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ سَمْعُ بمعنی اَسْمَاعُ ہے یعنی کس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو مخلوق کے معاملات کا نظم کرتا ہے ضرور وہ یہی کہیں گے وہ اللہ ہے تو ان سے کہو کہ پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ ایمان لے آؤ، سو یہ جو ان تمام چیزوں کا کرنے والا ہے اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد بجز گمراہی کے اور باقی رہ ہی کیا گیا؟ استفہام تقریری ہے یعنی اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہا، لہذا جو حق سے ہٹا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے گمراہی میں گرا، تو پھر دلیل قائم ہونے کے باوجود ایمان سے کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے فاسقوں کے حق میں ثابت ہوگئی، وہ بات لا ملأَنَّ جَهَنَّمَ الْخَبَاثَ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہے، آپ کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی، ایسا ہے کہ جو پہلی بار بھی پیدا کرے اور دوبارہ بھی پیدا کرے آپ

کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تو تم قیام دلیل کے باوجود اس کی عبادت سے کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ آپ ان سے کہئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو دلائل کے ساتھ اور ہدایت کی تخلیق کے ساتھ راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہئے کہ صرف اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، آپ کہئے کہ وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ یا وہ جس نے خود ہی ہدایت نہیں پائی بجز اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جائے زیادہ حق دار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، استفہام تقریر و توضیح کے لئے ہے، یعنی اول زیادہ حق دار ہے آخر تمہیں ہو کیا گیا کہ تم غیر حق دار کی اتباع کے کیسے غلط فیصلے کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں کی اکثریت بت پرستی کے بارے میں محض خیال و گمان کی پیروی کرتی ہے اسلئے کہ انہوں نے اس معاملہ میں اپنے آباء کی تقلید کی ہے حالانکہ گمان حق، یعنی علم مطلوب کی ضرورت کو ذرا بھی پورا نہیں کرتا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے لہذا وہ ان کے اعمال کی جزاء دے گا، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کے لئے نازل کیا گیا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور احکام وغیرہ جو اللہ نے فرض کئے ہیں ان کی تفصیل کرنے والا ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ رب العلمین کی طرف سے نازل ہوا ہے (من رب العلمین) تصدیق یا انزالِ مخدوف کے متعلق ہے، اور تصدیق و تفصیل کے رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے ہو۔۔۔ کی تقدیر کے ساتھ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو محمد ﷺ نے گھڑ لیا ہے؟ آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ تم بھی فصاحت و بلاغت میں اس کے جیسی ایک سورت گھڑ کر لے آؤ اس لئے کہ تم بھی میرے جیسے عربی ہو فصحاء ہو اور اس میں مدد کے لئے غیر اللہ میں سے جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے چنانچہ وہ یہ نہ کر سکے، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کا وہ علمی احاطہ نہ کر سکے یعنی قرآن کا اور نہ انہوں نے اس میں غور و فکر کیا، اور ہنوز ان کو اس کا خیر نتیجہ کہ وہ وعید ہے نہیں ملا اسی طرح انہوں نے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی سودیکھ لو رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان ظالموں کا کیا انجام ہوا؟ یعنی ان کا آخری انجام ہلاکت ہوئی تو اسی طرح یہ لوگ ہلاک کئے جائیں گے ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہونے کے وجہ سے جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں جو اس پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے یہ ان کے لئے تہدید ہے۔

### تحقیق و تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: بمعنی الاسماع، اس میں اشارہ ہے کہ السمعُ پر الف لام استغراق کا ہے تاکہ الابصار کا تقابل صحیح ہو سکے۔

سُئِلَ: یَمْلِكُ کی تفسیر مفسر علام نے خَلْقَهَا سے کیوں فرمائی؟

جَوَابُ: اس لئے کہ کانوں اور آنکھوں میں ملکیت آنکھ و کان والوں کی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ارش کا صاحبِ اذن و سمع ہی مالک ہوتا ہے، اس شبہ کو دور کرنے کے لئے ملک کی تفسیر خَلْقَهَا سے فرمائی۔



قَوْلًا: هو الله.

سُؤَال: هو، مقدر ماننے کی کیا وجہ ہے۔

جَوَاب: چونکہ یہاں لفظ اللہ جو کہ مقولہ واقع ہو رہا ہے مفرد ہے حالانکہ مقولہ جملہ ہوا کرتا ہے مفسر علام نے ھُوَ محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ ھُو محذوف ہے جس کی وجہ سے مقولہ جملہ ہے نہ کہ مفرد۔

قَوْلًا: اَوْ هِيَ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس اضافہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کَلِمَتُ رَبِّكَ سے دو صورتیں مراد ہو سکتی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کا قول لَا مَلْئَن جَهَنَّمَ الْخ اور دوسری اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اگر پہلی صورت مراد ہو تو، اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ علت ہوگی ای لَا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔

قَوْلًا: بِنَصَبِ الْحَجَجِ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت سے مراد محض اراء الطریق نہیں ہے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے کیوں کہ دیگر بھی رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں، بخلاف ایصال الی المطلوب کے جو کہ یہاں مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

قَوْلًا: يَهْدِي، اس اضافہ کا مقصد يَهْدِي کی اصل بتانا ہے کہ يَهْدِي اصل میں يَهْدِي باب افتعال سے ہے تاء کو دال میں قلب کے بعد ادغام کر دیا اور ہاء کو التقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیدیا۔

قَوْلًا: اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ، یہ ام مِّن لَا يَهْدِي مبتداء کی خبر ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحَ

### مشرکین سے چند سوالات:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ تمام سوالات مشرکین سے بطور جرح ہو رہے ہیں، ان سوالات میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ سوالات میں ایک خاص ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، پہلا سوال رزق سے متعلق ہے جو سلسلہ ربوبیت میں اول نمبر پر ہے پھر انسان کے حواس ظاہرہ سے متعلق سوال ہے جن کے بغیر انسان اور جماد برابر ہیں، پھر حیات و موت سے متعلق سوال ہے اور آخر میں انتظام امور سے متعلق ہے۔

آیت ۳۲ میں خطاب عام لوگوں سے کیا جا رہا ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو بلکہ یہ ہے کہ کدھر پھرائے جا رہے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا گمراہ کن شخص یا گروہ موجود ہے جو لوگوں کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پر لے جا رہا ہے اسی بنا پر عام لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ تم اندھے بن کر غلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہو؟ اپنی عقل سے کام لے کر آخر کیوں نہیں سمجھتے کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم کو کسی خاص مقصد سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غلط راستہ پر لیجا یا رہا ہے ایسے موقعوں پر عام طور پر قرآن کریم میں گمراہ کن گروہ یا شخص کا نام لینے کے بجائے مجہول کا صیغہ استعمال کیا

گیا ہے تاکہ ان کے معتقدین اپنے معاملہ پر ٹھنڈے دل سے غور کر سکیں اور کسی کو یہ کہہ کر انھیں اشتعال دلانے اور دماغی توازن بگاڑنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگوں اور پیشواؤں پر چوٹیں کسی جا رہی ہیں، اس طرز میں حکمتِ تبلیغ کا ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے جس سے ایک مبلغ کو کسی حال میں غافل و بے خبر نہ رہنا چاہئے۔

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْخِطَابُ مَطْلَبُ يَهْ كِهْ اِيْسِي كَهْلِي كَهْلِي اَوْر عَام فَهْم دِلِيُوں كِهْ ذَرِيْعَه بَات سَمْجھائی جَار هِي هِي كِهْ هِر اَنصَاف پَسَنَد كِهْ دِل مِيں اَتْر جَائِي، لِيَكِن جَنهُوُن نِي نِه مَانِنِي هِي كَا فِصْلَه كَر لِيَا هِي وَه اِنِي ضِد كِي وَجِه سِي كُي طَرَف مَان كَر نِهِيں دِيْتِي۔

قل هل من شركاء كمر من يبدؤا الخ الخ تخلیق کی ابتداء کے متعلق تو مشرکین مانتے ہی تھے کہ یہ صرف اللہ کا کام ہے ان کے شریکوں میں سے اس کام میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، وہاں تخلیق کے اعادہ کا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ جو ابتداء پیدا کرنے والا ہے وہ ہی دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے مگر جو ابتداء ہی پیدا کرنے پر قادر نہ ہو وہ کس طرح اعادۂ تخلیق پر قادر ہوگا؟ یہ بات اگرچہ صریحاً ایک معقول بات ہے اور خود مشرکین کے دل بھی اندر سے اس کی گواہی دیتے تھے کہ بات بالکل پتے کی ہے لیکن انھیں اس کا اقرار کرنے میں اس بنا پر تامل تھا کہ اسے مان لینے کے بعد انکار آخرت مشکل ہو جاتا، یہی وجہ ہے کہ اوپر کے سوالات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے ہیں، مگر یہاں اس کے بجائے نبی ﷺ سے ارشاد ہوا کہ تم علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ یہ ابتداء خلق اور اعادۂ خلق کا کام بھی اللہ ہی کا ہے، جب یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ تمہاری ابتداء اور انتہا کے دونوں سرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تو ذرا اپنے ہی خیر خواہ بن کر یہ سوچو کہ آخر تمہیں یہ کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ ان دونوں سروں کے بیچ میں تمہاری نیاز مند یوں اور بندگیوں کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو پہنچتا ہے؟

قل هل من شركاء كمر من يهدي الى الحق الخ یعنی گم گشتہ راہ اور ہدایت سے برگشتہ لوگوں کو ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ ہی ہے ان کے شرکاء میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کام کر سکے جب یہ حقیقت اور امر واقعہ ہے تو پھر سوچو کہ وہ شخص جو دیکھتا سنتا ہے اور لوگوں کی حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کے زیادہ لائق ہے یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود بھی راستہ پر نہ چل سکتا ہو جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راستہ پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کر نہ لیجائیں؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ تم اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہراتے ہو جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور اسی کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اٹکل پچھو محض ظن و تخمین پر چلتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلہ میں اوہام و خیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اِيْ لِكُلِّ جَزَاءٍ عَمَلِهٖ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَهَذَا مَنسُوحٌ بِآيَةِ السِّيفِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَرَ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانُوا مَعَ الصَّمَمِ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ



أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۖ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْإِبْتِدَاءِ بَلْ بِهِمْ اعْظُمُ فَاَنْهَا لَا تَعْمَى  
 الْإِبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝  
 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنِ هُمْ كَانَتْهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيَا أَوْ الْقُبُورِ إِلَّا سَاعَةٌ مِّنَ النَّهَارِ لَهَولٌ مَّا رَأَوْا وَجُمْلَةُ التَّشْبِيهِ  
 حَالٌ مِّنَ الضَّمِيرِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِذَا بُعْثُوا ثُمَّ يَنْقَطِعُ التَّعَارُفُ لِشِدَّةِ الْإِهْوَالِ  
 وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مَّقْدَرَةٌ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالظُّرْفِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ بِالْبَعْثِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝  
 وَإِنَّمَا فِيهِ ادْغَامُ نُونٍ إِنْ الشَّرْطِيَّةُ فِي مَا الزَّائِدَةُ تُرِيَّتِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ  
 مَحْذُوفٌ أَيْ فَذَاكَ أَوْ نَتَوَفِّيكَ قَبْلَ تَعْدِيهِمْ فَإِنَّمَا رَجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ مُّطَّلِعٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۝  
 تَكْذِيبُهُمْ وَكَفْرُهُمْ فَيُعَذِّبُهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنَ الْأَسْمَاءِ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ إِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوهُ  
 فَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ فَيُعَذِّبُوا وَيُنْجِي الرُّسُولُ وَمَنْ صَدَّقَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝  
 فَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِهِؤَلَاءِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝  
 وَلَا نَفْعًا أَجْلَبُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقَدِّرَنِي عَلَيْهِ فَكَيْفَ أَمْلِكُ لَكُمْ حُلُولَ الْعَذَابِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ مَّدة معلومة  
 لَهَا كَيْفَ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝  
 أَخْبِرُونِي إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَهُ أَيْ اللَّهَ بَيِّنًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا أَيْ شَيْءٍ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَيْ الْعَذَابِ الْمُجْرِمُونَ ۝  
 الْمَشْرِكَوْنَ فِيهِ وَضَعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ وَجُمْلَةُ الْأَسْتَفْهَامِ جَوَابُ الشَّرْطِ كَقَوْلِكَ إِنْ أَتَيْتَكَ مَاذَا  
 تُعْطِينِي وَالْمُرَادُ بِهِ التَّهْوِيلُ أَيْ مَا اعْظَمَ مَا اسْتَعْجَلُوهُ أَتَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ حَلَّ بِكُمْ أَمْنَتُمْ بِهِ أَيْ اللَّهَ أَوْ  
 الْعَذَابَ عِنْدَ نُزُولِهِ وَالْهَمْزَةُ لِانْكَارِ التَّأْخِيرِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ وَيُقَالُ لَكُمْ أَلَسْتُمْ تَوَسِّنُونَ  
 وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝  
 تُجْزَوْنَ إِلَّا جَزَاءَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝  
 وَاسْتَهْزَاءٌ ۝  
 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ أَيْ الَّذِي تَخْلُدُونَ فِيهِ هَلْ مَا  
 يُجْزَوْنَ إِلَّا جَزَاءَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝  
 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ ۝  
 يَسْتَخْبِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ أَيْ مَا وَعَدْتَنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ  
 وَالْبَعْثِ قُلْ إِيَّيْ نَعَمْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝  
 بِفَاتَيْنِ الْعَذَابِ.

۱۵۲

**تَرْجُمَہ:** اگر یہ تجھے جھٹلا رہے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے ہے  
 یعنی ہر شخص کو اسی کے عمل کی جزاء ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری  
 سے میں بری اور یہ آیت سیف کے ذریعہ منسوخ ہے، اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تیری بات سنتے ہیں جب تو قرآن  
 پڑھتا ہے، مگر کیا تو بہروں کو سنائیگا کفار کو قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے میں بہروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے خواہ وہ بہرے ہونے  
 کے ساتھ کچھ سمجھتے بھی نہ ہوں (یعنی) غور و فکر نہ کرتے ہوں، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا

آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو، ان (کفار) کو اندھوں کے ساتھ عدم ہدایت میں تشبیہ دی ہے، بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں اسلئے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، بلکہ دل کے اندھے ہیں جو کہ ان کے سینوں میں ہے، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، (ان کو وہ دن یاد دلاؤ) کہ جس دن اللہ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا (کہ وہ منظر کی ہولناکی کی وجہ سے سمجھیں گے) کہ گویا وہ دنیا میں یا قبروں میں دن کی ایک گھڑی ہی رہے ہیں، اور جملہ تشبیہ (بحشر ہم) کی ضمیر مفعول سے حال ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے جبکہ ان کو (قبروں سے) اٹھایا جائیگا، پھر ہولناکی کی شدت کی وجہ سے یہ تعارف ختم ہو جائیگا، اور جملہ (بحشر ہم) کی ضمیر ہم سے حال مقدرہ ہے یا (یوم) ظرف کے متعلق ہے، واقعی سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے بعث کے ذریعہ اللہ کی علامات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں (امّا) میں نون شرطیہ کا مازاندہ میں ادغام ہے اس کا کچھ حصہ آپ کی زندگی میں آپ کو دکھادیں، اور جواب شرط محذوف ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ان کو عذاب دینے سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیدیں بہر حال ان کو ہمارے پاس تو آنا ہی ہے پھر اللہ ان کے سب افعال سے باخبر ہے خواہ وہ ان کی تکذیب کے قبیل سے ہو یا کفر و انکار کے قبیل سے، لہذا وہ ان کو شدید عذاب دے گا اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آجاتا ہے اور وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے چنانچہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور رسول اور اس کی تصدیق کرنے والوں کو نجات دی جاتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا کہ ان کو بغیر ظلم کے سزا دیدی جائے پس ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائیگا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم وعدہ میں سچے ہو، (اے نبی) کہہ دو کہ میرے اختیار میں خود اپنا نقصان نہیں کہ اس کو دفع کر سکوں یا حاصل کر سکوں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، یہ کہ میں اس پر قادر ہوں، تو مجھے تم پر عذاب نازل کرنے کی قدرت کہاں ہوگی؟ ہر امت کی ہلاکت کی ایک مدت مقررہ ہوتی ہے جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس سے گھڑی بھر بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی ان سے کہو مجھے بتاؤ اگر اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں تم پر آ پڑے (تو تم کیا کر سکتے ہو) آخر عذاب ایسی کوئی چیز ہے جس کے لئے مجرم مشرک جلدی مچائیں، اس میں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھا گیا ہے جملہ استفہامیہ جواب شرط ہے، جیسا کہ اس مثال میں، ”ان اتیتک ما ذا تعطينی“ اور مراد اس سے ہولناکی کو بیان کرنا ہے یعنی جس کی یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں کس قدر عظیم ہے!! کیا جب وہ عذاب ان پر آ پڑے گا اس وقت اس پر ایمان لائیں گے یعنی اللہ پر یا عذاب پر اس کے نزول کے وقت، اور ہمزہ انکار تاخیر کے لئے ہے تو تمہارا وہ ایمان مقبول نہ ہوگا، اور تم سے کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم خود ہی استہزاء اس کے جلدی لانے کا تقاضا کرتے تھے پھر ظالموں سے کہا جائیگا کہ اب دائمی عذاب کا مزا چکھو یعنی ایسے عذاب کا کہ جس میں تم ہمیشہ رہو گے، تم کو تمہارے ہی کئے کا بدلہ ملا ہے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب کیا واقعی امر ہے؟ یعنی جس عذاب اور بعث کا تم نے وعدہ کیا ہے (کیا وہ امر واقعی ہے) آپ کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی امر ہے اور تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے یعنی اس کے عذاب سے بچ کر نہیں جاسکتے۔



## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** هذا منسوخ بآية السيف، فهي قوله تعالى، فاقتلوهم حيث وجدتموهم الخ.

**قَوْلٌ:** بل هم اعظم، كفار کواندھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اندھے مشبہ بہ ہیں اور کفار مشبہ، عدم البصيرة بہ نسبت عدم البصر کے زیادہ شدید ہوتی ہے، کفار چونکہ عدم البصيرة ہیں لہذا کفار ضلالت و گمراہی میں اندھوں سے بڑھے ہوئے ہیں۔

**قَوْلٌ:** کانہم، اس میں اشارہ ہے کہ کان مخففہ عن المثلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے۔

**قَوْلٌ:** و جملة التشبيه حال من الضمير اس لئے کہ یوم کی صفت قرار دینے کی صورت میں تقدیر یہ ہوگی، حال کونہم مشبہین بمن لم یلبث الا ساعة الخ.

**قَوْلٌ:** والجملة حال مقدرة، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

**سُؤال:** يتعارفون، يحشرهم کی ضمیر، ہم سے حال ہے اور حال و ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے حالانکہ حشر پہلے ہوگا اور تعارف بعد میں ہوگا لہذا دونوں کا زمانہ ایک نہ ہوا۔

**جواب:** یہ حال مقدرہ ہے کہ کفار کو جمع کیا جائیگا حال یہ ہے کہ ان کیلئے تعارف مقدر کر دیا گیا ہے، ای حال کونہم مقدرین التعارف لانہم متعارفون بالفعل.

**قَوْلٌ:** او متعلق الظرف، اور وہ یوم ہے تقدیر یہ ہے يتعارفون یوم يحشره.

**قَوْلٌ:** وجواب الشرط محذوف، ای فذاک یہ اضافہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤال:** اَمَّا نُرِيَنَّكَ اور اَوْنَتُوْفِيَنَّكَ، دو شرط ہیں اور جزاء ایک ہے اور وہ فَاَلَيْنَا مرجعہم، ہے، حالانکہ اَمَّا نُرِيَنَّكَ پر فَاَلَيْنَا مرجعہم کا ترتب فساد معنی کی وجہ سے درست نہیں ہے۔

**جواب:** کا حاصل یہ ہے کہ فَاَلَيْنَا مرجعہم دونوں شرطوں کی جزاء نہیں ہے بلکہ اَمَّا نُرِيَنَّكَ، کی جزاء محذوف ہے جس کی طرف مفسر علام نے فذاک، محذوف مان کر اشارہ کر دیا ہے۔

**سُؤال:** فذاک جزاء ہے حالانکہ جزاء مفرد نہیں ہوتی۔

**جواب:** فذاک کی اصل فذاک حق ہے۔

**قَوْلٌ:** وضع الظاهر موضع المضمرة.

**سُؤال:** يستعجل منه المجرمون فرمایا يستعجلون منه نہیں فرمایا حالانکہ یہ اس کے مقابلہ میں اخصر ہے۔

**جواب:** اخصر کے مقابلہ میں مختصر تعبیر کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مختصر میں سبب ترک استعجال پر دلالت ہے اور وہ جرم ہے، اس کے علاوہ اس میں ان کی صفت قبیح پر بھی دلالت ہے۔

**قَوْلٌ:** و جملة الاستفهام جواب الشرط ہے اور ان اتکم عذابہ شرط ہے اور مَاذَا يستعجل تقدیر فاء کے ساتھ،

جواب شرط ہے اسلئے کہ جملہ استفہامیہ بغیر فاء کے جزاء واقع نہیں ہوتا۔

قَوْلًا: اِنْ اَتَيْتُكَ مَاذَا تَعْطِينِي یہ مثال استبعاد کو دور کرنے کے لئے ہے یعنی یہ بتانے کے لئے کہ کلام عرب میں جملہ استفہامیہ بغیر فاء کے بھی جزاء واقع ہوتا ہے لہذا کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلًا: وَالْمُرَادُ بِهِ التَّهْوِيلُ یعنی استفہام سے مراد استعلام نہیں ہے بلکہ ہولنا کی کو بیان کرنا ہے۔

قَوْلًا: وَيُقَالُ لَكُمْ اس عبارت کی تقدیر ایک سوال کے جواب کے لئے ہے۔

سُؤَالٌ: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ، كَاعْطَفَ الْثَنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ پر ہے حالانکہ معطوف علیہ جملہ اسمیہ اور معطوف جملہ فعلیہ ہے۔

جَوَابٌ: معطوف علیہ کے ماقبل فعل محذوف ہے جس کو مفسر علام نے و یقال لکم کہہ کر ظاہر کر دیا ہے لہذا اب کوئی اشکال نہیں۔

قَوْلًا: تَوْمَنُونَ.

سُؤَالٌ: الْثَنُّ، یُقَالُ لَكُمْ كَمَا مَقُولُهُ ہے حالانکہ مقولہ جملہ ہوا کرتا ہے اور الْثَنُّ مفرد ہے۔

جَوَابٌ: عبارت محذوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے الْثَنُّ یُؤْمَنُونَ، جیسا کہ مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحِ

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ یعنی تمام تر سمجھانے اور لائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ خواہ مخواہ جھگڑنے اور کج بحثی کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے اگر میں افتراء پر دازی کر رہا ہوں تو اپنے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے اپنا ہی کچھ بگاڑتے ہو، میرا کام دعوت و تبلیغ ہے میں وہ کر چکا سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے اور برے عمل کے بارے میں باز پرس ہوگی، یہی وہ بات ہے جو سورہ کافرون میں ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ میں فرمائی گئی ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ الْخ یعنی ظاہری طور پر قرآن سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں اس لئے انھیں اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بالخصوص جبکہ بہرا غیر عاقل بھی ہوا اسلئے کہ عقلمند بہرا بھی اشاروں سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، اس طرح تو جانور بھی سن لیتے ہیں مگر جس طرح جانوروں کو معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان کو بھی توجہ نہیں ہوتی جوازگ کسی تعصب میں مبتلا ہوں اور جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ اپنے موروثی عقیدوں اور طریقوں کے خلاف اور اپنے نفس اور دلچسپیوں کے خلاف کوئی بات خواہ وہ کیسی ہی معقول کیوں نہ ہو،



مان کر نہ دیں گے وہ سب کچھ سنکر بھی کچھ نہیں سنتے، اسی طرح وہ لوگ بھی کچھ سنکر نہیں دیتے جو دنیا میں جانوروں کی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور چرنے چگنے کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے یا نفس کی خواہشوں اور لذتوں کے پیچھے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ایسے ہی سب لوگ کانوں کے تو بہرے نہیں ہوتے مگر دل کے بہرے ہوتے ہیں۔

یتعارفون بینہم یعنی قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے کسی سے طویل زمانہ کے بعد ملاقات ہوئی ہو تو پہچان لیا ہے مگر بعد میں محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ذہول ہو جائیگا اور یادداشت منقطع ہو جائے گی جس طرح کہ دنیا میں بھی کسی بڑی مصیبت کے وقت یادداشت غائب ہو جاتی ہے، بعض روایات میں ہے کہ پہچان تو رہے گی مگر ہیبت کی وجہ سے بات نہ کر سکیں گے۔

اُثْمَرًا اِذَا مَا وَقَعَ اَمْنُكُمْ بِهِ النَّارُ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کیا تم ایمان اس وقت لاؤ گے جب تم پر عذاب واقع ہو جائیگا مگر اس وقت تمہارے ایمان کے جواب میں یہ کہا جائیگا ”اَللّٰہُ“ کیا اب ایمان لائے ہو جبکہ ایمان کا وقت گزر چکا جیسے غرق ہونے کے وقت فرعون نے کہا تھا ”اَمْسُکْ اِلَہَ لَا اِلَہَ اِلَّا الَّذِیْ اَمْنَتْ بِہِ بَنُو اِسْرَآئِیْلَ“ تو جواب میں کہا گیا تھا ”اَللّٰہُ“ اور اس کا یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغره موت میں گرفتار نہ ہو جائے“ اسی طرح دنیا میں وقوع عذاب سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے جب عذاب آپڑا تو پھر یہ قبول نہیں ہوتی، آگے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ ان کی قوم کی توبہ قبول کر لی گئی اور وہ اس ضابطہ کے ماتحت ہے کہ انہوں نے عذاب کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر سچے دل سے الحاح و زاری کے ساتھ توبہ کر لی اس لئے عذاب ہٹا لیا گیا اگر عذاب ان پر واقع ہو جاتا تو پھر توبہ قبول نہ ہوتی۔ (معارف)

وَلَوْ اَنَّ لِّکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ کَفْرًا مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنَ الْاَمْوَالِ لَا فُتِّدَتْ بِہِ مِّنَ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَاَسْرُوْا التَّدَاۤمَۃَ عَلٰی تَرْکِ الْاِیْمَانِ لَمَّا رَاوُا الْعَذَابَ اٰی اَخْفَاہَا رُؤُوسَاۤؤُہِم مِّنَ الضَّعْفَاءِ الَّذِیْنَ اَضْلُوْہِم مَّخَافَۃَ التَّعْبِیْرِ وَقَضٰی بَیْنَہُمْ بَیْنَ الْخَلَائِقِ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۵۷﴾ شَیْئًا اِلَّا اِنَّ لِلّٰہِ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاۤءِ حَقٌّ ثَابِتٌ وَلٰکِنْ اَکْثَرُہُمْ اٰی النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۵۸﴾ ذٰلَکَ هُوَ یَحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَاِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۵۹﴾ فِی الْاٰخِرَۃِ فِیُجَازِیْکُمْ بِاَعْمَالِکُمْ یَاٰیہَا النَّاسُ اٰی اٰہِلَ مَکَۃَ قَدْ جَآءَکُمْ مَّوْعِظَۃٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ کِتَابٌ فِیْہِ مَّا لَکُمْ وَعَلِیْکُمْ وَہُوَ الْقُرْآنُ وَشِفَاۤءٌ دَوَّآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ مِّنَ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَۃِ وَالشُّکُوکِ وَہُدًی مِّنَ الضَّلٰلَۃِ وَرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۶۰﴾ بِہِ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰہِ الْاِسْلَامُ وَبِرَحْمَتِہِ الْقُرْآنُ فَبِذٰلِکَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَۃِ فَلِیَفْرَحُوْا هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ ﴿۶۱﴾ مِّنَ الدُّنْیَا بِالْبَیْءِ وَالتَّاءِ قُلْ اَرَاَیْتُمْ اَخْبَرُوْنِیْ مَا اَنْزَلَ خَلَقَ اللّٰہُ لَکُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْہُ حَرَامًا وَحَلٰلًا کَالْبَحِیْرَةِ وَالسَّائِبِۃِ وَالْمِیْتَةِ قُلْ اللّٰہُ اٰذِنَ لَکُمْ فِیْ ذٰلِکَ التَّحْرِیْمِ وَالتَّحْلِیْلِ لَا اَمْرَ بَلْ عَلٰی

اللّٰهُ تَفْتَرُوْنَ ۝ تَكْذِبُوْنَ بِنِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكَذِبَ اِیْ اٰیْ شَیْءٍ ظَنُّهُمْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَیَحْسَبُوْنَ اَنَّهُ لَا یُعَاقِبُهُمْ لَا اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ بِاَسْمَآئِهِمْ وَالْاَنْعَامِ عَلَیْهِمْ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝

**ترجمہ:** اگر ہر اس شخص کے پاس کہ جس نے کفر کر کے ظلم کیا روئے زمین کی پوری دولت ہو تو وہ قیامت کے دن عذاب سے رہائی حاصل کرنے کے لئے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ترک ایمان پر ندامت کو چھپائیں گے، یعنی ان کے پیشوا عار دلانے کے خوف سے ندامت کو ان کمزور لوگوں سے چھپائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا مگر ان کے یعنی مخلوق کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائیگا، سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، سن رکھو کہ بعثت اور جزاء کا اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں وہی زندگی عطاء کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور آخرت میں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزاء دے گا، اے لوگو! یعنی مکہ والو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت نامہ آ گیا کہ اس میں فائدے اور نقصان کی چیزوں کا بیان ہے، وہ قرآن ہے اور دل کی بیماریوں کے لئے یعنی عقائد فاسدہ اور شکوک (شبہات) کے لئے شفاء ہے اور گمراہی سے ہدایت ہے اور اس پر یقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (کہو) کہ اللہ کے فضل یعنی اسلام سے اور اس کی رحمت یعنی قرآن سے (خوشی منانی چاہئے) اس پر تو خوش ہونا چاہئے یہ دنیا کی ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ سمیٹ رہے ہیں (یجمعون) یا اورتاء کے ساتھ ہے، (اے نبی) ان سے کہو کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لئے اتارا ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا جیسا کہ بحیرہ اور سائبہ اور مردار، ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس تحریم و تحلیل کی اجازت دی تھی، نہیں، بلکہ تم اللہ پر اس کی طرف نسبت کر کے بہتان لگا رہے ہو، جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے گا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تو لوگوں کو مہلت دے کر اور ان پر انعام فرما کر ان پر رحم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**ترکیب:** لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِی الْاَرْضِ لَا فِتْنَتْ بِهٖ، لَوْ شَرَطِیْهُ اِتْمَاعِیْهِ اَنَّ حَرْفَ مِثْبَ بِالْفِعْلِ، نَفْسٌ ظَلَمَتْ موصوف صفت سے مل کر اُن کی خبر مقدم ما اسم موصول محل منصوب اُن اپنے ماتحت کے ثبت فعل محذوف کا فاعل، ما موصولہ صلہ سے مل کر جملہ ہو کر اُن کا اسم لافتدت بہ جواب شرط ای لَوْ ثَبَتَ ذٰلِكَ لَا فِتْنَتْ بِهٖ۔



قَوْلُهُ: اِيْ اَخْفَاهَا، اَسْرُوْا كِي تَفْسِيْر اَخْفَاهَا سِي بِيَان مَعْنِي كِي لِيْنِيْ هِي كِي اَسْرُوْا، اَضْدَادِيْن سِي هِي اَسْلِيْنِيْ كِي اَس كِي مَعْنِي اَظْهَر كِي بِيْ هِي اِيْن اَوْر اَخْفَا كِي بِيْ دُوسَرِيْ مَعْنِي زِيَادِيْ مَشْهُور هِيْن اَكْر چِي اَحْتِمَال دُونُوْن مَعْنِي كَا هِي۔

قَوْلُهُ: اِيْ شَيْءٍ ظَنَّهُمْ بِه اِس مِيْن اِس بَات كِي طَرَف اِشَارِيْ هِي كِي مَا ظَنُّ الدِّينِ، مِيْن مَا مَعْنِي اِيْ شَيْءٍ مُّبْتَدَا هِي اَوْر ظَنُّ الدِّينِ يَفْتَرُوْن عَلٰی اللّٰهِ اِس كِي خَبَر هِي، اَوْر يَوْمَ ظَنُّ كِي وَجِيْ سِي مُنْصُوب هِي، اِيْ ظَنُّ وَاقِع فِيْهِ۔

## تَفْسِيْر وَتَشْرِيْح

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ اِلٰخ لِيْعْنِيْ اَكْر دُنْيَا بِيْجَر كَا خَزَانِيْ دِيْ كَرُوْهُ عَذَاب سِي چھوْٹ جَانِيْ تُو دِيْنِيْ كِي لِيْنِيْ آمَادِيْ هُوْكَ، لِيْكِن وَهَان كِيْ كِي پَاس هُوْكَ اِيْ كِيَا؟ خِلَاصِيْ هِي كِي عَذَاب سِي چھٹْكَارِيْ كِي كُوْنِيْ صُورَت نِيْ هُوْكَ۔

وَشَفَاء لِمَا فِي الصَّدُور، شَفَاء كِي مَعْنِي بِيْمَارِيْ دُور هُونِيْ كِي هِيْن اَوْر صُدُور صُدُر كِي جَمْع هِي جِس كَا مَعْنِي سِيْنِيْ كِي هِيْن مَرَاد قَلْب هِي، مَطْلَب يِي هِي كِي قُرْآن مَحِيْم دِل كِي بِيْمَارِيُوْن كَا كَامِيَاب عِلَاج هِي اَوْر صَحْت وَشَفَاء كَا نَسِيْجِيْ اَكْسِيْر هِي حَسَن بَصْرِي رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نِيْ فَرْمَا يَا كِي قُرْآن كِي اِس صِفَت سِي مَعْلُوم هُوتَا هِي كِي قُرْآن خَاص دِلُوْن كِي بِيْمَارِيُوْن كِي لِيْنِيْ شَفَاء هِي نِيْ كِي جِسْمَانِيْ بِيْمَارِيُوْن كِيْلِيْ (رُوحُ الْمَعَانِي) مَكْر دِيْكَر حَضْرَات كَا كِهْنَا هِي كِي حَقِيْقَت قُرْآن ہر بيماری کی شفاء ہے خواہ قلبی ہوں یا روحانی، مگر چونکہ روحانی بیماری انسان کے لِيْن جِسْمَانِيْ بِيْمَارِيْ كِي بِيْ نِسْبَت زِيَادِيْ تَبَاہ كِيْن اَوْر ہلاکت خیز ہوتی ہے اِسْلِيْنِيْ خَاص طُور پَر قَلْبِيْ بِيْمَارِيْ كَا ذَكْر فَرْمَا يَا، اِس سِي يِي لَازِم نِيْھِيْن اَتَا كِي جِسْمَانِيْ بِيْمَارِيُوْن كِي لِيْنِيْ شَفَاء نِيْھِيْن هِي۔

رُويَات حَدِيْث اَوْر عِلْمَاء اَمْت كِي بِيْشَار تَجْرِبَات اِس پَر شَاهِد هِيْن كِي قُرْآن كَرِيْم جِيْ سِي رُوحَانِيْ عِلَاج كِي لِيْنِيْ اَكْسِيْر اعْظَم هِي اِس طَرَح جِسْمَانِيْ بِيْمَارِيُوْن كِي لِيْنِيْ بِيْھِيْ بِيْھَتَرِيْن عِلَاج هِي۔

حَضْرَت اَبُو سَعِيْد خَدْرِيْ كِي رُويَات هِي كِي اِيْكَ شَخْص آپ ﷺ كِي خَدْمَت مِيْن حَاضِر هُوا اَوْر سِيْنِيْ مِيْن دَرْد كِي شَكَايَت كِي آپ نِيْ فَرْمَا يَا قُرْآن پڑھا كَرُو كِيونكِيْ حَق تَعَالٰی كَا اِرْشَاد هِي ”شَفَاء لِمَا فِي الصَّدُور“۔ (رُوحُ الْمَعَانِي)

عِلْمَاء اَمْت نِيْ كِيْچھ رُويَات اَوْر اَثَار سِي آيَات قُرْآنِيْ كِي خَوَاص اَوْر فَوَائِد مُسْتَقِل كِتَابُوْن مِيْن جَمْع بِيْھِيْ كَر دِيْے هِيْن اِمَام غَزَالِيْ كِي كِتَاب ”خَوَاص قُرْآنِيْ“ اِس مَوْضُوع پَر مَعْرُوف وَ مَشْهُور هِي جِس كِي تَلْخِيْص حَضْرَت تَهَانُوي رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نِيْ ”اَعْمَال قُرْآنِيْ“ كِي نَام سِي فَرْمَا يِي هِي اَوْر مَشَاهِدَات وَ تَجْرِبَات اَتِنِيْ هِيْن كِي اِن كَا اِنْكَار نِيْھِيْن كِيَا جَا سَكْتَا، اَلْبَتِيْ يِي بَات ضَرُور هِي كِي نَزُول قُرْآن كَا اَصْل مَقْصِد قَلْب وَ رُوح هِي كِي بِيْمَارِيُوْن كُو دُور كَرْنَا هِي اَوْر ضَمْنِيْ طُور پَر جِسْمَانِيْ بِيْمَارِيُوْن كَا بِيْھِيْ بِيْھَتَرِيْن عِلَاج هِي۔

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ”خُوشِي“ اِس كِيْفِيَّت كَا نَام هِي جُو كِي مَطْلُوب چِيْز كِي حَصُول پَر اِنْسَان اِيْنِيْ دِل مِيْن مُحْسُوس كَرْتَا هِي، اِہل اِيْمَان سِي كِهْا جَار ہا ہے كِي يِي قُرْآن اللّٰہ كَا خَاص فَضْل اَوْر اِس كِي رَحْمَت هِي اِس پَر اِہل اِيْمَان كُو خُوش ہونا چاہیے۔

فجعلتم منه حراماً وحلالاً الخ اس سے مراد ہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے جس کی تفصیل سورہ انعام میں گزر چکی ہے مثلاً بحیرہ، اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا کان چیر کر بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، سائب اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ جس کو اہل جاہلیت موسیٰ میں سے بت کے نام آزاد کر دیتے تھے اور اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے اور اس کا جدھر جی چاہے پھرے اس کے لئے کوئی روک نہیں ہوتی تھی۔

وَمَا تَكُونُ يَا مُحَمَّدُ فِي شَأْنٍ أَمْرٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ أَيْ مِنَ الشَّانِ أَوِ اللَّهِ مِنْ قُرْآنٍ أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ وَلَا تَعْمَلُونَ خَاطَبَهُ وَامْتَنَهُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا رُقَبَاءَ إِذْ تُفِيضُونَ تَأْخُذُونَ فِيهِ أَيْ الْعَمَلِ وَمَا يَعْزُبُ يَغِيبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالٍ وَزَنٍ ذَرَّةٍ أَصْغَرَ نَمْلَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑩

بَيِّنَ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ إِلَّا أَنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑪ فِي الْآخِرَةِ بِهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑫ اللَّهُ بِامْتِنَالِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فُسِّرَتْ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِالرُّوْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ أَوْ تَرَى لَهُ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا خَلْفَ لِمَوَاعِيدِهِ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑬ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ لَكَ لَسْتَ مُرْسَلًا وَغَيْرِهِ إِنْ اسْتَيْنَافَ الْعِزَّةَ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيمُ ⑭ بِالْفِعْلِ فَيُجَازِيهِمْ وَيَنْصُرُكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عبيداً وملكاً وخلقاً وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَعْبدُونَ مَنْ دُونَ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ اصْنَامًا شُرَكَاءَ لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ إِنْ مَا يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الظَّنَّ أَيْ ظَنَّهُمْ أَنَّهَا إِلَهَةٌ تَشْفَعُ لَهُمْ وَإِنْ مَا هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑮ يَكْذِبُونَ فِي ذَلِكَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ⑯ اسنادُ الْإِبْصَارِ إِلَيْهِ مُجَازٌ لِأَنَّهُ مُبْصِرٌ فِيهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ دَلَالَاتٌ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ⑰ سَمَاعٌ تَدْبِرُ وَاتَعَاظُ قَالُوا أَيْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قَالَ تَعَالَى لَهُمْ سُبْحَنَهُ ⑱ تَنْزِيهًا لَهُ عَنِ الْوَلَدِ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَأَنْمَا يَطْلُبُ الْوَلَدَ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا إِنْ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ حُجَّةٍ بِهَذَا أَيْ الَّذِي تَقُولُونَهُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑲ اسْتَفْهَامٌ تَوْبِيخٌ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ إِلَيْهِ لَا يُفْلِحُونَ ⑳ لَا يَسْعُدُونَ لَهُمْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا يَتَمَتَّعُونَ بِهِ مَدَّةَ حَيَاتِهِمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ بِالْمَوْتِ ثُمَّ نَذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ㉑

**تَرْجُمہ:** اور اے محمد ﷺ تم جس شان (حال) میں بھی ہوتے ہو اور اس شان (حال) کی وجہ سے قرآن سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو کچھ تلاوت کرتے ہو، یا من جانب اللہ جو قرآن تلاوت کرتے ہو، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو یہ آپ



ﷺ کو اور آپ کی امت کو خطاب ہے ہم (اس عمل سے) باخبر ہوتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ذرہ برابر کوئی چیز (ایسی نہیں) نہ زمین میں اور نہ آسمان میں (اور نہ اس مقدار سے) چھوٹی اور نہ بڑی کہ وہ کتاب مبین (یعنی) لوح محفوظ میں موجود نہ ہو، ذرہ چھوٹی چھوٹی کو کہتے ہیں، یاد رکھو یہ امر واقعہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کے لئے آخرت میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اس کے امر و نہی پر عمل کر کے اللہ سے ڈرے ان لوگوں کے لئے دنیوی زندگی میں خوشخبری ہے، ایک حدیث میں جس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے (خوشخبری) کی تفسیر اچھے خوابوں سے کی ہے جن کو انسان دیکھتا ہے یا اس کے لئے دکھایا جاتا ہے اور آخرت میں جنت اور ثواب (کی خوشخبری ہے) اللہ کی باتوں یعنی اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوا کرتا یہی مذکورہ بات بڑی کامیابی ہے آپ کو ان کی باتیں یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں وغیرہ، غم میں نہ ڈالیں امر واقعہ یہ ہے کہ تمام تر قوت اللہ کے لئے ہے یہ جملہ مستانفہ ہے وہ (تمام) باتوں کو سنتا ہے اور کاموں کو جانتا ہے وہ ان کو جزاء دے گا اور آپ کی مدد کرے گا، یاد رکھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے غلام اور ملک اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ کا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اس کے شرکاء کی بندگی کرتے ہیں امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اس سے وراء الراء ہے یہ لوگ اس معاملہ میں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں یعنی ان کا یہ گمان ہے کہ یہ بت ان کے معبود ہیں ان کی سفارش کریں گے، یہ لوگ محض اٹکل سے باتیں کرتے ہیں یعنی اس معاملہ میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون (راحت) حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا ان کی طرف البصار کی اسناد مجازی ہے اس لئے کہ دن میں دیکھا جاتا ہے بلاشبہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو نصیحت اور غور و فکر کے طور پر سنتے ہیں یہود اور نصاریٰ اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سبحان اللہ وہ تو اولاد سے پاک ہے وہ تو ہر چیز سے مستغنی ہے ولد کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے جو اس کا محتاج ہو زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ہے ملک ہونے کے اعتبار سے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور غلام ہونے کے اعتبار سے جو کچھ تم کہتے ہو تمہارے اس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہارے پاس علم نہیں استفہام تو بیخ کے لئے ہے، (۱۰) محمد) کہہ دو کہ جو لوگ اس کی طرف ولد کی نسبت کر کے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح پانیا لے نہیں ان کے لئے دنیا میں چند دن کے مزے ہیں تا حیات ان کو لوٹ لیں پھر موت کے ذریعہ ان کو ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے موت کے بعد شدید عذاب کا مزا چکھائیں گے۔

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ اس میں خطاب آپ ﷺ کو ہے، شَان کے معنی حال، کام، فکر، اہم معاملہ کے ہیں، جمع شئون ہے واو عاطفہ، ما نافیہ، تَكُونُ فعل مضارع ناقص اس کے اندر ضمیر انت اس کا اسم، فی شَانِ کائنا کے متعلق ہو کر

تَکُوْنُ کی خبر، وَمَا تَتْلُوْا وَاَوْعَاطِفُ، مَا نَافِیْہِ، تَتْلُوْا فَعْل مَضَارِعِ اس کے اندر ضمیر انت اس کا فاعل، مِنْہِ تَتْلُوْا سے متعلق، مِنْہِ کی ضمیر قرآن کی طرف یا شان کی طرف راجع ہے، اِکْرَاشَانِ کی طرف راجع ہو تو مِنْ تَعْلِیْلِیْہِ ہوگا اور مِنْ الْقُرْآنِ میں مِنْ زائد قرآن محل مفعول بہ ہے۔

سُؤَالٌ: اس صورت میں اضمار قبل الذکر لازم آئیگا۔

جَوَابٌ: تَفْخِیْمٌ اور تَعْظِیْمٌ کی وجہ سے اضمار قبل الذکر جائز ہوتا ہے، مِنْہِ کی ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے جیسا کہ مفسر علام نے دونوں احتمالوں کی طرف ”ای من الشان او اللہ“ کہہ کر اشارہ کر دیا ہے۔ یعنی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ شان (حال) تلاوت میں ہوتے ہو مگر یہ کہ اللہ اس حال سے باخبر ہوتا ہے۔

قَوْلٌ: خَاطَبَہِ وَاَمْتِہِ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: یہ ہے کہ ما قبل میں خطاب تنہا آپ ﷺ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ضمیر مفرد لائے اور یہاں تعمیلون میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو کہ سیاق کے خلاف ہے۔

جَوَابٌ: کا حاصل یہ ہے کہ یہاں خطاب میں امت بھی شامل ہے۔

قَوْلٌ: اَلَا کُنَّا عَلَیْہِم شَہُوْدًا یہ مخاطبین کے عموم احوال سے استثناء مفرغ ہے۔

قَوْلٌ: وَزَن ذَرَّةً اس اضافہ کا مقصد بھی ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: یہ ہے کہ مثقال ایک متعین مقدار کا نام ہے حالانکہ یہاں مخصوص مقدار کے معنی مراد نہیں ہیں۔

جَوَابٌ: کا حاصل یہ ہے کہ مفسر علام نے مثقال کی تفسیر وزن سے کر کے اسی اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں معین مخصوص مقدار مراد نہیں بلکہ مطلقاً وزن مراد ہے۔

قَوْلٌ: ہَمْ، اشارہ کر دیا کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلْخِ ہَمْ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔

قَوْلٌ: لَآنَہُ مَبْصُرْفِیْہِ، اس عبارت سے مفسر علام نے اشارہ کر دیا کہ وَالنَّہَارُ مُبْصَرًا میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔ جیسا کہ ہَارَہُ صَائِمٌ وَلَیْلَہُ قَائِمٌ میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

وَمَا تَکُوْنُ فِی شَانِ (الآیۃ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لحظہ اور ہر گھڑی پوری مخلوق پر اس کی نظر ہے، زمین و آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز ایسی نہیں کہ اس سے مخفی ہو، یہ مضمون متعدد آیات میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے سورۃ انعام آیت ۵۹ اور ۳۸ اور سورۃ ہود کی آیت ۶ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، جب واقعہ یہ ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی حرکات سے کیوں کرنا



واقف ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ مکلف و مامور بھی ہیں۔

اسی ضابطہ کے مطابق آپ ﷺ اور امت کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی! تم جس حال و شان میں بھی ہوتے ہو، یا قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوتے ہو اس کا کوئی جز ہم سے مخفی نہیں، اسی طرح تمام انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے غرضیکہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، سابق میں نافرمانوں کا ذکر تھا، اب یہاں فرماں برداروں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ ہیں اولیاء اللہ، اولیاء ولی کی جمع ہے جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاصی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مخلصین مومنین کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی، جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا، اور ایمان اور تقویٰ ہی قرب الی اللہ کا اہم ترین ذریعہ ہے۔

فَاِذْكَ: خوف کا تعلق آئندہ ہونے والے نقصان سے ہوتا ہے اور حزن و ملال کا تعلق مافات سے ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی سے گزاری ہوئی ہے، اس لئے قیامت کی ہولنا کیوں کا اتنا خوف ان کو نہیں ہوگا جتنا ناخدا ترس لوگوں کو ہوگا۔

## اولیاء اللہ کی شناخت:

اولیاء اللہ کی علامت اور شناخت تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالہ سے یہ نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آئیں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں“۔ اور ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت یزید کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتلائی کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔

## ولی سے کرامات کا صدور ضروری نہیں:

جو رسول اللہ ﷺ کی سنت کا متبع نہ ہو وہ درجہ ولایت سے محروم ہے چاہے اس سے کشف و کرامات کتنی ہی کیوں نہ صادر ہوں۔

وَ اَتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ اِيْ كَفَارِ مَكَّةَ نَبَاً خَبَرَ نَوْجٍ وَيَبْدُلُ مِنْهُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ اِنْ كَانَ كَبُرَ شَقٌّ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ لَبْسِيْ فَيَكُمُ وَ تَذَكِيْرِيْ وَعَظِيْ اَيَّاكُمْ بِاَيْتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوْا اَمْرَكُمْ اَعَزِمُوْا عَلٰى اَمْرِ تَفْعَلُوْنَهُ بِيْ وَ شُرَكَاءَكُمْ الْوَاوُ بِمَعْنٰى مَعَ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً مُّسْتَوْرًا بَلْ اَظْهَرُوْهُ وَ جَاهِرُوْنِيْ بِهِ ثُمَّ اَقْضُوا اِلَيَّ اَمْضُوْا فَاِنْ اَرَدْتُمْوْهُ وَلَا تَنْظُرُوْنَ ۝۷۱ ثُمَّ هَلُوْنَ فَاِنْ لَسْتُ مُبَالِيًا بِكُمْ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنْ

تذکری فَمَا سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرِ ثَوَابٍ عَلَيْهِ فَتَوَلَّوْا إِنْ مَا أَجْرِي ثَوَابِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۷۷﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْ مَنْ مَعَهُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِالطُّوفَانِ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۷۸﴾ مِنْ أَهْلَا كَيْسَمٍ فَكَذَلِكَ نَفْعَلُ مَنْ كَذَّبَكَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَيْ نُوحٍ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ كَابْرَاهِيمَ وَهَبُودَ وَصَالِحَ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْمُعْجَزَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ بَعَثِ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ كَذَلِكَ نَطْبَعُ نَخْتَمُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿۷۹﴾ فَلَا تَقْبَلُ الْإِيمَانَ كَمَا طَبَعْنَا عَلَى قُلُوبِ أُولَئِكَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ قَوْمَهُ بِآيَاتِنَا التَّسْعِ فَاسْتَكْبَرُوا عَنِ الْإِيمَانِ بِهَا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿۸۰﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿۸۱﴾ بَيْنَ ظَاهِرٍ قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَنَّهُ لَسِحْرٌ أَسْحَرُ هَذَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَتَى بِهِ وَابْطَلَ سِحْرُ السَّحَرَةِ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ﴿۸۲﴾ وَالْإِسْتِفْهَامُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلانْكَارِ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا لَتُرْذَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ الْمَلِكُ فِي الْأَرْضِ أَرْضِ مِصْرَ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸۳﴾ مُصَدِّقِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿۸۴﴾ فَاتَّقِ فِي عِلْمِ السِّحْرِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى بَعْدَ مَا قَالُوا لَهُ إِنَّمَا أَنُتْلِيَ وَإِنَّا أَنُكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۸۵﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ قَالَ مُوسَى مَا اسْتَغْنَاهُ سَبْدًا خَبَرَهُ جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ بَدَلٍ وَفِي قِرَاءَةِ بِهِمْزَةٍ وَاحِدَةٍ اخْبَارًا فَمَا مَوْصُولَةٌ سَبْدًا إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ سَيَمْحُوهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾ وَيُحَقِّقُ يُثَبِّتُ وَيُظْهِرُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ بِمَوَاعِيدِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۷﴾

**ترجمہ:** اے محمد ﷺ ان کفار مکہ کو نوح علیہ السلام کا اس وقت کا واقعہ سناؤ اذ قال، نبأ نوح سے بدل ہے، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو اگر تم پر میرا تمہارے درمیان قیام کرنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعہ تم کو نصیحت کرنا گراں گذرتا ہے (تو گذرا کرے) میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے، تو تم اپنی تدبیروں کو جو تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پختہ کرلو، یعنی جو تدبیریں تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو ان کو خوب مضبوط کرلو، (وشرکاء) میں واؤ بمعنی مع ہے پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم سے مخفی نہ رہنا چاہئے بلکہ اس کو ظاہر کر دو اور مجھے بھی اس سے باخبر کر دو، پھر جو کچھ تمہارا ارادہ ہو وہ میرے ساتھ کر گذر دو اور مجھے مہلت نہ دو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں پھر بھی اگر تم میری نصیحت سے روگردانی کرتے ہو تو میں نے تم سے کسی اجرت کا (یعنی) اس پر ثواب کا تو سوال کیا نہیں ہے جس کی وجہ سے تم بے رخی کرتے ہو میرا اجر و ثواب تو محض اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تابع فرمان رہوں (نوح علیہ السلام کی قوم نے) ان کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں جو ان کے ساتھ تھے بچالیا اور جو لوگ (حضرت نوح علیہ السلام) کے ساتھ تھے ان ہی کو زمین میں خلیفہ بنایا اور بقیہ سب لوگوں کو طوفان میں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سودیکھ لو جن



لوگوں کو ہلاکت سے ڈرایا تھا ان کا کیا انجام ہوا! چنانچہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے جو تم کو جھٹلائیں گے پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم کی طرف بہت سے رسول بھیجے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام سو وہ ان کے پاس کھلے معجزات لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے یعنی ان کی طرف رسول بھیجنے سے پہلے جھٹلادیا پھر مان کر نہ دیا، ہم اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے جیسا کہ ہم نے اُن کے قلوب پر مہر لگا دی، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہماری نو نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا مگر انہوں نے ایمان کے مقابلہ میں تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جو اس کو لے کر آیا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جادو گروں کے جادو کو باطل کر دیا اور ساحر (جادوگر) فلاح نہیں پاسکتا، اور استفہام دونوں جگہ انکار کے لئے ہے، انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ تو ہم کو اس طریقہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ اور ملک مصر میں حکومت تم دونوں کی ہو جائے، اور ہم تم دونوں کی تصدیق کرنے والے نہیں اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس یعنی علم سحر میں ہر فائق جادوگر کو لاؤ جب جادوگر آ گئے تو جادو گروں کے یہ کہنے کے بعد کہ تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو تم کو ڈالنا ہے وہ ڈالو چنانچہ جب جادو گروں نے اپنی رسیوں کو اور اپنی لٹھیوں کو ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، ما استفہامیہ مبتداء ہے اور (جئتم بہ السحر) اس کی خبر ہے السحر ما جئتم سے بدل ہے اور ایک قراءت میں ایک ہمزہ کے ساتھ خبر ہے اور ما موصولہ مبتداء ہے اللہ ابھی اسے باطل کئے دیتا ہے اللہ ایسے فساد یوں کا کام بنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے وعدوں کے ذریعہ حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناپسند ہو۔

## تَحْقِیْقُ تَرْکِیْبِ تَسْهِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: وَآتَلُ، فعل امر مبنی بر حذف حرف علت اصل میں وَآتَلُو تھا آخر سے واؤ حذف ہو گیا، عَلَیْهِمْ أُتِلُ سے متعلق ہے نَبَأُ نوح بترکیب اضافی أُتِلُ کا مفعول بہ ہے، اِذْ قَالَ، اِذْ ظرفیہ برائے ماضی نَبَأُ سے بدل الاشتمال ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے، اِذْ قَالَ نَبَأُ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے نوح پر وقف لازم ہے اس لئے کہ اِذْ قَالَ کا تعلق أُتِلُ سے فساد معنی کی وجہ سے جائز نہیں ہے اسلئے کہ أُتِلُ مستقبل ہے اور ظرف ماضی ہے اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا تم اس وقت سناؤ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔

قَوْلًا: لِقَوْمِهِ، میں لام برائے تبلیغ ہے مَقَامُ بِالْفَتْحِ موضع قیام ”مکان“ مرتبہ، مراد خود اپنا وجود ہے اور مَقَامُ بِالضَمِّ مصدر ہے قیام کرنا، بٹھرنا القیام علی الدعوة خلال مدة اللبث، اسلئے کہ دعوت و تبلیغ کا کام عام طور پر

کھڑے ہو کر ہی کیا جاتا ہے۔

قَوْلٌ: فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، یہ اِنْ كَانَ کَبْرَ کی جزاء ہے اور اگر فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، کو جملہ معترضہ مانا جائے تو فَاجْمَعُوا اَمْرَ کَمِ جواب شرط ہوگا۔

قَوْلٌ: فَاجْمَعُوا اَمْرَ کَمِ کی تفسیر اعزموا عَلٰی اَمْرِ سے کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ اَجْمَعَ متعدی بنفسہ بھی مستعمل ہے اور متعدی بالحرف بھی۔

قَوْلٌ: غَمَّةٌ گھٹن، تاریک، مشتبہ، پوشیدہ، دشوار، جب چاند چھپ جاتا ہے تو عرب غم الہلال بولتے ہیں۔  
قَوْلٌ: الْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ، یعنی شرکاء مفعول معہ ہونیکی وجہ سے منصوب ہے، اس سے اس شبہ کو دور کر دیا کہ شرکاء کا بظاہر عطف اجمعوا کی ضمیر فاعل پر ہے یعنی تم شرکاء اپنی تدبیروں کو مضبوط کر لو اس اعتبار سے شرکاء مرفوع ہونا چاہئے۔

قَوْلٌ: قَالَ مُوسَى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ کَمِ، اِنَّهٗ لَسِحْرٌ اَسْحَرُ هَذَا۔ قَالَ مُوسَى فَعَلٌ بِاَفَاعِلٍ ہے، اَتَقُولُونَ میں ہمزہ استفہام انکاری ہے تَقُولُونَ فعل مضارع با فاعل ہے اَنْتُمْ لِلْحَقِّ متعلق تَقُولُونَ سے ہے لَمَّا جَاءَ کَمِ تَقُولُونَ کا ظرف ہے، اِنَّهٗ لَسِحْرٌ، تَقُولُونَ کا مقولہ ہے جو کہ محذوف ہے پورا جملہ قَالَ مُوسَى کا مقولہ حکائی ہے (یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کا مقولہ نقل کیا ہے)۔

قَوْلٌ: اَسْحَرُ هَذَا یہ قول موسیٰ محذوف کا مقولہ ہے ہمزہ استفہام انکاری ہے سِحْرٌ خبر مقدم ہے اور هَذَا مبتدأ مؤخر ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ جملہ حالیہ ہے۔

## وضاحت:

مفسر علام نے اِنَّهٗ لَسِحْرٌ هَذَا، محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قول اَسْحَرُ هَذَا۔ یَقُولُونَ کا مقولہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقولہ محذوف ہے اور وہ اِنَّهٗ لَسِحْرٌ مبین ہے اس حذف کا قرینہ یہ ہے کہ فرعونوں نے قطعیت کے ساتھ بطریق اخبار نہ کہ بطریق استفہام موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو سحر قرار دیتے ہوئے کہا تھا ”اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مبین“ اور اللہ تعالیٰ کا قول ”اَسْحَرُ هَذَا“ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے مطلب یہ کہ اے فرعونو! کیا تم ایسی کھلی اور واضح حقیقت کو سحر قرار دیتے ہو؟ تم کو تو ایسی بات جو واقعہ کے خلاف ہو ہرگز منہ سے نہ نکالنی چاہئے۔

## مذکورہ ترکیب بطریق سوال و جواب:

سُؤَالٌ: موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے قول کی حکایت بطریق استفہام یعنی ”اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ کَمِ اَسْحَرُ هَذَا“ سے کیوں کی؟ حالانکہ فرعونوں نے بطریق جزم و اخبار کے قطعیت کے ساتھ اپنے کلام کو اِنَّ اور لام سے مؤکد کرتے ہوئے کہا تھا ”کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَلَمَّا جَاءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مبین“۔



**جَوَابِ:** اس میں فرعونیوں کا مقولہ حکائی محذوف ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے ”أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ كَمَرًا هَذَا لَسِحْرٍ مُّبِينٍ“ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قول پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا اِسْحَرُ هَذَا؟ کیا یہ جادو ہے؟ تم کو حقیقت کے خلاف ایسی بات منہ سے نکالنی بھی نہ چاہئے۔

**قَوْلًا:** بَدَلٌ لِّعَيْنِ اَسْحَرُ، ما جئتم به سے حذف مبتدأ کے ساتھ بدل ہے ای اَهُوَ السَّحَرُ لِهَذَا يَ اعترض ختم ہو گیا کہ مفرد جملہ سے بدل واقع نہیں ہوتا۔

**قَوْلًا:** فِی قِرَاءَةِ یعنی ابو عمرو کی قراءت میں اُسْحَرُ هَذَا، میں ایک ہمزہ استفہامیہ ہے، اس قراءت کے مطابق مَا جئتم میں مَا استفہامیہ ہوگا، اور اَلَسَّحَرُ، ما سے بدل ہوگا، ای اَيَّ شَيْءٍ جئتم به اَهُوَ السَّحَرُ اور دوسروں کی قراءت میں ایک ہمزہ اخبار کے ساتھ ہے اس صورت میں مَا موصولہ مبتداء ہوگا، اور جئتم به صلہ ہوگا، اور اَلَسَّحَرُ اسکی خبر ہوگی، ای الذی جئتم به اَلَسَّحَرُ لَا الذی جئتم به۔

## تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

### رَبط آیات:

سابق میں معقول اور دل لگتے دلائل اور شفقت آمیز نصائح سے سمجھایا گیا تھا کہ ان کے طریقہ اور عقائد و خیالات میں کیا غلطی ہے، اور وہ کیوں غلط ہیں، اور اس کے مقابلہ میں صحیح راہ کیا ہے؟

اب ان کے اس طرز عمل کی طرف توجہ منعطف فرمائی جو وہ اس سیدھی اور صاف راہ کے جواب میں اختیار کر رہے تھے، دس گیارہ سال سے مشرکین مکہ کی روش یہ تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ معقول تنقید اور صحیح رہنمائی پر غور کر کے اپنی گمراہیوں پر نظر ثانی کرتے اٹے اس شخص کی جان کے دشمن ہو گئے تھے جو ان باتوں کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ انہی کے بھلے کیلئے پیش کر رہا تھا، وہ دلیلوں کا جواب پتھروں سے اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دے رہے تھے، اپنی بستی میں ایسے شخص کا وجود ان کے لئے سخت ناگوار تھا بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا، گویا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اندھوں کے درمیان جو آنکھوں والا پایا جاتا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے بجائے اپنی بھی آنکھیں بند کر لے ورنہ ہم زبردستی اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے تاکہ بینائی جیسی چیز ہماری سرزمین میں نہ پائی جائے، یہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس پر مزید کچھ اور فرمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ انھیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دو، اسی قصہ میں وہ اپنے اور تمہارے معاملہ کا جواب بھی پالیں گے، اس پر بھی جب اہل مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کو چیلنج دیدیا کہ میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا، تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی بھی مدد لے لو اگر وہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں، غُمَّةً کے ایک معنی ابہام اور پوشیدگی کے بھی ہیں، یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہئے، جو کچھ کرنا

ہے کھلم کھلا کروچرانے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قطعیت اور جرأت کے لب ولہجہ کے ساتھ دشمنوں سے گفتگو وہی کر سکتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے تمام تر جڑا ہوا ہو، اور جو مخلوق کی قوتِ ضررِ رسانی اور خوفِ نفعِ رسانی سے یکسر بے نیاز ہو چکا ہو۔

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، یعنی قومِ نوح علیہ السلام نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچالیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا، اور ان بچنے والوں کو پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، پھر آئندہ نسل انہی لوگوں سے بالخصوص نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں حام، سام، یافث سے چلی اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔

### طوفانِ نوح علیہ السلام کے بقیہ آثار:

اس طوفانِ نوح علیہ السلام کے آثار ماہرینِ سائنس کو آج بھی ارضِ نوح علیہ السلام میں مل رہے ہیں یہ طوفان ملکِ عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی علاقہ میں آیا تھا اس علاقہ کا رقبہ موجودہ ماہرینِ اثریات کے تخمینہ کے مطابق چار سو میل طول میں اور ۱۰۰ میل عرض میں تھا (ماجدی) کشتیِ نوح علیہ السلام کا طول تورات کی تصریح کے مطابق تین سو ہاتھ اور عرض پچاس ہاتھ کا اور بلندی تیس ہاتھ کی تھی۔ (ماجدی)

قومِ نوح علیہ السلام کی غرقِ آبی کے بعد مخلصین و مومنین پھر اسی علاقہ میں آباد ہو گئے اور ان ہی سے سلسلہ نسلِ آدم چلا، نوح انسانی کی آبادی تاریخ کے اس ابتدائی دور میں صرف اسی سر زمین کی حدود تک محدود تھی، اسی لئے جن مفسرین نے طوفانِ نوح علیہ السلام کے عالم گیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا، دنیا کی آبادی اس دور میں اسی خطہٴ عراق تک محدود تھی، اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک کل دس پشتیں ہی ہوئی تھیں۔

غرقِ آبی عام اور عالم گیر تھی یا اسی امتِ نوح علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی، یہ سوال متقدمینِ مفسرین کے سامنے بھی آچکا ہے اور محققین کی اکثریت شقِ ثانی ہی کی طرف گئی ہے اور ظواہرِ قرآن و حدیث بھی اسی کی تائید میں ہیں۔ (روح)

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، اس آیت میں حد سے گزر جانے والوں کے قلوب پر ٹھپہ لگانے کی بات کہی گئی ہے، حد سے گزر جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پھر اپنی بات کی سچ اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پر اڑے رہتے ہیں اور جس بات کا ایک بار انکار کر دیتے ہیں اسے پھر کسی فہمائش، کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے، اہل ضلال کی یہ ذہنیت آج تک چلی آرہی ہے، جہاں ایک بار شروع میں بے سوچے سمجھے زبان سے ”نہیں“ نکل گئی بس آخر تک اسی پر قائم رہیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر راہِ راست پر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مَّجْرَمِينَ الخ یعنی فرعون نے اپنی دولت و حکومت اور شوکت و حشمت کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھ لیا اور اطاعت کے لئے سر جھکانے کے بجائے اکڑ دکھانی شروع کر دی۔



فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى الْأَذْرِيَّةَ طَائِفَةً مِّنْ أَوْلَادِ قَوْمِهِ اِی فرعونَ عَلٰی خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ يَصْرِفُهُمْ  
 عَنْ دِينِهِمْ بَتَعْدِيْبِهِمْ وَاِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ مَّتَكَبَّرَ فِی الْاَرْضِ اَرْضَ مِصْرَ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِیْنَ ۝۸۳ المتجاوزین  
 الْحَدَّ بِادْعَاءِ الرَّبُّوْبِیَّةِ وَقَالَ مُوسٰی لِقَوْمِی اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلِیْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِیْنَ ۝۸۴ فَقَالُوْا عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا  
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۝۸۵ اِی لَا تَظْهَرْهُمْ عَلَیْنَا فِیْظَنُّوْا اَنَّهُمْ عَلٰی الْحَقِّ فِیْفِتْنُوْا بِنَا وَنَجِّنَا  
 بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ ۝۸۶ وَاَوْحِیْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاَخِیْهِ اَنْ تَبَوَّآ اٰخِذًا لِّلْقَوْمِ كَمَا بِوَصَرِ بُیُوْتَا وَاَجْعَلُوْا بُیُوْتَكُمْ  
 قِبْلَةً مِّصْلٰی تَصَلُّوْنَ فِیْهِ لِتَاْمَنُوْا مِنَ الْخَوْفِ وَكَانَ فِرْعَوْنُ مِّنْعُهُمْ مِنَ الصَّلٰوةِ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ اَتْمُوْهَا  
 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝۸۷ بِالنَّصْرِ وَالْجَنَّةِ وَقَالَ مُوسٰی رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآءَهُ زَیْنَةً وَّاَمْوَالًا فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا  
 رَبَّنَا اَتِیْتَهُمْ ذٰلِكَ لِیُضِلُّوْا فِی عَاقِبَتِهِ عَنْ سَبِیْلِكَ دِیْنِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ اِمْسَحْهَا وَاَشْدُدْ عَلٰی  
 قُلُوْبِهِمْ اَطْعُ عَلَیْهَا وَاسْتَوْثِقْ فَلَا یُؤْمِنُوْا حَتّٰی یَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ۝۸۸ الْمُؤَلَّمُ دَعَا عَلَیْهِمْ وَاَسْنُ بِرَوْنُ عَلٰی  
 دَعَائِهِ قَالَ تَعَالٰی قَدْ اُجِیْبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَمُسِخَتْ اَمْوَالُهُمْ حِجَارَةً وَلَمْ یُؤْمِنْ فِرْعَوْنُ حَتّٰی اَذْرَكَهُ الْغَرَقُ  
 فَاسْتَقِیْمَا عَلٰی الرِّسَالَةِ وَالدَّعْوَةِ اِلٰی اَنْ یَّاتِیَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِیْلَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۸۹ فِی اسْتَعْجَالِ  
 قَضَائِیْ رُوٰی اَنَّهُ مَكَثَ بَعْدَهَا اَرْبَعِیْنَ سَنَةً وَجَاوَزْنَا بِبَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ لِحَقِّهِمْ  
 فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیًا وَعَدُوًّا مَفْعُولٌ لَهُ حَتّٰی اِذَا اَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ اِیْ بَآئِهِ وَفِی قِرَآءَةِ الْكُسْرِ اسْتِیْنَافًا  
 لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِهِ بَنُوْا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝۹۰ كَرَّرَهُ لِیُقْبَلَ مِنْهُ فَلَمْ یُقْبَلْ وَدَسَّ جَبْرِیْلُ  
 فِیْهِ مِنْ حَمَآةِ الْبَحْرِ مَخَافَةً اَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ وَقَالَ لَهُ اَلَنْ تَوْمِنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝۹۱  
 بِضَلَالِكَ وَاَضْلَالِكَ عَنْ الْاِیْمَانِ فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْكَ نَخْرِجُكَ مِنَ الْبَحْرِ بِبَدَنِكَ جَسَدِكَ الَّذِی لَا رُوْحَ فِیْهِ  
 لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ بَعْدَكَ اٰیَةً عِبْرَةً فِیَعْرِفُوْا عِبُوْدِیَّتَكَ وَلَا یُقَدِّمُوْا عَلٰی مِثْلِ فَعْلِكَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ  
 اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا اَنَّ بَعْضَ بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ شَكُّوْا فِی مَوْتِهِ فَاَخْرَجَ لَهُمْ لَیْرُوْهُ وَاِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ اِیْ اَهْلِ  
 مَكَّةَ عَنْ اٰیَتِنَا الْغٰفِلُوْنَ ۝۹۲ لَا یَعْتَبِرُوْنَ بِهَا.

۹  
۱۲

**تَرْجُمہ:** فرعون کی قوم کے نو جوانوں میں سے ایک مٹھی بھرنو جوانوں کے علاوہ کسی نے فرعون اور اپنے  
 سرداروں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی کہ وہ ان کو تکلیف دیکر ان کے دین سے پھیر دیں گے  
 اور اس میں شک نہیں کہ فرعون ملک مصر میں (زور و تکبر میں) بہت چڑھا ہوا تھا، اور وہ تھا ہی دعوائے ربوبیت کر کے حد  
 سے تجاوز کرنے والوں میں اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم

فرمانبردار ہو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے پروردگار تو ہم کو ظالموں کے لئے تختہ مشق نہ بنا یعنی تو ان کو ہم پر غالب نہ فرما کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ حق پر ہیں پھر ہم کو تختہ مشق بنائیں، اور تو ہم کو اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرما اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر برقرار رکھو اور اپنے گھروں کو قبلہ (یعنی) جائے نماز بنا لو کہ ان میں نماز پڑھو تا کہ تم خوف سے مامون رہو اور فرعون نے ان کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اور نماز کو مکمل طریقہ پر قائم کرو اور اے موسیٰ تم نصرت اور جنت کی مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو، اور موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیوی زندگی میں دیئے اے ہمارے پروردگار یہ چیزیں تو نے ان کو عطا کیں تاکہ وہ اس کے نتیجے میں تیرے راستہ سے (لوگوں کو) گمراہ کرے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے قلوب کو (اور زیادہ) سخت کر دیجئے ان کے قلوب پر مہر لگا دیجئے اور مسدود کر دیجئے کہ پھر وہ ایمان نہ لاسکیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان کے لئے بددعاء کی اور ہارون عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان کی بددعاء پر آمین کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تمہاری دعاء قبول کر لی گئی“ جس کی وجہ سے ان کے مال (سیم وزر) پتھروں میں تبدیل کر دیئے گئے، اور فرعون ایمان نہ لایا حتیٰ کہ وہ غرق کر دیا گیا، اور تم دونوں تبلیغ و دعوت پر قائم رہو یہاں تک کہ ان پر دردناک عذاب آجائے، اور تم ایسے لوگوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرو جو قضا کے معاملہ میں جلد بازی کے انجام کو نہیں جانتے روایت کیا گیا ہے کہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بددعاء کے بعد ان میں چالیس سال مقیم رہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کے ارادہ سے ان کا پیچھا کیا بغیا و عدوا (اتبعہم کا) مفعول لہ ہے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ معبود حقیقی اس کے سوا نہیں ہے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اُنہ اصل میں بائٹہ ہے، اور ایک قراءت میں اُنہ کسرہ کے ساتھ ہے جملہ مستانفہ ہونے کی وجہ سے، اور میں بھی سر طاعت خم کر دینے والوں میں ہوں، اس نے ایمان اور تسلیم کو مکرر ذکر کیا تا کہ قبول کر لیا جائے، مگر قبول نہیں کیا گیا، اور جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دی اس اندیشہ سے کہ کہیں اس کی طرف رحمت متوجہ نہ ہو جائے (جبرائیل نے) اس کو جواب دیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو ایمان سے گمراہ کرنے کی وجہ سے فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم تیری لاش ہی کو کہ جو بے روح ہے دریا سے نکالیں گے تا کہ تو بعد کی نسلوں کے لئے نشان عبرت بنے تاکہ وہ تیرے بندہ ہونے کو جان لیں، اور تیرے جیسے اقدام کی جرأت نہ کریں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بعض بنی اسرائیل نے فرعون کی موت میں شک کیا تو اس کی لاش نکالی گئی تاکہ اس کو دیکھ لیں، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اہل مکہ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں (قدرت کی نشانیوں) سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔



## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَعَاظُهُ بِمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ هُوَ جُوسِيَّاقٌ سَمْعٌ مَفْهُومٌ هُوَ "فَالْقَى" مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ" هُوَ (اعراب القرآن) فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى كَمَا مَعْنَى هِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي بَاتِ نَهِيں مَانِي، اس کو ایمان بالتسليم کہتے ہیں، یہ متعدی بالام ہوتا ہے اور ایک ایمان بالتصديق ہوتا ہے وہ متعدی بالباء ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے يَوْمَنْ بِاللّٰهِ وَيَوْمَنْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۔

**قَوْلٌ:** ذُرِّيَّةٌ، ذُرِّيَّةٌ بِثَلَاثِ الذَّالِ، ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ، اَوْلَادُ نَسْلِ جَمْعُ ذُرَارِي وَذُرِّيَّاتٍ، ذُرِّيَّةٌ، يٰہَا قَلْبٌ عِدَدُ كَمَا مَعْنَى مِیْنِ مُسْتَعْمَلٌ هُوَ مَفْسَرٌ عَلَامٌ نَعْنَى ذُرِّيَّةٌ كِي تَفْسِيرٌ طَائِفَةٌ سَمْعٌ كَرَكَا مَعْنَى كِي طَرَفٌ اِشَارَةٌ كِيَا هُوَ لَعْنَى مِٹھی بھر لوگ، تفسیر کبیر مِیْنِ هُوَ "هٰهُنَا مَعْنَاهَا التَّقْلِيلُ" (کبیر) حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ذُرِّيَّةٌ کالْفِظِ جَبْ كِي قَوْمٌ پَر بُولَا جَاتَا هُوَ تَوْ مَقْصُودُ اس كِي تَحْقِیْرٌ یَا تَصْغِیْرٌ ہوتی ہے۔

قال ابن عباس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُمَا لَفْظُ الذَّرِيَّةِ يَعْبُرُ بِهِ عَنِ الْقَوْمِ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيرِ وَالتَّصْغِيرِ (کبیر) چونکہ یہاں تَحْقِیْرٌ کَا کوئی قَرِیْنہ نہیں اس لَعْنَى مَقْصُودُ تَصْغِیْرٌ عِدَدُ ہُوَ۔

**قَوْلٌ:** مِنْ قَوْمِهِ، قَوْمِهِ، كِي ضَمِیْرٌ نَعْنَى دُخْلٌ مَعْنَى پید اکر دیئے ہیں مراد قوم موسیٰ بھی ہو سکتی ہے اور قوم فرعون بھی، پہلی صورت مِیْنِ مراد یہ لی جائے گی کہ فرعون اور فرعونیوں کے ڈر سے ابتداء مِیْنِ اسمائیلیوں کے بہت تھوڑے لوگوں نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي بات كِي تَصْدِیْقٌ كِي، اور دوسری شق كِي صورت مِیْنِ فرعونیوں كِي ایک جماعت مراد ہوگی، جس مِیْنِ وہ جادوگر شامل ہیں جو موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا مقابلہ کرنے کے لَعْنَى آئے تھے ان کے علاوہ فرعون كِي بیوی آسیہ اور فرعون کا خازن اور اس كِي بیوی اور بنت فرعون كِي مشاطہ (بال سنوارنے والی) اور رَجُلٌ مِّنْ آلِ فرعون بھی، مفسر علام نے دوسری شق کو اختیار کر کے قَوْمِهِ كِي ضَمِیْرٌ فرعون كِي طرف لوٹائی ہے۔

**قَوْلٌ:** اَرْضُ مِصْرَ، اس سے اشارہ کر دیا کہ فِی الْاَرْضِ مِیْنِ الْفِیْلَامِ عہد کا ہے۔

**قَوْلٌ:** وَأَمَّنَ هَارُونَ عَلَى دَعَاؤِهِ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بددعاء تو حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے كِي تو پھر "قَدْ أُجِیْبَتْ دَعْوَتُكُمَا" مِیْنِ تَشْنِیْہِ كَا صِیْغَہ كِیوں استعمال ہوا ہے؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ دعاء کرنا اور دعاء پَر آمین کہنا ایک ہی درجہ مِیْنِ ہیں۔

**قَوْلٌ:** حَمَاةٌ، كَالِی مِٹھی، کچڑ۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ، قَوْمِهِ کے ضمیر کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے اسلئے کہ آیت میں ما قبل میں ان ہی کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بہت تھوڑے آدمی ایمان لائے، لیکن امام ابن کثیر وغیرہ نے اس کا مرجع فرعون کو قرار دیا ہے یعنی فرعون کی قوم میں سے بہت تھوڑے آدمی ایمان لائے، ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو مل گیا اس اعتبار سے تمام بنی اسرائیل (سوائے قارون کے) ان پر ایمان رکھتے تھے اسلئے صحیح اور رائج بات یہی ہے ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ سے فرعون کی قوم کے تھوڑے لوگ مراد ہیں جن میں فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون کا خازن اور اس کی بیوی، اور بنت فرعون کی مشاطہ (بال سنوارنے والی) اور رجل من آل فرعون شامل ہیں۔

وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، پہلی امتوں کو عبادت خانوں کے علاوہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی مگر فرعون نے عبادت خانوں میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی تھی اس لئے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھ لیا کرو۔

## فرعون کے زرو جواہر کا پتھروں میں تبدیل ہو جانا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور اس کے مال و دولت سے دوسروں کے گمراہ ہونے کا خطرہ محسوس کیا تو ربنا اطمس علی أموالهم کہہ کر بددعاء کر دی یعنی اسے میرے پروردگار اس کے اموال کی صورت بدل کر مسخ کر دے۔

حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ اس دعاء کا اثر یہ ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زیورات اور زرو جواہر اور نقد سکے اور باغوں اور کھیتوں کی سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ایک تھیلہ دستیاب ہوا جس میں فرعون کے زمانہ کی چیزیں تھیں ان میں انڈے اور بادام بھی تھے جو بالکل پتھر تھے۔ (معارف)

## بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب:

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزوں کو جھٹلادیا اور وہ کسی طرح بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کیلئے تیار نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اپنے آباء و اجداد کی سرزمین فلسطین کی طرف نکل جاؤ مہر سے فلسطین جانے کے دور استے ہیں ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ بحر احمر (قلزم) کا راستہ ہے اس راستہ میں دریا عبور کر کے صحراء سینا (تہ) سے گذرنا ہوتا ہے، اور یہ راستہ دور کا ہے، مگر خدا کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ



قریب اور آسان راستہ چھوڑ کر دور کا اور دشوار گزار راستہ اختیار کریں، اس طویل راستہ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ فرعون کو غرق دریا کیا جائے۔

غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستہ سے روانہ ہوئے اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جو ایک تہوار کے بہانہ مستعار لئے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے، فرعون کو جب بنی اسرائیل کے نکلنے کا علم ہوا تو فرعون نے ایک زبردست فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے سروں پر جا پہنچا، تو رات کے مطابق بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تھی، صبح ہونے کے بعد جب بنو اسرائیل نے فرعون کو اپنے سروں پر دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سارا الزام موسیٰ علیہ السلام کو دینے لگے۔

## فرعون کا غرق ہونا:

موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی اور فرمایا خوف نہ کرو خدا کا وعدہ سچا ہے وہ تم کو ضرور نجات دیگا، اور پھر بارگاہ الہی میں دست بدعاء ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے قلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل درمیانی راستہ سے بخیر عافیت نکل گئے۔

جب فرعون نے دریا کو دو لخت دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگا یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ دریا نے راستہ دیدیا لہذا بڑھے چلو، چنانچہ وہ اور اس کا پورا لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستہ پر ہو لیا جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دریا پار ہو گیا تو پانی بحکم الہی اپنی پہلی حالت پر آ گیا، اسی میں فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔

جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا ”میں اسی وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرماں برداروں میں سے ہوں“، مگر یہ ایمان چونکہ مضطربانہ حالت نزع کا تھا اس لئے خدا کی جانب سے جواب ملا ”آلَا نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمَفْسِدِينَ“ یعنی خدا کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں ہے بلکہ مفسدین میں سے ہے۔

## مصری عجائب خانہ میں فرعون کی لاش:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، یہ معلوم ہی ہے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا لقب ہے جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔

فرعون اصل میں فارا، اُوہ تھا، مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور اُوہ کے معنی اونچا کے ہیں فارا اوہ کے معنی ہوئے اونچا محل، اس سے شاہ مصر کی ذات مراد ہوتی تھی، جیسے خلافت عثمانی کے زمانہ میں باب عالی سے مراد خلیفہ کی ذات ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جس فرعون نے پرورش کیا تھا اس کا نام رعمیس یا رعمیس دوم تھا اور رعمیس کے بیٹے منفتاح کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اسی سے مقابلہ ہوا اور یہی ۱۲۹۱ قبل مسیح میں غرق ہوا، (لغات القرآن، عبدالداؤد جلالی) جب فرعون غرق کر دیا گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آیا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو دریا کے کنارے پر ڈال دے چنانچہ دریا نے فرعون کی لاش کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا، اس وقت لوگوں نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا اور اس کے مرنے کا یقین آگیا، مشہور ہے کہ آج بھی وہ لاش مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔  
(واللہ اعلم بالصواب)

### مصری مقالہ نگار کی رائے:

اگر مصری مقالہ نگار کی رائے صحیح ہے کہ منفتاح (رعمیس یا رعمیس ثانی) ہی فرعون موسیٰ تھا تب تو بلاشبہ اس کی لاش آج تک مصری عجائب خانہ میں محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے۔  
آج تک وہ مقام جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی ملی تھی، اس کا نام موجودہ زمانہ میں جبل فرعون ہے، اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے اس کی جائے وقوع ابوزنیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے اور علاقہ کے باشندے نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش اسی جگہ پڑی ملی تھی۔

اگر یہ ڈوبنے والا ہی فرعون منفتاح ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانہ میں موجود ہے، ۱۹۰۷ء میں سرگرافٹن الیٹ سمٹھ نے جب اس کی مٹی سے پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔  
فائدہ: رعمیس، رعمیس اور رعمیس یہ شخص کے نام میں تلفظ کا فرق ہے۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَنْزَلْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَوَّأَ صَدَقِ مَنَازِلَ كَرَامَةٍ وَبِهِوَ الشَّامُ وَمِصْرُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا بَآئِنَ أَمْنٍ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ مِّنْ أَمْرِ الدِّينِ بَانْجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَذِيبِ الْكَافِرِينَ فَإِنْ كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْقَصَصِ فَرَضًا فَسَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ التَّوْرَةَ مِنْ قَبْلِكَ فَانَّهُ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ يُخْبِرُونَكَ بِصِدْقِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ الشَّاكِكِينَ فِيهِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ وَجِبَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ بِالْعَذَابِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾





ٹھانے کا موقع دیا (یعنی) ان کی مدت عمر پوری ہونے تک، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں کو اس چیز پر مجبور کر سکتے ہیں جو اللہ ان سے نہ چاہے یہاں تک وہ مومن ہی ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ کسی شخص کے لئے ممکن نہیں کہ خدا کے ارادہ کے بغیر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے اور جو لوگ اللہ کے علم میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو نشانیاں اور ڈرانے والے یعنی رسول کوئی فائدہ نہیں دیتے نُذُرِ نذیر کی جمع ہے یعنی مرسلین سواب یہ لوگ نیری تکذیب کر کے اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ ویسے ہی (برے) دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں، تو ان سے کہو اس کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوں عذاب سے بچا لیتے ہیں (نُنجی) حالتِ ماضیہ کی حکایت کرنے کے لئے مضارع کا صیغہ ہے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔

## تَحْقِیْقُ وَتَرْکِیْبُ تَسْهِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: بَوَّأْنَا، تَبَوُّؤٌ، سے ماضی جمع متکلم، ٹھکانہ دینا، مناسب جگہ فروکش کرنا۔

قَوْلُهُ: مُبَوَّأٌ، صَدَقٌ، مُبَوَّأٌ اسم مکان ہے یا مصدر ہے اور صَدَقٌ کی جانب اضافت عرب کی عادت کے مطابق ہے عرب جب کسی شئی کی تعریف کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی اضافت صَدَقٌ کی جانب کر دیتے ہیں، مثلاً هَذَا رَجُلٌ صَدَقٌ، رَقْدَمٌ صَدَقٌ، مراد یہاں منزل محمود ہے، مقام صَدَقٌ سے بعض حضرات نے مصر اور بعض نے اردن و فلسطین اور بعض نے شام مراد لیا ہے۔

قَوْلُهُ: الْمَضَارِعُ لِحِکَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: یہ ہے کہ نُنجِی مضارع کا صیغہ ہے جو کہ حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو نجات زمانہ حال میں دی جا رہی ہے یا آئندہ دی جائے گی حالانکہ نجات زمانہ ماضی میں دی جا چکی ہے۔

جَوَابُ: یہ حکایت حال ماضیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے گویا کہ حالات ماضیہ کی فی الحال منظر کشی کی جا رہی ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

ربط آیات:

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا الْخِیْلَ یہ کلام مستأنف ہے نعمت نجات کے بیان کے بعد ان نعمتوں کا بیان ہے جو فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل پر پانی کی طرح بہائی گئیں، ان ہی میں سے ایک نعمت مقام محمود میں سکونت پذیری عطاء کرنا ہے، بعض مفسرین نے جائے



سکونت مصر کو قرار دیا ہے مگر مشہور یہ ہے کہ بنی اسرائیل غرقِ فرعون کے بعد مصر واپس نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری اور معنوی بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، ملکِ شام میں سکونت عطاء کی جو کہ اپنی سرسبزی اور شادابی کے لئے آج تک مشہور ہے تو رات میں بھی شام اور اس اطراف کے علاقوں کی شادابی کا ذکر ہے۔

میں نازل ہوا ہوں کہ انھیں مصریوں سے چھڑاؤں اور  
اس زمین سے نکال کر اچھی وسیع زمین میں جہاں دودھ  
اور شہد موج مارتا ہے کنعانیوں کی جگہ میں لاؤں۔

(خروج ۳۰: ۸۴)

ان میں سے بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اس کی اطاعت سے پھر گئے تو رات میں جو نشانیاں رسول کریم ﷺ کی یہ لوگ پڑھتے تھے اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ﷺ کے تشریف لانے کے بعد سے پہلے یہی لوگ ایمان لاتے مگر یہ عجیب بات ہوئی کہ آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے تو یہ سب لوگ نبی آخر الزمان پر اعتقاد رکھتے تھے اور آپ ﷺ کے وسیلہ سے دعا میں کیا کرتے تھے، مگر جب آخری نبی اپنی پوری شہادت اور تورات کی بتلائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کچھ لوگ ایمان لائے اور باقی نے انکار کر دیا، اس آیت میں آپ ﷺ کے تشریف لانے کو جہاں العلم سے تعبیر کیا ہے یہاں علم سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے یعنی مشاہدہ کے ساتھ یقین کے اسباب بھی جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے لگے، بعض مفسرین نے علم سے معلوم مراد لیا ہے، یعنی جب وہ ہستی آگئی جو تورات کی پیشین گوئیوں کے ذریعہ معلوم تھی تو اختلاف کرنے لگے۔ (یعنی محمد ﷺ)۔

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ، اگرچہ بظاہر خطاب محمد ﷺ کو ہے مگر مخاطب امت ہے اس لئے کہ آپ کو وحی میں شک ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے۔

فَلَوْلَا، فَهَلَّا، لَوْلَا یہاں تخصیصیہ ہلا کے معنی میں ہے، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لے آتی جو اس کے لئے فائدہ مند ہوتا۔ ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ عذاب کی علامات دیکھنے کے بعد ایمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب ٹال دیا۔

اس کا مختصر حال یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آجائے گا اور خود وہاں سے نکل گئے جب عذاب بادل کی طرح اٹھ آیا تو وہ بچوں، عورتوں حتیٰ کہ جانوروں کو لیکر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور بارگاہِ الہی میں عاجزی و انکساری اور توبہ و استغفار شروع کر دی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ٹال دیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی تکذیب کے بعد اپنی قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی دوسری طرف نکل گئے، جس پر کشتی کا واقعہ پیش آیا۔

مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ قوم یونس علیہ السلام ایمان کب لائی؟ عذاب دیکھ کر لائی؟ جبکہ ایمان نافع نہیں ہوتا، یا ابھی عذاب کا وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم نے قوم یونس علیہ السلام کا الّا کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

قرآن کریم نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی اسلئے بعض مفسرین کے قول کے مطابق ان سے اخروی عذاب ختم نہیں کیا گیا، لیکن قرآن نے جب یہ وضاحت کر دی کہ دنیوی عذاب ایمان کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اسلئے کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس علیہ السلام اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی، (جس کی صراحت یہاں نہیں ہے) تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی، البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آ جانا قیامت کے روز ہوگا یا پھر موت کے وقت خواہ طبعی موت ہو یا کسی دنیوی عذاب میں مبتلا ہو کر جیسے فرعون کو پیش آیا۔

اس لئے قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہیہ کے خلاف نہیں بلکہ ضابطہ کے تحت ہی ہے کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب کو دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے توبہ کر لی بخلاف فرعون کے جس نے موت کے وقت غرغره کی حالت میں توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا اسلئے اس کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔

## حضرت یونس علیہ السلام کا مفصل واقعہ:

حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اجمالاً سابق میں بیان کیا جا چکا ہے اس واقعہ کا کچھ حصہ تو قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوی میں رہتی تھی، ان کی تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے، ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا مگر قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے اس کا اعلان کر دیا، قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اسلئے ان کی بات نظر انداز کرنے کے لائق نہیں، مشورہ میں یہ بھی طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے درمیان اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح کو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، حضرت یونس رات کو اس بستی سے نکل گئے، جب صبح ہوئی تو عذاب کا ایک سیاہ بادل دھوئیں کی شکل میں سروں پر منڈلانے لگا، اور یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو جائیں اور کفر و انکار سے توبہ کر لیں مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت



کے ساتھ توبہ واستغفار میں لگ گئے بستی سے ایک میدان میں نکل آئے عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیئے گئے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکاء سے گونجنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ان سے ٹال دیا جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے روایات میں آیا ہے کہ یہ عاشورہ یعنی دس محرم کا دن تھا۔

ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا قوم کو ان کی توبہ واستغفار کا حال معلوم نہ تھا، جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آجائے گا، اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیکر قتل کر دیا جائے گا۔

### انبیاء علیہم السلام ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں:

مگر انبیاء انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے اس وقت یونس علیہ السلام پر طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی بستی میں واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قومی قانون کے مطابق گردن زدنی بنوں اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیئے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارہ پر پہنچ گئے وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے، یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا، کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچی تو وہ دفعۃً ٹھہر گئی نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے کشتی والوں نے منادی کرا دی کہ ہماری کشتی کی منجانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہو غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہئے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر غضب نہ آئے۔

حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا گنہگار غلام میں ہوں بغیر اذن خداوندی بستی چھوڑ کر چلے آنا پیغمبرانہ شان کی وجہ سے گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بغیر اذن خداوندی کے نہ ہونی چاہئے تھی اسلئے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ قرعہ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے اتفاق سے قرعہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام سے نکل آیا، ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام قرعہ نکلتا رہا، قرآن کریم میں بھی اس قرعہ اندازی کا ذکر موجود ہے، ”فَسَاهِم فَكَانَ مِنَ الْمَدْحُضِينَ“ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جائے اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان بھی نہیں ہے اس لئے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن بغیر اجازت چلے جانا پیغمبرانہ شان بلند کے مناسب نہیں تھا اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔

ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا انتظام ہو رہا تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلانے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا، اور بتا دیا تھا کہ یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ اس کا مسکن ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے، بعض حضرات نے سات دن اور بعض نے پانچ اور بعض نے ایک دن چند گھنٹے مدت بتائی ہے، اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعاء کی ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ اللہ تعالیٰ نے اس دعاء کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ڈال دیا۔

مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ کے بدن پر کوئی بال نہیں رہا تھا، اللہ نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام کے لئے درخت کا سایہ بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس جا کر کھڑی ہو جایا کرے چنانچہ وہ ایسا ہی کرتی اور حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے تھے، اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔

اس قصہ کے جتنے اجزاء قرآن میں مذکور ہیں یا مستند روایات سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں باقی اجزاء تاریخی روایات کے ہیں جن پر کسی شرعی مسئلہ کا مدار نہیں رکھا جاسکتا۔ (معارف القرآن)

**فَائِدَةٌ:** حضرت یونس علیہ السلام کو تنبیہ کسی معصیت یا فرائض منصبی میں کوتاہی کا نتیجہ نہیں تھی جیسا کہ بعض مفسرین کو دھوکا ہوا ہے، اس لئے کہ یہ بات بالاتفاق طے ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں یا نہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں، البتہ خلاف اولیٰ کا صدور ہو سکتا ہے مگر اس کو معصیت نہیں کہا جاسکتا اور نہ اس پر مواخذہ ہوتا ہے البتہ انبیاء کی شان بلند کی نسبت سے ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق یہ خیال کہ انہوں نے رسالت کے فرض منصبی میں کوتاہی کی تھی جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی یہ کسی طرح بھی اہل سنت والجماعت کے مسلک سے میل نہیں کھاتا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاهُ اعْبُدُوا ۚ إِنَّكُمْ لَشَاكِرُونَ ۚ فَلَا تَعْبُدُوا لِلدِّينِ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَصْنَامُ لَشَكِّكُمْ فِيهِ وَلَكِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِقَبْضِ أَرْوَاحِكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ إِي بَانَ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَقِيلَ لِي أَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ مَائِلًا إِلَيْهِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَا تَدْعُ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ إِنْ عِبَدْتَهُ وَلَا يَضُرُّكَ إِنْ لَمْ تَعْبُدْهُ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَرَضًا فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَفَرُوا وَكَفَرُوا مَرَضٌ فَلَا كَاشِفَ رَافِعٍ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ دَافِعَ لِفَضْلِهِ الَّذِي أَرَادَكَ بِهِ يُصِيبُ بِهِ إِي بِالْخَيْرِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ



ای اہل مکہ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمِنْ اهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ لَانَّ ثَوَابَ اهْتِدَائِهِ لَهُ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا لَانَّ وِبَالَ ضَلَالِهِ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۱۸۸ فاجبر کم علی الہدی وَاَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ اِلَيْكَ وَاصْبِرْ عَلٰی الدَّعْوَةِ وَاِذَا هُمْ حَتٰی يَحْكُمَ اللّٰهُ فِیْهِمْ بِاَمْرِهٖ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِیْنَ ۱۸۹ اَعْدَلُهُمْ وَقَدْ صَبَرَ حَتٰی حَكَمَ عَلٰی الْمَشْرُكِیْنَ بِالْقِتَالِ وَاِهْلَ الْكِتَابِ بِالْجِزْيَةِ.

**تَرْجُمہ:** (اے محمد) کہہ دو کہ اے مکہ کے لوگو اگر تم میرے دین کے حق ہونے کے بارے میں شک (و تردد) میں ہو تو (تم کو معلوم ہونا چاہئے) کہ میں تمہارے دین میں شک کرنے کی وجہ سے ان معبودوں کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو اور وہ بت ہیں، لیکن میں تو اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں میں رہوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ دین کی طرف مائل رکھنا اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا (اور یہ حکم ہوا ہے) کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی بندگی نہ کرنا کہ اگر تم اس کی بندگی کرو تو تم کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور اگر تم اس کی بندگی نہ کرو تو تم کوئی نقصان نہ پہنچا سکے بالفرض اگر تم نے ایسا کیا تو اس صورت میں تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے (اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے) کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے مثلاً فقر اور مرض تو اس کے سوا اس تکلیف کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس فضل کا جس کا اس نے تمہارے لئے ارادہ کیا ہے اس کا کوئی روکنے والا نہیں (بلکہ) وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبذول فرمائے وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے مکہ کے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے لہذا جو شخص راہِ راست پر آئے گا وہ اپنے ہی واسطے راہِ راست پر آئیگا، اس لئے کہ راستی کا اجرا اسی کو ملے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کی بے راہ روی کا وبال اسی پر پڑے گا، اس لئے کہ اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا، اور میں تم پر مسلط کیا ہوا نہیں ہوں کہ تم کو میں ہدایت پر مجبور کروں (اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ) آپ اس وحی کا اتباع کرتے رہیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اور دعوت اور ان کی تکلیف پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور آپ نے صبر فرمایا یہاں تک کہ مشرکین کے ساتھ قتال کا اور اہل کتاب پر جزیہ کا حکم نازل فرمایا۔

## تَحْقِیْقِ وِتَرْكِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلُهُ:** اِنَّهُ حَقٌّ، یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ شک کا تعلق مفرد سے نہیں ہوتا اسی وجہ سے مفسر علام نے اِنَّهُ حَقٌّ محذوف مانا ہے تاکہ شک کا تعلق جملہ سے ہو جائے۔

**قَوْلُهُ:** يَتَوَفَّاكُمْ وَاَحَدُكُمْ غَائِبٌ مِّمَّارِعٍ مَعْرُوفٍ تَوَفَّى (تفعّل) کم ضمیر مفعول، تم کو پورا پورا لیتا ہے، تمہاری روح

قبض کرتا ہے۔

**قَوْلًا:** قیل لی، اس کا اضافہ ماقبل کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لئے کیا ہے اس لئے کہ ماقبل میں اُمِرْتُ ہے اب تقدیر عبارت یہ ہوگی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقیل لی ان اقم وجهک للدين حنیفاً۔  
**قَوْلًا:** ذلک فرضاً یہ اس سوال کا جواب ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نبی سے محال ہے پھر کیوں اس طرح خطاب کیا گیا، مفسر علام نے جواب دیا کہ یہ علی سبیل الفرض والتقدیر ہے۔  
**قَوْلًا:** علی الدعوة اس قید کا اضافہ ماقبل سے ربط قائم کرنے کیلئے کیا ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ الْخ، آپ مکہ کے لوگوں سے کہہ دو اگر تم کو میرا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا جس کی وجہ سے تم شک و تردید میں پڑے ہوئے ہو تو سنو میں تم کو اپنے دین کا اصل اصول (جو تو حید خالص ہے) سمجھائے دیتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہارے ان فرضی معبودوں سے سخت بیزار اور نفور ہوں جسکے اختیار کرنے کا کبھی امکان بھی میری طرف سے دل میں نہ لانا، میری عبادت اس خداوند وحدہ لا شریک لذکے لئے ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں ہیں، کہ جب تک چاہے انھیں جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے کھینچ لے مطلب یہ کہ موت و حیات کا رشتہ جس کے دست قدرت میں ہے وہی عبادت کا سزاوار ہے یہاں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشرکین مکہ یہ جانتے تھے اور آج بھی ہر قسم کے مشرک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب العلمین ہی کے قبضہ و اختیار میں ہے اس پر کسی دوسرے کا قابو و اختیار نہیں حتیٰ کہ جن دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں شریک کرتے ہیں ان کے متعلق بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی خود اپنی موت کے بارے میں اختیار نہیں وہ بھی اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکے ہیں، پس بیان مدعا کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار صفات میں سے کسی دوسری صفت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ خاص صفت ”الَّذِي يَتَوَفَّكُم“ وہ ذات کہ جو تم کو موت دیتی ہے یہاں اس لئے منتخب کی ہے کہ بیان مدعا کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی ہو جائے، یعنی سب کو چھوڑ کر میں اس کی بندگی اسلئے کرتا ہوں کہ زندگی اور موت پر تنہا اسی کا اقتدار ہے اور اس کے سوا دوسروں کی بندگی آخر کیوں کروں؟ جب وہ خود اپنی موت و حیات پر بھی اقتدار نہیں رکھتے کجا کہ دوسروں کی موت و حیات پر۔

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ الْخ جب ان چیزوں کے پکارنے سے منع کیا گیا کہ جن کے قبضے میں تمہارا بھلا برا کچھ نہیں تو مناسب معلوم ہوا کہ ان کے بالمقابل مالک علی الاطلاق کا ذکر کیا جائے کہ تکلیف و راحت موت و حیات بھلے اور برے غرضیکہ آرام و تکلیف کے تمام سلسلوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، جس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور جس پر وہ اپنا فضل و رحمت کرنا چاہے کسی کی طاقت نہیں کہ اسے محروم کر سکے۔



قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم الخ، یعنی حق واضح طور پر براہین و دلائل کیساتھ پہنچ چکا ہے، اب قبول نہ کرنے کا کوئی معقول عذر کسی کے پاس نہیں خدا کی آخری حجت بندوں پر قائم ہو چکی ہے، اب ہر ایک اپنا نفع نقصان سوچ لے جو خدا کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا اور جو اسے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکے گا وہ خود پریشان اور ذلیل و خوار ہوگا، پیغمبر کو کوئی مختار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ جو تمہارے افعال کا ذمہ دار ہو اس کا کام صرف آگاہ کر دینا اور راستہ بتلا دینا ہے اس پر چلنا یا نہ چلنا خود چلنے والے کے اختیار میں ہے۔

وَاصبر حتی یحکم اللہ الخ اس آیت میں آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول نہ کریں تو آپ خود کو اس کے غم میں نہ گھلائیں، آپ خدا کے احکام کی پیروی کرتے رہئے اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں لگے رہئے اور جو تکالیف اس راستہ میں آپ کو پہنچیں ان پر صبر کیجئے، مخالفین کی ایذا رسانیوں کا تحمل کرتے رہنا چاہئے یہاں تک کہ خدا آپ کے درمیان فیصلہ کر دے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ هُودِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتُ ثَلَاثٍ وَعِشْرُونَ آيَةً وَعِشْرُونَ حَرْفًا

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ اَلَا اَقِمِ الصَّلَاةَ الْاَيَةَ اَوْ اَلَا فَلَعلَّكَ تَارِكُ الْاَيَةِ  
وَ اَوَّلُكَ يُؤْمِنُونَ بِهَ الْاَيَةِ.

سورہ ہود کی ہے مگر اقم الصلوة (الایہ) یا مگر فلعلک تارک (الایہ)  
اور اولک يؤمنون به (الایہ) ۱۲۲ یا ۱۲۳ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحْمٰنُ اَعْلَمُ بِمَرَادِهِ بِذٰلِكَ هٰذَا كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰیَتُهُ  
بِعَجِیْبِ النِّظْمِ وَ بَدِيعِ الْمَعَانِیِ ثُمَّ فُصِّلَتْ بَیْنَتٌ بِالْاَحْكَامِ وَ الْقِصَصِ وَ الْمَوَاعِظِ مِنْ لَدُنْ حَكِیْمٍ خَبِیْرٍ ۱  
اللّٰهُ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِیْرٌ اِیْ بَانَ بِالْعَذَابِ اِنْ كَفَرْتُمْ وَبَشِیْرٌ ۲  
وَ اِنْ اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ مِنْ الشِّرْكِ ثُمَّ تَوْبُوْا اَرْجِعُوْا اِلَیْهِ بِالطَّاعَةِ یَمَتِّعْكُمْ فِی الدُّنْیَا مَتَاعًا حَسَنًا بِطِیْبِ عِیْشٍ  
وَسَعَةِ رِزْقٍ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی هُوَ الْمَوْتُ وَ یُؤْتِیْ فِی الْاٰخِرَةِ كُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فِی الْعَمَلِ فَضْلُهُ جَزَاءٌ ۳ وَ اِنْ تَوَلَّوْا  
فِیْهِ حَذَفَ اِحْدٰی التَّائِیْنِ اِیْ تُعْرِضُوْا فَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ كَبِیْرٍ ۴ هُوَ یَوْمُ الْقِیَمَةِ اِلٰی اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ  
وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۵ وَ مِنْهُ الثَّوَابُ وَ الْعَذَابُ وَ نَزَلَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی  
عَنْهُمَا فِیْمَنْ كَانَ یَسْتَحِیُّ اَنْ یَتَخَلَّى اَوْ یَجَامَعَ فِیُقْضٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَ قِیْلَ فِی الْمُنَافِقِیْنَ اَلَا اَنَّهُمْ یَشْنُوْنَ  
صُدُوْرَهُمْ لَیْسَتْ خُفُوَامِنَهُ اِیْ اللّٰهُ الْاٰحِیْنَ یَسْتَغْشُوْنَ ثِیَابَهُمْ یَتَغَطُّوْنَ بِهَا یَعْلَمُ تَعَالٰی مَا یُسْرُوْنَ وَ مَا یُعْلِنُوْنَ ۶ فَلَ یُغْنِیْ  
اَسْتَخْفَاؤُهُمْ اِنَّهٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۷ اِیْ بِمَا فِی الْقُلُوْبِ.

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے الس، اس سے اپنی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا  
ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات عجیب نظم اور انوکھے معانی کے ذریعہ محکم کی گئی ہیں، پھر حکیم باخبر یعنی اللہ کی طرف سے



احکام اور واقعات اور نصائح کے اعتبار سے صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو میں اس کی طرف سے تم کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر تم کفر کرو گے اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں اگر تم ایمان لاؤ گے اور یہ کہ تم اپنے رب سے شرک سے مغفرت طلب کرو پھر طاعت کے ذریعہ اس کی طرف رجوع کرو وہ دنیا میں تم کو معینہ مدت تک اچھا سامان عیش اور وسعت رزق دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ اجر دے گا اور اگر تم اعراض کرو گے (تولوا) میں دو تاؤں میں سے ایک تاء حذف کر دی گئی ہے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کہ وہ قیامت کا دن ہے، کے عذاب کا اندیشہ ہے تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور اسی ہر شے میں ثواب اور عقاب بھی ہے، اور (آئندہ آیت) جیسا کہ امام بخاری نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اس خیال سے کہ میرا یہ عمل آسمان (یعنی اللہ) تک پہنچ رہا ہے قضائے حاجت کرنے اور (بیوی سے) مجامعت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کئے ہیں (یعنی جھکے جاتے ہیں) تاکہ اللہ سے اپنی باتیں چھپا سکیں یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں (یعنی) ان میں چھپ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ (اس وقت بھی) اس چیز کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں لہذا ان کے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، بلاشبہ وہ تو دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** سورة هود بترکیب اضافی مبتداء مکية خبر اول مائة الخ خبر ثانی، مکية مستثنیٰ منہ ہے الاحرف استثناء اقم الصلوة (الآية) مستثنیٰ یعنی پوری سورت مکی ہے سوائے ایک آیت و اقم الصلوة (الآية) کے یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔

**قَوْلُهُ:** اَوْ اِلَّا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ (الآية) یہ دوسرے قول کی طرف اشارہ ہے اس قول کے مطابق پوری سورت مکی ہے مگر دو آیتیں، ایک تو فَلَعَلَّكَ اور دوسری اُولٰٓئِكَ يُوْمِنُوْنَ به (الآية) یہ قول مقاتل کا ہے۔

**قَوْلُهُ:** هذا، اس میں اشارہ ہے کہ کتاب مبتداء محذوف کی خبر ہے نہ کہ خود مبتداء اس لئے کہ نکرہ محضہ مبتداء واقع نہیں ہوتا، اُحْكَمْتُ آیاتہ، جملہ ہو کر کتاب کی صفت ہے۔

**قَوْلُهُ:** ثُمَّ فَصَلْتُ، ثُمَّ میں دو احتمال ہیں اول یہ اخبار محض کے لئے ہے، اور معنی ہوں گے اللہ نے ہم کو خبر دی کہ قرآن غایت درجہ باحسن وجوہ محکم ہے اور بہترین تفصیل کے ساتھ مفصل ہے، جیسا کہ عرب بولتے ہیں، ”فلان کریم الاصل ثم کریم الفصل“ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ثُمَّ نزول کے اعتبار سے ترتیب زمانی کے ہو بایں طور کہ نزول اول یعنی عرش سے لوح محفوظ پر نزول کے وقت محکم کیا گیا پھر حسب موقع تفصیل کے ساتھ نازل ہوا۔

قَوْلًا: من لدن حکیم خبیر یہ کتاب کی دوسری صفت ہے۔

قَوْلًا: بآن اس میں اشارہ ہے کہ اُن مصدر یہ ہے، اُن تفسیر یہ بھی ہو سکتا ہے، اُن کے تفسیر یہ ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس سے پہلے قول یا قول کے ہم معنی کوئی لفظ ہو یہاں اگرچہ لفظ قول نہیں مگر اس کا معنی فصاحت، موجود ہے لہذا اُن کا مفسرہ ہونا بھی درست ہے، اور یہاں تفسیر یہ ہی بہتر ہے۔ (صاوی)

قَوْلًا: قيل في المنافقين، اگر منافقین سے معروف منافقین مراد ہیں تو اس میں نظر ہے اس لئے کہ معروف منافقین کا وجود مکہ میں نہیں تھا اور آیت مکی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ منافقین مکہ میں سے تھا یہ شخص چرب زبان حسین المنظر تھا اور رسول اللہ ﷺ کو خوش کن خبریں سنایا کرتا تھا اور دل میں اس کے خلاف پوشیدہ رکھتا تھا اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

قَوْلًا: يثنون، الثنى الطی چھپانے کے لئے لپیٹنا، يثنون کی اصل يثنيون تھی ضمہ یاء پر دشوار رکھ کر نون کو دیدیا، یاء اور واو کے درمیان التقاء ساکنین کی وجہ سے یاء کو حذف کر دیا، يثنون ہو گیا۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

### سورة هود کے مضامین:

اس سورت میں بھی اُن ہی قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنیں اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرف مٹادی گئیں، یا تاریخ کے اوراق میں عبرت کا نمونہ بن کر موجود ہیں، اسی لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا، کیا وجہ ہے کہ آپ بوڑھے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ”مجھے ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا“۔

ابن مردویہ اور ابن عساکر وغیرہا نے مسروق کی سند سے حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کیا ہے۔

قال، قلت، یا رسول اللہ لقد أسرع اليك الشيب فقال شيبتنى هود والواقعة والحاقة والمرسلات وعمريتسألون وإذا الشمس كورت۔ (تفسیر فتح القدیر)

کتاب احکمت آیاتہ، قرآنی آیات نظم و معانی کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ نہ ان کی ترکیب لفظی میں کوئی خلل ہے اور نہ ترکیب معنوی میں، اس کے علاوہ اس میں احکام و شرائع، مواعظ و قصص، عقائد و ایمانیات، عقائد و اخلاقیات جس طرح وضاحت و تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کتب سابقہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلہ میں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے یعنی جس طرح سابقہ کتابیں تورات انجیل وغیرہ مجموعی اعتبار سے منسوخ ہو



گئیں یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی اسلئے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے بعض قرآنی آیات کا بعض کے ذریعہ منسوخ ہونا اس کے منافی نہیں، ثم فُصِّلَتْ کی تفسیر تحقیق و ترکیب کے زیر عنوان گذر چکی ہے ملاحظہ کر لیا جائے۔

يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، دنیوی سامانِ عیش کو قرآن میں دوسری جگہ ”متاع غرور“ کہا گیا ہے یعنی دھوکے کا سامان اور یہاں اسے ”متاع حسن“ قرار دیا گیا ہے دونوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کرے گا اس کے لئے یہ متاع غرور ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کیلئے یہ چند روزہ متاع، متاع حسن ہے۔

## شان نزول:

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ (الآیۃ) اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے اسی لئے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ (صحیح بخاری تفسیر سورہ ہود) میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہمبستری کے وقت برہنہ ہونا اور ستر کھولنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس لئے ایسے موقع پر شرم گاہ کو چھپانے کے لئے اپنے سینوں کو دھرا کر لیتے تھے، اللہ نے فرمایا رات کو جب وہ اپنے بستر میں اپنے کپڑوں میں خود کو ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اسلئے کہ جس ذات کی خاطر تم ایسا کرتے ہو، اس سے تو تم پھر بھی نہیں چھپ سکتے تو اس طرح کے تکلف سے کیا فائدہ۔

وَمَا مِنْ زَائِدَةٍ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ هِيَ مَادَبَّ عَلَيْهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تَكْفُلُ بِهِ فَضْلًا مِنْهُ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مَسْكَنَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمُسْتَوْدَعَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ فِي الرَّحِمِ كُلُّ مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ① بَيْنَ هُوَ اللَّوْحُ الْمُحْفَظُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ أُولَٰهَا الْإِحْدُ وَالْآخِرُ الْجُمُعَةُ وَكَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ خَلْقِهِمَا عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ لِيَبْلُوكُمْ مَتَّعُ بِخَلْقِ أَيْ خَلَقَهُمَا وَمَا فِيهِمَا مَنَافِعُ لَكُمْ وَمَصَالِحُ لِيَخْتَبِرَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَيْ أَطْوَعَ لِلَّهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ أَنْتُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا قُرْآنٌ مِثْلُ الْقُرْآنِ الْأَوَّلِ الَّذِي تَقُولُ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ② بَيْنَ وَفِي قِرَاءَةِ سَاحِرٍ وَالْمِشَارِ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَئِنْ أَخْرَنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ مَجِيٍّ أُمَّةٍ جَمَاعَةٍ أَوْ قَاتٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ اسْتَهْزَأُوا بِحَيْسُهُ يَمْنَعُهُ مِنَ النَّزُولِ قَالَ تَعَالَىٰ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا مَدْفُوعًا عَنْهُمْ وَحَاقَ نَزْلُ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ③ مِنَ الْعَذَابِ

**ترجمہ:** زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، مِنْ زَائِدَةٍ ہے (دَابَّة) اس جاندار کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتا ہے، یعنی اللہ ہی ان کی روزی کا اپنے فضل سے کفیل ہے وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے آيَاتِنَا میں ہے یا پشت پدر میں اور مرنے کے بعد اس کے سپرد کئے جانے کی جگہ کو یا رحم مادر میں ہے (اس کے مقام) کو جانتا ہے اور ہر چیز کا جو مذکور ہوئی وہ کتاب مبین میں ہے اور وہ لوح محفوظ ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ان کا پہلا دن یکشنبہ تھا اور آخری دن جمعہ کا اور آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا اور پانی ہوا کے دوش پر تھا، تاکہ تم کو آزمائے (لِيَبْلُوَكُمْ) خَلَقَ کے متعلق ہے یعنی ان دونوں کو اور ان میں جو کچھ ہے تمہارے منافع اور تمہاری مصلحتوں کے لئے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ یعنی کون اللہ کا زیادہ تابع فرمان ہے، اور اگر (اے محمد) تم کہو کہ تم کو مرنے کے بعد (زندہ کر کے) اٹھایا جائیگا، تو منکرین فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ قرآن جو بعث بعد الموت کی بات کرتا ہے یا جو بات تم کرتے ہو وہ کھلا ہوا جادو ہے، اور ایک قراءت میں (سحر) کے بجائے ساحر ہے اور اس کے مصداق نبی ﷺ ہوں گے، اور اگر ہم ان سے متعین عذاب کو کچھ مدت کے لئے ملتوی کر دیتے ہیں تو بطور استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کو آنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو جس دن وہ (عذاب) ان پر آپڑے گا تو ٹالے نہ ٹلے گا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آگھرے گا۔

## تحقیق و ترکیب و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** تَكْفُلَ بِهِ فَضْلًا مِنْهُ یہ اضافہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقہا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر رزق رسانی واجب ہے، حالانکہ وجوب اللہ پر محال ہے۔

**جَوَابُهُ:** کا حاصل یہ ہے کہ مخلوق کے لئے رزق رسانی کا اللہ پر لزوم وجوباً نہیں ہے بلکہ محض فضل و شفقت ہے۔

**قَوْلُهُ:** كُلِّ مِمَّا ذَكَرَ اس میں اشارہ ہے کہ کُلُّ، کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔

**قَوْلُهُ:** بَيِّنٌ، مبین کی تفسیر بَیِّنٌ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ متعدی بمعنی لازم ہے۔

**قَوْلُهُ:** جَمَاعَةُ اَوْقَاتٍ اس میں اشارہ ہے کہ اُمّة سے مراد لوگوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ اس سے اوقات کا محدود مجموعہ مراد ہے، اُمّة اصل میں لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں ای طائفة من الناس، یہاں طائفة من الازمنة مراد ہے جیسا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اوقات کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا ہے۔

**قَوْلُهُ:** مَعْدُودَةٌ، معدودہ سے مراد قلیلہ ہے اس لئے کہ حصر بالعد و قلت پر دلالت کرتا ہے۔



## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيح

## رابط آیات:

پچھلی آیات میں حق تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں، تو بھلا وہ جانداروں کو ان کی روزی کے معاملہ میں کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی روزی کی کفالت اپنے ذمہ محض اپنے فضل سے لے لی ہے اللہ تعالیٰ پر کسی کی طرف سے نہ کوئی شئی واجب ہے اور نہ کسی کا دباؤ، اور روزی رسانی کا انتظام اسی وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کا مقام و مستقر معلوم ہو ورنہ روزی رسانی کا نظام ممکن ہی نہیں ہو سکتا، تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تعالیٰ سے چھپالیں جہالت اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔

## رزق سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب:

سُئِلَ: یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روزی رسانی کی ذمہ داری اللہ رب العلمین کی ہے تو پھر ہزار ہا جاندار بھوک اور پیاس سے کیوں مر جاتے ہیں؟

جواب: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کے اسباب اپنے علم ازلی کے مطابق متعین فرمادیئے کہ فلاں مرض کی وجہ سے مرے گا اور فلاں جل کر مرے گا اور فلاں ڈوب کر مرے گا اور فلاں قتل ہو کر مرے گا ایسے ہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ بھوک سے مرے گا اسی سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روزی بند کر دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں کوئی کمی آگئی ہے یا اس کے یہاں غذائی اشاک ختم ہو گیا ہے۔ (نعوذ باللہ)۔

آیت میں ”مستقر“ اور ”مستودع“ کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعریف میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک منتہائے سیر کا نام مستقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے اور بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور صلب پدر مستودع ہے، اور بعض کے نزدیک انسان یا حیوان جہاں بود و باش رکھتا ہے وہ مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہوگا وہ مستودع ہے (ابن کثیر) بہر حال جو معنی بھی لئے جائیں مفہوم واضح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا مستقر و مستودع معلوم ہے اس لئے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے۔

## اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں:

علی اللہ رزقہا، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی رسانی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے لہذا اب نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت، اسلئے کہ شریعت اسلامی کی تعلیم ترک اسباب کی نہیں ہے اور نہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، حضرت تھانوی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا کہ اسباب کو اگر اس اعتقاد کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ مسبب الاسباب اللہ ہی ہے اور یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ بغیر اسباب کے رزق حاصل ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس عالم میں اسباب ظاہری کی پوری رعایت کر کے پھر توکل کیا جائے، عارف رومی نے اپنی مثنوی میں توکل کے صحیح طریقہ کی ایک حکایت بیان کی ہے۔

حکایت: بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، آپ نے دریافت فرمایا اونٹنی کو کیا کیا؟ اس نے کہا خدا کے توکل پر یوں ہی چھوڑ دیا ہے، آپ نے فرمایا اسے باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔

گفت پیغمبر باواز بلند بر توکل زانویں اشتر بہ بند

وہو الذی خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس آیت میں حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت ظاہرہ کا ایک اور مظہر ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے عرش رحمان پانی پر تھا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کے چھ دن میں پیدا کرنے کی تفصیل سورۃ حمّ سجده میں اس طرح آئی ہے کہ دو دن میں زمین بنائی گئی اور دو دن میں زمین کے پہاڑ دریا درخت اور جانداروں کی غذا پیدا فرمائی اور دو دن میں سات آسمان بنائے۔

## کائنات کو چھ دن میں پیدا کرنے کا مطلب:

تفسیر مظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد تمام علویات ہیں اور زمین سے مراد تمام سفلیات ہیں اور دن سے مراد وقت کی وہ مقدار ہے جو آسمان و زمین میں پیدا کرنے کے بعد آفتاب کے طلوع و غروب تک ہوتا ہے، اگرچہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا اور نہ اس کا طلوع و غروب۔

حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں یہ بھی تھا کہ ان تمام کو ایک دن میں پیدا کر دے مگر اس نے اپنی حکمت سے اس عالم کے نظام کو تدبیر کی بنایا ہے جو انسانی مزاج کے مناسب ہے، اس آیت کے آخر میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی یہ سب چیزیں اس لئے پیدا کی گئیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے؟



اس سے معلوم ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش مقصود بالذات نہیں تھی بلکہ اس کو عمل کرنے والے انسان کے لئے بنایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے معاش کا فائدہ بھی حاصل کریں، اور ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب حقیقی کو بھی پہچانیں۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو رضائے الہی کے لئے ہو اور یہ کہ سنت کے مطابق ہو اگر مذکورہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا چاہے وہ کتنا بھی زیادہ عمل کیوں نہ ہو اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

کان عرشہ علی الماء، یہ جملہ معترضہ ہے جو اس سوال کا جواب ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین جب نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا؟ اس سوال کا جواب مختصر انداز میں یہ دیا گیا کہ پہلے پانی تھا، نہیں کہا جاسکتا کہ پانی سے کیا مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ موجودہ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے عالم آب تھا اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب اس کی حکومت کا پانی پر ہونا ہے۔ (ماجدی)

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ، یہاں استعجال یعنی جلدی طلب کرنے کو استہزاء سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ وہ استعجال بطور استہزاء ہی ہوتا تھا یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے اس کی گرفت کسی وقت بھی آسکتی ہے۔

وَلَيْنُ آذِقْنَا الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ مِّنْ أَرْحَمَةٍ غَنَى وَصَحَّةٌ ثُمَّ نَرْعَاهُمْ إِنَّهُ لَيُؤَسُّ قَنُوطٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ كَفُورٌ ④  
 شَدِيدُ الْكَفْرِ بِهِ وَلَيْنُ آذِقْنَاهُ نِعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ فَقْرٍ وَشِدَّةٍ مَّسَلَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ الْمَصَائِبُ عَنِّي وَلَمْ  
 يَتَوَقَّعْ زَوَالَهَا وَلَا يَشْكُرُ عَلَيْهَا إِنَّهُ لَفَرِحَ فَرَحَ بَطْرِ فَخُورٍ ⑤ عَلَى الْغَامِ بِمَا أُوتِيَ إِلَّا لَكِنِ الَّذِينَ صَبَرُوا  
 عَلَى الضَّرَاءِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي النِّعْمَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑥ هُوَ الْجَنَّةُ فَلَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدُ  
 تَارِكُ بَعْضٍ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ فَلَا تُبَلِّغُهُمْ آيَاتِهِ لَتَهْوَنَهُمْ بِهِ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ بَتَلَاوَتِهِ عَلَيْهِمْ لَا جِلْ  
 أَنْ يَقُولُوا أَوَّلًا هَلَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ يَصْدَقُهُ كَمَا اقْتَرَحْنَا إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ فَلَا عَلَيْكَ  
 إِلَّا الْبَلَاغُ لَا الْإِتْيَانُ بِمَا اقْتَرَحُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ⑦ حَفِظْ فَيُجَازِيهِمْ أَمْ بَلْ أَيْقُولُونَ افْتَرَاهُ أَيْ  
 الْقُرْآنَ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ مُفْتَرِيَاتٍ فَانْكُمْ عَرَبِيُونَ فَصَحَاءُ مِثْلِي تَحْدَابِهِمْ بِهَا أَوَّلًا  
 ثُمَّ بِسُورَةٍ وَأَدْعُوا لِلْمُعَاوَنَةِ عَلَى ذَلِكَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑧ فِي أَنَّهُ افْتَرَاهُ  
 فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ أَيْ مَنِ دَعَوْتُمْ بِهِمْ لِلْمُعَاوَنَةِ فَأَعْلَمُوا خَطَابُ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا أَنْزَلَ مُتَلَبِّسًا يَعْلَمُ اللَّهُ  
 وَلَيْسَ افْتَرَاءٌ عَلَيْهِ وَأَنْ مَّخْفَفَةٌ أَيْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ⑨ بَعْدَ هَذِهِ الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ أَيْ اسْلِمُوا  
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا بِأَنْ أَصْرَّ عَلَى الشَّرِكِ وَقِيلَ بِي فِي الْمَرَاتِينِ نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ أَيْ  
 جَزَاءُ مَا عَمِلُوهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَصَلَةِ رَحِمٍ فِيهَا بِأَنْ نُوسِعَ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُمْ وَهُمْ فِيهَا أَيْ الدُّنْيَا

لَا يَبْخَسُونَ<sup>۱۵</sup> يَنْقُصُونَ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ بِطُلَّ مَاصْنَعُوا فِيهَا أَى الْآخِرَةِ  
 فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>۱۶</sup> أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِّن رَّبِّهِ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَوِ الْمُؤْمِنُونَ وَهِيَ الْقُرْآنُ وَيَتْلُوهُ وَيَتَّبِعُهُ شَاهِدٌ يُصَدِّقُهُ مِّنْهُ أَى مِنَ اللَّهِ وَهُوَ جِبْرِيلُ وَمِنْ قَبْلِهِ أَى الْقُرْآنُ  
 كِتَابُ مُوسَى التَّوْرَةُ شَاهِدٌ لَهُ أَيْضًا إِمَامًا وَرَحْمَةً<sup>۱۷</sup> حَالٌ كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ لَا أُولَٰئِكَ أَى مَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ  
 يُؤْمِنُونَ بِهِ فَلَهُمُ الْجَنَّةُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ جَمِيعِ الْكُفَّارِ فَلَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَنَارُكَ فِي مَرِيَّةٍ شَكٍّ مِّنْهُ  
 مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَى أَهْلَ مَكَّةَ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>۱۸</sup> وَمَنْ أَى لَا أَحَدَ  
 أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا<sup>۱۹</sup> بِنِسْبَةِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ إِلَيْهِ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي جُمْلَةِ  
 الْخَلْقِ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ جَمْعُ شَاهِدٍ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ لِلرَّسُلِ بِالْبَلَاغِ وَعَلَى الْكُفَّارِ بِالتَّكْذِيبِ  
 هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ<sup>۲۰</sup> أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ<sup>۲۱</sup> الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ دِينَ  
 الْإِسْلَامِ وَيَبْغُونَهَا يَطْلُبُونَ السَّبِيلَ عِوَجًا مُّعْوَجَةً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ تَاكِدُ كُفْرُونَ<sup>۲۲</sup> أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا  
 مُعْجِزِينَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَى غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ<sup>۲۳</sup> أَنْصَارُ يَمْنَعُونَهُمْ عَذَابَهُ  
 يُضَعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ بِاضْلَالِهِمْ غَيْرُهُمْ<sup>۲۴</sup> مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ لِلْحَقِّ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ<sup>۲۵</sup> أَى لِفَرْطِ  
 كِرَاهَتِهِمْ لَهُ كَانَهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ لَمْ يَصِيرُوا إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ  
 وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ<sup>۲۶</sup> عَلَى اللَّهِ مِنْ دَعْوَى الشَّرِكِ لَاحِرَمَ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ<sup>۲۷</sup>  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا سَكَنُوا وَأَطْمَأْنَنُوا وَأَنَابُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ<sup>۲۸</sup> مَثَلُ صِفَةِ الْفَرِيقَيْنِ الْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِينَ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى هَذَا مَثَلُ الْكَافِرِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ  
 هَذَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا لَا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ<sup>۲۹</sup> فِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ تَتَعَذُّونَ.

**ترجمہ:** اور اگر ہم کافر انسان کو اپنی رحمت (مثلاً) مالداری اور صحت سے نوازنے کے بعد اس کو رحمت سے محروم

کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اس رحمت کی بے حد ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر  
 آپڑی تھی (مثلاً) فقر اور سختی، ہم اس کو نعمتوں کا مزا چکھا دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے سب دکھ دور ہو گئے اور ان نعمتوں کے  
 زوال کا خیال بھی نہیں کرتا اور نہ ان پر شکر ادا کرتا ہے (اور) وہ اترانے لگتا ہے اور جو کچھ اس کو دیا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں پر  
 شنی بگھارنے لگتا ہے، مگر جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں میں نیک عمل کرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے  
 لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے وہ جنت ہے، تو اے محمد ایسا نہ ہو کہ قرآن سے ان کی بے توجہی کی وجہ سے اس وحی کے کچھ حصے  
 کو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے ان تک پہنچانے کو چھوڑ دیں اور آپ ان کو قرآن سنانے سے ان کی اس بات کی وجہ سے تنگ



دل ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس لئے ان پر ہماری تجویز کے مطابق خزانہ نازل نہیں کیا گیا یا کس لئے ان کے ساتھ فرشتہ نہیں آیا جو ان کی تصدیق کرتا، آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے نہ کہ وہ سب کچھ کر دکھانا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور اللہ ہر شئی پر پورا اختیار رکھنے والا ہے تو وہ ان کو سزا دے گا کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے تو (جواب میں) آپ کہئے کہ تم بھی فصاحت و بلاغت میں میرے جیسے فصیح عرب ہو لہذا اس کے جیسی دس سورتیں گھڑ کر لے آؤ، اولاً ان کو دس سورتوں سے چیلنج دیا (اور) پھر ایک سورت سے۔ اور اس کام میں مدد کے لئے اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لیا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اس کو اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ پس اگر وہ غیر جن کو تم نے مدد کے لئے پکارا ہے تمہاری پکار کا جواب نہ دیں تو سمجھ لو خطاب مشرکوں کو ہے کہ یہ (قرآن) خدا ہی کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور اس پر افتراء نہیں ہے اور یہ بھی یقین کر لو ان مخففہ عن الشقیلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا تم اس حجت قاطعہ کے بعد بھی مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی مسلمان ہو جاؤ، جس شخص نے دنیوی زندگی اور اس کی رونق ہی کو مقصد بنا لیا ہے بایں طور کہ اس نے شرک پر اصرار کیا، اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ہم ان کے اعمال خیر مثلاً صدقہ اور صلہ رحمی کا صلہ (دنیا ہی میں) پورا پورا دیتے ہیں بایں طور کہ ہم ان کے رزق میں وسعت کر دیتے ہیں اور دنیا میں ان کے صلہ میں کچھ کمی نہیں کی جاتی (سو) یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں نار جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے عمل خیر کیا آخرت میں سب ضائع ہو گا تو ان کو کچھ اجر نہ ملے گا اور جو (عمل خیر) وہ کرتے رہے ہیں سب باطل ہو جائیگا، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہو اور وہ (دلیل) قرآن ہے اور وہ شخص نبی ﷺ یا مومنین ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے شاہد بھی ہو کہ جو اس کی تصدیق کرتا ہو اور وہ جبریل علیہ السلام ہیں اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی اس کی شاہد ہے، حال یہ ہے کہ وہ پیشوا اور رحمت ہے اس شخص کے برابر جو ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اور یہی لوگ جو دلیل پر ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لئے جنت ہے اور تمام کفار میں سے جو فریق بھی اس کا منکر ہو گا تو اس کے لئے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے تو قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ بالیقین قرآن تیرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے لیکن اکثر لوگ (یعنی) اہل مکہ یقین کرنے والے نہیں ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا کہ جو اللہ کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کر کے اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے؟ کوئی نہیں ہو گا ایسے لوگ منجملہ دیگر لوگوں کے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش کئے جائیں گے (اشہاد) شاہد کی جمع ہے مراد فرشتے ہیں رسولوں کے بارے میں پیغام رسانی کی اور کفار کے بارے میں جھٹلانے کی گواہی دیں گے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھوٹی باتیں کہی تھیں، سب سن لو ایسے ظالموں مشرکوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے راستے سے دین اسلام سے روکتے تھے اور ٹیڑھے راستہ کی جستجو میں لگے رہتے تھے اور یہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، ہُم سابق ہم کی تاکید ہے یہ لوگ روئے زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور نہ کوئی غیر اللہ ان کا مددگار ہو گا جو ان سے اللہ کے عذاب کو دفع کر سکے، دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ایسوں کو دو گنی سزا ہو گی یہ لوگ

نفرت کی وجہ سے نہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے اس سے شدید کراہت کی وجہ سے گویا کہ ان میں اس کی طاقت ہی نہیں تھی یہ وہ لوگ ہیں جو دائی آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے خود کو برباد کر بیٹھے اللہ پر جو دعوائے شریک گھڑا تھا سب بھول جائیں گے یقینی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ میں ہوں گے، بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور (دل سے) اپنے رب کی جانب جھکے اور ان کو اطمینان ہوا اور (اسکی طرف) رجوع کیا، ایسے لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریقوں یعنی کافروں اور مومنوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو یہ مثال کافر کی ہے اور ایک شخص ایسا ہو کہ جو دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو یہ مثال مومن کی ہے، کیا دونوں شخص حالت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس میں اصل میں تاء کا ذال میں ادغام، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْہِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِثْلَ رَحْمَةٍ (الآیة) لَئِنْ میں لام قسمیہ ہے، اِنَّہ لَیْسُوْسُ کفور، جواب قسم ہے اور جواب شرط محذوف ہے مِثْلَ حَال ہے رَحْمَةً. اَذَقْنَا کا مفعول ثانی ہے، مِثْلَ اصل میں رَحْمَةً کی صفت ہے مقدم ہونے کی وجہ سے حال ہو گئی۔

قَوْلًا: لَیْسُوْسُ اور کفور، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور یہ دونوں اِنَّ کی خبریں ہیں۔

قَوْلًا: الْکَافِر، اس میں اشارہ ہے کہ الانسان میں الف لام عہد کا ہے۔

قَوْلًا: شَدِید الْکُفْرِ بہ یہ کفور کے صیغہ مبالغہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلًا: وَلَمْ یَتَوَقَّعْ زَوَالُهَا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذَهَبَ السَّیِّئَاتِ میں مصائب کے صرف ختم ہونے ہی کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ قائل نے ان مصائب کے عدم عود کا ارادہ کیا ہے، یعنی اب حاصل شدہ نعمتوں کے زوال کا اندیشہ نہیں ہے۔

قَوْلًا: لَکِنْ اِلَّا کی تفسیر لکن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے اسلئے کہ لَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ میں انسان سے مراد انسان کافر ہے لَہٰذَا الْکَافِرِ صَبَرُوا اس میں داخل نہ ہوں گے۔

قَوْلًا: بَيَانٌ، بَیِّنَةٌ کی تفسیر بیاں سے کر کے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔

سُؤَالٌ: اللہ تعالیٰ کے قول یتلوہ کی ضمیر بینۃ کی طرف راجع ہے ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَابٌ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ بینۃ معنی میں بیان کے ہے۔

قَوْلًا: هُوَ النَّبِیُّ ﷺ او المؤمنون یہ مَنْ كَانَ عَلٰی بَیِّنَةٍ میں مَنْ کے مصداق کی وضاحت ہے مَنْ کے مصداق میں دو احتمال ہیں ایک تو آپ ﷺ اور دوسرا مؤمنون اور وہی القرآن، بینۃ کے مصداق کا بیان ہے۔



قَوْلًا: حَالٌ، اِیْ هُمَا حَالَانِ مِنْ کِتَابِ مُوسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ.

قَوْلًا: کَمَنْ لَیْسَ کَذٰلِکَ، مفسر علام نے اس جملہ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ اَفَمَنْ کَانَ الْخِ مَبْتَدَا کی خبر محذوف ہے اور وہ کَمَنْ لَیْسَ کَذٰلِکَ ہے۔

قَوْلًا: لَا اِسَیْ اِشَارَہ ہے کہ اَفَمَنْ کَانَ عَلٰی بَیِّنَۃٍ مِّیْں ہمزہ استفہام انکاری ہے۔

قَوْلًا: یَطْلُبُوْنَ السَّبِیْلَ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یَبْغُوْنَهَا کی ضمیر سبیل کی طرف لوٹ رہی ہے حالانکہ ضمیر مؤنث ہے اور سبیل مذکر ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ لفظ سبیل مذکر اور مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔

## تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ (الآیۃ) پہلی اور دوسری آیت میں بشری طبیعت اور ایک طبعی عادت قبیحہ کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے، ارشادِ ربانی ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی نعمت چکھا دیتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی تکلیف کے بعد کسی نعمت کا مزا چکھا دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے سب دکھ درد دور ہو گئے، اور وہ اترانے اور دوسروں پر فوقیت جتانے اور شیخی بگھارنے لگتا ہے مطلب یہ کہ انسان فطرۃً عجلت پسند اور زودرنج واقع ہوا ہے گذشتہ پر ناشکری اور آئندہ سے مایوسی یہی اسکی زندگی کا حاصل ہے، اگر خدا چند روز اپنی مہربانی سے عیش و آرام میں رکھنے کے بعد کسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے تو پچھلی مہربانیاں بھی بھلا دیتا ہے اور نا امید ہو کر آئندہ کے لئے آس توڑ بیٹھتا ہے۔

اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (الآیۃ) اوپر جو عام لوگوں کا حال بیان ہوا ہے اس سے اللہ کے وہ بندے مستثنیٰ ہیں جو تکلیف و مصیبت کا مقابلہ صبر و استقامت سے کرتے ہیں اور امن و راحت کے وقت شکر گزاری کے ساتھ عمل صالح میں مستعدی سے لگے رہتے ہیں، مذکورہ صفات کے حاملین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی خطائیں بخشدی جائیں گی اور ان کو ان کے اعمال کا بڑا اجر ملے گا۔

## شان نزول:

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا یُوْحٰی اِلَیْكَ یہ آیت ایک واقعہ میں نازل ہوئی ہے واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کے سامنے مختلف قسم کی فرمائشیں پیش کیں جن میں ایک یہ کہ اس قرآن میں چونکہ ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے اسلئے آپ یا تو کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اسی میں ترمیم کر کے ہمارے بتوں کی مذمت نکال دیں، اُنّتِ بقرآن غیر هذا او بدّلہ۔

دوسرے یہ کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں گے کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب لوگ استفادہ کریں، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے آجائے وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ بے شک

یہ اللہ کے رسول ہیں۔

رسول اللہ ﷺ ان کی بیہودہ فرمائشوں سے بہت دل تنگ ہوتے تھے اسلئے کہ یہ فرمائشیں محض بے عقلی پر مبنی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی اور تسلی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں جو آپ کی جانب وحی کی گئی ہیں اور وہ مشرکین کو گراں گذرتی ہیں، ممکن ہے کہ آپ وہ باتیں انھیں سنانا پسند نہ کریں آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے وہ آپ ہر صورت میں کئے جائیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي أَنَا بَأْنِي وَفِي قِرَاءَةِ الْكُسْرِ عَلَى حَذْفِ الْقَوْلِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ بَيْنَ الْإِنذَارِ  
 أَنْ أَيْ بَانَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِنْ عِبَدْتُمْ غَيْرَهُ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿١٦﴾ مَوْلِمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ وَبِهِمُ الْأَشْرَافُ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَلَا فَضْلَ لَكَ عَلَيْنَا وَمَا نَرِيكَ  
 اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ آسَافُنَا كَالْحَاكَةِ وَالْأَسَاكِفَةِ بِأَدَى الرَّأْيِ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكُهُ أَيْ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ  
 تَفَكَّرْ فِيكَ وَنَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِ أَيْ وَقْتُ حَدُوثِ أَوَّلِ رَأْيِهِمْ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَتَسْتَحِقُّونَ بِهِ  
 الْإِتْبَاعَ مِنَّا بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿١٧﴾ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ ادْرَجُوا قَوْمَهُ مَعَهُ فِي الْخُطَابِ قَالَ يَقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ  
 أَخْبَرُونِي إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِنْ رَبِّي وَآتَنِي رَحْمَةً نَبَوًى مِنْ عِنْدِهِ فَعَمَّيْتُ خُفَيْتُ عَلَيْكُمْ وَفِي قِرَاءَةِ  
 بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَنْزَلْنَاكُمْ مَوَّهَا أَنْجَبَكُمْ عَلَى قَوْلِهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿١٨﴾ لَا نَقْدِرُ عَلَى  
 ذَلِكَ وَلَيَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ مَالًا تَعْطُونِي إِنْ مَا أَجْرِي ثَوَابِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ  
 الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا أَمَرْتُمُونِي إِنَّهُمْ مَلْفُورٌ بِهِمْ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيهِمْ وَيَاخُذُ لَهُمْ بِمَنْ ظَلَمَهُمْ وَطَرَدَهُمْ  
 وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿١٩﴾ عَاقِبَةُ أَمْرِكُمْ وَلَيَقَوْمٌ مَنْ يَنْصُرُنِي يَمْنَعُنِي مِنَ اللَّهِ أَيْ عَذَابِهِ إِنْ طَرَدْتُمْهُمْ أَيْ  
 لَا نَاصِرَ لِي أَفَلَا فَهَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ بَادِغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ تَتَّعْظُونَ وَلَا أَقُولُ  
 لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ بَلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي تَحْقِرُ  
 أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ قُلُوبُهُمْ إِنِّي إِذَا أَنْ قُلْتُ ذَلِكَ لِمَنِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾  
 قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا خَاصَمْتَنَا فَاكْتَرَتْ جِدَالَنَا فَاثْنَا بِمَا تَعِدُنَا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فِيهِ  
 قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ تَعْجِيلُهُ لَكُمْ فَإِنْ أَمَرَ إِلَيْهِ لَا إِلَهَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢٣﴾ بِفَاتَتَيْنِ اللَّهُ  
 وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ أَيْ إِغْوَاءَكُمْ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلٌّ عَلَيْهِ فَلَا  
 يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ تَعَالَى أَمْرٌ بَلْ يَقُولُونَ أَيْ كِفَارُ مَكَّةَ افْتَرَاهُ اخْتَلَقَ  
 مُحَمَّدٌ الْقُرْآنَ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي أَيْ عِقَابِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٢٥﴾ مِنْ أَجْرَامِكُمْ فِي نِسْبَةِ



الافتراء الی۔

**تَرْجُمَہ:** یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف واضح طور پر آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا (اُنسی) اصل میں بانی ہے اور ایک قراءت میں حذف قول کے وجہ سے ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ کہ تم خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اگر تم نے غیر اللہ کی بندگی کی تو مجھے تم پر دنیا اور آخرت میں دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، اس کی کافر قوم کے سرداروں نے کہا اور وہ شرفاء قوم تھے، ہم تجھے اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں تجھے ہم پر کوئی فضیلت (فوقیت) حاصل نہیں، اور تیری اتباع کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری قوم کے بچے لوگ ہیں جیسا کہ جلا ہے اور موچی، جو سٹچی رائے والے ہیں، (السرائی) ہمزہ اور ترک ہمزہ کے ساتھ ہے، یعنی تیرے بارے میں بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے والے ہیں، اور (سادی) کا نصب ظرفیت کی بنا پر ہے، یعنی پہلے ظاہر ہونے والی رائے پر (بغیر غور و فکر) عمل کرنے والے، اور ہم تو اپنے اوپر تمہاری کسی قسم کی برتری نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے تم ہماری اطاعت کے مستحق ہو، بلکہ ہم تو تم کو دعوائے رسالت میں جھوٹا سمجھتے ہیں خطاب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی شامل کر لیا ہے (ورنہ نطقکم کے بجائے نطقک ہوتا) نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے فضل سے رحمت (یعنی) نبوت عطا کی اور تم پر وہ مخفی رہی، اور ایک قراءت میں (عُمَیْتُ) میم کی تشدید اور مجھول کے صیغہ کے ساتھ ہے، کیا میں اس رحمت کو زبردستی تمہارے سر منڈھ سکتا ہوں؟ یعنی کیا میں اس کو قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں؟ حال یہ کہ تم اس رحمت کو ناپسند کرتے ہو، ہم اس پر قادر نہیں ہیں، اور اے میری قوم کے لوگو میں اس پیغام رسانی پر تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا کہ جس کو تم مجھے دیتے ہو، میرا اجر و ثواب تو اللہ پر ہے اور نہ میں تمہارے کہنے کے مطابق ایمان لانے والوں کو (اپنے پاس سے) نکال سکتا ہوں انھیں دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب سے ملنا ہے وہ ان کو جزاء دے گا اور ان لوگوں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہوگا اور ان کو دھتکارا ہوگا بدلہ لے گا، لیکن تم کو اپنے انجام سے بے خبر لوگ سمجھتا ہوں، اور اے میری قوم کے لوگو اگر میں ان کو (اپنے پاس سے) نکال دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی میرا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تم کس لئے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تاء ثانیہ کو اصل میں ذال میں ادغام کر کے بمعنی تتعظون، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، اور میں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو اجر نہ دے گا، جو کچھ ان کے دل میں ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں بلاشبہ ظالموں میں شمار ہوں گا، (قوم کے لوگوں نے) کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس عذاب کی ہم کو دھمکی دیتا ہے وہ عذاب ہمارے پاس لے آ اگر تو اس دھمکانے میں سچا ہے، (حضرت نوح علیہ السلام نے) جواب دیا اے اللہ ہی لایگا اگر اس کو تمہارے اوپر جلدی لانا چاہے گا اس کا اختیار اسی کے پاس

ہے نہ کہ میرے پاس، تم اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ کو تمہاری گمراہی مقصود ہو، گو میں تم کو کتنی ہی نصیحت کروں، اور جواب شرط (محذوف ہے) جس پر لا ینفعکم نصیحی، دلالت کر رہا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد ﷺ نے از خود تصنیف کر لیا ہے (اے محمد) کہہ دو کہ اگر اس قرآن کو میں نے از خود تصنیف کیا ہے تو اس کا جرم یعنی اسکی سزا میرے اوپر ہے اور میری طرف تصنیف کی نسبت کر کے جو جرم تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْهِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلٌ: فِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ الْخ، یعنی تَذَكَّرُوْنَ باب تَفْعَل سے ہے نہ کہ تَفْعِيل سے۔

قَوْلٌ: بَيْنَ الْاِنْذَارِ، مَبْنِی کی تفسیر بَيْن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ مَبْنِی یہاں لازم ہے۔

قَوْلٌ: عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِّ، يَوْم کی صفت الْيَمِّ کے ساتھ اسناد مجازی کے طور پر ہے علاقہ ظرفیت کی وجہ سے۔

قَوْلٌ: كَالْحَاكَةِ يَه حَائِكِ کی جمع ہے، بمعنی جلاہا۔

قَوْلٌ: اَسَاكِفَ يَه اِسْكَافِ کی جمع ہے بمعنی موچی، کفش دوز۔

قَوْلٌ: بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهِ، یعنی ہمزہ کو باقی رکھ کر (الرأی) اور ہمزہ کو ماقط کر کے (الرأی)۔

قَوْلٌ: اِبْتِدَاءُ الْخ اس میں اشارہ ہے کہ بادی بَدَأ سے ہے بمعنی ابتداء نہ کہ بدو سے جو کہ بمعنی ظہور ہے۔

قَوْلٌ: نَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، یعنی بَادِي، اِتْبَعَكَ کا ظرف ہے۔

قَوْلٌ: وَقْتُ حَدُوثِ اَوَّلِ رَايِهِمْ، وقت مضاف محذوف مان کر ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔

سُؤَالٌ: يَه ہے کہ ظرف یا تو زمان ہوتا ہے یا مکان اور بادی نہ زمان اور نہ مکان۔

جَوَابٌ: کا حاصل یہ ہے کہ بادی سے پہلے وقت محذوف ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلٌ: اِدْرَجُوا قَوْمَهُ مَعَهُ يَه اس سوال کا جواب ہے کہ نوح ﷺ تو فرد واحد تھے پھر ان کے لئے نظنکم، جمع کا صیغہ

کیوں استعمال کیا؟

جَوَابٌ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ کذب کی نسبت میں حضرت نوح کے ساتھ ان پر ایمان لانے والوں کو بھی شریک کر لیا اسی

وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔

قَوْلٌ: وَالْبِنَاءُ لِلْمَفْعُولِ اِي اُخْفِیَتْ۔

قَوْلٌ: عَلَى تَبْلِیْغِ الرِّسَالَةِ اس اضافہ کا مقصد علیہ کی ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے۔

سُؤَالٌ: مَا قَبْلَ مِیْن تَبْلِیْغِ الرِّسَالَةِ کا کہیں ذکر نہیں ہے لہذا اس میں اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے۔



**جَوَاب:** جواب کا حاصل یہ ہے کہ تبلیغ رسالت کا ماقبل میں اگرچہ صراحتہ ذکر نہیں ہے مگر فحوائے کلام سے مفہوم ہے لہذا اضمار قبل الذکر لازم نہیں آتا۔

**قَوْلًا:** اِنِّی مفسرِ علام نے اِنِّی مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ لَا اَعْلَمُ کا عطف عندی خزائن اللہ پر ہے نہ کہ اقول پر اسلئے مراد، اِنِّی لَا اقول لَكَ اُنِّی اَعْلَمُ الغیب ہے۔

**قَوْلًا:** تزدری، اِزدراء (افتعال) یہ زری یزری سے مشتق ہے اس کے معنی عیب لگانا زری علیہ ای عابۃ اس کی اصل تزدری تھی تاء کو دال سے بدل دیا۔

**قَوْلًا:** بہ اس میں اشارہ ہے کہ ماموصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔

**قَوْلًا:** اِغْوَانُکُمْ اس میں اشارہ ہے کہ اُن یغویکم میں اُن مصدر یہ ہے۔

**قَوْلًا:** وجواب الشرط دَلَّ علیہ، وَلَا یَنْفَعُکُمْ نَصْحِی، ثانی شرط یعنی اِنْ کَانَ اللّٰهُ الْخ کا جواب محذوف ہے جس پر وَلَا یَنْفَعُکُمْ دلالت کر رہا ہے، اور ثانی شرط اپنے جواب شرط سے مل کر اول شرط یعنی اِنْ اَرَدْتُ الْخ کا جواب ہے اور یہ ترکیب بصریین کے مذہب کے مطابق ہے اور کوفیین کے نزدیک اول شرط کی جزاء، وَلَا یَنْفَعُکُمْ مقدم ہے اس صورت میں تقدیر کلام یہ ہوگی، ”اِنْ کَانَ اللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یَّغْوِیَکُمْ فَاِنْ اَرَدْتُ اَنْ اُنْصَحَ لَکُمْ فَلَا یَنْفَعُکُمْ نَصْحِی“ اور یہ ترکیب اس وجہ سے ہے کہ جب دو شرطیں اور ایک جواب جمع ہو جائیں تو جواب ثانی شرط کا قرار دیا جاتا ہے اور شرط ثانی اپنے جواب سے مل کر اول شرط کی جزاء ہوتی ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

### قوم نوح علیہ السلام کے شبہات اور ان کے جوابات:

حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی نبوت اور رسالت پر چند شبہات و اعتراضات پیش کئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جوابات دیئے جن کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل دیانت اور معاشرت کے بھی آگئے ان آیات میں یہی مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔

### اعتراضات کا خلاصہ:

قوم نوح نے پہلا اعتراض یہ کہہ کر کیا ”مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا“ یعنی تم تو ہم جیسے انسان ہو ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو، سوتے جاگتے ہو، فرشتے نہیں ہو بشر ہو اور بشر بھی ایسے کہ تم کو کوئی ہمارے مقابلہ میں امتیازی شان حاصل نہیں ہے مثلاً آپ کوئی دولتمند یا جاہ و حکومت کے مالک ہوتے، اور جو لوگ آپ کے پیرو ہوئے وہ بھی ماشاء اللہ سب کے سب مفلس و نادار و ذلیل و پست ادنیٰ طبقے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے شریفوں کے لئے ننگ و عار کی بات ہے، کیا ساری

خدائی میں خدا کو منصب نبوت و رسالت پر فائز کرنے کیلئے صرف تم ہی ملے تھے، آخر ہم تم سے حسب و نسب، مال و دولت خلق و خلق کس بات میں کم تھے؟ جو ہمارا انتخاب اس عہدہ کے لئے نہ کیا گیا؟ کم از کم آپ کے پیروکار ہی کچھ مقتدر اور با عزت لوگ ہوتے بھلا ان رذیل اور نیچ لوگوں کا پیرو ہونا آپ کے لئے کیا موجب فضل و شرف ہو سکتا ہے، ایسے سطحی لوگوں کا بے سوچے سمجھے ایمان لے آنا آپ کا کونسا کمال ہے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی سب جھوٹے ہو بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی بات پیش کی اور چند بے وقوف گھٹیا قسم کے لوگوں نے ہاں میں ہاں ملا دی تا کہ اس طرح ایک نئی تحریک کھڑی کر کے مالی منفعت اور سیاسی فائدہ اٹھایا جاسکے۔ (یہ ہے ان ملعونوں کی تقریر کا خلاصہ)

### حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کا خلاصہ:

یا قوم ارایتما ان کنت علی بیدۃ من ربی الخ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کی تقریر شروع ہو رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول کا بشر ہونا نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے بلکہ اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ انسانوں کے رسول کا انسان ہونا ہی ضروری ہے تاکہ انسان کے لئے اس سے استفادہ آسان ہو، انسان اور فرشتے کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر فرشتہ کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو انسان کے لئے اس سے استفادہ نہایت دشوار ہوتا کیونکہ فرشتہ کو نہ تو بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس نہ نیند آتی ہے اور نہ تھکان ہوتی ہے اور نہ اس کو انسانی ضروریات و حوائج پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو انسانی کمزوری اور ضرورت کا احساس نہیں ہوتا، یہ مضمون قرآن کی دوسری آیتوں میں صراحت و کنایہ آچکا ہے یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے یہ بتلایا کہ اگر عقل سے کام لو تو رسول کے لئے یہ تو ضروری نہیں کہ وہ بشر نہ ہو البتہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بینہ اور حجت اس کے پاس ہو، جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے اور بینہ اور حجت عام لوگوں کے لئے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہوتے ہیں اسی لئے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ بینہ اور حجت اور رحمت لیکر آیا ہوں اگر تم اس کو دیکھتے اور اس میں غور کرتے تو انکار نہ کرتے مگر تمہارے انکار و عناد نے تمہاری نگاہوں کو اس سے اندھا کر دیا کہ تم انکار اور ضد پر جمے رہے۔

مگر خدا کی یہ رحمت پیغمبر کے ذریعہ آتی ہے ایسی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کے سر ڈال دی جائے جب تک وہ خود اس کی طرف رغبت نہ کریں، اس میں اشارہ پایا گیا کہ دولت ایمان کہ جو میں لے کر آیا ہوں اگر میرا بس چلتا تو تمہارے انکار اور ضد کے باوجود تمہیں دے ہی دیتا، مگر یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ نعمت زبردستی کسی کے سر نہیں ڈالی جاسکتی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زبردستی کسی کو مومن و مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں رہا، بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا سفید جھوٹ گھڑنے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں، مگر ایک بات ہے جو ناواقفوں کے دلوں میں تردد پیدا کرنے کے لئے چلتی کی جاتی ہے۔



## اعتراض کا دوسرا جزء:

دوسرا جزء جس کو ”وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئَارِ الرَّأْيِ“ سے بیان کیا ہے یعنی دیکھئے کہ آپ کی پیروی کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے سب حقیر و ذلیل لوگ ہیں ان میں کوئی شریف اور بڑا آدمی نظر نہیں آتا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اگر تمہاری بات حق ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے ان ذلیل اور کمزور لوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے لائق نہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر سمجھے جائیں گے نمازوں کی صفوں اور دوسرے مجالس میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔

تجربہ شاہد ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ ہوتا ہے جو انسان کو بہت سی معقول اور صحیح باتوں کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے، کمزور اور غریب آدمی کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتیں، یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غرباء اور کمزور طبقے کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں، اسی وجہ سے جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس آنحضرت ﷺ کا دعوتی نامہ مبارک پہنچا تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ معاملہ کی تحقیق کرے چونکہ وہ تورات و انجیل میں انبیاء علیہم السلام کی علامات پڑھے ہوئے تھا اسلئے عرب کے جو لوگ جن میں ابوسفیان بھی شامل تھے ملک شام میں آئے ہوئے تھے ان کو اپنے دربار میں بلا کر ان سے مدعی نبوت ﷺ کے بارے میں چند سوالات کئے۔

ان سوالات میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کی اتباع کرنے والے قوم کے کمزور طبقہ کے لوگ ہیں یا وہ جو قوم کے بڑے کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے بتلایا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں، اس پر ہرقل نے اقرار کیا کہ یہ علامت تو سچے نبی ہونے کی ہے اسلئے کہ انبیاء علیہم السلام کے پیرو اول یہی کمزور اور غریب لوگ ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ غرباء و مساکین کو بیچ اور ذلیل سمجھنا ان کی جہالت تھی حقیقت میں ذلیل و ذلیل تو وہ شخص ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو نہ پہچانے اس کے احکام سے روگردانی کرے۔

یا قوم لا أسئلكم عليه مالا الخ جب حضرت نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ بات صاف کر دی کہ میں اس پیغام رسانی کے عوض تم سے کوئی اجرت و مالی منفعت نہیں چاہتا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے لہذا تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ اس دعوائے نبوت سے کہیں ان کا مقصد دنیا کی دولت تو جمع کرنا نہیں ہے تمہاری دولت تم کو مبارک ہو میرا اجر تو اللہ پر ہے۔

وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مَلَقُوا رَبَّهُمُ الْخ یعنی اللہ اور رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا پھر ان کو قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا یہ تمہاری جہالت ہے یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انھیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، نہ یہ کہ دھتکارا جائے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۸﴾ من الشَّركِ  
 فدعا عليهم بقوله رب لا تذراخ فاجاب الله تعالى دعاءه وقال وَاصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِينَةَ بِأَعْيُنِنَا بمرأى منا  
 وحفظنا ووحينا امرنا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا بترك اهل اكهم إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿۱۹﴾ وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ حكاية  
 حال ما ضية وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ جماعة مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ استهزاء وابه قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا  
تَسْخَرُونَ ﴿۲۰﴾ اذا نجونا وغرقتهم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من موصولة مفعول العلم يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ ينزل  
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾ دائم حتى غاية للصنع إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا بِأَهْلَاكِهِمْ وفار الثَّوْر لِلْخَبَازِ بِالْمَاءِ وكان ذلك  
 علامة لنوح قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا في السفينة مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اي ذكر وأنثى أَي مِّنْ كُلِّ أَنْوَاعِهِمَا اثنين ذكرًا  
 وأنثى وهو مفعول وفي القصة ان الله حشر لنوح السباع والطيور وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل  
 نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الانثى فيحملهما في السفينة وَأَهْلَكَ اي زوجته واولاده  
إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اي منهم بالهلاك وبهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام وياث فحملهم  
 وزوجاتهم ثلثة وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۲۲﴾ قيل كانوا ستة رجال ونساء بهم وقيل جميع من كان  
 في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء وَقَالَ نُوحٌ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ بحريتها ومرسها بِفَتْحِ  
الْمِيمَيْنِ وضمهما مصدران اي جريها ورُسوها اي منتهى سيرها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۳﴾ حيث لم يهلكنا  
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ قَفَ في الارتفاع والعظم وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ كِنْعَانَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ عن  
 السفينة يُنَبِّئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ سَاوِنِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي يمنعني مِنَ الْمَاءِ قال لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ  
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عذابه إِلَّا لَكِن مَّن رَّجِمَ اللَّهُ فهو المعصوم قال تعالى وَحَالُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿۲۵﴾  
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ الذي نبع منك فشربته دُونَ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فصارا نهارة وبحارًا  
وَلَيْسَ مَاءُ أَقْلَعِي اسكبي عن المطر فامسكت وَغِيضَ نقص الْمَاءِ وَقَضَىٰ الْأَمْرُ تم امر هلاك قوم نوح  
وَأَسْتَوَتْ وقفت السفينة عَلَى الْجُودِيِّ جبل بالجزيرة بقرب الموصل وَقِيلَ بَعْدًا بِهَٰؤُلَاءِ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۶﴾  
 الكافرين وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي كِنْعَانَ من اهلي وقد وعدتني بنجاتهم وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ  
 الذي لا خلف فيه وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿۲۷﴾ أَعْلَمُهُمْ واعد لهم قَالَ تَعَالَىٰ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ الناجين  
 او من اهل دينك إِنَّهُ سواك اياي بنجاة عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فانه كافر ولا نجاة للكافرين وفي قراءة  
 بكسر ميم عَمِلَ فعل ونصب غير فالضمير لابنه فَلَا تَسْأَلْنِ بالتخفيف والتشديد مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
 من انجاء ابنك إِنِّي آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۲۸﴾ بسواك ما لم تعلم قال رب اني اعوذ بك من



اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَلَا اَتَغْفِرْ لِيْ مَا فَرَطَ مِنِّي وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ اَنْزِلْ مِنَ السَّفِيْنَةِ بِسَلَامٍ اَوْ بَتْحِيَةٍ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ خَيْرَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ فِي السَّفِيْنَةِ اٰی مِنْ اَوْلَادِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَبِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاُمَمٌ بِالرَّفْعِ مِمَّنْ مَّعَكَ سَنُمَتِّعُهُمْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ يُمْسُهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾ فِي الْاٰخِرَةِ وَبِهِمُ الْكُفٰرُ تِلْكَ اٰی هٰذِهِ الْاٰیَاتِ الْمَتَضَمِّنَةُ قِصَّةَ نُوْحٍ مِّنْ اَنْبَاِ الْغَيْبِ اٰخِبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ نُوحِيْهَا اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ فَاصْبِرْ عَلَى التَّبْلِيغِ وَاذِي قَوْمِكَ كَمَا صَبَرَ نُوْحٌ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

معانی: ۱۔ اے اللہ تعالیٰ! میں نے تو کوئی ایسا علم نہیں دیا ہے جس سے میں اپنے گناہوں کو بخشا جا سکوں اور تیرا رحمت سے بھرپور جواب دے دوں۔ ۲۔ اے اللہ تعالیٰ! میں نے تو کوئی ایسا علم نہیں دیا ہے جس سے میں اپنے گناہوں کو بخشا جا سکوں اور تیرا رحمت سے بھرپور جواب دے دوں۔ ۳۔ اے اللہ تعالیٰ! میں نے تو کوئی ایسا علم نہیں دیا ہے جس سے میں اپنے گناہوں کو بخشا جا سکوں اور تیرا رحمت سے بھرپور جواب دے دوں۔

**ترجمہ:** اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں لہذا تم ان کے شریک کر تو توں پر غم نہ کرو چنانچہ نوح علیہ السلام نے ان کے لئے رَبِّ لَا تَذَرِ الْخَبْرَ کہہ کر بددعاء کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعاء کو قبول فرمالیا اور حکم دیا کہ ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور دیکھو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو ہلاک نہ کرنے کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں (نوح علیہ السلام) کشتی بنا رہے تھے یہ حال ماضی کی حکایت ہے اور جب کبھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے لوگ گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے (نوح علیہ السلام) نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو (عنقریب) ہم تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ہنستے ہو جب ہم نجات پائیں گے اور تم غرق ہو گے، عنقریب تم کو معلوم ہو جائیگا کہ وہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے؟ مَنْ مَوْصُولُهُ تَعْلَمُونَ کا مفعول ہے اور وہ دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ ان کی ہلاکت کا ہمارا حکم آگیا اور تنور نے پانی ابال دیا اور یہ نوح علیہ السلام کے لئے علامت تھی، ہم نے حکم دیا کہ (حیوانات) میں سے ہر قسم کا ایک جوڑا کشتی میں چڑھا لو، یعنی نر و مادہ کا (اثنین) احمَل کا مفعول ہے قصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لئے درندوں اور پرندوں کو جمع کر دیا چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام ہر نوع پر ہاتھ ڈالتے تو حضرت نوح کا دایاں ہاتھ نر پر اور بائیں ہاتھ مادہ پر پڑتا، اور ان کو کشتی میں سوار کر لیتے، اور اپنے گھر والوں یعنی بیوی اور بچوں کو باستثناء اس کے کہ ان میں سے جس پر ہلاکت کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور وہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان تھا بخلاف سام، حام، یافث کے کہ ان کو اور ان تینوں کی بیویوں کو سوار کر لیا، اور (ان کے علاوہ) ان کو بھی جو ایمان لائے اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا کہا گیا کہ چھ مرد اور ان کی بیویاں تھیں اور کہا گیا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد اسی تھی ان میں نصف مرد تھے اور نصف ان کی بیویاں، نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی (مجربھا اور مرسنھا) دونوں میم کے فتح اور ضمہ کے ساتھ مصدر ہیں یعنی اس کا چلنا اور ٹھہرنا یعنی اپنے انتہاء سفر پر جا کر ٹھہر جانا (اللہ ہی کے حکم سے ہے) میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے کہ

اس نے ہم کو ہلاک نہیں کیا، اور کشتی ان کو لے کر عظیم اور بلند ہونے میں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی اور نوح عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنے بیٹے کنعان سے آواز دیکر کہا اور وہ کشتی سے فاصلہ پر تھا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ (اس نے) جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لئے لیتا ہوں جو مجھے پانی میں غرق ہونے سے بچالے گا (نوح عَلَيْهِ السَّلَام) نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ جزا اس کے کہ اس پر اللہ رحم فرمائے صرف وہی بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، (اتنے میں) ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، حکم ہوا اے زمین تو اپنا پورا پانی جو تجھ سے نکلا ہے نکل لے (جذب کر لے) چنانچہ زمین نے پورا پانی جذب کر لیا سوائے اس پانی کے جو آسمان سے برسا، سو (زمین سے نکلا ہوا پانی) نہروں اور دریاؤں میں شامل ہو گیا، اور اے آسمان (بادل) تو پانی برسانا بند کر دے، چنانچہ اس نے بند کر دیا اور پانی کم ہو گیا، اور قوم نوح کی ہلاکت کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا، اور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی (جو دی) موصل کے قریب جزیرہ کا ایک پہاڑ ہے اور کافروں کی ہلاکت کا حکم دیدیا گیا اور نوح عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا کنعان میرے اہل سے ہے اور تو نے میرے اہل کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے اور بلاشبہ تیرا وعدہ سچ ہے کہ اس میں تخلف نہیں ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے یعنی سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ انصاف والا ہے، اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ اے نوح وہ تیرے نجات پانے والے اہل سے نہیں ہے یا تیرے اہل دین سے نہیں ہے، بلاشبہ مجھ سے اس کی نجات کا تیرا سوال نامناسب ہے اسلئے کہ وہ کافر ہے اور کافر کی نجات نہیں ہے، اور ایک قراءت میں عَمِلَ فَعَل کے ساتھ اور غیر کے نصب کے ساتھ ہے اس صورت میں ضمیر ابن کی طرف راجع ہوگی، لہذا تو مجھ سے اس بات کی درخواست نہ کر (تَسْأَلُنِ) نون کی تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اور وہ بات تیرے بیٹے کی نجات کا سوال ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جس چیز کو تو نہیں جانتا اس کا سوال کر کے خود کو نادانوں میں شامل نہ کر، (نوح عَلَيْهِ السَّلَام نے) عرض کیا اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ میری غلطی کو معاف نہ فرمائیں گے اور رحم نہ فرمائیں گے تو میں زیاں کاروں میں شامل ہو جاؤں گا، حکم ہوا اے نوح تم کشتی سے ہمارے امن یا سلام کے ساتھ اور اپنے اور ان جماعتوں پر جو کشتی میں تیرے ساتھ ہیں یعنی ان کی اولاد کے ساتھ اور وہ مومنین ہیں برکت کے ساتھ اترو اور کچھ لوگ تمہارے ساتھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم دنیا میں سامان عیش بخشیں گے اور پھر آخرت میں ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا اور وہ کافر ہیں، یہ آیات جو نوح عَلَيْهِ السَّلَام کے قصہ پر مشتمل ہیں اے محمد تمہاری طرف غیب کی خبریں ہیں یعنی ان چیزوں کی خبریں ہیں جو تم سے مخفی ہیں اور نزول قرآن سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تیری قوم، لہذا تم تبلیغ پر اور اپنی قوم کی ایذا رسانی پر صبر کرو جس طرح نوح عَلَيْهِ السَّلَام نے صبر کیا، بہتر انجام متقیوں ہی کے لئے ہے۔



تحقیق و ترکیب و تسهیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ، أَوْحَىٰ فَعَلَ ماضٍ مجهول أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ نَائِبُ فاعِلٍ أَوْحَى إِلَيْهِ عَدَمُ إِيمَانِ بَعْضِ قَوْمِهِ .

**قَوْلٌ:** تَبْتَسُّ (ابتئاس افتعال) سے مضارع واحد مذکر حاضر یہاں چونکہ حرف نہیں داخل ہے اس لئے نہیں ہے، تو رنج نہ کر۔

**قَوْلٌ:** بمرأى، مِنَّا وحفظنا، یہ اضافہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سوال:** یہ ہے کہ باَعَيْنِنَا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں اور جس کے اعضاء ہوں وہ مجسم ہوتا ہے لہذا اللہ کے لئے جسم ہونا ثابت ہوا جیسا کہ مجسمہ کا عقیدہ ہے۔

جواب: کا حاصل یہ ہے کہ باعیننا یہ حفظ اور رویت سے کنایہ ہے جیسا کہ بَسَطَ اللہ یدہ ، جود و سخاوت سے کنایہ ہے ، باعیننا ، محلا حال ہے ، تقدیر یہ ہے متلبسا باعیننا .

**قَوْلٌ:** حکایۃ حال ماضیہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سوال:** سوال یہ ہے کہ یَصْنَعُ، مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کشتی بنانا خبر دینے کے بعد ہے حالانکہ کشتی زمانہ ماضی میں بنائی جا چکی تھی۔

**جواب:** جواب یہ ہے کہ زمانہ ماضی کی حالت کی حکایت ہے، یعنی کشتی بنانے کی منظر کشی کی جاری ہے۔

**قَوْلٌ**: مَنْ مَوْصُولَةٌ مَفْعُولُ الْعِلْمِ مَنْ يَأْتِيهِ فِي مَنْ مَوْصُولَةٌ هِيَ أَوْ تَعْلَمُونَ كَا مَفْعُولٌ بِهِ هِيَ تَرْكِيْبٌ سَيُشْبِهُ خَتْمٌ هُوَ كَمَا  
 كَمْ مَنْ اسْتَفْهَامِيَّةٌ هِيَ اسْ كَوْصَدَارَتْ كِي ضَرْوَرَتْ هِيَ۔

قَوْلًا: غاية للصنع، یعنی حَتَّى صُنع کی غایت ہے یأتیه یا یحلُّ کی غایت نہیں ہے جیسا کہ قریب کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے، حَتَّى ابتدائیہ ہے جو کہ جملہ شرطیہ پر داخل ہے اور و اصنع الفلک کی غایت ہے۔

**قَوْلًا:** فی السفینۃ، اس اضافہ میں اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ فیہا کی ضمیر ماقبل میں مذکور الفلک کی طرف راجع ہے جو کہ مذکور ہے حالانکہ فیہا ضمیر مؤنث ہے جواب یہ ہے کہ فلک، سفینۃ کے معنی میں ہے فلا شبہۃ۔

قَوْلِهِ: إِنَّهُ سَأَلَكَ أَيُّ بِنَجَاتِهِ، مفسر علام نے اِنَّہ کی ضمیر کے مرجع کی تعیین کرتے ہوئے فرمایا کہ مرجع اپنے بیٹے کنعان کی نجات کے بارے میں سوال ہے یعنی تمہارا سوال مناسب نہیں ہے، جمہور مفسرین نے، ہ، ضمیر کا مرجع ابن کو قرار دیا ہے یعنی کنعان تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس سے مجاز لازم آتا ہے اسلئے کہ حقیقۃً اہل سے نفی درست نہیں ہے جس کی وجہ سے مجازی معنی یعنی دینی اہل مراد لینے ہوں گے۔

**قَوْلٌ:** وفی قراءۃ بکسر میمِ عَمَلٍ فعل ونصب غیر فالضمیر لابنہ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد، عمل کے اعراب کو بتانا ہے جمہور کی قراءت میں عَمَلٌ مصدر ہے اور غیرُ صالح اس کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنے بیٹے کنعان کی نجات کی سفارش عمل نامناسب ہے، اسلئے کہ وہ کافر ہے اور کافر کی نجات نہیں ہے، اور ایک قراءت میں عَمَلٌ فعل ماضی کا صیغہ ہے اس صورت میں غَیْر مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا تقدیر عبارت یہ ہوگی اِنَّہ عَمَلٌ غَیْرُ صالح، اس صورت میں اِنَّہ کی ضمیر ابن کی طرف راجع ہوگی یعنی کنعان نے عمل غیر صالح کئے، مفسر علام نے پہلی صورت کو اختیار کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا اپنے کافر بیٹے کی نجات کی سفارش عمل نامناسب ہے اسلئے کہ آگے فرمایا گیا ہے ”انسی اعظک ان تكون من الجاهلین“ اس سے نوح علیہ السلام کی طرف جہل کی نسبت لازم آتی ہے۔

**قَوْلٌ:** فلا تسئلن بالتخفیف والتشدید یعنی نون کی تشدید کے ساتھ ماقبل کے فتح کے ساتھ اور یہ نافع کی قراءت ہے اور ابن کثیر اور ابن عامر اور باقیوں نے لام کے سکون اور نون کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور حالت وصل میں نون کے بعد یاء کو باقی رکھا ہے نہ وقف میں، اور ورش و ابو عمرو نے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں یاء کو باقی رکھا ہے۔

**قَوْلٌ:** بسلامۃٍ اَوْ بتحیۃٍ اس اضافہ کا مقصد سلام کے دو معنی کو بیان کرنا ہے بسلامۃ کہہ کر امن و سلامتی کے معنی کی طرف اشارہ کر دیا اور بتحیۃ کہہ کر سلام و تحیہ کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے یہاں دونوں معنی درست ہیں۔

**قَوْلٌ:** وَاُمُّ بِالرَّفْعِ مِمَّنْ مَعَكَ، اُمُّ رَفْع کے ساتھ ہے مبتداء ہونے کی وجہ سے اور سَنُمَتُّعُهُمْ اِس کی خبر ہے، نہ کہ اُمُّ سابق پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور، اسلئے کہ یہ لوگ سلامتی اور برکت میں داخل نہیں ہیں۔

**سُؤَالٌ:** اُمُّ کانکرہ ہونے کی وجہ سے مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے؟

**جَوَابٌ:** اُمُّ موصوف ہے اور مِمَّنْ مَعَكَ اس کی صفت ہے لہذا اُمُّ کانکرہ موصوفہ ہونے کی وجہ سے مبتداء بنا صحیح ہے مفسر علام نے مِمَّنْ مَعَكَ کا اضافہ کر کے اسی تقدیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

**قَوْلٌ:** ای هذه الايات المتضمنة الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ تلك اسم اشارہ مؤنث مبتداء ہے حالانکہ اس کی تین خبریں ہیں اور تینوں مذکر ہیں، ① من انباء الغیب، ② نوحیہا الیک، ③ ما کنت تعلمہا، لہذا خبر کی رعایت کی وجہ سے مبتداء بھی مذکر ہونا چاہئے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ هذه کا مشاڑ الیہ مذکورہ خبریں نہیں ہیں، بلکہ اس کا مشاڑ الیہ الآیات، محذوف ہے جس کی طرف مفسر علام نے اشارہ کیا ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

## تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ:

قرآن کریم کے معجزہ نما نظم کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد ”وعظ و تذکیر“ کے پیش نظر واقعہ کی ان ہی جزئیات کو بیان کرتا ہے جو مقصد کے لئے ضروری ہوں چنانچہ اسی اسلوب کے پیش نظر



قرآن عزیز نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اجمالی و تفصیلی ذکر سولہ جگہ کیا ہے۔ (قصص القرآن سیوہاروی)

حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تقریباً ایک ہزار سال کی عمر دراز عطا فرمائی تھی، آپ اس طویل مدت میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم کی طرف سے سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ اپنی قوم کے لئے یہ دعاء کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ بے وقوف و جاہل ہیں جانتے نہیں، آپ ہدایت کی امید پر ایک نسل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے مگر بہت قلیل لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔

جب اس پر صدیاں گزر گئیں تو اللہ رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جو سورہ نوح میں مذکور ہے، ”رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ یَزِدْهُمْ دَعَائِیْ اِلَّا فِرَارًا“ اتنے طویل زمانہ تک اپنی قوم کے ہاتھوں مصائب برداشت کرنے کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ دعاء آئی ”رَبِّ اَنْصِرْنِیْ بِمَا كَذَبُوْنِ“ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ”وَاَوْحِیْ اِلَیْ نُوْحٍ اِنَّهٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ الْخ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لاچکے اب کوئی شخص ایمان نہ لائیگا، اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر پریشان نہ ہوں۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ اب ہم اس قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب بھیجنے والے ہیں اس لئے آپ ہماری نگرانی میں وحی کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال اور مومنین مع اپنی ضروریات کے سما سکیں حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق کشتی بنائی، پھر جب طوفان کے ابتداء کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں کہ زمین سے پانی ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خود مع اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کے جو ایمان لاچکے ہیں کشتی میں سوار ہو جائیں، اور انسانی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہیں مثلاً گائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ کا ایک ایک جوڑا رکھ لیں۔

## کشتی کی وسعت اور پیمائش:

یہ کشتی کس ساخت کی تھی اور اس کی پیمائش کیا تھی اس کی تفصیلات بائبل میں ہیں قرآن نے ان سے یکسر صرف نظر کر لی ہے اس لئے کہ ان تفصیلات سے حاصل کچھ بھی نہیں اور نہ ان تفصیلات کے درپے ہونا کوئی مفید خدمت ہے بس اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ کشتی میں اتنی گنجائش تھی کہ اس وقت مومن آبادی جس کی تعداد بہ اختلاف روایات ۴۰ یا ۸۰ تھی اور ضروری جانوروں کے جوڑے اس میں سما گئے تھے۔

## کشتی سازی کا حکم:

غرضیکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاء قبول ہوئی اور اپنے قانون جزاء اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمرّدوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کر دیا اور حفظ ماتقدم کے لئے کشتی بنانے کا حکم دیا، جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی

شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، کہ پانی پینے اور دیگر ضروریات کے لئے تو میسر نہیں بھلا کشتی چلنے کے لئے پانی کہاں سے آئیگا، معلوم ہوتا ہے اب کشتیاں صحراء کے ریت میں چلا کریں گی، ادھر کشتی بن کر تیار ہوئی ادھر طوفان کی ابتدائی علامات کا ظہور ہونے لگا، ”حتی اذا جاء امرنا وفار التنور“ لفظ تنور کئی معنی میں مستعمل ہے سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور کہا جاتا ہے، زمین کے بلند حصہ کو بھی تنور کہا جاتا ہے بعض حضرات نے تنور سے سطح زمین مراد لی اور بعض نے معروف تنور، کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا تنور ملک شام میں مقام عین الوادہ میں تھا بعض نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا تنور کوفہ میں تھا وہ مراد ہے اکثر مفسرین مثلاً حضرت حسن، مجاہد، شعبی اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ نے آخری قول کو اختیار کیا ہے، غرضیکہ پانی ہر جگہ سے ابل پڑا جس میں روئے زمین کے علاوہ معروف تنور بھی شامل ہے اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی تمام منکرین حق غرق ہو گئے اور کشتی پانی پر تیرنے لگی اور طوفان ختم ہو گیا تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جودی پہاڑ آج بھی اسی نام سے موجود ہے اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کا نام جودی ہے اسی کے ایک حصہ کو اراراط کہا جاتا ہے موجودہ توارت میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ اراراط بتایا گیا ہے ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

## کشتی کے بعض حصے موجود ہیں:


قدیم تاریخوں میں مذکور ہے کہ بعض مقامات پر اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر رکھا گیا ہے۔

تاریخ بغوی میں ہے کہ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دس تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے، چھ ماہ تک کشتی پانی پر تیرتی رہی جب بیت اللہ پر پہنچی تو سات مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا پھر ۱۰ محرم کو طوفان مکمل طور پر ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین نے شکرانہ کے طور پر اس روز، روزہ رکھا۔





## قومِ نوح کا علاقہ اور جبلِ جودی



## کشتی کی پیمائش:

بعض تاریخی روایات سے کشتی نوح علیہ السلام کی پیمائش یہ معلوم ہوئی ہے کہ لمبائی تین سو گز اور چوڑائی ۵۰ گز اور اونچائی ۳۰ گز تھی اور یہ سہ منزلہ تھی اس میں روشندان اور دروازے بھی تھے۔

وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحَدُّوهُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَائِدَةٍ إِلَيْهِ غَيْرُهُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي عِبَادَتِكُمُ الْإِثْمَانِ الْإِمْفَتْرُونَ ۝ كَذِبُونَ عَلَى اللَّهِ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَى التَّوْحِيدِ أَجْرًا إِنَّمَا مَا أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي خَلَقَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِّنَ الشَّرِّ ثُمَّ تَوْبُوا ارْجِعُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ الْمَطَرَ وَكَانُوا قَدْ مُنَعُوهُ عَلَيْكُمْ مَّدْرَارًا كَثِيرَ الدَّرُورِ وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ مَعَ قُوَّتِكُمْ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝ مُشْرِكِينَ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ بِرَبِّهِانِ عَلَى قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَرْكِي الْهَتَانَا عَنْ قَوْلِكَ أَيْ لَقَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا نَقُولُ فِي شَانِكَ إِلَّا اعْتَرَاكَ أَصَابُكَ بَعْضُ الْهَتَانَا سَوْءٌ فَخَبَلَكَ بِسَبِّكَ أَيَاهَا فَانْتَ تَهْدِي قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىَّ وَأَشْهَدُ وَأَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ۝ بِهِ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ وَنِي إِحْتَالُوا فِي هَلَاكِ جَمِيعًا أَنْتُمْ وَأَوْثَانُكُمْ ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ ۝ تَمْهَلُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ زَائِدَةٍ دَابَّةٍ نَّسَمَةٍ تَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا أَيْ مَالُكُهَا وَقَابَرُهَا فَلَا نَفْعَ وَلَا ضَرَرَ إِلَّا بِأَذْنِهِ وَخُصَّ النَّاصِيَةُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ بِنَاصِيَةٍ يَكُونُ فِي غَايَةِ الدَّلِيلِ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ أَيْ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فِيهِ حَذَفُ أَحَدِي التَّائِبِينَ أَيْ تُعْرَضُوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا بِأَشْرَاكُمْ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ۝ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا عَذَابَنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ شَدِيدٍ وَتِلْكَ عَادٌ أَشَارَةُ إِلَى أَثَرِهِمْ أَيْ فَسَّخُوا فِي الْأَرْضِ وَانْظُرُوا إِلَيْهَا ثُمَّ وَصَفَ أَحْوَالَهُمْ فَقَالَ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ جُمِعَ لِأَنَّ مَنْ عَصَى رَسُولًا عَصَى جَمِيعَ الرُّسُلِ لِأَشْرَاكِهِمْ فِي أَصْلِ مَا جَاءَ وَابَهُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَاتَّبَعُوا أَيْ السَّفَلَةَ أَمَرَ كُلَّ جَبَّارٍ عِنْدِي ۝ مُعَانِدٍ مُّعَارِضٍ لِلْحَقِّ مِنْ رُّؤُسَائِهِمْ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً مِنَ النَّاسِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَعْنَةً عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ إِلَّا أَنْ عَادَا كَفَرُوا جَحَدُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝

عَنْ

**ترجمہ:** اور ہم نے عاد کی جانب ان کے خاندانی بھائی ہود کو بھیجا، ہود نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو (یعنی) اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں زائدہ ہے تم بتوں کی بندگی کر کے اللہ پر بہتان لگاتے ہو، اے میری قوم میں تم سے توحید کی (تبلیغ) پر کوئی اجرت نہیں چاہتا میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے



کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے رب سے شرک کی معافی مانگو پھر اطاعت کے ذریعہ اس کی طرف رجوع کرو وہ تم کو زوردار بارش عطا کریگا (حال یہ کہ) ان سے بارش کو روک لیا گیا تھا، اور تمہاری (موجودہ) قوت میں مال اور اولاد کے ذریعہ مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مشرک بنکر بے رخی مت کرو، ان لوگوں نے جواب دیا اے ہود تو ہمارے پاس اپنے دعوے پر کوئی صریح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہم تو تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارے معبودوں میں سے کسی کی جھپٹ میں آ گیا ہے چنانچہ تیرے اس کو برا کہنے کی وجہ سے اس نے تجھ کو باؤلا بنا دیا ہے، اسی وجہ سے تو بیہودہ باتیں کر رہا ہے، (ہود علیہ السلام نے) جواب دیا میں تو اپنے اوپر اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو میں تو غیر اللہ سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں تم اور تمہارے بت، سب مل کر میرے ساتھ مکر کر لو میری ہلاکت کی تدبیر کر لو، اور پھر مجھے ذرا بھی مہلت مت دو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی وہ اس کا مالک اور اس پر غالب ہے، لہذا کوئی نفع نقصان اس کی اجازت کے بغیر نہیں، ناصیۃ (چوٹی) کا خاص طور پر ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جس کی چوٹی پکڑی گئی وہ غایت ذلت میں ہوتا ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے یعنی حق و انصاف کے راستہ پر ہے، اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم لایگا اور شرک کر کے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کو جو اس پر ایمان لائے اپنی (خصوصی) رحمت سے بچا لیا اور ان کو ایک سخت عذاب سے نجات دی اور یہ ہے قوم عاد، یہ اشارہ ان کے آثار (و خرابات) کی طرف ہے سو تم زمین میں سفر کرو اور ان آثار کو دیکھو، پھر ان کے احوال کو بیان کیا جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی (رُسُل) کو جمع لائے ہیں اس لئے کہ جس نے ایک رسول کی نافرمانی کی اس نے تمام رسولوں کی نافرمانی کی، تمام رسولوں کے ان اصولوں میں شریک ہونے کی وجہ سے جن کو وہ لائے ہیں اور وہ توحید ہے، اور یہ احمق اپنے رؤساء میں سے ہر جبار اور دشمن حق کی پیروی کرتے رہے (آخر کار) اس دنیا میں بھی لوگوں کی ان پر لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی سب مخلوق کے سامنے (ان پر لعنت ہوگی) سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔

## تَحْقِيقُ شُرْكِ بْنِ تَسْمِيلٍ وَ تَفْسِيرُ فَوَائِدِ

قَوْلًا: وَأَرْسَلْنَا الْخ اس کا عطف نوحًا الی قومہ پر ہے، اس کو عطف قصہ علی القصہ کہتے ہیں۔  
 قَوْلًا: هُوَ دَا یہ اخاهم کا عطف بیان ہے۔  
 قَوْلًا: اِی لِقَوْلِكَ عَنْ کی تفسیر لام سے کر کے اشارہ کر دیا کہ عن تعلیلیہ ہے۔

قَوْلًا: اِعْتِرَاكَ (اعتراء افعال) ماضی واحد مذکر غائب پیش آنا، قصد کرنا، لاحق ہونا، مصیبت میں مبتلا کرنا۔  
قَوْلًا: بِسُوءٍ، میں باء تعدیہ کے لئے ہے۔

سِوَالٌ: اِیَّاهَا کی ضمیر لفظ بعض کی طرف راجع ہے، حالانکہ لفظ بعض مذکر ہے ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔  
جَوَابٌ: مضاف الیہ کی رعایت کرتے ہوئے ایاہا مؤنث کی ضمیر لائے ہیں۔

قَوْلًا: اِشَارَةُ اِلٰی اَثَارِهِمْ، یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ تِلْكَ عَادٌ مَبْتَدَاً خَبَرٌ ہے عَادٌ مذکر ہے لہذا تِلْكَ کے بجائے  
ہذا ہونا چاہئے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس کی خبر آثار ہے جو کہ محذوف ہے اِی تِلْكَ الْاَثَارِ اَثَارِ عَادٍ۔  
قَوْلًا: عَنِید، عنادر کھنے والا، سرکش ضدی، جمع عُذْدٌ۔

## تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

آنحضرت ﷺ کے معاصر کفار و مشرکین کے سامنے تو حید و رسالت نیز حشر و نشر پر روشن اور واضح دلائل پیش کرنے کے بعد تاکید و تفسن کے طور پر انبیاء سابقین کے ساتھ ان کی قوم کے معاملات و واقعات بیان فرمائے ہیں، یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے باہر سے آئے ہوئے نہیں تھے۔

اس رکوع کی پہلی گیارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان ہی کے نام سے یہ سورت موسوم ہے اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سات انبیاء اور ان کی قوم کے واقعات مذکور ہیں، جن میں عبرت اور موعظت کے ایسے مظاہر موجود ہیں کہ جس کے دل میں ذرا بھی حیات اور شعور باقی ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا یہ قوم اپنے ڈیل ڈول اور زور و قوت میں پورے عالم میں ممتاز تھی، مگر یہ قوم اتنی بہادر اور قوی ہونے کے باوجود اپنی عقل و فکر کھو بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے خود تراشیدہ پتھر کی مورتیوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔

## ہود علیہ السلام کی دعوت کی تین اصولی باتیں:

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت میں تین اصولی باتیں پیش کیں اول دعوت تو حید اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں غیر اللہ کو لائق عبادت سمجھنا اللہ پر بہتان اور افتراء ہے دوسرے یہ کہ تم میری بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے اگر تم عقل سے کام لیتے ہوتے تو تم ضرور سوچتے کہ جو شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر دعوت و تبلیغ کی یہ سب مشقتیں جھیل رہا ہے اور اس نے تذکیر و نصیحت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا



ہے نہ کچھ اجرت طلب کرتا ہے نہ مدح و ستائش کا طالب آخر ضرورت کیا تھی کہ وہ تمہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا۔

### وعظ و نصیحت اور دعوت دین پر اجرت:

قرآن کریم نے یہ بات تقریباً تمام انبیاء کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا معاوضہ لیا جائے تو دعوت موثر نہیں رہتی، اس بات پر تجربہ شاہد ہے کہ وعظ و نصیحت پر اجرت لینے والوں کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

تیسری بات یہ فرمائی کہ گذشتہ زندگی میں تم سے جو قصور اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے معافی مانگو، اور آئندہ کے لئے پختہ ارادہ اور عہد کرو کہ اب ان کے پاس نہ جائیں گے، اس کے نتیجے میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے گی ہی دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد و برکات کا مشاہدہ کرو گے۔

اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتِرَاكَ الْخِ قَوْمٌ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دل دوز اور دل سوز نصیحتوں کا جواب یہ دیا کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں اور ہمارے معبودوں کی برائی و عیب جوئی کرنے کی وجہ سے تو ہمارے کسی دیوتا کی جھپٹ میں آگیا ہے اور اسی کی مار کا نتیجہ ہے کہ تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ الْخِ یہ قوم کی اس بات کا جواب ہے کہ چونکہ تو ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے اور ان کی نکتہ چینی کرتا ہے جس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ تو ہمارے کسی دیوتا کی جھپٹ میں آگیا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ میرے خلاف تم سے جتنی ہو سکے مکر و سازشیں کرو اور ساتھ اپنے معبودوں کو بھی بلاؤ اور سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لئے کہ میرا توکل اور بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔

وَ اَرْسَلْنَا اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ مِنْ الْقَبِيلَةِ صَلِحًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ جِدُوْهُ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ هُوَ اَنْشَاَکُمْ اَبَدًا خَلَقَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ بِخَلْقِ اِبٰیْکُمْ اَدَمَ مِنْهَا وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیْهَا جَعَلَکُمْ عُمَرَاۤءَ تَسْکُنُوْنَ بِهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ مِنْ الشَّرْکِ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِرْجِعُوْا اِلَیْهِ بِالطَّاعَةِ اِنَّ رَّبِّیْ قَرِیْبٌ ۝۱۱ مَنْ خَلَقَهُ بِعِلْمِهِ مُجِیْبٌ ۝۱۲ لِّمَنْ سَاَلَهُ قَالُوْا یٰصَلِحُ قَدْ کُنْتَ فِیْنَا مَرْجُوًّا نَّرْجُوْا اَنْ تَکُوْنَ سَیِّدًا قَبْلَ هٰذَا الَّذِیْ صَدَرَ مِنْکَ اَنْتَ هٰنَا اَنْ تَعْبُدَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا مِنْ الْاَوْثَانِ ۝۱۳ وَاَنْتَ الْفٰی شَکٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَیْهِ مِنْ التَّوْحِیْدِ مُرِیْبٌ ۝۱۴ مَوْقِعٌ فِی الرِّیْبِ قَالَ یَقَوْمِ اَرَعِیْتُمْ اِنْ کُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ بَیِّنٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَ اَتٰنِیْ مِنْهُ رَحْمَةً نُّبُوۡةٌ فَمَنْ یَنْصُرُنِیْ یَمْنَعْنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِیْ عَذَابُهُ اِنْ عَصِیْتُهُ فَمَا تَرِیْدُوْنِیْ بِاَمْرِکُمْ لٰی بِذٰلِکَ غَیْرَ تَخْصِیْرٍ ۝۱۵ تَضْلِیْلِ وَ یَقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَکُمْ اٰیَةٌ حَالٌ عَامِلُهُ الْاِشَارَةُ فَذَرُوْهَا تَاْکُلْ فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوۡءٍ عَقَرٌ فَاِخْذُکُمْ عَذَابٌ قَرِیْبٌ ۝۱۶ اِنْ عَقَرْتُمْوهَا فَعَقْرُوْهَا عَقْرَهَا قَدَارٌ بِاَمْرِہِمْ فَقَالَ صَالِحٌ تَمَتَّعُوْا عِیْشُوْا فِیْ دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ ثُمَّ

تَهْلِكُونَ ذَٰلِكَ وَعَدُّ غَيْرِ مَكْذُوبٍ ۝ فَلََمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِأَهْلَا كِهِمْ فَجَعَلْنَا صِلَحًا وَالدِّينَ أَمْنًا مَعَهُ وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَلْفٍ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَا لَهُمْ مِّنْ خِزْيِ يَوْمٍ ۝ بِكْسَرِ الْمِيمِ اَعْرَابًا وَفَتَحْنَا بَنَاءَ لَا ضَافَتَهُ إِلَى مَبْنِيٍّ وَهُوَ لَا كَثْرَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ الْغَالِبُ ۝ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمَيْنِ ۝ بَارَكِينَ عَلَى الرِّكْبِ مَتَيْنِ كَانَ مَخْفَفَةً وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَيْ كَانَهُمْ لَمْ يَغْنَوْا يُقِيمُوا فِيهَا فِي دَارِهِمْ إِلَّا إِنَّا شَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ الشُّمُودِ ۝ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ عَلَى مَعْنَى الْحَيِّ وَالْقَبِيلَةِ.

**ترجمہ:** اور ہم نے شمود کے پاس ان کے خاندانی بھائی صالح عليه السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو (یعنی) اس کی توحید کا اقرار کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کو پیدا کیا یعنی تمہاری تخلیق ابتداء مٹی سے کی تمہارے دادا آدم کو مٹی سے پیدا کر کے اور اسی نے تم کو زمین میں بسایا یعنی تم کو (زمین کا) باشندہ بنایا تاکہ تم اس میں سکونت اختیار کرو پس تم اس سے معافی طلب کرو شرک سے اور پھر طاعت کے ذریعہ اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب اپنی مخلوق سے باعتبار علم کے قریب ہے اور جو اس سے سوال کرتا ہے اس کا قبول کرنے والا ہے ان لوگوں نے جواب دیا اے صالح اس بات کے کہنے سے پہلے ہم تم سے بہت کچھ امیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے ہمیں امید تھی کہ تم (ہمارے) سردار بنو گے کیا تم ہم کو بتوں کی بندگی کرنے سے روکتے ہو جن کی بندگی ہمارے آباء (واجداد) کرتے تھے؟ جس توحید کی طرف تم ہم کو دعوت دے رہے ہو اس میں ہمیں حیران کن تردد ہے (صالح عليه السلام نے) کہا اے میری قوم کے لوگو کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت نبوت سے نوازا تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائیگا؟ تم تو اس بات کا حکم کر کے میری گمراہی، (یعنی) خسارہ میں اضافہ کر رہے ہو اے بردران قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے (آیۃ) حال ہے اس کا عامل اسم اشارہ ہے، اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو برے (یعنی) ہلاک کرنے کے ارادہ سے ہاتھ مت لگانا، اگر تم نے اس کو ہلاک کر دیا تو تم پر بہت جلد عذاب آجائیگا چنانچہ ان لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا یعنی ان کے حکم سے قدار نے اس کو ہلاک کر دیا، اس پر صالح نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور رہ لو پھر تم کو ہلاک کر دیا جائیگا یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا چنانچہ جب ان کو ہلاک کرنے کا ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور وہ چار ہزار تھے، اور ہم نے ان کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا (یومئذ) میم کے کسرہ کے ساتھ معرب ہونے کی صورت میں اور میم کے فتح کے ساتھ مبنی ہونے کی وجہ سے مبنی کی جانب اضافت کی وجہ سے اور یہی اکثر کا قول ہے، یقیناً تیرا رب وہی قوی اور غالب ہے اور ظالموں کو ایک چنگھاڑنے آدبوچا تو وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر اوندھے پڑے رہ گئے ایسے کہ گویا وہ کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے (گان) مخففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے اے کائنات! آگاہ رہو! شمودیوں نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو کہ شمودیوں کے لئے پھٹکار ہے



(ثمود) منصرف ہے حَی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے اور غیر منصرف بھی ہے قبیلہ کے معنی میں ہونے کی وجہ سے۔

## تحقیق و ترکیب و تہلیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ: ثَمُود،** ثمود ایک قوم کا نام ہے جو اپنے جد اعلیٰ ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی طرف منسوب ہے حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق اسی قوم سے تھا اور اسی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔

**قَوْلٌ: جَعَلَكُمْ عُمَارًا** تسکنون بھا اس میں اشارہ ہے کہ استعمار، میں س، ت، تصویر کے لئے ہے یعنی ہم نے تم کو اس کو آباد کرنے والا بنایا، اور بعض حضرات نے عمر یعمرو سے لیا ہے اس وقت اس کے معنی ہوں گے تم کو باشندہ بنایا بسایا اس صورت میں س، ت زائد ہوں گے۔

**قَوْلٌ: صَالِح** علیہ السلام مشاہیر انبیاء میں سے ہیں قرآن مجید میں ان کا نام نوح جگہ آیا ہے قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

**قَوْلٌ: حَالٌ** یعنی آیۃ، ناقۃ سے حال ہے اور اس میں عامل ہذہ بمعنی اشیر ہے۔

**قَوْلٌ: فَعَقَرُوْهَا، (ض) عَقَرًا** کوئچیں کا ثنا عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی اونٹ کو ہلاک کرنا ہوتا تو اس کی کوئچیں کاٹ دیتے تھے کوئچیں کاٹنے کے لئے ہلاکت لازم تھی۔

**قَوْلٌ: بِنَاءٌ لِّاَصْفَیْہِ** یعنی یوم کی اضافت جب اذ کی طرف ہوگی تو یوم مذنی برفتحہ ہوگا اس لئے کہ ظرف جب اسم مبہم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو مضاف الیہ سے بناء حاصل کر لیتا ہے، یوم، اذ کی طرف مضاف ہے جس کی وجہ سے مبنی برفتحہ ہو گیا ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ:

حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو ثمود کہتے ہیں اور ثمود کا ذکر قرآن کریم کی نو سورتوں میں آیا ہے، اعراف، ہود، حجر، نمل، فصلت، النجم، القمر، الحاقہ، الشمس علماء انساب حضرت صالح علیہ السلام کے نسب نامہ میں مختلف نظر آتے ہیں مشہور حافظ حدیث امام بغوی نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے صالح بن عبید بن آسف بن ماشح بن عبید بن حادر بن ثمود اس نسب نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کو ثمود اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا جد اعلیٰ ثمود ہے، ہر نسب نامہ آخر میں جا کر سام بن نوح پر مل جاتا ہے بہر حال تمام روایتوں سے یہ باتفاق ثابت ہوتا ہے کہ قوم ثمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے اور یہی وہ قوم ہے جو عاد اولیٰ (قوم ہود علیہ السلام) کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل عاد ثانیہ کہلائی۔

## ثمود کی بستیاں:

اس کے متعلق یہ طے ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں حجاز اور شام کے درمیان وادی قرئی تک جو میدان ہے یہ پورا علاقہ ان کا مقام سکونت تھا، آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے ثمود کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات آج تک موجود ہیں اور اس زمانہ میں بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہلاتی ہے اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔

عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے، وَرَمَمَهُمْ بَاقِيَةٌ وَآثَارُهُمْ بَادِيَةٌ فِي طَرِيقٍ مِّنْ وَرَدٍ مِنَ الشَّامِ، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ (قصص القرآن سیوہاروی)

قوم ثمود نے بھی اپنے پیش رو قوم ہود کے مانند اپنے نبی صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی ایسی اور ایسی صفات کی نکلے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لا سکتے ہیں، صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو عاقبت اللہ کے مطابق تم پر عذاب آجائیگا اور سب ہلاک کر دیئے جاؤ گے، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلوبہ معجزہ اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر فرمادیا، پہاڑ کی چٹان شق ہو کر ان کے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچائیں ورنہ تم پر عذاب نازل ہو جائیگا مگر وہ اس پر بھی قائم نہ رہے اور اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔

## اونٹنی کو ہلاک کرنے کی تفصیل:

حضرت صالح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو یہ اونٹنی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو ایک دن اس اونٹنی کا اور ایک دن پوری قوم کے جانوروں کا، قوم نے اگرچہ اس اونٹنی کو حیرت انگیز معجزہ سمجھ کر ایمان قبول نہ کیا مگر اس کو آزار پہنچانے سے باز رہے چنانچہ مقرر کردہ اصول کے مطابق کچھ دنوں تک عمل ہوتا رہا مگر آہستہ آہستہ یہ بات ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں اس کو ہلاک کرنے کے صلاح مشورے ہونے لگے تاکہ اس باری والے قصہ سے نجات ملے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اونٹنی پر ہاتھ ڈالے، مگر ایک حسین و جمیل مالدار عورت نے جس کا نام صدقہ بنت محیا تھا خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت عنیزہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کو قد ار کے سامنے پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناقہ کو ہلاک کر دیں تو تمہاری ملک ہیں تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو آخر قد ار بن سالف اور مصدع اس کام کے لئے آمادہ ہو گئے، اور یہ طے کر لیا گیا کہ وہ راستہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناقہ جب چراگاہ جانے لگے گی تو اس پر حملہ کر دیں گے اور دیگر چند آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔



غرضیکہ ناقہ کو قتل کر ڈالا، اور آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر صالح اور ان کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے اور ان کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلادیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔

اوٹنی کا بچہ یہ صورت حال دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا چلاتا پہاڑ میں غائب ہو گیا، صالح علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو تین دن کے بعد تم کو ہلاک کر دے گا، اور پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا، اور سب کو ہلاک کر دیا اور بعد میں آنے والے انسانوں کو تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔

سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ثمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح سے شروع ہو گئیں یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسے خوف کی ابتدائی حالت میں ہوا کرتا ہے اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے گویا کہ یہ خوف کا دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے یہ خوف و دہشت کا تیسرا درجہ تھا جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔

ایک طرف ثمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، (حاشیہ، قصص القرآن سیوہاروی) مذکورہ پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کی گئی تھی لیکن سورہ اعراف میں ان کے متعلق یہ آیا ہے ”فَاخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ“ یعنی پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر زلزلہ کا عذاب آیا تھا، قرطبی نے کہا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہو اور پھر سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کر دیئے گئے ہوں۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى اِىْ بِاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ بَعْدَهٗ قَالُوْا سَلٰمًا مَّصَدْرٌ قَالَ سَلٰمٌ عَلٰیكُمْ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیْذٍ ۝۶۱ مَشُوْی فَلَمَّا رَاَ اٰیٰتِهِمْ لَا تَصِلُ اِلَیْهِ نٰكِرُهُمْ بِمَعْنٰی اَنْكَرَهُمْ وَاَوْجَسَ اَضْمَرَ فِیْ نَفْسِهٖ مِنْهُمْ خِیْفَةً ۝۶۲ خَوْفًا قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْ قَوْمِ لُوطٍ ۝۶۳ لَنُهْلِكَهُمْ وَاَمْرَاتُهُۥ اِیْ اِبْرٰهِيْمَ سَارَةَ قَائِمَةً تَخْدُمُهُمْ فَضَحِكَتْ اِسْتَبْشَارًا بِهَلَاكِهِمْ فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءَۢ بَعْدِۢ لِسَحْقٍ یَّعْقُوْبَ ۝۶۴ وَلَدَهٗ تَعِیْشُ اِلٰی اَنْ تَرٰہُ قَالَتْ یٰوَيْلَتٰی کَلِمَةً تُقَالُ عِنْدَ اَمْرِ عَظِیْمٍ وَاِلٰفٌ مَّبْدَلَةٌ مِنْ یَّاءِ الْاِضَافَةِ ؕ اَلِدُّ وَاَنَا عَجُوْزٌ لِّیْ تَسْعُ وَتَسْعُوْنَ سَنَةً ۝۶۵ وَهٰذَا بَعْلٰی شَیْخًا ۝۶۶ لَهٗ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً وَنَصَبُهُ عَلٰی الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِیْهِ مَافِیْ ذٰمِنِ الْاِشَارَةِ اِنَّ هٰذَا الشَّیْءُ عَجِیْبٌ ۝۶۷ اَنْ یُّوْلَدَ وَلَدٌ لِّهَرْمٰیْنٍ قَالُوْا اَتَعْجَبٰیْنِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ قَدَرْتِهٖ رَحِمَتْ اللّٰهُ وَبَرَکَتُهٗ عَلٰیكُمْ یٰ اَهْلَ الْبَیْتِ ۝۶۸ بَیْتُ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّہٗ حَمِیْدٌ مَّحْمُوْدٌ ۝۶۹ حَمِیْدٌ ۝۷۰ کَرِیْمٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ ۝۷۱ الْخَوْفُ وَجَآءَتْہُ الْبَشْرٰى بِالْوِلْدِ اِخْذٌ یَّجَادِلُنَا یَجَادِلُ رُسُلُنَا فِیْ شَاْنِ قَوْمِ لُوطٍ ۝۷۲ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِیْمٌ ۝۷۳ کَثِیْرُ الْاِنَاةِ ۝۷۴ اَوَاہٌ مُّنِیْبٌ ۝۷۵ رَجَّاعٌ فَقَالَ لَهُمْ اَتَهْلِكُوْنَ قَرْیَةً فِیْہَا ثَلَاثُمِائَةٍ مُّؤْمِنٍ قَالُوْا لَا، قَالَ اَفْتَهْلِكُوْنَ قَرْیَةً فِیْہَا مِائَتًا

مُؤْمِنٍ قَالُوا لَا قَالَ افْتَهْلِكُونَ قَرِيَةً فِيهَا اَرْبَعُونَ عَشْرَ مُؤْمِنًا  
 قَالُوا لَا قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ فِيهَا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ قَالُوا لَا قَالَ اِنَّ فِيهَا لَوْطًا قَالُوا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا الْخَ فَلَمَّا  
 اطَالَ مُجَادَلَتَهُمْ قَالُوا يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا الْجِدَالِ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ بِهِلَاكِهِمْ وَانْتَهُمُ اَتِيَهُمْ عَذَابٌ  
 غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۷۶ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدَرًا لَانَّهُمْ جِسان  
 الوجوه في صورة اضياف فخاف عليهم قومه ۷۷ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۷۸ شَدِيدٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ لَمَّا عَلِمُوا بِهِمْ  
 يُهْرَعُونَ يَسْرِعُونَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ قَبْلُ مَجِيئِهِمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۷۹ هِيَ اَتِيَانُ الرِّجَالِ فِي الْاَدْبَارِ قَالَ لُوطُ  
 قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي فَتَزَوَّجُوهُنَّ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا تَفْضَحُونِي فِي ضَيْفِي اُضْيَافِي  
 اَلَيْسَ مِنْكُمْ جُلُوسٌ شَدِيدٌ ۸۰ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ حَاجَةٌ  
 وَلَانِكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا نُرِيدُ ۸۱ مِنْ اَتِيَانِ الرِّجَالِ قَالَ لَوَ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ طَاقَةٌ اَوْ اَوْيَ اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۸۲ عَشِيرَةٌ  
 تَنْصُرُنِي لَبِطَشْتُ بِكُمْ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَلَكَةُ ذَلِكَ قَالُوا يَلُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ بِسُوءِ  
 فَاسْرِ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ طَائِفَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ لِّئَلَّا يَرَى عَظِيمٌ مَا يَنْزِلُ بِهِمْ اِلَّا اِمْرَاتُكَ  
 بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ اَحَدٍ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْاَهْلِ اَيْ فَلَا تُسْرِبْهَا اِنَّهُ مُصِيبُهُمَا مَا اَصَابَهُمْ  
 فَقِيلَ اِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَا وَقِيلَ خَرَجَتْ وَالتَّفْتُّ فَقَالَتْ وَاَقْوَمَاهُ فَجَاءَهَا حَجَرٌ فَقَتَلَهَا وَسَأَلَهُمْ عَنْ وَقْتِ  
 هِلَاكِهِمْ فَقَالُوا اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ فَقَالَ اُرِيدُ اَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۸۳ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا  
 بِاِهْلَاكِهِمْ جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ اَيُّ قُرَاهِمُ سَافِلَهَا بَانَ رَفْعُهَا جِبْرِئِلُ اِلَى السَّمَاءِ وَاسْقَطَهَا مَقْلُوبَةً اِلَى الْاَرْضِ  
 وَامْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۸۴ طِينٍ طُبَخَ بِالنَّارِ مَنُضُوْدٍ ۸۵ مُتَتَابِعٌ مُّسَوَّمَةٌ مُّعْلَمَةٌ عَلَيْهَا اسْمُ مَنْ  
 يُرْمَى بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ظَرْفٌ لَهَا وَمَاهِي الْحِجَارَةُ اَوْ بِلَادُهُمْ مِنَ الظَّالِمِيْنَ اَيْ اِهْلُ مَكَّةَ بِبَعِيدٍ ۸۶

قَوْمُهُ

**ترجمہ:** ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسحق اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری لے کر پہنچے، کہا تم پر  
 سلام ہو سلاماً مصدر ہے ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو کچھ (زیادہ) دیر نہیں گزری کہ ابراہیم بھٹنا ہوا پچھڑا لے آئے مگر جب  
 دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا نہ کر، یعنی انکر ہے تو ان کی طرف سے اپنے دل میں  
 ابراہیم نے خوف محسوس کیا فرشتوں نے کہا خوف نہ کرو، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس کو ہلاک کریں اور ابراہیم  
 کی بیوی سارہ ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی تو وہ قوم کی ہلاکت (اور لوط) کی (نجات کی) بشارت سنکر ہنس پڑیں، تو ہم نے اس  
 کو اسحق اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری دی اور وہ زندہ رہے گی حتیٰ کہ وہ بھی اس کو دیکھے گی، وہ کہنے لگی ہائے  
 میری کم بختی یہ ایک کلمہ ہے جو امر عظیم کے وقت بولا جاتا ہے اور (وِیْلَتِی) کا الف یاء اضافت سے بدلا ہوا ہے کیا میرے اولاد



ہوگی؟ حالانکہ میں ۹۹ سال کی بوڑھی پھونس ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں ان کی عمر ۱۲۰ سال ہے (شیخا) حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا عامل ہذا بمعنی اشدیر ہے، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے کہ بوڑھے خاوند اور بیوی کے اولاد ہو، فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اپنے اوپر برکتوں سے تعجب کرتی ہے، اے ابراہیم کے گھرانے والو بے شک وہ قابل ستائش کریم ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، اور اس کو جب لڑکے کی خوشخبری پہنچ گئی تو وہ قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے (یعنی) ہمارے فرشتوں سے کہنے سننے لگے یقیناً ابراہیم بہت تحمل کرنے والے بہت صبر کرنے والے نرم دل (اللہ کی طرف) جھکنے والے تھے، (ابراہیم علیہ السلام) نے ان سے کہا تم ایسی بستی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں تین سو مومن موجود ہیں، فرشتوں نے جواب دیا، نہیں، (پھر) کہا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں دو سو مومن موجود ہیں، کہا نہیں، (پھر) کہا کیا تم ایسی بستی کو تباہ کر دو گے جس میں چالیس مومن موجود ہیں، جواب دیا نہیں، (پھر ابراہیم علیہ السلام) نے کہا کیا تم ایسی بستی کو تباہ کرنا مناسب سمجھو گے جس میں ایک مومن ہو، جواب دیا، نہیں، (پھر) ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں لوط علیہ السلام ہیں، فرشتوں نے جواب دیا ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں ہے، جب ان کے درمیان کہانی طویل ہو گئی تو فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام اس بحث و تکرار کو چھوڑ دو ان کی ہلاکت کے لئے تیرے رب کا حکم آپکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے، اور جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اسلئے کہ وہ خوبصورت مہمانوں کی شکل میں تھے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں اپنی قوم سے اندیشہ کیا، اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، جب قوم کو مہمانوں کی آمد کا علم ہوا تو دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ (ان مہمانوں کی آمد سے) پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھے اور وہ (بدکاری) مردوں کے ساتھ ہم جنسی کا فعل تھی، لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو یہ ہیں میری بیٹیاں ان سے نکاح کر لو یہ تمہارے لئے پاکیزہ تر ہیں اللہ سے ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ جو بھلی بات کا حکم کرے اور بری بات سے روکے انہوں نے جواب دیا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس سے تم بخوبی واقف ہو یعنی ہم جنسی کا عمل، لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی طاقتور قبیلے کا سہارا پکڑتا جو میری مدد کرتا تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، جب فرشتوں نے یہ صورت حال دیکھی تو کہا ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ ایذا رسانی کی نیت سے تیرے پاس ہر گز نہیں پہنچ سکتے، پس تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر کچھ رات رہے نکل جا، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہئے تاکہ وہ اس عظیم عذاب کو نہ دیکھے جو ان پر نازل ہونے والا ہے، سوائے تیری بیوی کے رفع کے ساتھ احد سے بدل ہے اور ایک قزاق میں نصب ہے اہل سے استثناء کی وجہ سے یعنی تو اس کو اپنے ساتھ نہ لیجانا اس لئے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا کہا گیا کہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ نہیں لے گئے اور کہا گیا ہے کہ وہ بھی نکلی تھی اور اس نے پیچھے کی

طرف مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، چنانچہ ایک پتھر اس کو آ کر لگا اور اس کو قتل کر دیا (حضرت) لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے ان کی ہلاکت کا وقت معلوم کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی ہلاکت صبح کے وقت ہے لوط علیہ السلام نے عرض کیا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں تو جواب دیا کہ کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے جب ان کی ہلاکت کا ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر دیا بایں صورت کہ جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پلٹ کر زمین پر ڈال دیا اور ہم نے ان بستیوں پر آگ میں پکے ہوئے مسلسل کنکر برسائے جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے یعنی اس پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس کے ذریعہ ہلاک کیا جانا تھا عند ربك، مسمومة کا ظرف ہے اور وہ پتھریا ان کی بستیاں ظالموں یعنی اہل مکہ سے دور نہیں تھیں (شام آتے جاتے وہاں سے گذر ہوتا تھا)۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** مصدرُ اس میں اشارہ ہے کہ سلاماً سلّمنا فعل محذوف کا مصدر ہے اس میں اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ سلاماً، قالوا کا مقولہ ہے حالانکہ مقولہ مفرد نہیں ہوا کرتا، اس اضافہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلاماً مفرد نہیں ہے بلکہ سلّمنا سے مل کر جملہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** علیکم، مفسر علام نے علیکم محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ سلام مبتداء ہے اور علیکم اس کی خبر محذوف ہے۔  
**سُؤَالٌ:** سلام نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔

**جَوَابُ:** کا حاصل یہ ہے کہ سلام میں تنوین تعظیم کی ہے ای سلام عظیم لہذا سلام کا مبتداء واقع ہونا درست ہو گیا یہ شرّ اہرّ ذاناب کے قبیل سے ہے نیز یہاں بھی مقولہ کے مفرد ہونے کا اعتراض ختم ہو گیا۔

**قَوْلُهُ:** بشریٰ خوش کن خبر، خوش کن خبر کا اثر چونکہ چہرہ بشر پر ہوتا ہے اسلئے اس کو بشری کہتے ہیں، بشری سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحق اور ابن اسحق یعنی یعقوب کی خوش خبری مراد ہے جس کو آئندہ ”فبشرناہا باسحق الخ“ سے بیان کیا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ بشری سے عام خوشخبری مراد ہو تو اس میں حضرت لوط وغیرہ کی نجات اور اس کی بدکار قوم کی ہلاکت کی خوشخبری بھی شامل ہوگی، مفسر علام نے یہی آخری معنی مراد لئے ہیں۔

**سُؤَالٌ:** حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں جملہ اسمیہ استعمال کیا اور فرشتوں نے جملہ فعلیہ اس کی کیا وجہ ہے؟

**جَوَابُ:** کا حاصل یہ ہے کہ سلام کے جواب کو سلام سے بہتر ہونا چاہئے اسلئے کہ شریعت کا یہی اصول ہے جواب سلام سلام سے جب ہی احسن ہوگا کہ جب جواب میں جملہ اسمیہ استعمال کیا جائے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے احسن ہوتا ہے اسلئے کہ جملہ اسمیہ دوام اور ثبات پر دلالت کرتا ہے۔

**قَوْلُهُ:** انکرہم، نکرہم کی تفسیر انکرہم سے کر کے اشارہ کر دیا کہ لازم بمعنی متعدی ہے۔



قَوْلًا: يَا وَيْلَتَا، اصل میں یا ویلتی تھایا اضافت کو الف سے بدل دیا۔

قَوْلًا: رَحْمَةُ اللَّهِ الْخِیَءُ یہ کلام مستأنف ہے اور انکار تعجب کی علت ہے، یعنی تو اس سے تعجب نہ کر اسلئے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔

قَوْلًا: أَخَذَ يُجَادِلُنَا، یہ اس سوال مقدر کا جواب ہے کہ لَمَّا، کا جواب ماضی ہوتا ہے نہ کہ مضارع اور یہاں لَمَّا کا جواب يُجَادِلُنَا مضارع واقع ہو رہا ہے جواب یہ ہے کہ یہاں أَخَذَ ماضی محذوف ہے اور وہی لَمَّا کا جواب ہے، اگرچہ ماضی مجازاً بھی لَمَّا کا جواب واقع ہو سکتا ہے بایں طور کہ مضارع پر لَمْ یَا لَمَّا داخل ہو جائے مگر بہتر یہی ہے کہ حقیقۃً ماضی جواب واقع ہو۔

قَوْلًا: شَانَ چونکہ لفظ قوم میں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں ہے اسلئے لفظ شان محذوف مان لیا تاکہ، فی کا ظرف بننا صحیح ہو جائے۔

قَوْلًا: لَبِطَشْتُ بِكُمْ اس میں اشارہ ہے کہ لَوْ کا جواب محذوف ہے۔

قَوْلًا: بِالرَّفْعِ بَدَلَ الْخِیَءِ اس لئے کہ استثناء کلام غیر موجب میں بدل مختار ہوتا ہے۔

قَوْلًا: اسْتِثْنَاءُ مِنَ الْاَهْلِ یعنی اِلَّا امْرَأَتُكَ، مِنَ الْاَهْلِ سے استثناء ہے نہ کہ اَحَدٌ سے اس لئے کہ اَحَدٌ سے استثناء قرار دینے میں امرأۃ کو التفات کا حکم دینا لازم آئے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

فَائِدَةٌ: اِلَّا امْرَأَتُكَ، نصب کے ساتھ یہ جمہور کی قراءت ہے اور ابو عمرو اور ابن کثیر کے نزدیک اَحَدٌ سے بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، پہلی قراءت کی صورت میں امراتہ، فاسر باھلک، سے مستثنیٰ ہوگا، ای اسر باھلک جمیعاً اِلَّا امْرَأَتُكَ فلا تُسْرِبْہَا، رفع کی قراءت کا ایک جماعت نے انکار کیا ہے، ان میں ابو عبید بھی شامل ہیں۔

(فتح القدیر شوکانی)

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبَشْرِی، یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قصے کا ایک حصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ یعنی اپنے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گذر رہا تھا اور ان کی تربیت حضرت ابراہیم کی آغوش میں ہوئی تھی اسی لئے انہوں نے اور حضرت سارہ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی یہ دونوں حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے، مصر کے سفر میں بھی یہ دونوں حضرات ساتھ تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بحیرہ میت (Sea Dead) کے جنوب مشرق میں واقع تھی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کی طرف فرشتے بھیجے

گئے، یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انھیں بیٹے کے بشارت دی۔

قالوا سلاماً قال سلام الخ، ای سَلَمْنَا عَلَیْكَ سَلَامًا، یعنی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہتر طریقہ سے ان کے سلام کا جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اول و ہلے میں یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے مہمان نواز تھے اس لئے فوراً ہی ان کے کھانے کا انتظام کیا اور پچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لیکر حاضر ہو گئے مگر کھانا سامنے ہونے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ابراہیم کو اس سے اندیشہ ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے ممکن ہے کہ کسی غلط ارادہ سے آئے ہوں فرشتے اس اندیشے کو سمجھ گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اندیشہ کو دور کر دیا ہم آپ کو فرزند کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کیلئے بھیجے گئے ہیں، کہ قوم لوط پر عذاب نازل کر دیں حضرت سارہ یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں، حضرت سارہ اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑیں اور کہنے لگیں کہ کیا مجھ بڑھیا کے اولاد ہوگی اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں فرشتوں نے جواب دیا اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے تم اس سے تعجب نہ کرو آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔

ان فرشتوں کی تعداد کیا تھی اس میں اقوال مختلف ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تین فرشتے تھے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اگر اس خیال کو درست مان لیا جائے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر ان کے سامنے کھانا کیوں لائے جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔

## حضرت سارہ علیہا السلام کو لڑکے کی خوشخبری:

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجائے حضرت سارہ کو لڑکے کی خوشخبری سنائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ ہی اولاد کی زیادہ متمنی اور خواہشمند تھیں اسلئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تو حضرت ہاجرہ کے لطن سے پہلے ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے حضرت سارہ بے اولاد تھیں ان کو خوش کرنے کے لئے فرشتوں نے حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی اور خوشخبری صرف بیٹے اسحق ہی کی نہیں سنائی بلکہ ساتھ ہی پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی جس وقت یہ خوشخبری سنائی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال تھی اور اس خوشخبری کے ایک سال بعد حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحق پیدا ہوئے۔

## حضرت سارہ علیہا السلام کیوں ہنسیں:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ قوم لوط کی فساد انگیزیوں اور بدکاریوں سے وہ بھی واقف تھیں ان کی ہلاکت کی خبر سن کر ان کو بھی مسرت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور ہنسنے کا تعلق اسی اولاد کی بشارت سے ہے جو فرشتوں نے



اس بوڑھے جوڑے کو دی۔

## اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کو فرشتوں نے اہل بیت میں شمار کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی اولین مصداق اہلیہ ہوتی ہے لہذا اس سے اہل تشیع کے اس عقیدہ کی تردید ہوتی ہے کہ اہل بیت میں ازواج داخل نہیں، اہل تشیع اپنے دعوے پر لفظ علیکم سے استدلال کرتے ہیں کہ علیکم جمع مذکر کا صیغہ ہے جس میں مؤنث داخل نہیں حالانکہ سورہ احزاب آیت ۳۳ میں رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے اور انھیں بھی علیکم کے لفظ سے خطاب کیا ہے اور لفظ کی رعایت سے علیکم کہا گیا ہے۔

یجادلنا فی قوم لوط یہاں مجادلہ سے وہ کہا سنی مراد ہے جو قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اس میں لوط علیہ السلام اور دیگر مومنین موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچالیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا بیان تو حضرت لوط علیہ السلام کے قصہ کے لئے بطور تمہید کے ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَاءَ بِهِم أَخِ حَضْرَتِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی اس سخت پریشانی کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے جو مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، نو عمر، بے ریش، نہایت خوب رو تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت خبیثہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ یہ نو وارد مہمان فرشتے ہیں اور اسی قوم کو ہلاک کرنے کیلئے آئے ہیں۔

ادھر یہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس نے قوم کے اوباشوں کو اپنے یہاں خوب رو مہمانوں کی آمد کی اطلاع کر دی چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کا اندیشہ سامنے آگیا اور قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اغلام بازی کی مخصوص شاعت کے علاوہ اور بھی بہت سی بری عادتوں میں مبتلا تھے، اور اجنبیوں اور پردیسوں کے ساتھ تو ان کی بدسلوکی خاص طور پر بڑھی ہوئی تھی۔

قَالَ يٰ قَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي الْخِ بِنَاتِي کی تشریح اور مراد کی تعیین میں مفسرین کی کافی بحث ہوئی ہے آیا اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی صلبی بیٹیاں مراد ہیں یا امت کی عورتیں، ایک فریق نے صلبی بیٹیاں مراد لی ہیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی عزت و آبرو کا دفاع کرنے کیلئے اپنی بیٹیاں قوم کے سامنے پیش کر دیں کہ تم میری ان بیٹیوں سے نکاح کر لو مگر مجھے اور میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور کہہ دیا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کس چیز کے خواہشمند ہیں لوط علیہ السلام کی شریعت میں مومنہ کا نکاح کافر سے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی حکم تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے

اپنی دو صاحبزادیوں کے نکاح کافروں سے کئے تھے ایک کا عتبہ بن ابی لہب سے اور دوسری کا ابو العاص بن ربیع سے حالانکہ یہ دونوں کافر تھے، بعد میں کافر کے ساتھ مومنہ کے نکاح کی حرمت نازل ہوئی۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں بنات سے قوم کی عورتیں مراد ہیں اسلئے کہ نبی قوم کے لئے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے اور امت بمنزلہ اولاد کے قرین قیاس بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنات سے صلبی بیٹیاں مراد نہیں ہو سکتیں اسلئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی کل دو یا تین بیٹیاں تھیں اور گھر پر چڑھ آئی والا ایک کثیر جمع تھا، دو یا تین لڑکیوں سے دو یا تین آدمیوں کا نکاح ہو سکتا تھا باقی لوگوں کا کیا ہوتا؟ بعض حضرات نے یہ تاویل کی ہے کہ ان کے دوسرے دار تھے ان کے لئے حضرت لوط علیہ السلام نے نکاح کی پیش کش کی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے روکیں مگر یہ تاویل دل کو نہیں لگتی اس لئے کہ مزاج پوری قوم کا فاسد ہو چکا تھا وہ اس فعل شنیع سے باز آئیوا لے نہیں تھے اور نہ اس میں کسی قسم کی قباح محسوس کرتے تھے چنانچہ مندرجہ ذیل مفسرین نے امت کی عورتیں ہی مراد ہیں۔

المرا دنساء امتہ (کبیر عن مجاہد وسعید بن جبیر) وهذا القول عندی هو المختار (کبیر) اخرج ابو الشیخ عن ابن عباس۔

قوله ”هؤلاء بناتى قال ما عرض لوط لبناته على قومہ لاسفاحاً ولا نکاحاً، انما قال هؤلاء نسائکم، وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر نحوه، وأخرج ابن ابی الدنيا وابن عساکر عن السدی نحوه۔ (فتح القدیر شوکانی)

جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے ہر طرح عاجز ہو گئے اور قوم نے ان کی ایک نہ سنی تو حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آ گئے ”لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اِی الی رکن شدید“ یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا یا پھر میرا کوئی جتھا ہوتا تو مجھے ان ظالموں کے ہاتھوں سے نجات دلاتا فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا اضطراب دیکھ کر بات کھول دی اور کہا گھبرائیے نہیں آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں ان کے قابو میں آنے والے نہیں ان پر عذاب واقع کرنے کے لئے آئے ہیں۔

## اس موقع پر تورات کی عبارت:

”شہر کے مردوں یعنی سدوم کے مردوں نے جو ان سے لے کر بوڑھوں تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا ورنہ انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا وہ مرد جو آج کی رات تیرے یہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ انھیں ہمارے پاس باہر لاتا کہ ہم ان سے صحبت کریں تب لوط دروازہ سے ان کے پاس باہر گیا اور کواڑ اپنے پیچھے بند کیا اور کہا کہ اے بھائیو ایسا برا کام نہ کیجیو اب دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں مرضی ہو تو ان کو تمہارے پاس نکال لاؤں، اور جو تمہاری نظر میں



پسند ہوان سے نکاح کر لو مگر ان مردوں سے کچھ کام نہ رکھو کیونکہ وہ اسی واسطے میری چھت کے سایہ میں آئے ہیں۔

(پیدائش ۸۰:۱۹)

## قوم لوط کا مسکن:

شہر سدوم اور عمورہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستہ سے آتے جاتے تھے ان آبادیوں کی ہلاکت کا زمانہ جدید تحقیق کے مطابق ۲۰۶۱ ق م ہے۔ (ماجدی)

وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَجِدْوه مَالَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيكُمْ بِخَيْرٍ نِّعْمَةً تُغْنِيكُمْ عَنِ التَّطْفِيفِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن لَّمْ تُؤْمِنُوا عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝۸۴ بكم يهلككم ووصف اليوم مجاز لوقوعه فيه وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اتُّمُّوهُمَا بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لَا تَنْقُصَهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۸۵ بالقتل وغيره من عشي بكسر المثلثة افسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعتوا بَقِيَّتُ اللَّهِ رِزْقَهُ الْبَاقِي لَكُمْ بَعْدَ إِيفَاءِ الْكِيلِ وَالْوِزْنِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْبَخْسِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝۸۶ رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيرًا قَالُوا لَهُ اسْتَهِزَاءُ يُشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ بِتَكْلِفِنَا أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِنَ الْأَصْنَامِ أَوْ تَتْرَكَ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۝۸۷ المعنى بهذا امرٌ باطل لا يدعوا إليه داعي خير إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝۸۸ قَالُوا ذَلِكَ اسْتَهِزَاءُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا حَلَالًا أَفَأَشُوبُهُ بِالْحَرَامِ مِنَ الْبَخْسِ وَالتَّطْفِيفِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ وَادْهَبْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ فَارْتِكِبْهُ إِنْ مَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ لَكُمْ بِالْعَدْلِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي قَدَرْتِي عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّاعَاتِ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۸۹ أَرَجُ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شِقَاقِي خِلَافِي فَاعِلٌ يَجْرِمُ وَالضَّمِيرُ مَفْعُولٌ أَوَّلٌ وَالثَّانِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ أَى مَنَازِلِهِمْ أَوْ مِنْ هَلَاكِهِمْ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝۹۰ فَاعْتَبِرُوا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ وَدُودٌ ۝۹۱ مُحِبٌّ لَهُمْ قَالُوا أَيُّدَانَا بَقْلَةُ الْمَبَالَةِ يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ نَفْسُهُمْ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ذَلِيلًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ عَشِيرَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ بِالْحِجَارَةِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ۝۹۲ كَرِيمٌ عَنِ الرَّجْمِ وَإِنَّمَا رَهْطُكَ هُمُ الْأَعْزَةُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ فَتَرَكُونَنِي لَا جِلْمَ لِي وَلَا تَحْفَظُونَنِي لِلَّهِ

وَ اتَّخَذْتُمُوهُ اِی اللّٰهَ وَ رَآءَكُمْ ظَهْرًا مِّنْبُودًا خَلْفَ ظَهْرِكُمْ لَا تُرَاقِبُوْهُ اِنَّ رَبِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ ۙ عَلَمًا فِی جَازِیْكُمْ وَ یَقُوْمُ اَعْمَالُكُمْ عَلٰی مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ۙ عَلٰی حَالَتِیْ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَّفْعُوْلُ الْعِلْمِ یَأْتِیْهِ عَذَابٌ یُّحْزِیْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا اِنْتِظَرُوا عَاقِبَةَ اَمْرِكُمْ اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ ۙ ۙ مُنْتَظَرٌ وَ لَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا بِاَهْلَاكِهِمْ نَجَّیْنَا شُعِیْبًا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ اخَذَتِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَةُ صَاحًا بِهِمْ جَبْرِیْلٌ فَاصْبَحُوْا فِیْ دِیَارِهِمْ جَثِمِیْنَ ۙ ۙ بَارَكِیْنَ عَلٰی الرِّكْبِ مِیَّتِیْنَ كَاَنَّ مَخْفَفًا اِی كَاَنَّهُمْ لَمْ یَغْنَوْا یُقِیْمُوا فِیْهَا اِلَّا بَعْدَ الْمَدِیْنِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُوْدُ ۙ ۙ

**ترجمہ:** اور ہم نے اہل مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا میرے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو یعنی اس کو ایک سمجھو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو خوش حالی میں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے تم کم تولنے اور کم ناپنے سے مستغنی ہو، اگر تم ایمان نہ لائے تو مجھے تمہارے بارے میں تم کو گھیرنے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو تم کو ہلاک کر دے گا، اور یوم کی صفت محیط مجاز ہے عذاب کے اس میں واقع ہونے کی وجہ سے، اور اے میرے برادران قوم تم انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان نہ پہنچاؤ، (یعنی) ان کے حق میں کچھ بھی کمی نہ کرو، اور قتل وغیرہ کے ذریعہ ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو، (تَعَشُّوْا) عشی، ثاء کے کسرہ کے ساتھ ہے، بمعنی افسد، اور مفسدین اپنے عامل تَعَشُّوْا کے معنی سے حال موکدہ ہے، پورا تولنے اور ناپنے کے بعد اللہ کا دیا ہوا جو تمہارے پاس بچ جائے وہ کم دینے سے بہت بہتر ہے اگر تمہیں یقین آوے اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں کہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دوں مجھے تو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تو انہوں نے شعیب علیہ السلام سے استہزاء کے طور پر کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھ کو اس بات کا حکم کرتی ہے کہ تو ہم کو اس بات کا مکلف بنائے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد بندگی کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں، مطلب یہ کہ یہ غلط بات ہے کوئی خیر کی دعوت دینے والا اس کی دعوت نہیں دے سکتا، واقعی تم بڑے عقلمند دین پر چلنے والے ہو، انہوں نے یہ بات تمسخر کے طور پر کہی، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو! دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لئے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین حلال روزی دے رکھی ہے کیا میں اس میں حرام کی جو کہ وہ نجس اور کم ناپ تول ہے آمیزش کر دوں اور میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کروں اور میں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں اس کی مخالفت کر کے اسی کی طرف چلا جاؤں یعنی خود اس کا ارتکاب کر لوں اور میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر انصاف کے ساتھ تمہاری اصلاح کرنے ہی کا ہے اور میری توفیق یعنی میری قدرت اس پر اور اس کے علاوہ پر اللہ ہی کی مدد سے ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے میری قوم کے لوگو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تم کو مجرم بنادے (شقاقی) یَجْرِمُ کا فاعل ہے اور کُمْ ضمیر مفعول



اول ہے اور دوسرا مفعول اَنْ يُصِيبَكُمْ الْخ ہے، اور تم کو ویسا ہی عذاب پہنچ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط یعنی اس کے مکانات یا ان کی ہلاکت کا زمانہ تم سے دور نہیں ہے، لہذا عبرت حاصل کرو اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقیناً مانو میرا رب مومنین پر بڑا مہربان اور ان سے بہت محبت کرنے والا ہے بے تو جہی کو ظاہر کرنے کے لئے ان لوگوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں، اور ہم تو تجھ کو اپنے اندر کمزور ذلیل پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلہ کا خیال نہ ہوتا تو یقیناً ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور تجھ کو سنگسار کر دینا ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا البتہ تیرا قبیلہ عزت دار ہے، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگو کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہے؟ کہ جن کی وجہ سے تم میرے قتل سے باز رہتے ہو، اور اللہ کے لئے میری حفاظت نہیں کرتے ہو اور تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے یعنی تم نے اس کو پس پشت ڈالا ہوا سمجھ لیا ہے جس کی وجہ سے تم اس کی نگہداشت نہیں کرتے ہو بلاشبہ میرا رب تمہارا علمی احاطہ کئے ہوئے ہے لہذا وہ تم کو جزاء دے گا، اور اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریق پر عمل کئے جاؤ اور میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ مَنْ موصولہ تعلمون کا مفعول ہے کون ہے وہ کہ جس کے پاس رسوا کن عذاب آئیگا؟ اور جھوٹا کون ہے؟ اور تم اپنے معاملہ کے انجام کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، اور جب ان کو ہلاک کرنے کا ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں کو ایک چیخ نے جس کو جبرائیل علیہ السلام نے مارا تھا پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ ہو کر پڑے رہ گئے (کأن) مخففہ ہے یعنی اصل میں کأنہم تھا گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی رہتے ہی نہ تھے، خوب سن لو (اہل) مدین کو (رحمت سے) دوری ہوئی جیسی دوری ثمود کو ہوئی۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: مَدِين، اى اهل مدین، شعیب علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جو ان کی طرف مبعوث کئے گئے تھے، مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو ہاجرہ اور سارہ کے علاوہ ایک تیسری بیوی قطورا کے بطن سے تھے ان ہی کے نام پر ایک شہر کا نام مدین رکھا گیا، اس کا محل وقوع عقبہ سے شرقی جانب تھا آج کل اس کو ”معان“ کہتے ہیں یہ لوگ تجارت پیشہ تھے مصر فلسطین اور لبنان سے تجارت کرتے تھے۔

قَوْلًا: وصف الیوم به مجازاً لوقوعه فیه، یہ عبارت اس سوال کا جواب ہے کہ محیط، عذاب کی صفت ہے نہ کہ یوم کی حالانکہ محیط کی اضافت یوم کی جانب ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں مجاز ہے چونکہ عذاب یوم میں واقع ہوگا اور یوم عذاب کا ظرف ہوگا اسی مناسبت کی وجہ سے منظوف کی اضافت ظرف کی جانب کر دی ہے۔

**قَوْلًا:** حال مؤکدة، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تَعَثُّوا کے معنی فساد کے ہیں اور مفسدین کے معنی بھی فساد کے ہیں لہذا اس میں تکرار ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں بلکہ باعتبار معنی کے تاکید ہے۔

**قَوْلًا:** لَا تَعَثُّوا عِثًّا اور عِثًّا سے نہی جمع مذکر حاضر، تم فساد برپا نہ کرو۔

**قَوْلًا:** لِمَعْنَى عَامِلِهَا، یعنی مفسدین اپنے عامل لَا تَعَثُّوا کے معنی سے حال ہے اور معنی فساد ہیں۔

**قَوْلًا:** بَقِيَّتُ اللّٰهِ لمی تاء (تاء مطولہ) کے ساتھ اور ابو عمرو، کسائی اور باقیوں نے تاء مدورہ کے ساتھ پڑھا ہے، بَقِيَّةً پچی ہوئی چیز، فعیلۃ کے وزن پر صفت مشبہ کا ضیغہ ہے یعنی پورا تو لے اور حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچے وہ تمہارے لئے اس سے بدرجہا بہتر ہے جو تم کم ناپ تول کر لوگوں کے حقوق مار کر بچا کر اور جمع کرتے ہو، بقیت کی اضافت اللہ کی طرف اس لئے ہے کہ اس ہی نے رزق عطاء کیا ہے یہاں طاعت اور اعمال صالحہ کے معنی میں نہیں ہے۔

**قَوْلًا:** بِتَكْلِيفِنَا اِیَّانَا، بتکلیفنا مقدر مان کر مفسر علام نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔

**سُؤَال:** یہ ہے کہ ترک، کفار کا فعل ہے اور مامور اَصْلُوتک تَامِرک میں شعیب عَلَيْهِ السَّلَام ہیں ترک کا ترجمہ یہ ہوگا اے شعیب کیا تیری نماز تجھ کو یہ حکم کرتی ہے کہ ہم بتوں کی بندگی ترک کر دیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ترک کا حکم تو شعیب عَلَيْهِ السَّلَام کو ہو اور عمل اس پر کافر کریں۔

**جَوَاب:** کا حاصل یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے اور وہ بتکلیفنا ہے، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھ کو اس بات کا حکم کرتی ہے کہ تو ہم کو بتوں کی بندگی کو ترک کا مکلف بنائے۔

**قَوْلًا:** نَتْرُکْ، اس سے اشارہ کر دیا کہ اَنْ نَفْعَلَ کا بتاویل مصدر ہو کر مَا پر عطف ہے۔

**قَوْلًا:** اَفَاثُوْبَه اس کے حذف میں اشارہ ہے اِنْ شرطیہ کا جواب محذوف ہے۔

**قَوْلًا:** وَاَذْهَبْ۔

**سُؤَال:** اَذْهَبْ مقدر ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

**جَوَاب:** اس لئے کہ یہاں اُخَالَفَ کا صلہ الی لایا گیا ہے حالانکہ اُخَالَفَ کا صلہ الی نہیں آتا بلکہ عن آتا ہے اذھب محذوف مان کر بتا دیا کہ اُخَالَفَ اَذْهَبَ کے معنی کو متضمن ہے لہذا الی صلہ لانا درست ہے۔

**قَوْلًا:** ظَهْرِيًّا پس پشت ڈالا ہوا، الظہری ظہر کی جانب منسوب ہے، عرب کی یہ عادت ہے کہ کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے تلفظ میں تغیر کر لیتے ہیں مگر اس پر دوسرے لفظ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ یہ تغیر کسی قاعدہ کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ غیر قیاسی ہوتا ہے مثلاً بصری کسرہ کے ساتھ بولتے ہیں حالانکہ قیاس فتح کے ساتھ ہے اسی طریقہ پر ظہری ہے حالانکہ قیاس ظہری فتح طاء کے ساتھ تھا۔



## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں:

وَالِی مَدَیْنَ اَیْہُمْ شُعَیْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اعراف اور ہود اور شعراء میں قدرے تفصیل سے کیا گیا ہے اور حجر و عنبوت میں اجمالی طور پر، قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر دس جگہ آیا ہے۔

## قوم شعیب:

حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی، مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ایک قبیلہ کا نام ہے یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی تیسری بیوی قطورا سے پیدا ہوا تھا، اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی قطورا کہلایا، مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ علاقہ بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریبی علاقہ حجاز ہی میں آباد ہو گیا تھا یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے اس لئے ان کی بعثت کے بعد یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔

## اصحاب مدین یا اصحاب ایکہ:

یہ قبیلہ کس جگہ آباد تھا؟ اس کے متعلق عبد الوہاب نجار لکھتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحراء کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ شام کے متصل معان کے خطہ زمین پر آباد تھا۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ دونوں ایک ہی قبیلہ کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ تھے بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلہ تھے، مگر رائج یہی ہے کہ دونوں ایک قبیلے کے نام ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکہ نام کا ایک درخت تھا اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے لہذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکہ کہا گیا، اصحاب الا ایکہ نسبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے، نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور مذہبی نسبت سے اصحاب الا ایکہ کہلایا، مذکورہ الصدر آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے، ان کی قوم کفر و شرک اور ناپ تول میں کمی کے مرض میں مبتلا تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور اس کے انجام بد سے بھی آگاہ کیا مگر قوم اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہی تو پوری قوم کو ایک سخت عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیا گیا، یہ عذاب سخت زلزلہ اور آگ کی شکل میں نازل ہوا تھا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلَاطِينٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ برہان بین ظاہر اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ سدید یَقْدُمُ يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَتَّبِعُونَهُ كَمَا اتَّبَعُوهُ فِي الدُّنْيَا فَأَوْرَدَهُمْ ادخلهم النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ ہٰی وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ اِی الدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَعْنَةُ بئس الرِّفْدُ الْعَوْنُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ رِفْدُهُمْ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مَبْدَأُ خَبْرِهِ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقْصُهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْهَا اِی الْقُرَى قَائِمٌ بِهَلْكَ اِبْلِهِ دُونَهُ وَ مِنْهَا حَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ ہٰی بِلْكَ بِاِبْلِهِ فَلَا اِثْرَ لَهٗ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمَنَاجِلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ بِاِبْلَائِهِمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرْكِ فَمَا آغْنَتْ دَفْعَتْ عَنْهُمْ اِلَهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِی غَيْرِهِ مِنْ زَائِدَةٍ شَيْءٌ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ عَذَابُهُ وَمَا زَادُوهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا غَيْرَ تَنْبِيٍّ ﴿١٠١﴾ تَخْسِيرٌ وَكَذَلِكَ مَثَلُ ذَلِكَ الْاِخْذِ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى أُرِيدَ اِبْلُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ بِالذُّنُوبِ اِی فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ أَخْذِهِ شَيْءٌ إِنْ أَخَذَهُ اَلْإِمُّ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّٰهُ لِيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ الْاِيَةَ إِنْ فِي ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْقِصَصِ لَآيَةٌ لِّعِبْرَةٍ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ اِی يَوْمُ الْقِيَمَةِ يَوْمُ مَجْمُوعٍ لَهُ فِيهِ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ ﴿١٠٣﴾ يَشْهَدُهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴿١٠٤﴾ لَوْ قُبِ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَيَاتِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا تَكَلَّمُ فِيهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائِينَ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ تَعَالَى فَمِنْهُمْ اِی الْخَلْقِ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ كُتِبَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْاَزْلِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي عِلْمِهِ تَعَالَى فَنَارُ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ صَوْتُ شَدِيدٌ وَشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ صَوْتُ ضَعِيفٌ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ اِی مَدَّةَ دَوَامِهِمَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَدَّتِهِمَا مِمَّا لَا تُنْتَهَى لَهُ وَالْمَعْنَى خُلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا إِنْ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا وَبَفَتْحِ السَّيْنِ وَضَمِّهَا فَنَارُ الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ كَمَا تَقْدَمُ وَدَلَّ عَلَيْهِ فِيهِمْ قَوْلُهُ عَطَاءٌ غَيْرُ مُجْدُودٍ ﴿١٠٨﴾ مَقْطُوعٌ وَمَا تَقْدَمُ مِنَ التَّوِيلِ هُوَ الَّذِي ظَهَرَ لِي وَهُوَ خَالٍ عَنِ التَّكْلِيفِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَرَادِهِ فَلَا تَكُ يَا مُحَمَّدُ فِي مَرِيَةٍ شَكٍّ وَمِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْاَصْنَامِ اِنَّا نَعَذِّبُهُمْ كَمَا عَذَّبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اَبَاؤُهُمْ اِی كِعِبَادَتِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَقَدْ عَذَّبْنَا بِهِمْ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُهُمْ مِثْلَهُمْ نَصِيبُهُمْ حَظُّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ اِی تَامًا.

**تَرْجُمَہ:** اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو (بھی) اپنے معجزات اور روشن دلیلوں یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالانکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی قیامت کے



دن (فرعون) اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے جیسا کہ دنیا میں اس کی اتباع کرتے تھے، پھر ان (سب) کو دوزخ میں جاتا رہے گا اور (دوزخ) بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی، برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا یہ مذکور چند بستیوں کی سرگذشت ہے جو ہم اے محمدؐ کو سنارہے ہیں ان بستیوں میں سے بعض تو (اب بھی) قائم ہیں کہ ان کے مکین ہلاک ہو گئے مگر بستیاں موجود ہیں اور ان میں سے بعض مع اپنے مکینوں کے ختم ہو گئیں کہ درانتی سے کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا، بغیر جرم کے ہم نے ان کو ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن شرک کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا سو ان کے وہ معبود جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے ان کا کچھ بھی دفاع نہ کر سکے، جب تیرے رب کا عذاب آگیا، اور ان کو بتوں کی عبادت نے بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہیں پہنچایا اس پکڑ کے مانند تیرے رب کی پکڑ کا طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے ظالم باشندوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے بستیوں سے بستیوں کے رہنے والے مراد ہیں یعنی اس کی پکڑ سے ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بخاری و مسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے پھر آپ ﷺ نے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ تَلَاوُتٌ فرمائی، یقیناً ان مذکورہ قصوں میں ان لوگوں کے لئے نشانِ عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ جمع کئے جائیں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہوگا اس دن میں تمام مخلوق حاضر ہوگی، اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لئے جو اللہ کو معلوم ہے ملتوی کئے ہوئے ہیں (پھر) جس وقت وہ دن آئے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر بات تک نہ کر سکے گا (تَكَلَّمُ) میں ایک تاء کو حذف کر دیا گیا ہے، پھر مخلوق میں سے بعض بدنصیب ہوں گے اور بعض ان میں سے خوش نصیب ہوں گے اور یہ سب کچھ روز ازل میں لکھا جا چکا ہے، سو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں بدنصیب ہیں وہ دوزخ میں ایسے حال میں ہوں گے کہ ان کی آگ میں زور کی اور آہستہ چیخ پکار ہوگی (اور) وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، دنیا میں ان کے دوام کی مدت تک (یہ دوام کے لئے ایک محاورہ ہے) سوائے (مع) اس مزید مدت کے جو تیرا رب چاہے زمین و آسمان کی مدت پر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور معنی (آیت) کے یہ ہیں کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یقیناً میرا رب جو کچھ چاہے کر گذرتا ہے لیکن جو لوگ نیک بخت کئے گئے، سین کے فتح اور ضمہ کے ساتھ، وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے مگر جو تیرا رب چاہے جیسا کہ سابق میں گذرا، اور اس پر ان کے بارے میں باری تعالیٰ کا قول عطاء غیر معذوذ دلالت کر رہا ہے یہ سب بے انتہا بخشش ہے (یعنی) ختم نہ ہونے والی، اور جو تاویل سابق میں بیان ہوئی (یعنی الا بمعنی غیر کی) یہ وہ ہے جو میرے سمجھ میں آئی، اور یہ تکلف سے خالی ہے، اور اللہ اپنی مراد خود ہی بہتر جانتا ہے، لہذا اے محمدؐ جن بتوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں اس سے شک میں نہ پڑیں ہم ان کو یقیناً عذاب دیں گے جیسا کہ ان سے پہلوں کو عذاب دے چکے ہیں، اور یہ نبی ﷺ کو تسلی ہے ان کی پوجا پاٹ تو ایسی ہی ہے

جیسی کہ اس سے پہلے ان کے باپ دادا نے ان کو عذاب دیا، اور ہم نے ان کو عذاب کا بغیر نقصان کے پورا پورا حصہ دینے والے ہیں یعنی مکمل۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، آیات سے مراد تورات اور سلطان مبین سے مراد معجزات ہیں۔ (فتح القدیر)

قَوْلٌ: الْمَرْفُود، بمعنی عطاء، انعام، عون، مدد، معاون، لعنت کو مرفود استہزاء کہا ہے۔

قَوْلٌ: الْوَرْد اترنے کی جگہ، گھاٹ۔

قَوْلٌ: مِنْهَا، علامہ سیوطی نے منها محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ حصید کا عطف قائم پر ہے حصید مبتداء مؤخر اور منها خبر مقدم ہے۔

قَوْلٌ: حَصِيد، فعیل صفت مشبہ بمعنی مفعول کئی ہوئی کھیتی۔

قَوْلٌ: يُفْلِتُهُ، افلات (افعال) چھوڑنا۔

قَوْلٌ: فِيهِ، اس میں اشارہ ہے کہ لہ، میں لام بمعنی فی ہے۔

قَوْلٌ: يَشْهَدُهُ اى يشهد فيه.

قَوْلٌ: غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ میں الا بمعنی غیر ہے، سوال الا بمعنی لینے میں کیا مصلحت ہے؟ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: سوال یہ ہے کہ الا کے ذریعہ اگر استثناء خلود سے ہے جیسا کہ بعض نے کیا ہے تو یہ کافروں کے جہنم میں عدم خلود پر دلالت کرے گا حالانکہ امر واقعہ ایسا نہیں ہے اور اگر حکم اصلی سے استثناء ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قول ففسى النار ہے تو اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کفار جہنم میں داخل ہونے کے بعد بعض اوقات جہنم سے نکلیں گے حالانکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔

جَوَابٌ: حاصل جواب یہ ہے کہ الا بمعنی غیر ہے اور یہ عرب کے قول ”عَلَى الْفِ الْفَانِ الْمَتَقَدِّمَانِ“ یعنی میرے اوپر فلاں شخص کے ایک ہزار ہیں مع سابق دو ہزاروں کے یعنی ایک ہزار دو ہزار کے ساتھ مل کر تین ہزار ہیں اس وقت آیت کے معنی یہ ہوں گے اَنْ لَّهُمْ عَذَابٌ مَدَّةَ دَوَامِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ فِي الدُّنْيَا مَعَ الزِّيَادَةِ الَّتِي لَا آخِرَ لَهَا عَلَى مَدَّةِ بَقَاءِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ.

قَوْلٌ: كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَدَّتِهِمَا مِمَّا لَا مَنْتَهَى لَهُ، یعنی جو تاویل ماقبل میں ہوئی ہے وہی یہاں ہوگی۔

قَوْلٌ: اَنَا نَعَذِّبُهُمُ الْخ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ شک حکم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور مریۃ، حکم نہیں ہے۔

جَوَابٌ: جواب کا حاصل یہ ہے تقدیر عبارت یہ ہے اى لَا تَكُ يَا مُحَمَّدُ فِى مَرِيۃٍ اَنَا نَعَذِّبُهُمُ الْخ.

قَوْلٌ: كَعِبَادَتِهِمْ اس میں اشارہ ہے کہ ما یعبدون میں ما مصدریہ ہے یعنی یہ لوگ اپنے آباء کے عبادت کرنے کے



مطابق عبادت کرتے ہیں۔

قَوْلًا: تَامًا کے اضافہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ بعض اوقات کل بول کر بعض مراد ہوتا ہے مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيح

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، آیات سے مراد بعض حضرات کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیات سے آیات تسعہ اور سلطان مبین (روشن دلیل) سے عصا مراد ہے، عصا اگرچہ آیات تسعہ میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چونکہ نہایت عظیم الشان تھا اس لئے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان مبین سے وہ روشن دلائل مراد ہوں جو توحید وغیرہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کئے تھے۔

وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، یعنی کھلے معجزات دیکھ کر بھی فرعونوں نے پیغمبر خدا (موسیٰ علیہ السلام) کی بات نہ مانی اسی دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے حالانکہ اس کی کوئی بات ٹھکانے کی نہیں تھی جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کر سکتا، فرعون جس طرح دنیا میں کفر و تکذیب کا امام تھا قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔

فرعون چونکہ دنیا میں بدی اور بدکاری کا لیڈر تھا دوزخ میں بھی اس کی یہ لیڈری قائم رہے گی اور یہ حکم فرعون کے ساتھ خاص نہیں محققین نے کہا ہے کہ جو کوئی مفسدوں کا پیشوا ہوگا وہ اپنے متبعین اور ذریت کو لے کر ہی جہنم میں داخل ہوگا، اور یہی وہ گھاٹ ہے جہاں ٹھنڈے پانی کے بجائے بھسم کر دینے والی آگ ملے گی، ورد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیاسے جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن یہاں جہنم کو ورد کہا گیا ہے۔

وَاتَّبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةُ الْخ لعنت سے مراد پھٹکار اور رحمت الہی سے دوری و محرومی ہے یعنی رہتی دنیا تک ان پر لعنت پڑتی ہے گی اور قیامت میں بھی فرشتے اور اہل موقف ان پر لعنت کریں گے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى، یعنی کچھلی قوموں کے قصے جو ہم تم کو سنارہے ہیں ان میں دو قسم کی بستیاں تھیں ایک تو وہ کہ جن کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا یہاں تک کہ روئے زمین پر ان کا کوئی نشان تک نہیں چھوڑا مثلاً امت لوط کا مسکن کہ ان کا اب دنیا میں کوئی نشان بھی موجود نہیں دوسرے وہ جن کی آبادی ہلاک کر دی گئی باقی وہ زمین اور علاقے قائم ہیں جیسے عاد و ثمود کے مکانوں کے کھنڈر۔

وَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقَوْا فِى النَّارِ الْخ ان آیات کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جس قدر مدت آسمان اور زمین دنیا میں باقی رہے اتنی ہی مدت اشقیاء (بدکار) دوزخ میں اور سعداء (نیکوکار) جنت میں رہیں گے مگر جو اور زیادہ چاہے تیرا رب، وہ اسی کو معلوم ہے اس لئے کہ جب طویل سے طویل زمانہ کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بڑی مدت یہی خیال میں آتی ہے

اس لئے مادامت السموات والارض وغیرہ الفاظ محاورات عرب میں دوام کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بولے جاتے ہیں، باقی دوام وابدیت کا اصلی مدلول جسے لامحدود زمانہ کہنا چاہئے وہ حق تعالیٰ کے علم غیر متناہی کے ساتھ مختص ہے جس کو ماشاء ربك سے ادا کیا ہے۔

دوسرے معنی آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ لفظ مادامت السموات والارض کو کناہیہ دوام سے مانا جائے یا آسمان وزمین سے آخرت کی زمین مراد لی جائے جیسے فرمایا ”یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات (سورۃ ابراہیم) مطلب یہ ہوا کہ اشیاء دوزخ اور سعداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کی زمین و آسمان باقی رہیں گے یعنی ہمیشہ، مگر جو چاہے تیرا رب تو موقوف کر دے، وہاں ہمیشہ نہ رہنے دے کیونکہ دوزخیوں اور جنتیوں کا خلود بھی اسی کی مشیت اور اختیار سے ہے لیکن وہ چاہ چکا کہ کفار و مشرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہوگا۔ (فوائد عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَةَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ بِالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ كَالْقُرْآنِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ بِتَأْخِيرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَهُمْ فِي الْمَكْذِبِينَ بِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَرِيبٌ ۝۱۱ مَوْجِ الرِّيْبِ وَلَئِنْ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ كُلًّا أَى كُلِّ الْخَلَائِقِ لَمَّا مَا زَائِدَةٌ وَاللَّامُ مُوْطِئَةٌ لِقِسْمٍ مَقْدَرٍ أَوْ فَارِقَةٌ وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيدٍ لَمَّا بِمَعْنَى إِلَّا فَإِنْ نَافِيَةٌ لِيُوفِّيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ أَى جَزَاءِهَا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۲ عَالَمٌ بِبَوَاطِنِهِ كَطَوَائِرِهِ فَاسْتَقِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ كَمَا أَمَرْتَ وَلِيَسْتَقِمْ مَنْ تَابَ آمَنَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا تَجَاوَزُوا حَدُودَ اللَّهِ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۳ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ وَلَا تَرْكَبُوا تَمِيلُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَوَادِّهِ أَوْ مَدَابِغِهِ أَوْ رَضِيَ بِأَعْمَالِهِمْ فَتَمَسَّكُمْ تَصِيبُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَى غَيْرِهِ مِنْ زَائِدَةٍ أَوْ لِيَاءٍ يَحْفَظُونَكُمْ مِنْهُ ثُمَّ لَا تَنْصُرُون ۝۱۴ تَمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِهِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ الْغَدَاةَ وَالْعَشَى أَى الصَّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَزُلْفًا جَمْعُ زَلْفَةٍ أَى طَائِفَةٍ مِنْ اللَّيْلِ أَى الْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَذُهِبْنَ السَّيِّئَاتِ الذُّنُوبَ الصَّغَائِرَ نَزَلَتْ فِيمَنْ قَبْلَ اجْنَبِيَّةٍ فَاخْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَى هَذَا قَالَ لَجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ۝۱۵ عِظَةٌ لِلْمُتَعِظِينَ وَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى أَذَى قَوْمِكَ أَوْ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۶ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ فَلَوْلَا فَهَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ الْأُسْمِ الْمَاضِيَةِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولَوَاقِيَةٍ أَصْحَابُ دِينٍ وَفَضْلٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْمَرَادُ بِهِ النَّفْسُ أَى مَا كَانَ فِيهِمْ ذَلِكَ إِلَّا لَكِنْ قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ نَهَوْا فَنَجَّوْا وَمِنَ اللَّيَالِ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِالْفَسَادِ أَوْ تَرَكَ النَّهْيَ مَا أَتَرَفُوا نَعَمُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝۱۷ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ مِنْهُ لَهَا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝۱۸ مُؤْمِنُونَ



وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَابْهَلْ دِينَ وَاحِدٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُخْتَلِفِينَ ۝۱۸ فِي الدِّينِ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ إِرَادَ لَهُمُ الْخَيْرَ فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ أَيُّ أَهْلِ الْاِخْتِلَافِ لَهُ وَأَهْلُ الرَّحْمَةِ لَهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَهِيَ لَا مَلَكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝۱۹ وَكُلًّا نَّصَبْنَا نَقُصًّا وَتَنْوِينَهُ عَوِضٌ عَنِ الْمِصْطَفِ إِلَيْهِ أَيْ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا بَدَّلْ مِنْ كَلَامٍ نُنَبِّئُ نَظْمًا بِهٖ فُؤَادُكَ قَلْبَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْأَنْبَاءِ الْآيَاتُ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۲۰ خُصُّوا بِالذِّكْرِ لانتفاعهم بها فِي الْإِيمَانِ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ حَالَتُكُمْ إِنَّا عَمِلُونَا ۝۲۱ عَلَىٰ حَالَتِنَا تَهْدِيدٌ لَهُمْ وَانْتَظِرُوا ۚ غَاقِبَةُ أَمْرِكُمْ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝۲۲ ذَلِكَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَيُّ عِلْمٍ مَا غَابَ فِيهِمَا ۚ وَإِلَيْهِ رُجُوعُ الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ يَعُودُ وَلِلْمَفْعُولِ يُرَدُّ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَيَنْتَقِمُ مِمَّنْ عَصَىٰ فَاعْبُدْهُ وَحْدَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ ثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ كَافٍ بِكَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۲۳ وَأَمَّا يُؤْخِرُهُمْ لَوْقَتَهُمْ وَفِي قِرَاءَةِ الْفُوقَانِيَةِ.

**تَرْجِمَةٌ:** امر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو (بھی) کتابِ تورات دی تھی اس میں بھی قرآن کے مانند تصدیق و تکذیب کر کے اختلاف کیا گیا تھا، اگر قیامت کے لئے مخلوق کے حساب و جزاء کی تاخیر کا تیرے رب کی طرف سے فیصلہ نہ کر لیا گیا ہوتا تو جس معاملہ میں وہ اختلاف کر رہے ہیں دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یہ (قرآن) کی تکذیب کرنے والے قرآن کی طرف سے شک میں ڈالنے والے خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ (بھی) واقعہ ہے (ان) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے کہ پوری مخلوق کو جب وہ (اس کے حضور حاضر کرے گا) تو تیرا رب ان کے اعمال کی پوری پوری جزاء دیگا (لَمَّا) میں ما زائدہ ہے اور لام قسم مقدّر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے اور لام فارقہ ہے اور ایک قراءت میں لَمَّا تشدید کے ساتھ بمعنی إِلَّا ہے اور ان نافیہ ہے بالیقین وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے لہذا اپنے رب کے حکم سے عمل اور دعوت الی الحق پر حکم کے مطابق ثابت قدم رہئے اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو وہ یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے لہذا وہ اس کی جزاء دے گا، (اور دیکھو) ظالموں کی طرف مت جھکنا ان کے ساتھ دوستی کر کے یا نرمی کر کے یا ان کے اعمال پر رضا مندی ظاہر کر کے (ورنہ) تمہیں بھی آتشِ دوزخ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا دوسرا کوئی تمہارا حمایتی نہ ہوگا جو تم کو اللہ سے بچا سکے اور نہ تم اس کے عذاب سے بچائے جاؤ گے، اور (اے محمد) دن کے دنوں طرفوں صبح اور شام یعنی فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی نمازوں کی پابندی رکھئے اور رات کے ایک حصہ میں (بھی) یعنی مغرب اور عشاء کی (زُلْفَا) زُلْفَا کی جمع ہے اس کے معنی حصہ کے ہیں، بلاشبہ نیکیاں مثلاً پنجوقتہ نماز صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں (مذکورہ آیت اس شخص ابوالیسر) کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا تھا، پھر اس کی اطلاع نبی ﷺ کو دی تو مذکورہ آیت نازل ہوئی، تو اس شخص نے کہا کیا یہ (حکم) میرے لئے خاص ہے آپ نے فرمایا، میری پوری امت کے لئے

ہے، شیخین نے اس کو روایت کیا ہے، یہ ایک نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے، اور اے محمد اپنی قوم کی ایذا رسانی پر یا نماز کی پابندی پر صبر کرو طاعت پر صبر کے ذریعہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے پس کس لئے تم سے پہلے سابقہ امتوں میں کیوں ایسے دیندار اور اصحاب فضل نہ ہوئے جو (لوگوں کو) فساد فی الارض سے روکتے؟ مراد (استفہام سے) نفی ہے یعنی ان میں ایسے لوگ نہیں ہوئے، لیکن بہت کم جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، کہ انہوں (برائی سے) روکا جس کی وجہ سے وہ نجات پا گئے، من بیانہ ہے اور جن لوگوں نے فساد کے ذریعہ یا ترک نہی کر کے ظلم کیا وہ تو اسی سامان عیش کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دیئے گئے تھے اور وہ مجرم ہی رہے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلماً ہلاک کر دے حالانکہ اس بستی والے مومن ہوں، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک دین پر کر دیتا اور وہ دین کے معاملہ میں مسلسل اختلاف ہی کرتے رہے، سوائے اس کے کہ جس پر تیرے رب نے رحم کیا کہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے دین میں اختلاف نہیں کیا اور اسی کے لئے ان کو یعنی اہل اختلاف کو اختلاف کے لئے اور اہل رحمت کو رحمت کے لئے پیدا فرمایا اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہوگی اور وہ یہ کہ میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کے قصوں میں سے یہ تمام (مذکورہ) قصے سنارہے ہیں (کلام) نقص کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے یعنی ہر وہ قصہ جس کے سنانے کی ضرورت ہو مگر، کلام سے بدل ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ آپ کے دل کو تقویت (تسلّی) دیں اور ان واقعات یا آیات میں بھی حق آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اور مومنین کے لئے وعظ و نصیحت ہے مومنین کو اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ وہ ان پسند و نصائح سے اپنے ایمان میں فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف کفار کے آپ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دو تم اپنے طور پر عمل کئے جاؤ ہم اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں (یہ) ان کے لئے تہدید (دھمکی) ہے تم اپنے عمل کے انجام کا انتظار کرو میں (بھی) اس کا انتظار کر رہا ہوں زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے یعنی ان چیزوں کا علم جو ان میں مخفی ہیں، اور تمام امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے (یو جمع) معروف اور مجہول دونوں طرح ہے لہذا وہ نافرمانی کرنے والے سے انتقام لے گا، تو آپ صرف اسی کی بندگی کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے اسلئے کہ وہ تمہارے لئے کافی ہے اور آپ کا رب ان باتوں سے غافل نہیں جو تم لوگ کر رہے ہو (یہ اور بات ہے) کہ ان کو اس نے ان کے وقت مقرر تک کے لئے مہلت دے رکھی ہے، اور ایک قراءت میں (تاء) فوقانیہ کے ساتھ ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: وَإِنَّ بِالْتَشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ كُلًّا اٰی كُلِّ الْخَلٰئِقِ لَمَّا، اِنَّ اَوَّلَ مَا فِي كُلِّ قَرَأَةٍ تِسْعٌ، ① اِنَّ اَوَّلَ مَا فِي كُلِّ قَرَأَةٍ تِسْعٌ، ② اِنَّ مَخْفَفًا وَتِسْعًا مَشْدُودًا، ③ اِنَّ مَخْفَفًا وَتِسْعًا مَشْدُودًا، ④ اِنَّ مَشْدُودًا وَتِسْعًا مَخْفَفًا، یہ چاروں قراءتیں متواترہ ہیں۔



چاروں قراءتوں میں کُلاً اسمِ اَنّ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور اَنّ کی خبر جملہ قسمیہ لُیُو فِیْنْھُمْ رَبُّک اَعْمَالْھُمْ ہوگی، اور لَمَّا مشدّدہ ہونے کی صورت میں لُیُو فِیْنْھُمْ اَلْخ جملہ ہوکر اَنّ کی خبر ہوگی۔

قَوْلٌ: اَلْخَلَاتِقُ، لفظ خَلَاتِقُ محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ کُلُّ کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔

قَوْلٌ: مَا زَائِدَةٌ، لَمَّا مخففہ کی صورت میں مَا زَائِدَةٌ ہے اگر مَا زَائِدَةٌ کو حذف کر دیا جائے تو لفظ واحد پر دو لاموں کا داخل ہونا لازم آئے گا جو کہ موجب ثقل ہوگا اور تقدیر عبارت لُیُو فِیْنْھُمْ ہوگی۔

قَوْلٌ: وَالْاَلَامُ مَوْطِئَةٌ لِّقِسْمٍ مَّقْدِرٍ یعنی لُیُو فِیْنْھُمْ میں لام قسم کے حذف پر دال ہوگا، یعنی اس بات پر دلالت کرے گا کہ قسم محذوف ہے۔

قَوْلٌ: اَوْفَارِقَةٌ، یعنی لُیُو فِیْنْھُمْ میں لام فارقہ ہے یہ لُیُو فِیْنْھُمْ کے لام میں دوسرے مذہب کی طرف اشارہ ہے، لام فارقہ کا مطلب ہے ان مخففہ اور ان نافیہ کے درمیان فرق کرنے والا یعنی اگر خبر پر لام داخل ہو تو اس سے معلوم ہو جائیگا کہ اَنّ مخففہ عن المثقلہ ہے۔

تَنْبِيْہٌ: یہ بات یاد رہے کہ لام فارقہ اَنّ مخففہ کی خبر پر اس وقت داخل ہوتا ہے جب اَنّ مخففہ کو عمل سے روک دیا گیا ہو (یعنی اہمال کی صورت میں) جیسے اَنّ زَيْدٌ لَقَائِمٌ اور اگر اَنّ زَيْدٌ لَقَائِمٌ پڑھا تو التباس نہ ہونے کی وجہ سے لام فارقہ کی ضرورت نہ ہوگی، اور آیت کریمہ اَنّ کُلاً لَمَّا لُیُو فِیْنْھُمْ میں چونکہ اَنّ عاملہ ہے، لہذا لام کو فارقہ قرار دینا درست نہیں ہے، اس لئے کہ اَنّ نافیہ اور مخففہ میں اسی وقت التباس ہوتا ہے جب اَنّ کو عمل سے روک دیا گیا، اور بعض حضرات نے مذکورہ عبارت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ واللام مؤطیۃ کا تعلق اَنّ مشدّدہ کی صورت سے ہے اور فارقہ کا تعلق مخففہ سے ہے۔

قَوْلٌ: کُلاً نَصَبٌ بِنَقْصٍ یعنی کُلاً سے پہلے نقص محذوف ہے جو کُلاً کا ناصب ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْکُتُبَ فَاخْتَلَفَ فِیْہِ اِس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں لوگوں کی نکتہ چینیوں اور چہ میگوئیوں سے رنجیدہ اور خاطر برداشتہ نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر نبی اور ہر کتاب کے بارے میں لوگوں نے یہی معاملہ کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی تو اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، بے شک خدا کو یہ قدرت تھی کہ یہ اختلاف و تفریق پیدا نہ ہونے دیتا اور پیدا ہونے کے بعد دم زدن میں فیصلہ کرتا مگر اس کی حکمت تکوینی کے تحت یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ انسان کو ایک خاص حد تک کسب و اختیار کی آزادی دیکر آزمائے کہ وہ کس راستہ پر چلتا ہے آیا وہ خالق و مخلوق کا حق پہچان کر رحمت خداوندی کا مستحق بنتا ہے یا کجروی اور غلط کاری سے خدا کے غیظ و غضب کا مستحق قرار پاتا ہے، غرضیکہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ نیکی یا بدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور و مضطر نہ ہو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں خیر و شر نیکی و بدی کی ہمیشہ آمیزش جاری

رہے گی، اور وقت آنے پر ہر ایک کے اعمال کا پورا پورا بدلہ چکا دیا جائیگا، عام لوگ ان حکمتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خلجان و تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ بھی ان اختلافات کا فیصلہ ہوگا یا نہیں۔

فَاسْتَقْمِرْ کَمَا اُمِرْتَ الْخ اس آیت میں آپ ﷺ اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلہ کے لئے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے دوسرے طغیان و سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لئے بہت ضروری ہے حتیٰ کہ یہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں۔

وَلَا تَرْکُنُوْا اِلٰی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الْخ سابقہ آیت میں خود کو تعدی اور عدوان سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے اب اس آیت میں ظالموں اور سرکشوں کی جانب میلان سے روکا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ بے جا نرمی اور مددہنت کرتے ہوئے ان سے مدد کے طالب نہ ہو، ان کو اس سے یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو، اس طرح تمہارا یہ کام بڑا جرم بن جائے گا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آتش دوزخ کی کوئی لپٹ آپ کو بھی لگ جائے۔

وَاقْمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِی النَّهَارِ الْخ دونوں سروں سے مراد بعض مفسرین نے فجر اور مغرب اور بعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت لیا ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے یہ آیت معراج سے پہلے نازل ہوئی جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں، کیونکہ اس سے قبل صرف دو ہی نمازیں ضروری تھیں ایک طلوع شمس سے قبل اور غروب سے قبل اور رات کے آخری حصہ میں تہجد کی نماز، پھر تہجد کی نماز امت سے معاف کر دی گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ ﷺ سے بھی ساقط ہو گیا، (ابن کثیر) یہ چار نمازوں کے اوقات کا بیان ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ”اقم الصلوة لعلوک الشمس“ میں آیا ہے، زُلْفَا، زُلْفَا کی جمع ہے جس کے معنی ایک حصہ کے ہیں۔

## ایک عظیم فائدہ:

اس آیت میں نمازوں کے اوقات کے بیان کے بعد بتلایا گیا ہے کہ ”اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ“ یعنی نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں، نیک کاموں سے ہر قسم کے نیک کام مراد ہیں مگر نمازوں کو ان سب میں اولیت حاصل ہے اسی طرح سیئات کا لفظ تمام برے کاموں کو شامل ہے خواہ وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول اللہ ﷺ کے متعدد ارشادات نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ”اِنَّ تَجْتَنِبُوْا کِبٰیْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَکْفِرْ عَنْکُمْ سِیِّئَاتِکُمْ“ یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ کر دیں گے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کہ پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان صادر ہوئے ہوں، جبکہ یہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچا رہا ہو“ مطلب یہ کہ بڑے گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کاموں سے



معاف ہو جاتے ہیں، مگر تفسیر بحر محیط میں محققین علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے جب ہی معاف ہوتے ہیں جبکہ آدمی ان کے کرنے پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے ان پر اصرار نہ کرے۔

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ الْخَ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضاء میں یہ بات طے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور دوزخ و جنت کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائیگا، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ”جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑے، جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرہ کے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے تیرے ذریعہ سے میں جس کو چاہوں گا جزا دوں گا، اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت دونوں کو بھر دے گا، جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے کو بھر دے گی اور جہنم، جہنمیوں کی کثرت کے باوجود ”هَلْ مِنْ مَزِيدٍ“ کا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم کہہ اٹھے گی قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتُكَ ”بس بس تیری عزت و جلال کی قسم“۔

(صحیح بخاری کتاب التوحید، باب النار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ عَشْرَةَ آيَةً وَاثْنَا عَشَرَ كَوْكَبًا

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ عَشْرَةَ آيَةً.

سورہ یوسف مکی ہے (۱۱۱) ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الرَّاءُ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَرَادِهِ بِذَلِكَ تِلْكَ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ الْكِتَابِ  
الْقُرْآنِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى مِنَ الْمُبِينِ ① الْمُظْهَرُ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلُغَةِ الْعَرَبِ لَعَلَّكُمْ  
يَا أَهْلَ مَكَّةَ تَعْقِلُونَ ② تَفْهَمُونَ مَعَانِيَهُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا بِأَيْحَانِنَا  
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ مَخْفَفَةٌ أَيْ وَانَّهُ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ③ أَذْكَرُ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَعْقُوبَ  
يَا أَبَتِ بِالسَّكْرِ دَلَالَةً عَلَى يَأْ أَلِإِضَافَةِ الْمَحْذُوفَةِ وَالْفَتْحُ دَلَالَةٌ عَلَى الْفِ بِحَذُوفَةِ قُلِبَتْ عَنِ الْيَاءِ إِنْ رَأَيْتَ  
فِي الْمَنَامِ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتَهُمْ تَاكِدٌ لِي سَجْدِينَ ④ جُمِعَ بِالْيَاءِ وَالنُّونَ لِلْوَصْفِ  
بِالسَّجُودِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْعُقَلَاءِ قَالَ يُبْنَى لَا تَقْصُصُ رَأْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا يَخْتَالُوا فِي  
هَلَاكِكَ حَسَدًا لَعَلَّهُمْ يَتَأْوِيلُهَا مِنْ أَنَّهُمْ الْكَوَاكِبُ وَالشَّمْسُ أَيْكَ وَالْقَمَرُ أَبُوكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ  
لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑤ ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ وَكَذَلِكَ كَمَا رَأَيْتَ يَجْتَبِيكَ يَخْتَارُكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ  
تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ بِالنُّبُوَّةِ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ أَوْلَادِهِ كَمَا أَتَمَّهَا بِالنُّبُوَّةِ عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ  
وَلَا تُحَقِّقْ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيمٌ ⑥ فِي صُنْعِهِ بِهِمْ.

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، آراء، اس سے اپنی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ آیتیں کتاب مبین حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب کی ہیں (آیات الكتاب) میں اضافت بمعنی من ہے ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ اے اہل مکہ تم اس اس کے معانی کو (پہلے) سمجھو، ہم نے اس قرآن کی وحی آپ کی طرف کر کے آپ کو ایک بہت عمدہ قصہ سنانا چاہتے ہیں اور امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بالکل



بے خبر تھے اور ان مخففہ ہے ای وائے وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا اے ابا جان (اَبَتِ) کی تاء کے کسرہ کے ساتھ جو کہ یاء اضافت محذوفہ پر دال ہے، اور تاء کے فتح کے ساتھ، جو کہ الف محذوفہ پر دال ہے جو کہ یاء سے بدلا ہوا ہے میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو اور شمس و قمر کو اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے (ساجدین) یاء نون کے ساتھ جمع لائی گئی ہے ستاروں کے سجدہ کے وصف سے متصف ہونے کی وجہ سے جو کہ عقلاء کی صفت ہے (یعقوب علیہ السلام نے) کہا اے میرے پیارے بیٹے تم اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں حسد کی وجہ سے تیری ہلاکت کی کوئی تدبیر کریں ان کے اس خواب کی تعبیر سے واقف ہونے کی وجہ سے کہ کواکب سے مراد وہ خود ہیں اور شمس سے تیری والدہ اور قمر سے مراد تیرے والد ہیں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی اس کی دشمنی ظاہر ہے، اور اس کے مطابق جو تو نے (خواب میں) دیکھا تیرا رب تجھ کو منتخب کرے گا، اور تجھ کو تعبیر رویا کا علم سکھائیگا اور تجھے تیرا رب نبوت کے ذریعہ بھرپور نعمتیں عطا کرے گا اور آل یعقوب یعنی اس کی اولاد کو بھی جیسا کہ اس سے پہلے نبوت کے ذریعہ تیرے باپ دادا ابراہیم و اسحاق کو نعمتیں عطا فرمائیں، بے شک تیرا رب اپنی مخلوق سے باخبر ہے اور ان کے ساتھ انکی تدبیر کے بارے میں با حکمت ہے۔

## تَحْقِيقُ وَتَرْكِيْبُ تَسْمِيْلٍ وَتَفْسِيْرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: هذه الآيات، اس میں تلك اسم اشارہ مونث لانے کی وجہ کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلُهُ: المظهر للحق اس میں اشارہ ہے کہ مبین اَبَان سے متعدی ہے۔

قَوْلُهُ: بايحائنا، اس میں اشارہ ہے کہ ما مصدریہ ہے نہ کہ موصولہ کہ اسکے صلہ میں عائد کی ضرورت ہو۔

قَوْلُهُ: مخففة ای اِنَّه اس میں اشارہ ہے کہ ان مخففہ عن المثقلہ اور ان کا اسم ضمیر شان محذوف ہے ای اِنَّه، اور لَمِنَ الغفلين میں لام فارقہ ہے۔

قَوْلُهُ: دلالة على الف محذوفة، اسلئے کہ اسکی اصل یا ابتا تھی الف حذف کر دیا گیا فتح باقی رہ گیا تا کہ حذف الف پر دلالت کرے۔

قَوْلُهُ: فی المنام، اس اضافہ میں اشارہ ہے کہ رأیت رؤیا سے بدل ہے نہ کہ رؤیت سے۔

قَوْلُهُ: تأكيد، رأيتهم رأیت کی تاکید ہے لہذا بے فائدہ تکرار کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قَوْلُهُ: یحتالوا، کا اضافہ اس بات کا جواب ہے کہ کیداً متعدی بنفسہ ہوتا ہے حالانکہ یہاں متعدی باللام لایا گیا ہے جواب کا حاصل یہ ہے کید کا احتیال کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے متعدی باللام لانا درست ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

## آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد:

آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب وہ کتاب اس قوم کی زبان میں ہو جو اس کے اولین مخاطب ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر آسمانی کتاب اسی قوم کی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لئے وہ نازل کی گئی، قرآن کریم کے اولین مخاطب چونکہ عرب تھے اس لئے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، علاوہ ازیں اپنی فصاحت و بلاغت اور اعجاز اور ادائے مافی الضمیر کے اعتبار سے دنیا کی بہترین زبان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف کتب کو اشرف اللغات (عربی) اشرف الرسل (محمد ﷺ) پر اشرف الملائکہ (جبریل) کے ذریعہ نازل فرمایا۔

## شان نزول:

شان نزول کے سلسلہ میں جو روایت ملتی ہے ایک ان میں سے وہ ہے جس کو ابن مردویہ اور ابو نعیم اور بیہقی نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک یہودی بستانی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے محمد آپ مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتلائیے جن کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ ﷺ اس وقت خاموش رہے اس کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے ان گیارہ ستاروں کے نام بتائے آپ ﷺ نے اس یہودی بستانی کو بلایا اور اس سے کہا اگر میں ان کے نام بتا دوں تو کیا تو ایمان لائیگا اس نے کہا ہاں، تو آپ نے ستاروں (بھائیوں) کے نام بتائے۔

① الذیال ② الوثاب ③ الطارق ④ فلیق ⑤ الصبح ⑥ القابس ⑦ الضروح ⑧ الخرثان ⑨ الکلفان ⑩ العمودان ⑪ ذوالفرع۔ یہودی نے کہا صدقت یا محمد اور وہ اسلام نہیں لایا، مگر اس روایت کی سند میں کئی راوی متکلم فیہ ہیں اور ابن جوزی نے کہا یہ روایت موضوع ہے (اعراب القرآن للدرولیش) بعض روایتوں میں ناموں کا اختلاف بھی ہے حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی مرحوم نے قصص القرآن میں سورہ یوسف کا شان نزول اس طرح تحریر فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے شان نزول کے سلسلہ میں حدیثی روایات اور مفسرین کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی ﷺ کے متعلق گفتگو کی اور اپنی در ماندگی اور پریشانی اور عاجزی کا اظہار کیا، اس




پر یہود نے ان سے کہا اس مدعی نبوت کو زچ کرنے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لئے تم ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی؟ اور یوسف علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے؟ اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہرگز نہ بتا سکے گا۔

کفار نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں سوال کئے اور آپ نے وحی کے ذریعہ ان کو سب کچھ بتا دیا جو سورہ یوسف میں موجود ہے۔  
(قصص القرآن)



# نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام والاسلا



دوتن: وہ مقام جہاں بائبل کے بیان کے مطابق برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینکا۔

سکیم: وہ مقام جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آبائی جائداد تھی اب اس مقام کا نام نابلس ہے۔

حبرون: وہ مقام جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس کو الخلیل بھی کہتے ہیں۔

ممفس: مصر کا قدیم پایہ تخت اب اہل مصر اس کو ممف کہتے ہیں۔

جُشن: وہ علاقہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل کو آباد کیا۔



## حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ:

یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان یا لایان ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہو گیا تھا ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیا بنت لیان سے نکاح کر لیا تھا بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی علاقائی (باپ شریک) تھے جن کے نام اوپر مذکور ہوئے۔

## قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر:

حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں ۳۶ مرتبہ آیا ہے جن میں سے ۲۴ مرتبہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے اور بقیہ مرتبہ دیگر سورتوں میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورت (سورہ یوسف) نازل ہوئی۔

قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن قصص کہا ہے اس لئے کہ اس واقعہ میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب دل کش اور زمانہ عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے، یہ ایک فرد کے ذریعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں۔

## تاریخی و جغرافیائی حالات:

اس قصہ کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی و جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے، فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کی وادی میں تھی، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم (موجودہ نابلس) میں بھی تھی، بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف کی پیدائش ۱۹۰۶ ق م کے لگ بھگ ہوئی اور ۱۸۹۰ ق م میں خواب کا واقعہ پیش آیا جس سے اس قصہ کی ابتداء ہوتی ہے۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور واقعہ کی ابتداء:

اذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ حضرت یعقوب اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بیحد محبت کرتے تھے یہ بات برادران یوسف کے لئے بے حد شاق اور

نا قابل برداشت تھی اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو راستہ سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔

ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج، چاندان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر باختلاف روایات ۱۳، ۱۴ یا ۱۷ سال تھی۔

## خواب کا مطلب:

خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور گیارہ ستاروں سے گیارہ بھائی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا گیارہ ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں، والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے اسلئے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِي خَيْرِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ آيَةً عَنِ السَّائِلِينَ ⑦ عَنْ خَيْرِهِمْ أَذْكَرُ إِذْ قَالُوا أَيُّ بَعْضِ إِخْوَةِ يَوْسُفَ لِبَعْضِهِمْ يُوسُفَ مُبْتَدَأُ وَأَخُوهُ شَقِيقُهُ بَنِيَامِينَ أَحَبُّ خَيْرٍ إِلَى آبِنَا مِمَّا وَنَحْنُ عَصَبَةٌ جَمَاعَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑧ بَيْنَ بَايِشَارِهِمَا عَلَيْنَا إِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا أَيْ بَارِضٍ بَعِيدَةٍ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ بَانَ يُقْبَلُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ لَكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ أَيْ بَعْدَ قَتْلِ يَوْسُفَ أَوْ طَرَحِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑨ بَانَ تَتُوبُوا قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ هُوَ يَهُودًا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ اطْرَحُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ مَظْلَمٍ الْبِيرُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْجَمْعِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ الْمَسَافِرِينَ ⑩ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ⑪ مَا رَدْتُمْ مِنَ التَّفْرِيقِ فَافْتَقُوا بِذَلِكَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ⑫ لِقَائِهِمْ بِمَصَالِحِهِ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا إِلَى الصَّحَرَاءِ يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ فِيهِمَا نَنْشِطُ وَنَتَّبِعُ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ ⑬ قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا أَيْ ذَهَابُكُمْ بِهِ لِفِرَاقِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَالْمَرَادُ بِهِ الْجَنْسُ وَكَانَتْ أَرْضُهُمْ كَثِيرَةُ الذَّنَابِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ⑭ مَشْغُولُونَ قَالُوا لَيْنَ لَا مُمْسِكٌ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عَصَبَةٌ جَمَاعَةٌ ⑮ إِنَّا إِذَا الْخُسْرَاءُ ⑯ عَاجِزُونَ فَارْسَلَهُ



مَعَهُمْ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا عَزَمُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيِّبَتِ الْجُبِّ وَجَوَابُ لَمَّا مَحذُوفٌ اِیْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَانَ  
 نَزَعُوا قَمِيصَهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ وَاهَانَتِهِ وَارَادَةُ قَتْلِهِ وَادْلُوهُ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى نَصْفِ الْبَيْرِ الْقَوَاهُ لِيَمُوتَ فَسَقَطَ فِي  
 الْمَاءِ ثُمَّ أَوَى إِلَى صَخْرَةٍ فَنَادَوْهُ فَاجَابَهُمْ لَظَنٍ رَحِمَتُهُمْ فَارَادُوا رَضْخَهُ بِصَخْرَةٍ فَمَنَعَهُمْ يَهُودًا  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِي الْجُبِّ وَحْيَ حَقِيقَةٍ وَلَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ دُونَهَا تَطْمِينًا لِقَلْبِهِ لَتَنِيَّتُهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ  
 بِأَمْرِهِمْ بِصَنْعِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑤ بِكَ حَالِ الْأَنْبَاءِ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً وَنِصْفَ الْمَسَاءِ يَبْكُونَ ⑥  
 قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ نَرسِي وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ثِيَابُنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ مُصَدِّقٍ  
 لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ⑦ عِنْدَكَ لَا تَهْمُنَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ لِمَحَبَّةِ يُوسُفَ فَكَيْفَ وَأَنْتَ تُسِيءُ الظَّنَّ بِنَا  
 وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ مَحْلُهُ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ اِیْ فَوْقَهُ يَدِيمُ كَذِبٍ اِیْ ذِي كَذِبٍ بَانَ ذَبَحُوا سَخْلَةً وَلَطَّخُوهُ  
 بِدَبِهَا وَذَهَلُوا عَنْ شَقِّهِ وَقَالُوا إِنَّهُ دُمُهُ قَالَ يَعْقُوبُ لَمَّا رَأَاهُ صَاحِبًا وَعَلِمَ كَذِبَهُمْ بَلْ سَوَّلَتْ زَيْنَتْ  
 لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَعَلْتُمُوهُ بِهِ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ⑧ لَا جَزَعَ فِيهِ وَهُوَ خَيْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ اِیْ أَمْرِي وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ  
 الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الْعَوْنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ⑨ تَذَكَّرُونَ مِنْ أَمْرِ يُوسُفَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ مُسَافِرُونَ مِنْ مَدِينٍ إِلَى مَصْرَ  
 فَنَزَلُوا قَرِيبًا مِنْ جُبِّ يُوسُفَ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمُ الَّذِي يَرُدُّ الْمَاءَ لِيَسْتَسْقِيَ مِنْهُ فَادَّلَى اِرْسَلَ دَلْوَهُ فِي  
 الْبَيْرِ فَتَعَلَّقَ بِهَا يُوسُفُ فَخَرَجَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ يَبْشُرِي وَفِي قِرَاءَةِ بَشْرِي وَنَدَائُهَا مَجَازٌ اِیْ أَحْضَرِي فَهَذَا  
 وَقَتُّكَ هَذَا عَلِمَ فَعَلِمَ بِهِ إِخْوَتُهُ فَاتَّوَهُمُ وَأَسْرَوْهُ اِیْ أَخْفَوْا امْرَأَةَ جَاعِلِيهِ بِضَاعَةً ⑩ بَانَ قَالُوا هُوَ عَبْدُنَا ابْقِ  
 وَسَكَّتْ يُوسُفُ خَوْفًا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ⑪ وَشَرُّهُ اِیْ بَاعُوهُ مِنْهُمْ بِثَمَنِ بَخْسٍ نَاقِصٍ  
 دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَعِشْرِينَ وَكَانُوا اِیْ إِخْوَتُهُ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ⑫ فَجَاءَتْ بِهِ السَّيَّارَةُ إِلَى مَصْرَ  
 فَبَاعَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعِشْرِينَ دِينَارًا وَزَوْجِي نَعْلٍ وَثَوْبَيْنِ.

**ترجمہ:** حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں کہ وہ گیارہ تھے سوال کرنے والوں  
 کے لئے بڑی عبرتیں ہیں، اس وقت کا تذکرہ کرو کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا  
 حقیقی بھائی بن یامین ہمارے ابا جان کے لئے ہمارے مقابلہ میں زیادہ چہیتے ہیں، لیو یوسف مبتدا ہے اور احب اس کی خبر ہے،  
 حالانکہ ہمارا ایک جتھا ہے، ہمارے ابا جان ان دونوں کو ہم پر ترجیح دینے کے معاملہ میں کھلی غلطی پر ہیں (ایسا کرو) کہ یوسف کو  
 قتل کر دو یا کسی دور ملک میں پہنچا دو (اس تدبیر سے) تمہارے ابا جان کی توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے گی، اس طریقہ پر کہ  
 تمہاری طرف متوجہ رہیں گے تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں گے، یوسف کو قتل کرنے یا دور پہنچانے کے بعد، پھر توبہ  
 کر کے نیک بن جانا ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو (بلکہ) کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اور ایک قراءت میں

(غیابات) جمع کے ساتھ ہے، (ابا جان سے) جدا کرنے کے سلسلہ میں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسی پر اکتفا کرو، اسے مسافروں کا کوئی قافلہ نکال لے جائیگا (اس تجویز کے مطابق) انہوں نے (جا کر) کہا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، یعنی اس کی مصلحتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیجئے تاکہ مزے سے کھائے کھیلے (اور ایک قراءت میں) دونوں (فعل) نون کے ساتھ ہیں تاکہ ہم تیر اندازی کریں اور کھیلیں کودیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا اس کو لیجانا اس کی جدائی کی وجہ سے مجھے بہت رنجیدہ کرے گا اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑ یا نہ کھا جائے اور (ذنب سے) جنس ذنب مراد ہے، اور ان کے علاقہ میں بھیڑیے بکثرت تھے، اور تم اس سے غافل رہو یعنی کھیل کود میں مشغول رہو ان لوگوں نے جواب دیا واللہ اگر اسے بھیڑ یا کھا جائے حال یہ کہ ہم ایک (بڑی) جماعت ہیں تب تو ہم ناکارہ ہی ٹھہرے، القصہ (یعقوب علیہ السلام نے) یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، چنانچہ جب اس کو لے گئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں (لَمَّا) کا جواب محذوف ہے اور وہ (فَعَلُوا ذَلِكَ) ہے یعنی انہوں نے یہ کیا کہ اس کی قمیص اتارنے اور اس کو ز دو کوب کرنے اور اس کی تذلیل کرنے کے بعد اس کو قتل کے ارادہ سے کنویں میں لٹکا دیا، جب یوسف علیہ السلام درمیان کنویں تک پہنچ گئے تو اس کو چھوڑ دیا تاکہ مرجائے، غرضیکہ یوسف علیہ السلام پانی میں جا گرے پھر اس نے ایک پتھر کا سہارا لیا، تو بھائیوں نے اس کو آواز دی (یوسف نے) ان کی آواز پر یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید ان کو رحم آگیا ہو بلیک کہا، تو انہوں نے پتھر سے سر کچلنے کا ارادہ کیا، مگر یہودا نے ان کو اس حرکت سے منع کیا، اور ہم نے کنویں ہی میں یوسف کے پاس اطمینان قلبی کے لئے حقیقۃً وحی بھیجی اور یوسف اس وقت سترہ سال یا اس سے کچھ کم کے تھے کہ (اے یوسف) تو مستقبل میں ان کی اس حرکت کی خبر دے گا حال یہ کہ خبر دیتے وقت وہ تجھ کو نہ پہچان سکیں گے، اور شام کے وقت سب بھائی اپنے ابا جان کے پاس روتے ہوئے آئے کہا اے ہمارے ابا جان ہم تو تیر اندازی کے مقابلہ بازی میں مشغول ہو گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے کپڑے وغیرہ سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اس کو تو بھیڑ یا کھا گیا، آپ تو ہماری بات کا یقین کرنے والے ہیں نہیں اگرچہ ہم تمہارے نزدیک سچے ہیں مگر تم اس معاملہ میں یوسف کی محبت کی وجہ سے، ہمیں یقیناً متہم کرو گے، اور آپ ہماری بات کا یقین کر بھی کیسے ہو؟ جبکہ آپ ہمارے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، اور برادران یوسف، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگائے علی قمیصہ ظرفیت کی وجہ سے محل میں نصب کے ہے، اسی فوق قمیصہ، یعنی جھوٹا خون اس طریقہ پر کہ ایک بھیڑ کے بچہ کو ذبح کیا اور اس قمیص کو اس کے خون میں آلودہ کر لیا مگر قمیص کو پھاڑنا ان کے خیال سے نکل گیا اور کہہ دیا کہ یہ یوسف کا خون ہے، یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص کو صحیح سالم دیکھا تو ان کے جھوٹ کو سمجھ گئے (یعقوب علیہ السلام نے) کہا (جو تم کہہ رہے ہو) بات ایسی نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی جس کو تم نے اس کے ساتھ عملی جامہ پہنایا ہے، (اب تو) میرے لئے صبر ہی بہتر ہے صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو (آہ و فغاں نہ ہو) فصبرٌ جمیل،



امری مبتداء محذوف کی خبر ہے اور یوسف کے معاملہ میں جو تم باتیں بنا رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مانگی جاسکتی ہے یعنی اسی سے مدد مطلوب ہے اور مدین کے مسافروں کا ایک قافلہ مصر جانے کے لئے آیا اور اس کنویں کے قریب پڑاؤ کیا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، اور اہل قافلہ نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لئے بھیجا جس کی ذمہ داری پانی کا نظم کرنے کی تھی تاکہ اس سے سیرابی حاصل کریں، سو سقے نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو اس سے لٹک گئے اور یوسف علیہ السلام کو سقے نے نکال لیا، اور (وہ سقا) چلا اٹھا مبارک ہو اور ایک قراءت میں بُشْرٰی ہے اور اس کو ندامت مجازاً ہے، اے میری خوشخبری تو حاضر ہو جا یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، چنانچہ اس کا علم اُس (یوسف) کے بھائیوں کو بھی ہو گیا، چنانچہ وہ قافلہ والوں کے پاس آئے، اور بھائیوں نے یوسف کو مال تجارت قرار دیتے ہوئے (واقعہ) کی اصل حقیقت کو چھپایا، اس طریقہ پر کہ انہوں نے کہا ہمارا بھگا ہوا غلام ہے اور یوسف اس خیال سے خاموش رہے کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا اور یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو قافلہ والوں میں سے ایک شخص کے ہاتھ بہت ہی قلیل قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں یعنی بیس یا بائیس درہم کے عوض فروخت کر دیا، اور یوسف کے بھائی یوسف سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ قافلہ یوسف کو مصر لے آیا، اور جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے بیس دینار اور دو جوڑی جو تلوں اور دو جوڑے کپڑوں میں یوسف کو بیچ دیا۔

## تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: خبر مفسر علام نے خبر مضاف محذوف مان کر ایک سوال کا جواب دیا ہے سوال یہ ہے کہ آیت میں یوسف علیہ السلام کی کا ظرف واقع ہے حالانکہ یوسف چونکہ ذات ہے اس لئے اس میں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ یوسف ظرف نہیں ہے بلکہ یوسف سے پہلے خبر محذوف ہے جیسا کہ مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

قَوْلًا: مبتداء، اس میں اشارہ ہے کہ لیوسف پر لام ابتدائیہ ہے نہ کہ قسمیہ۔

قَوْلًا: شقیقہ، اس میں اشارہ ہے کہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور بقیہ تمام بھائی علاقائی بھائی تھے۔

قَوْلًا: بارض بعیدہ، بعیدہ کے اضافہ میں اشارہ ہے کہ ارض کی تنوین تعظیم کے لئے ہے۔

قَوْلًا: غیابۃ الجب، تاریک کنواں، کنویں کی اندھیری، گہرائی۔

قَوْلًا: فاكتفوا بذلك، یہ ان کو کنتم کا جواب ہے جو محذوف ہے۔

قَوْلًا: یرتع مضارع واحد مذکر غائب (فتح) پھل کھائے، مزے اڑائے، راتے چرنے والا۔

قَوْلًا: فعلوا ذلك یہ لَمَّا کا جواب ہے۔

**قَوْلًا:** بَأْن نَزَعُوا قَمِيصَهُ، بَاءٌ تَصْوِيرِيَّةٌ هِيَ كَمَا أَنَّ صَوْرَتَ فِعْلٍ كَوَبَّتَانِي كَلِّئَ هِيَ، يَعْنِي كَنُوسٍ فِي مِثْلِ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوَسٍ طَرَحَ ذَالَا؟

**قَوْلٌ:** بالنون والياء فيها نشط ومنتسع اس اضافہ کا مقصد يرتع ويلعب میں دو قراءتوں کو بیان کرنا ہے یعنی يرتع اور يلعب واحد کر غائب اور جمع متکلم دونوں قراءتیں ہیں، اور نشط نلعب کی تفسیر ہے یعنی تاکہ ہم تیر اندازی میں مسابقت کریں اور منتسع یہ يرتع کی تفسیر ہے یعنی تاکہ ہم کھائیں اور مزے اڑائیں، اس تفسیر میں لف وشر غیر مرتب ہے۔

**قَوْلًا:** المراد به الجنس اس اضافہ سے یہ بتانا مقصود ہے الذئب میں الف لام عہد کا نہیں ہے اسلئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں تھا بلکہ الف لام جنس کا ہے یعنی بھیڑیے کا کوئی بھی فرد اس کو کھا جائے۔

**قَوْلًا:** اَنَا اِذَا لِحَاسِرُونَ، جواب قسم ہے۔

**قَوْلٌ:** جوابُ لَمَّا محذوف یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ کلام تام نہیں ہے اسلئے کہ فَلَمَّا ذہبوا کا جواب مذکور نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ لَمَّا کا جواب محذوف ہے اور وہ فعلوا ذلک ہے۔

قَوْلًا: رَضَخَهُ (ف) رَضَخًا پتھر سے کچلنا، ٹکرائنا۔

**قَوْلُهُ:** وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اِیٰ فَرَضًا.

**قَوْلٌ: لَا تَهْمَتْنَا** یہ لو کنا کا جواب محذوف ہے۔

قَوْلًا: محلّہ نصبٌ علی الظرفیۃ، یعنی علی قمیصہ ظرف ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے، تقدیر عبارت یہ ہے  
”وجاء وفوق قمیصہ بدم کذب“۔

**قَوْلًا:** ای ذی کذب اس اضافہ کا مقصد اس اعتراض کو دفع کرنا ہے کہ بدم کذب میں مصدر کا حمل ذات پر ہے جو کہ درست نہیں ہے ذی کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں، اور اگر ذی محذوف نہ مانا جائے تو بطور مبالغہ حمل درست ہوگا جیسا کہ زید عدل میں ہے۔

**قَوْلٌ:** الذی یرد الماء یہ وارد کی تفسیر ہے یعنی وہ شخص جو پانی کا انتظام کرتا ہے جس کو سقا کہتے ہیں اس سقے کا نام مالک ابن ذر خزاعی تھا۔

**قَوْلًا:** لیستسقی منہ تاکہ کنویں سے پانی لائے، بعض نسخوں میں لیستقی ہے دونوں کا صلہ من آتا ہے، استقی من النهر، نہر سے پانی لایا۔

قَوْلًا: فی قراءۃ بُشْرِیْ میری خوشخبری، بشارت کو نداء مجازاً کہہ دیا ہے اس لئے کہ بشارت میں مخاطب بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔



## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیح

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ، اس آیت میں اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ قصہ یوسف کو محض ایک قصہ مت سمجھو بلکہ اس میں تحقیق کرنے والوں اور سوال کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

## سائلین کون تھے؟

سورہ یوسف کے شان نزول کے سلسلہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پوری سورہ یوسف مشرکین مکہ کے ایک سوال کے جواب میں بیک وقت نازل ہوئی تھی، مکہ میں جب آپ ﷺ کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین مکہ نے اس کی بڑی شدت سے مخالفت کی اور ایذا رسانی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا اور کوشش کی (بزعم خویش) اس فتنہ کو بہر صورت ختم کر دیا جائے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے اور اسلامی تحریک دن بدن ترقی کرتی رہی آخر کار مشرکین نے تنگ آ کر یہود مدینہ سے اس سلسلہ میں گفتگو کی اور اپنی پریشانی اور لا چاری کا اظہار کیا اس پر یہود نے کہا کہ تم اس مدعی نبوت سے دو سوال کرو ایک یہ کہ یعقوب کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی؟ دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق واقعات کی تفصیل کیا ہے؟ اگر نبی نہیں ہے تو ہرگز نہ بتا سکے گا۔

کفار نے یہود کی ہدایت کے مطابق آپ ﷺ سے یہ دونوں سوال کئے اور آپ نے وحی الہی کے ذریعہ وہ سب کچھ ان کو سنا دیا جو سورہ یوسف میں موجود ہے۔

یہ واقعہ یہودیوں نے اس لئے منتخب کیا تھا کہ نہ اس واقعہ کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکہ میں اس واقعہ سے کوئی واقف تھا اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی موجود نہیں تھا کہ ان کے ذریعہ تورات کے حوالہ سے یہ واقعہ معلوم ہو سکتا آپ ﷺ کا اس تفصیل سے واقعہ یوسف کو بیان کر دینا یہ آپ کا معجزہ اور نبوت کی کھلی دلیل ہے اس لئے کہ ایک امی کے لئے اس بسط و تفصیل سے واقعہ کو بیان کر دینا کہ تورات میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے یہ وحی الہی سے ہی ہو سکتا تھا۔

قطع نظر یہود کے سوال کے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہیں کہ جس بچہ کو بھائیوں نے ہلاکت کے لئے کنویں میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اس واقعہ کو سن کر قلوب میں حق تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت کا نقش جم جاتا ہے، نبی کریم ﷺ کی صداقت کا بین ثبوت ملتا ہے، اس واقعہ میں خصوصاً مشرکین مکہ کیلئے جو یہود کے اکسانے پر آپ ﷺ سے سوال کر رہے تھے بڑی عبرت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے نکالا ازراہ حسد قتل اور جلاوطن کرنے کے مشورہ کئے قسم قسم کی اذیتیں پہنچائیں، اہانت اور استخفاف میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا آخر ایک وقت آیا کہ یوسف کی طرف نادام و محتاج ہو کر آئے، یوسف علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے دین و دنیا کے اعلیٰ مناصب پر فائز کیا اور انہوں نے اپنے عروج و افتدار کے

وقت بھائیوں کے جرائم سے چشم پوشی کی اور نہایت دریا دلی سے سب کے قصور معاف کر دیئے ٹھیک اسی طرح محمد ﷺ کی برادری نے آپ کے متعلق ناپاک منصوبے بنائے اذیتیں پہنچائیں آپ ﷺ کی عزت و آبرو پر حملے کئے حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن جلد ہی وہ دن آگیا کہ وطن سے علیحدہ ہو کر آپ کی کامیابی اور رفعت شان کا آفتاب چمکا اور چند ہی سالوں کے بعد فتح مکہ کا وہ تاریخی دن آگیا کہ جب آپ نے اپنے وطنی اور قومی بھائیوں اور جانی دشمنوں کی تمام تقصیرات پر بعینہ حضرت یوسف والے کلمات ”لا تشریب علیکم الیوم“ فرما کر قلم عفو پھیر دیا۔

## واقعہ کی تفصیل:

حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل بارہ بیٹے تھے ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اسلئے یہ بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلائے، (معارف) ان بارہ بیٹوں میں سے دس بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیانہ بنت لیان کے لطن سے تھے، ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیا کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا ان کے لطن سے دو لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی دس علاقائی بھائی تھے جن کے ناموں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔

دوسری آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، اس پر ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے اس سے حسد ہوا اور وہ سمجھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہئے اس لئے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں وقت پڑنے پر ہم ہی کام آسکتے ہیں یہ بچے کیا کام آسکتے ہیں؟ اسلئے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی نا انصافی ہے اس کے علاج کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یوسف کو قتل کر دو تا کہ قصہ پاک ہو جائے یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائیگی، رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔

وتکونوا من بعدہ قومًا صالحین، کے ایک معنی یہ بھی بیان کئے گئے ہیں کہ یوسف کو راستہ سے ہٹانے کے بعد تمہارے حالات درست ہو جائیں گے کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائیگا۔

قال قائل منهم، ان ہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جو کہ ان میں سب سے زیادہ صائب الرائے تھے جس کا نام بعض مفسرین نے یہوذا اور بعض نے روبیل اور بعض نے شمعون بتایا ہے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کنویں میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے اور جب مسافر اس کنویں پر آئیں تو اس کو نکال کر لے جائیں، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا



ہو جائیگا اور اس کو لے کر تمہیں کہیں دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا۔

قالوا یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف جب بھائیوں کے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لئے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیئے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا اول مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا دوسرے یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔

### یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ محسوس ہونے کی وجہ:

یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں اچانک دس بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کرنا چاہا مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا، پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ دس بھیڑیے یہ دس بھائی تھے اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوذا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنوئیں کے گہرائی کی تعبیر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا ان ہی کو بھیڑیا کہا تھا مگر مصلحتاً پوری بات ظاہر نہیں کی۔

امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنوئیں میں ڈالنے لگے تو وہ کنوئیں کی من سے چمٹ گئے بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیئے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ گیارہ ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے، پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنوئیں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کونکلی ہوئی تھی صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے، بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔

یوسف علیہ السلام تین روز کنوئیں میں رہے ان کا بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لئے کھانا لاتا اور ڈول کے ذریعہ ان تک پہنچا دیتا۔

## شام کو بھائیوں کا روتے ہوئے آنا:

وجاء و اباہم عشاءً یبکون، یعنی عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئیگا نہیں۔

## شریعت میں جائز کھیلوں کا حکم:

ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت (دوڑ) شریعت میں مشروع اور اچھی بات ہے جو جنگ و جہاد میں کام آتی ہے، خود رسول اللہ ﷺ سے بنفس نفیس مسابقت کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے سلمہ بن اکوع نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی تو سلمہ غالب آ گئے تھے۔

وجاء و علی قمیصہ بدم کذب، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے کرتے پر ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون لگائے تاکہ والد صاحب کو یقین دلائیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے ان کو اس بات سے غافل کر دیا کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو پھاڑ بھی دیتے تاکہ بھیڑیے کا کھانا ثابت ہو جاتا، یعقوب علیہ السلام نے کرتہ کو صحیح سالم دیکھ کر فرمایا، بیٹو! یہ بھیڑیا کیسا حکیم اور عقلمند تھا کہ اس نے یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتہ کہیں سے نہیں پھٹا؟

اس طرح حضرت یعقوب پر ان کی جعل سازی کا راز فاش ہو گیا، تو فرمایا ”بل سؤلت لکم انفسکم امراً فصبرٌ جمیل“۔

فائدہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتہ کے صحیح سالم ہونے سے برادران یوسف کے جھوٹ پر استدلال کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قاضی یا حاکم کو فریقین کے دعوے اور دلائل کے ساتھ حالات اور قرائن پر بھی نظر کرنا چاہئے۔ (قرطبی، معارف)

## قافلہ کا ورود اور یوسف علیہ السلام کو کنوئیں سے نکالنا:

اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا اور پانی کیلئے پانی کے منتظم سقے کو کنوئیں پر بھیجا، گولوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی میں کوئی بخت و اتفاق نہیں، حق تعالیٰ شانہ، جس کی شان فعال لما یرید ہے مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا فرمادیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔



بہر حال قافلہ والوں نے اپنے ایک شخص کو جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی اس کا نام مالک بن ذعر بتلایا جاتا ہے پانی لانے کیلئے بھیجا، جب اسے کنوئیں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور جو ڈول نکالا تو ایک کمن نہایت ہی خوب و بچہ برآمد ہوا بچہ کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا ”یا بشریٰ ہذا غلام“ بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ والوں نے یوسف کو کنوئیں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے، اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف نے یوسف کو قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ روایات سے اور نہ قرآن عزیز کی آیات سے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلہ والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں سے نکالا اور غلام بنالیا، اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، لفظ شراء عربی زبان میں خرید و فروخت دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں دونوں ہی معنی کا احتمال ہے، ضمیر اگر برادران یوسف کی طرف لوٹائی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے اور اگر قافلہ والوں کی طرف لوٹائی جائے تو خریدنے کے معنی ہوں گے، ابن کثیر نے بروایت عبد اللہ بن مسعود لکھا ہے کہ بیس درہم میں سودا ہوا اور دس بھائیوں نے دو دو درہم آپس میں تقسیم کر لئے، تعداد کے سلسلہ میں ۲۲ اور ۴۰ درہم کی روایات بھی ہیں۔

وكانوا فيه من الزاهدين، زاهدین، زاهد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے زہد کے لفظی معنی بے رغبتی اور بے توجہی کے ہیں محاورات میں دنیا کے مال و دولت سے بے رغبتی کے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں کہ برادران یوسف اس معاملہ میں دراصل مال کے خواہشمند نہ تھے ان کا اصل مقصد یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا اس لئے قلیل درہم میں معاملہ کر لیا۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ وَهُوَ قُطَيْبُ الْعَزِيزِ لِامْرَأَتِهِ زُلَيْخَا اِكْرِمِي مَثْوَاهُ مَقَامُهُ عِنْدَنَا عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَانَ حَصْرًا وَكَذَلِكَ كَمَا نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجُبِّ وَعَظَفْنَا قَلْبَ الْعَزِيزِ مَكَّنَّا يُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ مِصْرَ حَتَّىٰ بَلَغَ مَابَلَغَ وَلِنَعْلِمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ تعبير الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا اي لنمكنه او الواوزائدة والله غالب على امره تعالى لا يعجزه شيء ولكن اكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ۱۰ ذلك ولما بلغ أشده وهو ثلثون سنة او وثلث آتية حكما حكمة وعلماء فقها في الدين قبل ان يبعث نبيا وكذلك كما جزينا المحسنين ۱۱ لا نفسهم وراودته التي هو في بيتها هي زليخا عن نفسه اي طلبت منه ان يواقعها وغلقت الابواب للبيت وقالت له هيت لك اي هلم واللام للتبيين وفي قراءة بكسر الهاء واخرى بضم التاء قال معاذ الله اعوذ بالله من ذلك انه اي الذي اشتراني ربِّي سيدي احسن مثواي مقامي فلا اخونه في اهله انه اي الشان لا يفلح الظالمون ۱۲ الزنا ولقد هممت به قصدت منه الجماع وهمم بها قصد ذلك لولا ان رابرهان ربه قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مثل له يعقوب ف ضرب صدره فخرجت شهوته من انامله وجواب لولا

لجامعہا کذلک اریناہ البرہان لنصرف عنہ السوء الخیانۃ والفحشاء الزنا انہ من عبادنا المخلصین<sup>(۲۵)</sup> فی الطاعۃ وفی قراءۃ بفتح اللام ای المختارین وَاسْتَبَقَا الْبَابَ بادرا الیہ یوسف للفرار وہی للتشبہ بہ فامسکت ثوبہ وجذبته الیہا وَقَدَّتْ شَقَّتْ قَمِیصَہُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفِیَا وَجَدَ سَیِّدَہَا زَوْجَہَا لَدَا الْبَابِ فَزَہَتْ نَفْسَہَا ثُمَّ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِکَ سُوءًا زَنًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اِیْ یَحْبَسَ اِیْ السَّجْنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ<sup>(۲۶)</sup> مَوْلِمَ بَانَ یُضْرَبُ قَالَ یُوسُفُ مُتَبَرِّئًا هِیَ رَاوَدْتَنِی عَنْ نَفْسِی وَشَہِدَ شَہِیدٌ مِّنْ أَهْلِہَا اِبْنُ عَمَہَا رَوَى اَنَّهُ کَانَ فِی الْمَہْدِ فَقَالَ اِنْ کَانَ قَمِیصُہُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ قَدَامٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْکَذِبِیْنَ<sup>(۲۷)</sup> وَ اِنْ کَانَ قَمِیصُہُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ خَلْفَ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصِّدِّیقِیْنَ<sup>(۲۸)</sup> فَلَمَّا رَا زَوْجَہَا قَمِیصُہُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّہُ اِیْ قَوْلُکَ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ الْخَ مِنْ کَیْدُکُنَّ اِنَّ کَیْدَکُنَّ اِیْہَا النِّسَاءُ عَظِیمٌ<sup>(۲۹)</sup> ثُمَّ قَالَ یَا یُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّکَ تَذْکُرُہُ لَعَلَّکَ یُشِیعَ وَاسْتَغْفِرِیْ یَا زُلَیخَا لَدُنْکَ اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الْخٰطِیِّیْنَ<sup>(۳۰)</sup> الْاِثْمِیْنَ وَاسْتَہَرَ الْخَبَرَ وَشَاعَ.

**ترجمہ:** اور اس مصری شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا جس کا نام قطفیر اور (لقب) عزیز تھا، اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا (یعنی اس کو عزت کا مقام دینا اور اچھی طرح دیکھ بھال کرنا) بعید نہیں کہ ہمارے لئے نفع بخش ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالیں اور عزیز عثین (نامرد) تھا، اور جس طرح ہم نے یوسف کو قتل اور کنویں سے نجات دی اور عزیز مصر کے دل کو اس کی طرف مائل کیا، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں اقتدار عطا کیا حتیٰ کہ وہ پہنچے جس مرتبہ پر پہنچے، (اور ہم نے ان کو قدرت دی) تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں (لِنُعَلِّمَہُ) کا عطف لِنَمْلِکَہُ محذوف پر ہے جو مگنا سے متعلق ہے (تقدیر یہ ہے) اِیْ مَکْنَا لِنُعَلِّمَہُ، یا داؤزائدہ ہے، اور اللہ اپنے ارادہ پر غالب ہے اس کو کوئی شئی عاجز نہیں کر سکتی، لیکن اکثر لوگ کہ وہ کافر ہیں اس سے بے خبر ہیں اور جب یوسف پختہ عمر کو پہنچ گئے اور وہ ۳۰ یا ۳۳ سال ہے، تو ہم نے ان کو حکمت اور تفقہ فی الدین منصب نبوت پر فائز کرنے سے پہلے عطا کئے اور ہم اپنے اعمال میں نیکو کاروں کو اسی طرح کی جزاء دیتے ہیں اور وہ عورت کہ جس کے گھر میں وہ تھے اور وہ زلیخا تھی ان پر ڈورے ڈالنے لگی (یعنی پھنسانے کی کوشش کرنے لگی) یعنی اس سے اپنا مقصد پورا کرنے کا مطالبہ کرنے لگی، اور (ایک روز) دروازے بند کر کے بولی جلدی آ جاؤ، (اے یوسف) تم ہی سے کہتی ہوں، لک کا لام تبیین کے لئے ہے اور ایک قراءت میں (ہیت) ہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور ایک دوسری قراءت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے (یوسف علیہ السلام) نے کہا خدا کی پناہ (یعنی) میں زنا سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، وہ جس نے مجھے خریدا اور عزت بخشی میرا مالک ہے اس کی ناموس میں خیانت نہیں کر سکتا، بات یہ ہے کہ ظالم (یعنی) زنا کار فلاح نہیں پایا کرتے اور وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی یعنی اس سے زنا کا پختہ قصد کر چکی تھی، یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یوسف کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی صورت کر دی گئی (یعقوب



عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) ان کے سینے پر (ہاتھ) مارا جس کی وجہ سے ان کی شہوت انگلیوں کے ذریعہ نکل گئی، اور لولا کا جواب لجامعہا محذوف ہے، ہم نے برہان اسلئے دکھائی کہ ہم اس کو خیانت اور زنا سے باز رکھیں درحقیقت وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، یعنی اطاعت میں اور ایک قراءت میں (مخلصین) کے لام کے فتح کے ساتھ ہے یعنی برگزیدہ (بندوں میں) اور دونوں (آگے پیچھے) دروازہ کی طرف بھاگے یوسف فرار کے لئے اور وہ اس کو پکڑنے کے لئے چنانچہ عورت نے یوسف کا کپڑا پکڑ لیا اور اس کو اپنی طرف کھینچا آخر کار عورت نے یوسف کا کرتہ پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازہ پر پایا تو عورت نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری بیوی سے زنا کا ارادہ کرے؟ سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں قید کر دیا جائے یا یہ کہ اس کو زد و کوب کی سخت سزا دی جائے، یوسف نے اپنی براءت ظاہر کرتے ہوئے کہا اسی نے مجھے اپنے ساتھ پھانسنے کی کوشش کی، تو اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے یعنی اس کے چچا زاد بھائی نے جو کہ گہوارہ میں تھا گواہی دی، کہا اس کا کرتہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے، چنانچہ جب اس کے شوہر نے یوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، کہا تیرا یہ کہنا ”ما جزاء من اراد الخ“ تم عورتوں کا مکر ہے اے عورت بلاشبہ تمہارا مکر بھی غضب کا ہے پھر کہا اے یوسف تم اس بات کو جانے دو اور اس کا تذکرہ نہ کرو تا کہ اس کی شہرت نہ ہو، اور اے زلیخا تو اپنی خطا کی معافی مانگ بلاشبہ تو ہی خطا کاروں میں سے ہے اور یہ خبر پھیل کر مشہور ہو گئی۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** وَقَالَ وَاَوْعَاطِفُهُ، معطوف علیہ ”فاشترأه عزیز مصر“ ہے، ای فاشترأه وقال لامرأته الذی اشترأه، قال کا فاعل ہے من مصر کائنا کے متعلق ہو کر فاعل سے حال ہے بعض حضرات نے لفظ مصر سے پہلے اہل محذوف مانا ہے تقدیر یہ ہوگی الذی اشترأه من اهل مصر اور بعض نے من کو فی کے معنی میں لیا ہے ای اشترأه فی مصر، اس صورت میں کوئی التباس نہیں رہتا۔ (تفسیر ماجدی)

لامرأته قال کے متعلق ہے، اور اکرمی مثواہ مقولہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** قَطْفِيرٌ، بروزن قنديل، مصر کے وزیر خزانہ کا نام ہے اس کا لقب عزیز ہے۔

**قَوْلُهُ:** اكرمى مقامه عندنا یعنی ان کو اپنے یہاں عزت و احترام سے رکھو۔

**قَوْلُهُ:** حصورا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جماع پر قدرت نہ رکھنے والا۔

**قَوْلُهُ:** لنعلمه فعل مضارع ہے جو کہ لام کے بعد ان مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہے، علامہ سیوطی نے ولنعلمہ میں دو ترکیبوں کی طرف اشارہ کیا ہے اول یہ کہ وَاَوْعَاطِفُهُ اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی، مکنناہ فی الارض لنملکہ ما

فیہا ولنعلمہ من تاویل الاحادیث اس صورت میں لنعلمہ کا عطف لنملکہ محذوف پر ہوگا مفسر کے قول عطف علی مقدر کا یہی مطلب ہے دوسری صورت یہ کہ واؤ زائدہ ہو اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی، مکنالہ فی الارض لنعلمہ تاویل الاحادیث، نملکہ اگر ملک بکسر المیم سے مشتق ہو تو معنی ہوں گے تاکہ ہم اس کو مالک بنائیں اور اگر ملک بضم المیم سے مشتق ہو تو معنی ہوں گے تاکہ اس کو بادشاہ بنائیں۔ (جمل)

قَوْلٌ: اشدہ یہ واحد بروزن جمع ہے۔

تَنْبِيْہٌ: احقر کے پیش نظر جلالین کے نسخے میں عبارت لنملکہ ہے صحیح نسخہ لنملکہ ہے۔

قَوْلٌ: راودتہ، اس عورت نے اس کو پھسلا یا، ماضی واحد مؤنث غائب اور ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے۔

قَوْلٌ: طلبت منه سے اشارہ کر دیا کہ مفاعلہ یہاں طرف واحد کے لئے ہے۔

قَوْلٌ: هیت لك یہ کلمہ دو لفظوں سے مرکب ہے هیت اور لك، هیت اسم فعل بمعنی امر ہے بمعنی آ، لك میں لام جارہ ہے اور كاف مجرور ہے جار مجرور اقول فعل محذوف سے متعلق ہیں، اس کے معنی ہیں، میں تجھ ہی سے کہتی ہوں جلدی آ (روح) سراج میں خطیب نے لکھا ہے کہ هیت لك پورا اسم فعل ہے یہ ہلم کے معنی میں ہے جس کے معنی ہیں آ، اور هیت کے تاء میں تینوں اعراب ہیں لك میں لام مخاطب کی وضاحت کے لئے ہے، یعنی هیت میں جو مخاطب ہے اسی کو لك سے واضح کر دیا ہے كاف مخاطب کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود وضاحت کے لئے لایا گیا ہے اسلئے کہ هیت کے معنی وہی ہیں جو هیت لك کے ہیں، جیسا کہ سقیالك بولتے ہیں حالانکہ سقیًا كاف خطاب کا محتاج نہیں ہے اسلئے کہ سقیًا کے معنی سقاك اللہ سقیًا کے ہیں، لك کو محض تاکید کیلئے لایا گیا ہے۔ (اعراب القرآن للدرویش)

قَوْلٌ: معاذ اللہ یہ عاذ یعوذ کے مصادر میں سے ایک ہے۔

قَوْلٌ: وجواب لولا لجامعہا یہ اضافہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لولا کا جواب محذوف ہے نہ کہ ماقبل میں مذکور ہم بھا، اس لئے کہ لولا کا جواب لولا پر مقدم نہیں ہوتا۔

قَوْلٌ: اریناہ اس میں اشارہ ہے کہ كذلك محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے محل میں نصب کے ہے، ای اریناہ كذلك اور لنصرف کالام اریناہ محذوف کے متعلق ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

یوسف اور غلامی:

سلسلہ واقعہ کی اگلی کڑی یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اسماعیلی مدیانی قافلے کے ہاتھوں ایک قلیل قیمت میں غلام گریختہ قرار دے کر فروخت کر دیا، یہ قافلہ شام سے مصر کو بخورات، بلسان اور مسالہ جات لے کر



جار ہاتھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کو خود ان کے بھائیوں نے ہی کنویں سے نکال کر قافلہ کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید و موافقت نہ تو تورات کرتی ہے اور نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنالیا، اور مال تجارت کے ساتھ اس کو بھی مصر لے گئے۔

## حضرت یوسف کی زندگی اور عظمتیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمتیں پنہاں رکھتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہ و زاری ہے اور نہ جزع و فزع، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی برضاء سر نیاز خم کئے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کیلئے جارہے ہیں، کسی نے خوب کہا ہے۔

نزدیکاں رابیش بود حیرانی

## یوسف مصر میں:

تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا یہاں کے حکمران عمالقہ (بکیوس) تھے مصر کے حکمران کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، مصر کا دار السلطنت رمیس تھا یہ غالباً اسی جگہ واقع تھا جہاں آج صان کی بستی واقع ہے، ان دنوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات جس کو تورات نے فوطیفار یا قطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی جن کی بولی لگ رہی تھی، لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی، یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی اس نے بڑی بھاری قیمت دیکر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔

## خدا کی قدرت و حکمت:

خدائے تعالیٰ کی کار سازی دیکھئے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام ایک متمدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں جب پہنچتا ہے تو اپنی عصمت مآب زندگی، حلم و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا دُلا رہا بن جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے جس کا نام را عیل یا زلیخا بتایا جاتا ہے کہتا ہے اکر می مثواه عسی ان ینفعنا او نتخذہ

ولدا دیکھو، اسے عزت سے رکھو کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنالیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں بلکہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں جس کے تحت ایک بدوی یتیم بچہ کو جو حضارت و مدنیت سے یکسر نا آشنا ہے جہانداری اور جہانبانی کے لئے تیار کیا جا رہا ہے جو عنقریب سپرد کی جانے والی ہے، گویا اس کی تمہید ہے اسی لئے ارشاد ہوا، وَكَذَلِكَ مَكْنَا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنَعْلَمَهُ مِنْ تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ. (الآیۃ).

### عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام:

ایک مشہور مقولہ ہے ”ربما كمنت المنن في المحن“ اللہ تعالیٰ کے اکثر احسانات و کرم مصائب میں مستور ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی ہو بہو اس کا مصداق ہے، بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدن کے گہوارہ مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنادیا، غلامی میں آقا ئی اسی کو کہتے ہیں۔

اب زندگی کی سب سے بری اور کٹھن آزمائش شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو، جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہاگہ، اور ہر وقت کا ساتھ، عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا، یوسف پر بہ ہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لئے منتخب بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے۔

### زلیخا کا جادو نہ چل سکا:

لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیئے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر، حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا، شاہی خاندان کی نو جوان عورت، شعلہ حسن سے لالہ رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، عشوہ طراز یوں کی بارش، ادھر یوسف علیہ السلام خود نو جوان، دروازے بند کسی کا نہ خوف اور نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار، مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحہ کے لئے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی، کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی، کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحہ کے لئے بھی متزلزل کیا؟ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت مہبط وحی الہی نے دوا ایسے معقول و محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو، فرمایا یہ ناممکن ہے، پناہ بخدا، میں اور اس کی



نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کے بجائے مجھے یہ عزت و حرمت بخشی، اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لئے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔

مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا، اور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا، تب یوسف نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کر دیا۔

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْبَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَاهَا رَبُّهُ كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

اور پھسلا یا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے بارے میں اور دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی آمیرے پاس آ، یوسف نے کہا خدا کی پناہ بلاشبہ (عزیز مصر) میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، بلاشبہ ظالم فلاح نہیں پاتے اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اور اس طرح ہوتا کہ ہٹائیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے۔

## وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا: تفسیر کی

مفسرین نے آیت مذکورہ کی مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن اوپر آیت کے جو معنی کئے گئے ہیں وہی مقام و موقع کے لحاظ سے زیادہ موزوں و مناسب ہیں، مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے برہان رب سن لینے کے بعد بھی اپنی ہٹ سے باز نہ آئی اور اپنا ارادہ رو بکار لانے پر مصر رہی یوسف علیہ السلام نے اس کے ارادہ کو قطعاً رد کر دیا اور اس کے سامنے اس کے ارادہ کی بالکل پرواہ نہیں کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف اس سے بچنے کے لئے دروازہ کی طرف بھاگے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا۔

بعض مفسرین نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ نحوی قواعد کا تقاضا ہے کہ لولا، کلام کے شروع میں استعمال ہوا ہے اس لئے کہ عربی قاعدہ کے لحاظ سے اس کا درمیان کلام میں استعمال درست نہیں ہے تقدیر عبارت یہ ہوگی ”وہم بہا لولا أن رای برہان ربہ“ یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھ لیتے مگر یہ اعتراض اس لئے درست نہیں ہے کہ اس مقام پر بھی لولا کا استعمال شروع کلام ہی میں ہوا ہے دال علی الجواب مقدم ہے اور لولا کا جواب جو بعد میں مذکور ہوتا اس دال علی الجواب کی وجہ سے محذوف ہے، علامہ سیوطی نے بھی لجامعہا محذوف مان کر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس قاعدہ کی نظیر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تذکرہ سے متعلق یہ آیت ہے، ان کسادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا (قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے) یہاں بھی لولا کا جواب تبدی بہ

مخذوف ہے اور دال علی الجواب مقدم ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ معنی ہیں، اگر یوسف علیہ السلام کو برہان رب حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا لیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا کیونکہ وہ برہان رب دیکھ چکے تھے۔

## وہ برہان رب کیا تھا؟

جس برہان رب کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بدی کے ارادہ سے بھی باز رہے وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ برہان رب کیا تھا؟ قرآن مجید نے اپنی بلیغانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا، سو یہی وہ برہان رب تھا جو یوسف کو عطا ہوا اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے اس کے بعد بڑے شد و مد سے بیان کیا، ”کذٰلک“ یوں ہی ہوا۔

”تا کہ ہٹا دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت کا نظر آنا اور ان کا اشارہ سے منع کرنا یا فرشتہ کا ظاہر ہو کر ان کو اس سے روکنا یا عزیز کے گھر میں رکھے ہوئے بت پر عزیز مصر کی بیوی کا پردہ ڈالنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے عبرت حاصل کرنا ان تمام اقوال کے مقابلہ میں ”برہان رب“ کی وہی تفسیر بہتر ہے جو قرآن عزیز کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے یعنی ① ایمان باللہ کا حقیقی تصور ② مربی مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصف امانت۔

بہر حال حضرت یوسف جب دروازے کے طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا دروازہ کسی طرح کھل گیا سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے عورت ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بدرکھتا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا، یہ اس کا بہتان ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا اتفاقاً سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا۔

عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی یعنی سمجھدار اور ہوشیار تھا اس نے کہا یوسف کا پیرا ہن دیکھنا چاہئے اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راست باز ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیرا ہن پیچھے سے چاک تھا عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے کہا، یوسف سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملہ سے درگزر کرو اور اس کو یہیں ختم کر دو اور پھر بیوی سے کہا یہ سب تیرا مکر ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے بلاشبہ تو ہی خطا کار ہے لہذا اپنی اس حرکت بد کے لئے استغفار کر اور معافی مانگ۔



بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیر خوار بچہ تھا خدا نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بچہ نے یہ شہادت دی، لیکن یہ روایت کسی صحیح قوی سند سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس معاملہ میں خواہ مخواہ معجزہ سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس شاہد نے جس قرینہ کی بنیاد پر جس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسر ایک معقول شہادت ہے اور اس کو دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہاندیدہ آدمی تھا جو صورت معاملہ سامنے آتے ہی معاملہ کی تہ تک پہنچ گیا، مفسرین کے یہاں شیر خوار بچہ کا قصہ دراصل یہودی روایات سے آیا ہے۔ (ملاحظہ ہو تلمود)

تفسیروں میں ایک مرفوع روایت کے حوالہ سے آتا ہے کہ یہ گواہ ایک شیر خوار بچہ تھا جو بطور خرق عادت حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی میں بول اٹھا تھا، لیکن بہت سے ائمہ تفسیر نے اس کے علاوہ کہا ہے کہ یہ شخص زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا جو شاہی درباریوں میں سے تھا، ماکان بصبی ولكن كان رجلا حكيما (ابن جریر عن عكرمة) یہاں شہادت سے عرفی اور اصطلاحی شہادت مراد نہیں ہے جس کے لئے عاقل بالغ مسلمان عادل اور موقع پر موجود ہونا شرط ہے یہ اصطلاحات بعد کی پیداوار ہیں، یہ گواہی تو صرف اس معنی میں تھی کہ اس نے فریقین کے متضاد بیانات کے درمیان فیصلے کا ایک عاقلانہ طریقہ سمجھا دیا۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَبْدُهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا تَمِيزُ  
ای دخل حبه شغاف قلبها ای غلافه اَنَا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ خَطَا قُبَيْنِ ۝۳۰ بین بحبها اياه فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ  
غيبتهن لها ارسلت اليهن واعتدت لهن متكاً طعا ما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الاترج وَاَتَتْ  
اعطت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ لِيُوسُفُ اَخْرِجْ عَلَيْنَ فَلَمَّا رَاَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ اعظمنه وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ  
بالسكاكين ولم يشعرن بالالم لشغل قلبهن بيوسف وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ تَنَزَّيْهَالِهَ مَا هَذَا اَي يوسف بشرًا اِنْ  
مَا هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝۳۱ لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية وفي الصحيح انه  
اعطى شطر الحسن قَالَتْ امْرَاةُ الْعَزِيزِ لَمَّا رَأَتْ مَا حَلَّ بِهِنَ فَذَلِكُنَّ هُوَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيْهِ فِي حبه  
بيان لعذرها وَلَقَدْ رَاَوْدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ امتنع وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا امْرُؤُهُ لَيُكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝۳۲  
الذليلين فقلن له اطع مولا تك قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ وَلَا اَتَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اَبِل  
اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ اَصْرٌ مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝۳۳ المذنبين والقصد بذلك الدعاء فلذا قال تعالى فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ دَعَاۤهُ  
فَصَرَفَ لِّلْقَوْلِ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لِّلْقَوْلِ الْعَلِيمُ ۝۳۴ بالفعل ثُمَّ بَدَا ظَهَرَ لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوْاْ الْآيَاتِ الدَّلَالَاتِ  
على براءة يوسف ان يسجنوه دل على هذا لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ اِلَى حِينٍ ۝۳۵ ينقطع فيه كلام الناس فسجن.

تَرْجَمَةُ: اور شہر مصر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی

ہے محبت نے اس کو بے قرار کر رکھا ہے، اس کی محبت اس کے دل کے نہاں خانوں میں پیوست ہو گئی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ اس سے محبت کرنے کے معاملہ میں صریح غلطی پر ہے جب عزیز کی بیوی نے ان کی مکارانہ باتیں یعنی انکی بدگوئی کی باتیں سنیں تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے چھری سے کاٹ کر کھایا جانے والا کھانا تیار کرایا اس کھانے کو متکذا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو کھاتے وقت تکلیف لگاتے ہیں۔

**وَبَيِّنَّا تَزْحَمَهَا:** اور ان کے لئے مسندوں سے آراستہ مجلس تیار کرائی اور وہ کھانا ترنج تھا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دیدی اور یوسف سے کہہ دیا کہ ذرا ان کے سامنے نکل آؤ چنانچہ جب ان کی نظر یوسف پر پڑی تو دنگ رہ گئیں اور چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ لئے، اور ان کے دلوں کے یوسف کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا اور پکارا اٹھیں حاشا اللہ پاکی اللہ کیلئے ہے، یہ یعنی یوسف انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے اس لئے کہ اس کو ایسے حسن نے گھیر لیا ہے کہ عادت کسی فرد بشر میں نہیں ہوتا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ (حضرت یوسف علیہ السلام کو مجموعی) حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا تھا، عزیز کی بیوی نے جب ان کی حالت غیر دیکھی تو کہا یہی تو ہے وہ جس کی محبت کے بارے میں تم مجھکو طعنے دیتی تھیں، یہ اپنے عذر کا بیان ہے، اور بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جو اس سے میں چاہتی ہوں تو یقیناً قید کیا جائیگا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا، تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا اپنی مالکن کی بات مان لے، یوسف علیہ السلام نے دعاء کی اے میرے پروردگار مجھے جیل منظور ہے اس کام کے مقابلہ میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اور اگر تو نے مجھ سے ان کی چال بازیوں کو دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤنگا، اور گنہگاروں میں شامل ہو جاؤں گا اور (الا تصرف) سے مقصد دعاء ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فاستجاب فرمایا تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی کہ اس سے ان کے مکر کو دفع کر دیا بلاشبہ وہ باتوں کا سننے والا عمل کا دیکھنے والا ہے پھر اس نے یہ طے کیا کہ اس کو واللہ جیل میں ڈال دیں گے ایک مدت کے لئے باوجودیکہ وہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی پر دلالت کرنے والی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس (حذف فاعل) پر لیس جذنبہ دلالت کر رہا ہے تاکہ اس بات کا چرچا ختم ہو جائے۔

### تَحْقِيقُ تَرْكِيبِ تَسْهِيلِ تَفْسِيرِي فَوَائِدِ

**قَوْلُهُ:** نسوة عورتوں کی جماعت، یہ اسم جمع ہے اس کا لفظوں میں واحد نہیں ہے اور باعتبار معنی کے امرأة اس کا واحد ہے نسوة مؤنث غیر حقیقی ہے اس کے فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے اسی وجہ سے قالت کے بجائے قال لائے ہیں۔

**قَوْلُهُ:** مدینة مصر، اس میں اشارہ ہے کہ المدینة میں الف لام عہد کا ہے۔

**قَوْلُهُ:** امرأة العزيز مبتداء ہے اور تراود، اس کی خبر ہے، تراود مضارع واحد مؤنث غائب ہے (مفاعلة) وہ بہلاتی ہے وہ پھسلاتی ہے۔



**قَوْلٌ:** تمیز یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ شغف متعدی بیک مفعول ہے حالانکہ یہاں اس کے دو مفعول میں اول ہا اور دوسرے حبا، جواب یہ ہے کہ حبا تمیز ہے نہ کہ مفعول، یہ فاعل سے منتقل ہو کر آتی ہے اصل عبارت یہ تھی دخل حبه فی شغاف قلبہا۔

**قَوْلٌ:** شغاف، شغاف القلب، وہ جھلی جو قلب کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔

**قَوْلٌ:** اعتدت یہ اعتاد سے بمعنی تیار کرنا ماضی واحد مؤنث غائب۔

**قَوْلٌ:** متکاً اسم مکان ٹیک لگانے کی جگہ، گاؤتکیہ، مسند، عرب متکاً اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے امام رازی نے کہا ہے کہ وہ کھانا جس کو کھانے کیلئے چھری کی ضرورت پڑے، (تفسیر کبیر) جس طرح آجکل کھانے کے لئے میز کرسیاں لگائی جاتی ہے اسی طرح پہلے مہذب دسترخوانوں کے ارد گرد گاؤتکیہ لگائے جاتے تھے، اور جس طرح آجکل میز لگانے اور دسترخوان لگانے سے مراد کھانا چننا اور میز یا دسترخوان پر بیٹھنے سے مراد ہوتا ہے کھانے کیلئے بیٹھنا، اسی طرح اس زمانہ میں گاؤتکیہ لگانے سے مراد کھانا کھانے کے لئے بیٹھنا ہوتا تھا، اسی معنی میں جمیل کا شعر ہے۔

فَظَلْنَا بِنِعْمَةٍ وَاتَّكْنَا وَشَرَبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلُوبِهِ

”ہم نے عیش میں دن گزارا اور کھانا کھایا، اور مشکوں سے نکال کر شراب پی۔“

علامہ سیوطی نے متکاً کی تفسیر طعاماً یقطع بالسکین سے کی ہے، اور یہی قول امام رازی کا ہے، لیکن اس کے بعد لکھا ہے وهو الاترج (ترنج) علامہ سیوطی نے ایسا وہب کی اتباع میں کیا ہے ابو عبیدہ اور دیگر اہل لغت نے اس کا انکار کیا ہے، اسلئے کہ ترنج کو مُتْکَ یا مُتْکَ کہا جاتا ہے ضرار بن نہشل نے بھی مُتْکَ بمعنی ترنج استعمال کیا ہے، فاهدت متکة لبنی ابیہا، اس نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے لئے ترنج ہدیہ میں بھیجے۔ (لغات القرآن)

**قَوْلٌ:** للاثکاء یہ کھانے کو متکاً کہنے کی وجہ سے تسمیہ ہے چونکہ عرب کھانے کے وقت ٹیک لگایا کرتے تھے اسی مناسبت سے اس کھانے ہی کو استعارہ کے طور پر متکاً کہہ دیا گیا ہے۔

**قَوْلٌ:** حاش لله، حاشا حرف تنزیہ ہے اس وقت یہ اسم ہوگا اور اس کا استعمال استثناء کے طور پر ہوتا ہے اس وقت حرف ہوگا۔

**قَوْلٌ:** بیان لعدرہا، یہ اس کا جواب ہے کہ مصری عورتوں کو تو معلوم تھا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہوگئی ہے پھر فذا لکن الذی لمتنی فیہ یہ ہے وہ جسکے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟

**جواب:** جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مقصد خبر دینا نہیں ہے بلکہ اپنی مجبوری اور لا چاری کو بیان کرنا ہے کہ جس کو تم ایک نظر دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھیں تو تم خود ہی بتاؤ کہ جب وہ ہر وقت میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ لہذا تم مجھے اس معاملہ میں معذور سمجھو۔

قَوْلًا: بہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سؤال: یہ ہے کہ امرہ کی ضمیر بظاہر یوسف علیہ السلام کی طرف راجع ہے اگر ایسا ہے تو ما موصولہ بغیر عائد کے رہ جائیگا۔  
جواب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ امرہ کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ ما موصولہ کی طرف راجع ہے اور امرہ اصل میں امر بہ تھا باء کو حذف کر دیا جیسا کہ امرتک الخیر اصل میں امرتک بالخیر تھا۔

قَوْلًا: لهم، ای للعزیز و اہلہ۔

قَوْلًا: ان یسجنوہ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ بدا فعل ہے اس کا فاعل لیسجننہ ہے حالانکہ فعل بغیر فاعل کے واقع نہیں ہوا کرتا لہذا فعل بغیر فاعل کے رہ گیا جو کہ جائز نہیں ہے۔

جواب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ بدا کا فاعل لیسجننہ نہیں ہے بلکہ فاعل مقدر ہے اور وہ ان یسجنوہ ہے ان یسجنوہ، ان مصدر یہ کی وجہ سے بتاویل مصدر ہو کر بدا کا فاعل ہے تقدیر عبارت یہ ہے بداتسجینہ۔

## تَفْسِیرُ وَتَشْرِیْح

وقال نسوة عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت و رسوائی سے بچنے کے لئے اس معاملہ کو یہیں ختم کر دیا مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور شدہ شدہ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر رتجھ گئی، اتنے بڑے مرتبہ کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ؟ آہستہ آہستہ اس طعن و تشنیع کی خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی، اس کو یہ طعن بیکرد شاق گذرا، اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ پر طعن کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی اور جب کھانا کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے ترنج یا گوشت وغیرہ کاٹنے کے لئے چھریاں ہاتھ میں لے لیں تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں حضرت یوسف علیہ السلام مالک کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے بخود دی میں اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بیکرد محظوظ ہوئی اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے، اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ میرا یہ عشق بجا ہے یا بے جا، اور تمہاری ملامت بر محل ہے یا بے محل؟

مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادہ کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ قابو میں نہ ہوا، مگر یہ کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔



قال رب السجن احب الى الخ ذرا ان حالات کا اندازہ کیجئے جن حالات میں یوسف مبتلا تھے، انیس بیس سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لے کر آیا ہے جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قدرت اسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھر لے آئی ہے، یہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس کا شب و روز کا سابقہ ہے پھر اس کے حسن کا چرچا پورے دار السلطنت میں ہونے لگتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، اب ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لئے پھیلے ہوئے ہیں، اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں ہے مگر اس پر بھی وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دل ہی دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب میں ایک کمزور انسان ہوں میرا مقابلہ بوتا کہاں کہ ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں تو مجھے سہارا دے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں۔

### یوسف علیہ السلام زندان میں:

بہر حال یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطا وار، معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تا کہ بیوی فضیحت و رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی کھلی نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا مگر شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا اس کو ختم کرنے کے لئے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس جہانے سے یوسف کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے تا کہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ غَلَامَانِ لِلْمَلِكِ أَحَدُهُمَا سَاقِيهِ وَالْآخَرُ صَاحِبُ طَعَامِهِ فَرَأَاهُ يَعْبِرُ الرُّوْيا فَقَالَ لِنُحْتَبِرَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا السَّاقِي إِيَّيْ أَرِنِي أَعْصِرْ خَمْرًا اِیْ عَنَّا وَقَالَ الْآخَرُ صَاحِبُ الطَّعَامِ اِیَّيْ أَرِنِي أَجْعَلْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنِئَا خَبَرْنَا بِتَأْوِيلِهِ بِتَعْبِيرِهِ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَهُمَا مَخْبَرًا إِنَّهُ عَالِمٌ بِتَعْبِيرِ الرُّوْيا لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ فِي مَنَامِكُمَا إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ فِي الْيَقِظَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا تَأْوِيلُهُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي فِيهِ حَتَّى عَلَى إِيْمَانِهِمَا ثُمَّ قَوَاهُ بِقَوْلِهِ إِيَّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ دِينِ قَوْمٍ لَا يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ تَاكِدُ كُفْرُوْنَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٍ شَيْءٍ لَّعَصَمْتَنَا ذَلِكَ التَّوْحِيدُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمْ الْكُفَرُ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ اللّٰهُ فَيُشْرِكُونَ ثُمَّ صَرَحَ بِدَعَائِهِمَا إِلَى الْإِيْمَانِ فَقَالَ يَصَاحِبِيْ سَاكِنِيْ

السَّجْنِ ءَارَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۱۹ خیر استفہام تقریر مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِی غیرہ  
 اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّیْتُمُوهَا سَمِیْتُمْ بِهَا اَصْنَامًا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا بعبادتها مِنْ سُلْطٰنٍ حِجۃ و برہان  
 اِنْ مَا الْحُكْمُ الْقَضَاءُ اِلَّا لِلّٰهِ وَحْدَہ اَمَرَ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اَیَّاهُ ذٰلِكَ التَّوْحِیْدُ الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ وَہم  
 الْكُفَّارُ لَا یَعْلَمُوْنَ ۲۰ مَا یَصِیْرُوْنَ اِلَیْہِ مِنَ الْعَذَابِ فِیْ شَرْكٍ كُوْنُ لِصَاحِبِ السَّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا اِی السَّاقِی  
 فِیْخْرَجُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِیْسَقِی رَبَّہُ سِیْدَہ خَمْرًا عَلٰی عَادَتِہْ هٰذَا تَاوِیْلُ رُؤْیَاہِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فِیْخْرَجُ بَعْدَ ثَلَاثٍ  
 فِیْصَلْبُ فَتَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَاسِہُ هٰذَا تَاوِیْلُ رُؤْیَاہِ فَقَالَا مَا رَاٰیْنَا شَیْئًا فَقَالَ قُضِیَ تَمَّ الْاَمْرُ  
 الَّذِیْ فِیْہِ تَسْتَفْتِیْنَ ۲۱ عَنْہُ سَالَتُمَا صَدَقْتُمَا اَمْ كَذَبْتُمَا وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ اِیْقِنَنَّ اِنَّہُ نَاجٍ مِّنْهُمَا وَہُوَ السَّاقِی  
 اَذْكُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّكَ سِیْدُكَ فَقُلْ لَہِ اَنْ فِی السَّجْنِ غَلَامًا مَّحْبُوسًا ظَلَمًا فَاَخْرَجَ فَاَنْسَہُ اِی السَّاقِی  
 الشَّیْطٰنُ ذَكَرَ یُوسُفَ عِنْدَ رَبِّہِ فَلِیْثَ مَكَثَ یُوسُفَ فِی السَّجْنِ بِضْعَ سِنِیْنَ ۲۲ قِلْ سَبْعًا وَقِلْ اِثْنِیْ عَشَرَ ۲۳

**ترجمہ:** چنانچہ (یوسف کو) جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ دو اور نو جوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے جو  
 بادشاہ کے غلام تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساتھی تھا اور دوسرا شاہی مطبخ کا ذمہ دار، ان دونوں کو معلوم ہوا کہ (یوسف)  
 خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو ضرور آزمائیں گے، ان میں سے ایک نے جو کہ ساتھی تھا کہ میں نے  
 اپنے آپ کو دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے مطبخ کے ذمہ دار نے کہا میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اس  
 میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، (یوسف علیہ السلام نے) ان کو یہ  
 بتاتے ہوئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر سے واقف ہیں کہا کہ جو کھانے (پینے کی چیز) تم کو خواب میں کھلائی جاتی ہے بیدار ہونے  
 کے بعد میں نے اس کی تعبیر بتادی اس کی تعبیر خارج میں ظاہر ہونے سے پہلے، یہ وہ علم ہے کہ جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے  
 اس مقولہ میں ان دونوں کو ایمان پر آمادہ کرنا ہے پھر اسی کی تائید اپنے قول ”انسی ترکت ملة الخ“ سے کی ہے میں نے تو ان  
 لوگوں کا دین چھوڑ رکھا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں دوسرا ہم پہلے ہم کی تاکید ہے اور میں  
 نے تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کر رکھا ہے، ہمارے لئے ہماری عصمت کی وجہ سے کسی طرح زیبا  
 نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یہ توحید ہمارے اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ کہ وہ کافر ہیں اللہ  
 کی شکر گزاری نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں پھر صراحت کے ساتھ ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہا اے  
 میرے قید خانہ کے رفیقو (تم خود ہی سوچو) کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک کہ وہ اللہ ہے بہتر ہے، کہ جو (سب پر)  
 غالب ہے استفہام تقریر کے لئے ہے اس کے علاوہ جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور  
 تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں اور اللہ نے ان کی عبادت پر کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کی حکم (فیصلہ) صرف اللہ وحدہ



لا شریک لہ کا ہے اسی نے حکم دیا کہ صرف اسی کی بندگی کرو اور یہ توحید ہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ اور وہ کافر ہیں اس عذاب کو نہیں جانتے جس کی طرف وہ جا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں، اے میرے زندان کے ساتھیو! تم میں سے ایک یعنی ساقی تین دن کے بعد (جیل سے) رہا کیا جائیگا، تو وہ حسب سابق اپنے مالک کو شراب پلائیگا یہ اسکے خواب کی تعبیر ہے، اور دوسرا (بھی) تین دن کے بعد (جیل سے) رہا کیا جائیگا تو وہ سولی چڑھایا جائیگا پرندے اس کے سر کو (نوج نوج کر) کھائیں گے یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے، تو ان دونوں نے کہا ہم نے کوئی خواب و اب نہیں دیکھا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا جس کا تم نے سوال کیا اس کا فیصلہ کر دیا گیا خواہ تم نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، اور دونوں میں سے جس کے بارے میں بری ہونے کا یقین تھا اس سے کہا اور وہ ساقی تھا، اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا اور اس سے کہنا ایک غلام زندان میں ظلما بند ہے، چنانچہ وہ (قید خانہ سے) رہا ہو گیا مگر شیطان نے ساقی کو اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا جس کی وجہ سے یوسف قید میں کئی سال رہے کہا گیا ہے کہ سات سال رہے اور کہا گیا ہے کہ بارہ سال رہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

- قَوْلُهُ:** فسجن اس حذف میں اشارہ ہے کہ واو عاطفہ ہے اور دخل کا عطف محذوف پر ہے اور محذوف سجن ہے۔
- قَوْلُهُ:** الملك اس بادشاہ کا نام ریان بن الولید تھا۔
- قَوْلُهُ:** ای عنبا یہ مایول الیہ کے اعتبار سے مجاز ہے لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ خمر نچوڑنے کی چیز نہیں ہے۔
- قَوْلُهُ:** مخبرا انه عالم بتعبیر الرؤیا، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جواب، سوال کے مطابق نہیں ہے۔
- قَوْلُهُ:** فی منامکما، اس اضافہ کا مقصد اس تفسیر کو دفع کرنا ہے جو بعض مفسرین نے طعام ترزقانہ کی اس کھانے سے کی ہے جو کہ قیدیوں کو دیا جاتا تھا، اسلئے کہ اس تفسیر کے مطابق دونوں قیدیوں کے سوال اور یوسف علیہ السلام کے جواب میں مطابقت باقی نہیں رہتی اسلئے کہ سوال خواب میں کھانے کی اشیاء کے بارے میں تھا اور جواب بیداری میں کھانے کے بارے میں ہے۔
- قَوْلُهُ:** ذلکما یہ اسم اشارہ بعید کے لئے ہے اور مراد خواب کی تعبیر کا علم ہے۔
- قَوْلُهُ:** ذلک التوحید اسم اشارہ بعید کے بجائے اسم اشارہ قریب کا لانا علوم مرتبہ اور عظمت توحید کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔
- قَوْلُهُ:** ثم صرح بدعائهما الی الایمان یعنی ماقبل میں توحید کی دعوت کنایہ اشارۃ تھی یہاں صراحت ہے لہذا تکرار کا اعتراف ختم ہو گیا۔

قَوْلًا: صاحبی یہ صاحب کا تثنیہ ہے اصل میں صاحبین تھا منادی مضاف ہونے کی وجہ سے آخر سے نون ساقط ہو گیا۔

قَوْلًا: لعصمتنا اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَال: یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ہمارے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائیں، یہ نامناسب ہونا صرف حضرت یوسف اور ان کے اباء واجداد ہی کیلئے نامناسب اور نازیبا نہیں ہے بلکہ یہ تو تمام انسانوں کے لئے نامناسب ہے پھر یوسف علیہ السلام کا اپنے ساتھ خاص کرنا کہاں تک صحیح ہے؟

جَوَاب: لعصمتنا کا اضافہ کر کے اسی سوال کا جواب دیا ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفر و شرک کا نامناسب ہونا ہمارے لئے اس لئے نہیں ہے کہ وہ حرام ہے بلکہ اس لئے نامناسب ہے کہ ہم کو اس سے پاک و صاف اور محفوظ رکھا گیا ہے بخلاف غیر انبیاء کے ان کو کفر سے پاک و صاف اور محفوظ نہیں رکھا گیا ہے اگرچہ کفر و شرک کو ان کے اوپر حرام کیا گیا ہے۔

قَوْلًا: سمیتم بھا، سمیتموھا کی تفسیر سمیتم بھا سے کرنے کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع اسماء ہے لہذا ترجمہ ہوگا کہ وہ چند نام ہیں جن کا تم نے نام رکھ لیا ہے اس طرح اسماء کے لئے اسماء کا ہونا لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ حرف جر ضمیر منصوب سے پہلے محذوف ہے تقدیر عبارت سمیتم بھا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے سمیتمہ زیدا ای سمیت زیدا۔

قَوْلًا: مایصیرون یہ یعلمون کا مفعول ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

یوسف علیہ السلام پس دیوار زندان اور دونو جوانوں کا جیل خانہ میں دخول:

ودخل معه السجن فتيان، حسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دونو جوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے، یہ دونوں نو جوان شاہی دربار سے وابستہ تھے ایک ان میں سے بادشاہ کا ساتھی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا ذمہ دار، جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانہ کے فرعون کا نام ریان بن الولید تھا، اور اس ساتھی کا نام ابروہایا دیونا تھا اور دوسرے کا نام مخلب یا غالب تھا، نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

ان دونوں جوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ:

بیان کیا گیا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے بادشاہ کو راستہ سے ہٹانے کی سازش کی اور اس کا آلہ کار ان دونوں نو جوانوں کو بنایا ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے یا پانی میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کر دو گے تو تمہیں بہت سامال دیں گے، یہ دونوں نو جوان اس پر آمادہ ہو گئے مگر بعد میں ساتھی اس معاملہ سے الگ ہو گیا



لیکن نان پز اس پر قائم رہا اور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملا دیا جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں اس لئے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے اور خباز نے جب یہ صورت حال دیکھی تو کہا بادشاہ سلامت آپ یہ مشروب نہ پیئیں اس لئے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے بادشاہ نے ساقی سے کہا تم اس مشروب کو پوچنا ساقی نے پی لیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد نان پز سے کہا تم یہ کھانا کھاؤ اس نے انکار کر دیا، وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا چنانچہ وہ جانور مسموم کھانا کھا کر مر گیا، بادشاہ نے دونوں کو قید خانہ بھیج دیا ساقی کو ابتداءً شریک سازش ہو نیکی وجہ سے اور خباز کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔

(حاشیہ جلالین)

## قید خانہ میں دعوت و تبلیغ:

حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقویٰ و طہارت راستبازی و حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانہ میں ممتاز تھے تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے حتیٰ کہ قید خانہ کا داروغہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا تھا غرضیکہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی زندانیاں اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے یا داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رؤیا کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا ایک روز وہ دونوں نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہو ہم نے خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر بتائیں، یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا محض یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے لئے انہوں نے فرضی خواب بیان کئے تھے علامہ سیوطی کی رائے بھی یہی ہے مگر دیگر اکثر مفسرین کی رائے اس کے خلاف ہے۔

خلاصہ یہ کہ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کئے اول ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کے لئے انگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نبی اور نبی زاد تھے دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ و ریشہ میں پیوست تھا، اسلئے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا، گو قید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ موقع کو غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہیں منجملہ ان کے تعبیر رؤیا کا علم بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو۔

میں نے ان لوگوں کی ملت کو اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کی پیروی کی ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں،

یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔

اے دوستو! تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا یکتا اللہ کا جو سب پر غالب ہے، تم اس کے علاوہ جن کی بھی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں برہان و سند نہیں اتاری حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی راہ مستقیم ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بھی نہیں ہیں۔

## رشد و ہدایت کی تبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر خواب کی طرف متوجہ ہونا:

یا صاحبی السجن اما احذکما، توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوستو! جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ قید سے رہا ہو کر حسب سابق بادشاہ کے ساتی کی خدمت انجام دے گا اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائیگی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکیں اور فیصلہ یہی ہے۔

## احکام و مسائل

### آیات مذکورہ سے مفہوم چند احکام و مسائل:

- ① جیل خانہ عام طور پر مجرموں اور بد معاشوں کی بستی سمجھی جاتی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا معاملہ کیا جس سے یہ سب لوگ گرویدہ ہو گئے، اس سے معلوم ہوا کہ مصلحین کے لئے ضروری ہے کہ مجرموں اور بد معاشوں کو بھی حسن معاشرت کے ذریعہ مانوس و مربوط کریں ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔
- ② انا نراک من المحسنین سے یہ معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہئے جن کے نیک اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو۔

- ③ یہ بھی معلوم ہوا کہ اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کو چاہئے کہ اپنے عمل و اخلاق کے ذریعہ لوگوں کا اپنے اوپر اعتماد بحال کریں خواہ اس میں ان کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار کرنا پڑے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کیا، اگر یہ اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو فلا تضرک انفسکم کی ممانعت میں نہیں آتا۔

- ④ چوتھی بات یہ بتلائی گئی کہ داعی اور مصلح کا فرض ہے کہ ہر حال میں اپنے وظیفہ دعوت و تبلیغ کو مقدم رکھے، جب بھی کوئی موقع میسر ہو خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی



خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ان کو رشد و ہدایت کا تحفہ عطا فرمایا، یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لئے کسی جلسے یا منبر اور اسٹیج ہی درکار ہوتے ہیں، شخصی اور نجی ملاقاتوں کے ذریعہ یہ کام زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

۵ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لئے اس قیدی سے جس کا دوبارہ اپنی ملازمت پر بحال ہونا یقینی تھا کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے قصور جیل میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لئے کسی شخص کی کوشش کو واسطہ بنانا تو کل کے خلاف نہیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ مِصْرَ الرِّیَانِ بْنِ الْوَلِیدِ اِنِّیْ اَرٰی رَایْتَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَّاكُلُهُنَّ سَبْعُ مِّنَ الْبَقَرِ عِجَافٌ وَ سَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَّاٰخَرُ اِی سَبْعِ سَنَبَلَاتٍ یُّبْسِتُ قَدَالَتُوتِ عَلٰی الْخَضِرِ وَعَلَتْ عَلَیْهَا یَا اَیُّهَا الْمَلَا اَفْتُوْنِیْ فِی رَءِیَّ اِی بِنُو اِلٰی تَعْبِیْرَهَا اِنْ كُنْتُمْ لِلرَّءِیِّ یَا تَعْبُرُوْنَ ۝۴۷ فَاَعْبَرُوْهَا قَالُوْا هٰذِهِ اَضْغَاثُ اِخْلَاطٍ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعِلْمِیْنَ ۝۴۸ وَقَالَ الَّذِیْ نَجَّاهُمَا اِی مِّنَ الْفَتٰییْنِ وَهُوَ السَّاقِیْ وَادَّكَرَ فِیْهِ اِبْدَالَ التَّاءِ فِی الْاَصْلِ دَالًا وَّادَ غَاثَهَا فِی الدَّالِ اِی تَذَكَّرَ بَعْدَ اَمَّةٍ حِیْنَ حَالَ یُوسُفُ اَنَا اَنْبِئُكُمْ بِتَاوِیْلِہِ فَاَرْسَلُوْا ۝۴۹ فَارْسَلُوْهُ اِلَیْہِ فَاتٰی یُوسُفَ فَقَالَ یَا یُوسُفُ اَیُّهَا الصِّدِّیْقُ الْکَثِیْرُ الصَّدَقِ اَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَّاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَّاٰخَرُ یُّبْسِتُ لَعَلِّیْ اَرْجِعُ اِلَی النَّاسِ اِی الْمَلِكِ وَاَصْحَابِہِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُوْنَ ۝۵۰ تَعْبِیْرَهَا قَالَ تَزْرَعُوْنَ اِی اَزْرَعُوْا سَبْعَ سَنَیْنٍ ذَا بَأْسٍ بِسَکُوْنِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِہَا مِتَّابِعَةٌ وَہِی تَاوِیْلِ السَّبْعِ السَّمَانِ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ اَتْرَکُوْہِ فِی سُنْبُلِہِ لِئَلَّا یَفْسُدَ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تَاکُلُوْنَ ۝۵۱ فَدُوسُوْہِ ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ اِی السَّبْعِ الْمَخْصَبَاتِ سَبْعُ شِدَادٍ مَّجْدَبَاتٍ صَعَابٌ وَہِی تَاوِیْلِ السَّبْعِ الْعِجَافِ یَّا کُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَہُنَّ مِّنَ الْحَبِّ الْمَزْرُوعِ فِی السَّنَیْنِ الْمَخْصَبَاتِ اِی تَاکُلُوْنَہِ فِیْہُنَّ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ۝۵۲ تَدْخُرُوْنَ ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ اِی السَّبْعِ الْمَجْدَبَاتِ عَامٌ فِیْہِ یُغَاثُ النَّاسُ بِالْمَطَرِ وَفِیْہِ یَعْصِرُوْنَ ۝۵۳ الْاَعْنَابُ وَغَیْرُهَا لَخَصْبِہِ وَقَالَ الْمَلِکُ لَمَّا جَاءَہُ الرَّسُوْلُ وَاخْبَرَہُ بِتَاوِیْلِہَا اَثُوْنِیْ بِہِ اِی بِالذِّیْ عْبَرُہَا فَلَمَّا جَاءَہُ اِی یُوسُفَ الرَّسُوْلُ وَطَلَبَہُ لِلْخُرُوجِ قَالَ قَاصِدًا اَظْہَارُ بَرَاءَ تَہِ اَرْجِعْ اِلَی رَبِّکَ فَسْأَلْہُ اِنْ یَسَّالَ مَا بَالَ حَالَ النَّسُوَةِ الَّتِی قَطَعْنَ اَیْدِیْہُنَّ اِنْ رَزِیْ سِیْدِیْ یُکِیْدُہُنَّ عَلِیْمٌ ۝۵۴ فَرَجَعَ فَاخْبَرَ الْمَلِکَ فَجَمَعُوْہُنَّ قَالَ مَا خَطْبُکُنَّ شَانِکُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَّفْسِہِ ۝۵۵ هَلْ وَجَدْتُنَّ مِنْہِ سِیْلًا اِیْکُنْ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ اِنَّکُمْ لَخَصَصَ وَضَحَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُہُ عَنْ نَّفْسِہِ وَاِنَّہُ لَمِنَ الصِّدِّیْقِیْنَ ۝۵۶ فِی قَوْلِہِ ہِی رَاوَدْتَنِیْ عَنْ نَفْسِیْ فَاخْبَرَ یُوسُفَ بِذٰلِکَ فَقَالَ ذٰلِکَ اِی طَلَبُ الْبَرَاءَةِ لَیَعْلَمَ الْعَزِیْزُ اِنِّیْ لَمَّا خُنْتُہُ فِیْ اَہْلِہِ بِالْغَیْبِ حَالَ

**تَرْجُمہ:** مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات فرہ گایوں کو سات دہلی گائیں کھارہی ہیں (عجاف) عجفاء کی جمع ہے اور سات ہری بالیں ہیں اور دوسری سات خشک بالیں ہیں اور سوکھی بالیں ہری بالوں پر لپٹی ہوئی ہیں اور سوکھی بالیں ہری بالوں پر غالب آگئی ہیں، اے دربار یوتم میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ درباریوں نے جواب دیا یہ منتشر خیالات کے خواب ہیں اور ہم منتشر خیالات کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اور اس نو جوان نے جو دونو جوانوں میں سے (جیل سے) رہا ہوا تھا اور وہ ساتی تھا جس کو ایک مدت دراز کے بعد یوسف علیہ السلام کا حال یاد آ گیا کہا (واد کر) میں اصل میں تاء دال سے بدلی ہوئی ہے اور دال کا دال میں ادغام ہے، یعنی یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے اجازت دیجئے چنانچہ اس کو یوسف کے پاس جانے کی اجازت دیدی، اس نے (جا کر) کہا اے سرپاراستی، یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ سات فرہ گائیں ہیں جنہیں سات دہلی گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں اور سات دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں یعنی بادشاہ اور اسکے درباریوں کے پاس جا کر خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ خواب کی تعبیر جان لیں یوسف نے کہا کہ تم سات سال تک مسلسل کھیتی کرو (دأبا) ہمزہ کے سکون اور فتح کے ساتھ بمعنی مسلسل یہ سات فرہ گایوں کی تعبیر ہے اور جو فصل تم کاٹو اسکو خوشوں (بالوں) میں ہی رہنے دینا تاکہ غلہ خراب نہ ہو، صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق ہی غلہ (خوشہ) سے نکالو، پھر ان شادابی کے سات سالوں کے بعد سات سال نہایت خشک سالی یعنی تکلیف کے آئیں گے اور یہ سات دہلی گایوں کی تعبیر ہے، شادابی کے سالوں کا اگایا ہوا غلہ جس کو تم نے خشکی کے سالوں کے لئے جمع کیا ہے وہ (خشکی کے سال) اس کو کھا جائیں گے، یعنی تم ان سالوں میں اس (ذخیرہ شدہ) غلہ کو کھا جاؤ گے مگر اس میں بہت تھوڑا سا جس کو تم بحفاظت بچا سکو (باقی رہیگا) پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا یعنی خشک سالی کے سات سالوں کے بعد کہ اس میں لوگوں پر بارش کے ذریعہ فریادری کی جائے گی (یعنی خوب بارش برسائی جائے گی) اور اس سال میں لوگ شادابی کی وجہ سے (خوب) انگور وغیرہ نچوڑیں گے، جب قاصد (واپس) آیا اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے اسے میرے پاس لاؤ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے جیل سے باہر آنے کی درخواست کی تو (یوسف) نے قاصد سے اپنی اظہار براءت کے طور کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ میرا آقا (عزیز) ان عورتوں کے مکر سے بخوبی واقف ہے چنانچہ قاصد واپس گیا اور بادشاہ سے صورت حال بیان کی چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا (اور) ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ تھا کہ تم نے یوسف کو اس کے نفس کے بارے میں رجھانے (پھسلانے) کی کوشش کی تھی، کیا تم نے اس کا ادنیٰ میلان بھی تمہاری طرف پایا؟ انہوں نے جواب دیا معاذ اللہ (حاشا وکلا) ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی عزیز کی بیوی بولی اب تو



سچی بات ظاہر ہو گئی میں نے ہی اس کو اس کی ذات کے بارے میں رجھانے کی کوشش کی تھی وہ یقیناً اپنے قول ”ہی راود تنسی عن نفسی“ میں سچا ہے، یوسف کو اس کی اطلاع دی گئی، اور یہ بے گناہی ثابت کرنا اسلئے تھا کہ عزیز جان لے کہ پیٹھ پیچھے اس کی اہل میں خیانت نہیں کی (بالغیب) (اخذہ کے) فاعل یا مفعول سے حال ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔

## تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** رأیت، اس میں اشارہ ہے کہ مضارع ماضی کے معنی میں ہے حالت ماضیہ کی منظر کشی کے طور پر مضارع سے تعبیر کیا ہے۔

**قَوْلٌ:** عجاف جمع عجفاء، عجاف، عجفاء کی جمع ہے نہ کہ عجیف کی اس لئے کہ یہ بقرة کی صفت ہے۔  
**سُؤَالٌ:** افعّل اور فعلاء کی جمع فعال کے وزن پر نہیں آتی، قیاس کے مطابق عجف ہونا چاہئے جیسا کہ حمراء کی جمع حمراء آتی ہے۔

**جَوَابٌ:** یہ حمل النقیض علی النقیض کے قبیل سے ہے عجاف چونکہ سمان کی ضد ہے اسلئے عجاف کو سمان پر قیاس کر کے عجاف جمع لائے ہیں۔

**قَوْلٌ:** سبع سنبلات کو سبع بقرات پر قیاس کرتے ہوئے سنبلات میں سبع کو حذف کر دیا ہے جس کو مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے۔

**سُؤَالٌ:** گایوں کی حالت کو بیان کیا کہ سات دہلی گائیں سات فرہ گایوں کو کھا گئیں مگر سنبلات کی حالت بیان نہیں کی جس کو مفسر علام نے التوت سے بیان کیا ہے۔

**جَوَابٌ:** بقرات کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے سنبلات کی حالت کے بیان کو ترک کر دیا۔

**قَوْلٌ:** فاعبر وھا، یہ حذف جزا کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ:** ہذہ اس میں اشارہ ہے کہ اضغات مبتداء محذوف کی خبر ہے لہذا کلام کے غیر مفید ہونے کا شبہ ختم ہو گیا، اضغات ضعت کی جمع ہے گھاس کے مٹھے کو کہتے ہیں جس میں تر و خشک ہر قسم کی گھاس ہو یہاں خوابہائے پریشان مراد ہیں جن میں وسوسوں اور حدیث نفس کا دخل ہوتا ہے۔

**قَوْلٌ:** احلام، حلم کی جمع ہے خواب کو کہتے ہیں۔

**قَوْلٌ:** امة، امت سے یہاں لوگوں کی جماعت مراد نہیں ہے بلکہ جماعت ایام یعنی مدت طویلہ مراد ہے مفسر علام نے امة کی تفسیر حین سے کر کے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلًا: حال یوسف اس میں اشارہ ہے کہ واد کر میں واو حالیہ ہے لہذا عامل قال، اور معمول انا انبکم کے درمیان فصل کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قَوْلًا: یوسف یہ اد کر کا مفعول ہے۔

قَوْلًا: بالمطر اس میں اشارہ ہے کہ یغاٹ، غیٹ سے ہے نہ کہ غوث سے۔

قَوْلًا: سیدی، ربی کی تفسیر سیدی سے کر کے اشارہ کر دیا کہ ربی سے سردار عزیز مراد ہے نہ کہ خالق، اللہ۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

پردہ غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت:

آیات مذکورہ میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت پیدا فرمائی، کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی مملکت کے تعبیر دانوں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا تا کہ ان سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ فرعون مصر کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، فرعون کا خاندان نسلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا، مصر کی تاریخ میں ان کو ہکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی، جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی دراصل یہ عرب عاربہ ہی کی ایک شاخ تھی۔

مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فاراع (فرعون) تھا اسلئے کہ مصری دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتاے امن، راع (سورج دیوتا) تھا اور بادشاہ وقت اس کا اوتار (یعنی) فاراع کہلاتا تھا یہی فاراع عبرانی میں فارعن ہوا اور عربی میں فرعون کہلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام ریان بن ولید بتایا گیا ہے اور مصری جدید تحقیقات آثار میں آیونی کے نام سے موسوم ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام ابھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا، فرعون نے تعبیر دانوں نجومیوں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے بلایا مگر خواب سکر سب نے کہہ دیا کہ یہ تو اضغاث احلام ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا، اسی اثناء میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا، اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر



اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لاسکتا ہوں، بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے کیوں کہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں۔

## خواب کی حقیقت:

تفسیر مظہری میں ہے کہ واقعات کی جو صورتیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں، اس عالم میں اس کے خاص معنی ہوتے ہیں فن کا تمام تر مدار اس بات کے جاننے پر ہے کہ فلاں صورت مثالی سے اس عالم میں کیا مراد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا آپ نے خواب سنکر سمجھ لیا کہ سات فرہ گائیں (بیل) اور سات ہرے بھرے خوشوں سے خوشحالی کے سات سال مراد ہیں کہ جن میں معمول کے مطابق بلکہ کچھ زیادہ ہی پیداوار ہوگی کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے نیز جوتنے اور بونے سے خاص تعلق ہے، اور سات دبلے اور کمزور بیلوں اور سات خشک خوشوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے خوشحالی کے سات سالوں کے بعد سات سال نہایت خشک سالی کے آئیں گے، اور دہلی گایوں کے فرہ گایوں کے کھانے کا مطلب کہ سات سالوں کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ بعد کے سات سالوں میں خرچ ہو جائیگا صرف بیج وغیرہ کے لئے کچھ غلہ بچے گا۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر:

حضرت یوسف کے کمال صبر و استقلال کا اندازہ کیجئے اور جلالت قدر کا اندازہ لگائیے کہ جن ظالموں نے مجھ بے قصور کو زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے ان کی یہی سزا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہئے وہ یہ کہ تم سات سال تک لگا تار کھیتی کرتے رہو اور یہ تمہاری خوشحالی کے سات سال ہوں گے جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لئے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلہ کو ان کے خوشوں میں رہنے دو تا کہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں اس کے بعد سات سال سخت قحط سالی کے آئیں گے وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئیگا کہ خوب بارش ہوگی کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔

ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بنکر کہنے لگا ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔

## بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں:

جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کی تحقیق کا مطالبہ:

حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے بلا وجہ ان کو زندانی بنا کر رکھا اب جبکہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سنایا تو چاہئے تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی ہیں اس لئے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائیگا اور میرا بے قصور ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے، لہذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آجائے، اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔

## صحیحین میں واقعہ یوسف کا ذکر:

بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و ضبط کو بہت سراہا اور کسر نفسی کی حد تک اس کو بڑھا کر یہ ارشاد فرمایا۔

(بخاری کتاب الانبیاء)

لو لبثت فی السجن مالبث یوسف لأجبت الداعی.

اگر میں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا جس قدر یوسف رہے تو بلانے والے کی دعوت فوراً قبول کر لیتا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ تھیں ایک یہ کہ حضرت یوسف کو اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی مگر قید کے معاملہ میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی ان سب نے مل کر عزیز مصر کی بیوی کو قید کے مشورہ کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ کیا یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔



دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عزیز مصر نے میرے ساتھ ہر ممکن حسن سلوک برتا ہے اس لئے مناسب نہیں کہ میں ان کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔

غرضیکہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے، جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولیں۔

قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔

”بولیں حاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔“

مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔

الئن حصص الحق انارا و دتہ عن نفسہ و انه لمن الصدقین۔

”جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھی بلاشبہ وہ (اپنے بیان میں) بالکل سچا ہے۔“

ثم تواضع لله فقال وَمَا أْبْرَىٰ نَفْسِيَّ مِنَ الزَّلَلِ إِنَّ النَّفْسَ الْجَنَسَ لَأَمَّارَةٌ كَثِيرَةُ الْأَمْرِ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا بِمَعْنَىٰ مِنْ رَحْمَتِيَّ فَعَصَمَهُ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِيَّ اجْعَلْهُ خَالِصًا لِي دُونَ شَرِيكِ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَقَالَ اجِبِ الْمَلِكُ فَقَامَ وَودع اهل السجن ودعاهم ثم اغتسل ولبس ثيابا حسنا ودخل عليه فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ لَهُ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝ ذُو مَكَانَةٍ وَأَمَانَةٍ عَلَىٰ أَمْرِنَا فَمَاذَا تَرَىٰ أَنْ نَفْعَلَ قَالَ اجْمَعْ الطَّعَامَ وَازْرَعْ زُرْعًا كَثِيرًا فِي هَذِهِ السَّنِينَ الْمُخَصَّصَةِ وَادْخُرِ الطَّعَامَ فِي سَنَبِلِهِ فَيَأْتِيكَ الْخَلْقُ لِيَمْتَارُوا مِنْكَ فَقَالَ مَنْ لِي بِهَذَا قَالَ يُوسُفُ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ أَرْضُ مِصْرَ إِنِّي خَافُظٌ عَلِيمٌ ۝ ذُو حِفْظٍ وَعِلْمٍ بِأَمْرِهَا وَقِيلَ كَاتِبٌ وَحَاسِبٌ وَكَذَلِكَ كَانَعَامُنَا عَلَيْهِ بِالْخُلَاصِ مِنَ السَّجْنِ مَكْنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَرْضُ مِصْرَ يَتَّبِعُوا يَنْزِلُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ بَعْدَ الضِّيقِ وَالْحَبْسِ وَفِي الْقِصَّةِ أَنَّ الْمَلِكَ تَوَجَّهَ وَخَتَمَهُ وَوَلَاهُ مَكَانَ الْعَزِيزِ وَعَزَلَهُ وَمَاتَ بَعْدَ فَرْجِهِ أَمْرَاتُهُ زَلِيخَا فَوَجَدَهَا عَذْرَاءَ وَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ وَأَقَامَ الْعَدْلَ بِمِصْرَ وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابَ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ أَجْرِ الدُّنْيَا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

ترجمہ: پھر اللہ کے لئے تواضع کی اور پھر (یوسف علیہ السلام نے) کہا میں اپنے نفس کی لغزشوں سے پاکیزگی بیان

نہیں کرتا جنس نفس تو بلاشبہ کثرت سے برائی کا حکم کرنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی رحم کرے تو اس کو بچا لیتا ہے۔ ما بمعنی من ہے، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ تا کہ میں اسے اپنے لئے مخصوص کر لوں، یعنی میں اس کو بغیر کسی شریک کے حاصل کر لوں، چنانچہ قاصد یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ کے پاس آیا اور کہا بادشاہ کا حکم مانو، تو حضرت یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ اٹھے اور رفقاء زندان کو رخصت کیا اور ان کو دعاء دی، پھر غسل کیا اور عمدہ لباس پہنا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، چنانچہ جب آپس میں گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے کہا اب آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانتداری پر پورا بھروسہ ہے یعنی آپ ہمارے معاملات میں با اقتدار اور امین ہیں، اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہئے؟ (حضرت یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ نے) فرمایا غلہ کا ذخیرہ کرو اور ان سرسبزی اور شادابی کے سالوں میں کثرت سے کھیتی کراؤ اور غلہ کو اس کے خوشوں ہی میں رہنے دو لوگ آپ کے پاس غلہ لینے آئیں گے، تو بادشاہ نے کہا میری طرف سے اس کی کون ذمہ داری لے گا، یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا ملک مصر کے خزانے میرے سپرد کیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، (یعنی) محافظ بھی ہوں اور اس کے معاملات (طریق کار) سے واقف بھی ہوں، کہا گیا ہے کہ میں لکھنا بھی جانتا ہوں اور حساب دان بھی ہوں، جس طرح ہم نے جیل سے رہائی دے کر اس پر انعام کیا، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں تنگی اور قید کے بعد اقتدار بخشا اس طریقہ پر کہ (ملک میں) جہاں چاہے رہے قصہ یہ کہ بادشاہ نے اس کی تاج پوشی کی اور اس کو اپنی (شاہی) مہر سونپ دی، اور عزیز کے منصب پر ان کو مقرر کر دیا، اور عزیز کو معزول کر دیا، اس کے بعد عزیز کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ کا نکاح عزیز کی بیوی زلیخا سے کر دیا، حضرت یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اس کو کنواری پایا حضرت یوسف کے اس سے دو بچے پیدا ہوئے اور (یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ نے) مصر میں ایسا عدل قائم کیا کہ گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے، نیکو کاروں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے اور یقیناً ایمان والوں اور پرہیزگاروں کا آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بدرجہا بہتر ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** وما ابرئ نفسی یہ جملہ، ذلك لیعلم سے حال ہے، یعنی ذلك کے عامل مقدر یعنی اطلب البراءة لیعلم الخ سے حال ہے، مطلب یہ ہے کہ اطلب البراءة سے جو تنزیہ نفس مفہوم ہو رہی اس سے عزیز مصر کی بیوی کے معاملہ میں تنزیہ اور بے گناہی مراد ہے نہ کہ مطلقاً لغزشوں اور خطاؤں سے، خلاصہ یہ ہے کہ ماقبل میں جو میں نے طلب براءت کی ہے سے تنزیہ نفس مراد نہیں۔

**قَوْلُهُ:** الجنس، ای الذی فی ضمن جمیع الافراد، اگر مفسر علام جنس کے بجائے استغراق سے تعبیر کرتے تو بہتر ہوتا۔



**قَوْلًا:** ما بمعنی من ہے اس لئے کہ نفس سے مراد ذوالعقول ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ مدارِ حم معنی میں زمان کے ہو تو اس صورت میں ما کو من کے معنی میں لینے کی ضرورت نہ ہوگی، ای الا وقت رحمة ربی تقدیر عبارت یہ ہوگی، انہا امارۃ فی کل وقت الا وقت العصمة۔

**قَوْلًا:** اجعلہ، اس میں اشارہ ہے کہ استخلصہ معنی میں تصویر کے ہے اسلئے کہ طلب کے معنی درست نہیں ہیں۔

**قَوْلًا:** فقال من لی بهذا، ای من یضمن هذا لاجلی۔

**قَوْلًا:** ومات بعده ای بعد العزل۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

ایتونی بہ استخلصہ لنفسی، اس کو (جلد) میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لئے مخصوص کر لوں یوسف علیہ السلام جب بایں رعنائی و دلبری، بایں عصمت و پاکبازی، اور بایں عقل و دانش زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راستبازی، امانت داری، اور وفاء عہد کا تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اپنی نظیر آپ ہے اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا، ”انک الیوم لدینا مکین امین“ پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔

قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجئے میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنادیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالہ کر کے مختار عام کر دیا۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی:

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زلیخا کے شوہر عزیز مصر (قطفیر) کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے کر دی اس وقت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی زلیخا نے اعتراف کر کے اپنا عذر بیان کیا۔

اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزری تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دولٹ کے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور میشا تھا۔

## مصر میں قحط کی ابتداء:

غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لئے مصر روانہ ہوا، خدا کی قدرت دیکھئے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گننام غلام بنا چکے تھے مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف عَلَيْهِ السَّلَام نے ان کو پہچان لیا البتہ وہ یوسف عَلَيْهِ السَّلَام کو نہ پہچان سکے۔

و دخلت سنو القحط واصاب ارض كنعان والشماء وجاء اخوة يوسف الابنيامين ليبتا روالما بلغهم ان عزيز مصر يعطى الطعام بثمانه فدخلوا عليه فعرفهم انهم اخوته وهم له منكرون<sup>۵۸</sup> لا يعرفونه لبعده عهدهم به وظنهم هلا كه فكلموه بالعبرانية فقال كالمنكر عليهم ما اقدمكم بلادى فقالوا للميرة فقال لعلكم عيون قالوا معاذ الله قال فمن اين انتم قالوا من بلاد كنعان وابونا يعقوب نبي الله قال وله اولاد غيركم قالوا نعم كنانا اثني عشر فذهب اصغرنا هلك في البرية وكان احبنا اليه وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه فامر بانزالهم واكرامهم ولما جهزهم بجهازهم وفي لهم كيلهم قال اتتوني باخ لكم من ابيكم اي بنيامين لا علم صدقكم فيما قلتم الا ترون اني اوفي الكيل اتمه من غير بخس وانا خير المنزلين<sup>۵۹</sup> فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي اي ميرة ولا تقربون<sup>۶۰</sup> نهى او عطف على محل فلا كيل اي تحرموا ولا تقربوا قالوا سئرا ودعنه اباه سنجتهد في طلبه منه وانا لفعلون<sup>۶۱</sup> ذلك وقال لفتيانه وفي قراءة لفتيانه غلامانه اجعلوا بضاعتهم التي اتوا بها ثمن الميرة وكانت دراهم في رحالهم او عيتهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم وفرغوا او عيتهم لعلهم يرجعون<sup>۶۲</sup> الينا لانهم لا يستحلون امساكها فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل ان لم ترسل معنا اخانا اليه فارسل معنا اخانا نكتل بالنون والياء وانا له لحفظون<sup>۶۳</sup> قال هل ما امنكم عليه الا كما امنكم على اخيه يوسف من قبل وقد فعلتم به ما فعلتم قال الله خير حفظا وفي قراءة حافظا تميز كقولهم لله دره فارسا وهو ارحم الرحمين<sup>۶۴</sup> فارجوان



یمن بحفظہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِي مَا اسْتَفْهَمْنَا إِيَّاهُ شَيْءٌ نَطْلُبُ مِنْ أَكْرَامِ الْمَلِكِ اعْظَمِ مِنْ هَذَا وَقِرَىٰ بِالْفَوْقَانِيَةِ خَطَابًا لِيَعْقُوبَ وَكَانُوا ذَكَرُوا لَهُ أَكْرَامَهُ لَهُمْ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا نَاتِي بِالْمِيرَةِ لَهُمْ وَهِيَ الطَّعَامُ وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَزِدُكَ كَيْلَ بَعِيرٍ لَا خِيَانَا ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ ⑮ سهل علی الملک لسخائہ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا عَهْدًا مِنْ اللَّهِ بَانَ تَحْلِفُوا لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ إِي تَمُوتُوا أَوْ تَغْلِبُوا فَلَا تُطِيقُوا لِاتِّبَانِ بِهِ فَاجَابُوهُ إِلَىٰ ذَلِكَ فَلَمَّا اتَّوَهُ مَوْثِقَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ نَحْنُ وَأَنْتُمْ وَكَيْلٌ ⑯ شهید وارسلہ معہم وَقَالَ يَبْنَىٰ لَا تَدْخُلُوا مِصْرَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ لِّئَلَّا تُصِيبَكُمْ الْعَيْنُ وَمَا أُغْنِيْ أَدْفَعُ عَنْكُمْ بِقَوْلِي ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ زَائِدَةٍ شَيْءٌ قُدْرَهُ عَلَيْكُمْ وَأَمَّا ذَلِكَ شَفَقَةٌ إِنْ مَا الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بِهِ وَثَقْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ⑰ قَالَ تَعَالَى وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ إِي مُتَفَرِّقِينَ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ إِي قَضَائِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَكِنْ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَهِيَ ارَادَةُ دَفْعِ الْعَيْنِ شَفَقَةٌ فَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَهْمُ الْكُفَّارِ لَا يَعْلَمُونَ ⑱ الْهَامُ اللَّهُ لَا وَلِيَّائِهِ.

**ترجمہ:** اور قحط کے سال شروع ہو گئے اور (اس کے اثرات) ملک کنعان اور شام تک پہنچ گئے، جب اہل کنعان کو یہ اطلاع پہنچی کہ عزیز مصر قیمۃ غلہ دیتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی سوائے بنیامین کے غلہ لینے کے لئے (مصر) آئے چنانچہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے، (اسکی جدائی کو) مدت دراز گزر جانے کی وجہ سے اور اس کے بارے میں یہ گمان ہونے کی وجہ سے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہوگا، بھائیوں نے یوسف سے عبرانی زبان میں گفتگو کی، یوسف علیہ السلام نے انجان بنکر ان سے معلوم کیا کہ میرے ملک آنے کا تمہارا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ غلہ لینے کے لئے آئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم جاسوس ہو، کہنے لگے اللہ کی پناہ (پھر ان سے) پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بلاد کنعان سے اور ہمارے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ تمہارے علاوہ بھی اس کی کوئی اولاد ہے جواب دیا ہاں ہم کل بارہ بھائی تھے ہمارا چھوٹا بھائی تو جنگل میں گیا تھا ہلاک ہو گیا وہ ہمارے والد کو ہم سب میں زیادہ پیارا تھا، اور اس کا حقیقی بھائی موجود ہے اس کو ہمارے والد صاحب نے اپنے پاس روک لیا ہے تاکہ اس سے تسلی حاصل کرے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اکرام کے ساتھ ٹھہرانے کا حکم دیا، اور جب ان کا ساز و سامان تیار کر دیا اور ان کو خوب پیانا بھر بھر کے دیدیا، تو فرمایا کہ تم (آئندہ) اپنے علاقے بھائی کو بھی لے کر آنا یعنی بنیامین کو تاکہ تمہاری بات کی سچائی کو میں جان سکوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں یعنی بغیر کمی پورا بھرتا ہوں، اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں، اگر تم اس کو

میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی غلہ (وَلَّہ) نہیں ہے اور میرے پاس بھی مت آنا (لا تقربون) نہیں ہے فلاکیل کے محل پر عطف ہے یعنی تم کو محروم کر دیا جائیگا اور تم قریب (بھی) مت آنا، تو بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں پھسلائیں گے (سمجھائیں گے) اور ان سے لینے کے لئے پوری کوشش کریں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے اور (یوسف نے) اپنے خادموں سے کہا اور ایک قراءت میں لفتیانہ ای لغلمانہ ہے کہ تم ان کی پونجی کو جس کو وہ غلہ خریدنے کے لئے لائے ہیں اور وہ دراہم تھے ان کی بوریوں میں رکھ دو شاید کہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں اور اپنی بوریوں کو خالی کریں تو اپنی پونجی کو پہچان لیں تو ممکن ہے کہ وہ ہمارے پاس واپس آئیں اسلئے کہ وہ اس (پونجی) کو اپنے پاس رکھنا حلال نہ سمجھیں گے، چنانچہ جب وہ اپنے ابا جان کے پاس واپس پہنچے تو کہا اے ہمارے ابا جان (آئندہ) ہم کو غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی (بنیامین) کو اس کے پاس نہ بھیجیں گے، لہذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کر سکیں، (نکتہ) نون اور یاء کے ساتھ ہے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے (یعقوب علیہ السلام) نے کہا میں تمہارے اوپر بنیامین کے بارے میں اعتماد نہیں کر سکتا مگر ویسا ہی جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے اعتماد کیا تھا، اور اس کے ساتھ تم نے وہی کیا جو تم نے کیا، لہذا اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور ایک قراءت میں (حفیظ) کے بجائے حافظا ہے یہ تمیز ہے جیسا کہ ان کے قول للہ درہ فارسا میں اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر کے احسان کریگا اور جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو پونجی ان ہی کو لوٹا دی گئی ہے اور بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا جان بادشاہ کی طرف سے اس سے زیادہ ہمیں اور کیا اکرام چاہئے؟ (مانبغی) میں ما استفہامیہ ہے اور (نبغی) کوتاء کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے حضرت یعقوب کو خطاب کرتے ہوئے، اور بھائیوں نے اپنے ابا جان سے بادشاہ کے ان کے اکرام کرنے کا تذکرہ کیا تھا، دیکھئے یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے اور ہم اپنے اہل خانہ کے لئے غلہ لائیں گے اور میرہ غلہ کو کہتے ہیں، اور اپنے بھائی کی حفاظت رکھیں گے اور ہم اپنے بھائی کا ایک اونٹ بوجھ مزید لائیں گے اور یہ مقدار بادشاہ کے لئے اس کی سخاوت کی وجہ سے آسان ہے (یعقوب علیہ السلام) نے فرمایا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا تا آن کہ تم اللہ کی قسم کھا کر عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس (واپس) لاؤ گے الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی مر جاؤ یا مغلوب کر دیئے جاؤ جس کی وجہ سے تم اسے میرے پاس نہ لاسکو، چنانچہ بھائیوں نے شرطیں منظور کر لیں، جب بھائیوں نے اپنے ابا جان سے اس کا عہد و پیمان کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہم اور تم جو عہد و پیمان کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچو تم سب مصر میں ایک دروازہ سے مت داخل ہونا (بلکہ) متفرق دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم کو نظر نہ لگ جائے، میں اپنے اس قول سے اللہ کی طرف سے کسی ہونے والی چیز کو نہیں ٹال سکتا من زائدہ ہے (یعنی) جو چیز اس نے تمہارے لئے مقدر کر دی ہے (اس کو نہیں ٹال سکتا) یہ تو محض شفقت (پداری) ہے حکم صرف اللہ وحدہ کا چلتا ہے میرا بھروسہ تو اسی پر ہے یعنی اسی پر اعتماد کیا ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو



اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب بھائی اپنے ابا جان کے کہنے کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اللہ کی تقدیر سے انھیں کوئی چیز نہیں بچا سکی لیکن یعقوب کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جسے انہوں نے پورا کیا (ظاہر کیا) اور وہ شفقت نظر بدفع کرنے کا ارادہ تھا، بلاشبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ اور وہ کفار ہیں، اپنے اولیاء پر اللہ کے الہام کو نہیں جانتے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** وجاء اخوة يوسف واوعافطہ ہے اس کا عطف محذوف پر ہے جس کو مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے یعنی فراغت اور خوشحالی کے سال ختم ہو کر جب قحط اور تنگی کے سال شروع ہوئے اس کے اثرات کنعان و شام وغیرہ میں بھی محسوس کئے گئے جس سے حضرت یعقوب عليه السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی تنگی لاحق ہوئی تو حضرت یعقوب عليه السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مصر کا نیک دل بادشاہ مناسب قیمت پر غلہ فروخت کر رہا ہے لہذا تم بھی جاؤ اور اپنی حاجت کی بقدر لے کر آؤ چنانچہ یوسف عليه السلام کے بھائی آئے۔ (ای، وجاء اخوة يوسف)۔

**قَوْلُهُ:** يمتاروا ای لیشتروا الميرة، فميرة اس غلہ کو کہا جاتا ہے جس کو ایک شہر سے دوسرے شہر کو لایا جاتا ہے۔  
**قَوْلُهُ:** لا تقربون یا تو نہی ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے اس کا نون وقایہ کا ہے، یا فلا کیل پر عطف ہے اس صورت میں محل جزاء پر عطف ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوگا۔

**قَوْلُهُ:** تحرموا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَال:** فلا کیل لکم کی تفسیر تحرموا سے کیوں کی ہے؟

**جَوَاب:** اس لئے کہ لا تقربوا کا عطف لا کیل لکم پر ہے اور یہ عطف الفعل علی الاسم کے قبیل سے ہے جو کہ جائز نہیں ہے لہذا لا کیل لکم کو تحریموا کی تاویل میں کر دیا تاکہ فعل کا عطف فعل پر ہو جائے۔

**قَوْلُهُ:** لتعلمنا، اس میں اشارہ ہے کہ لما کا مصدر یہ ہے نہ کہ موصولہ۔

## تفسیر و تشریح

وجاء اخوة يوسف فدخلوا (الآیة) غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، کنعان میں خاندان یعقوب عليه السلام بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب عليه السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ چنانچہ والد صاحب کے حکم سے یہ کنعانی قافلہ غلہ خریدنے کے لئے مصر کے لئے روانہ ہوا خدا کی قدرت دیکھئے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی غلام بنا چکے تھے مگر

اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا ”غلام“ آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر دس بارہ سال رہی ہوگی اور اب چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اگر کسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف، اور تخت شاہی۔!

### برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام:

تورات کا بیان ہے کہ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اسی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا، غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کرید کرید کر معلوم کیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کی حسب مرضی غلہ بھر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا اسلئے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔

برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاوؤں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے تو عجب نہیں کہ وہ اس پونجی کو مصری بیت المال کا مال ہونیکی وجہ سے اپنے لئے حلال نہ سمجھتے ہوئے واپس کرنے کے لئے آئیں، ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کئے ہیں ایک تو یہی جو اوپر بیان ہوا، دوسرا یہ کہ شاید یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس نقدی کے علاوہ اور نقدی نہ ہو جس کی وجہ سے دوبارہ غلہ لینے کے لئے نہ آسکیں تیسرے یہ کہ اپنے والد، اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارہ نہ کیا ہو اور اس غلہ کی قیمت شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کرادی ہو۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے یہ انتظامات اس لئے کئے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو جائے۔

### برادران یوسف واپس کنعان میں:

برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلہ کے لئے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک کہ



اپنے علاقائی بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں اور تمہاری حفاظت ہی کیا اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔

اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی ان ہی کو واپس کر دی گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چاہئے؟ دیکھئے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لئے رسد لائیں، اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اسلئے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں کافی نہیں ہے۔

### یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار:

بہر حال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو ہر گز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لئے جائیں اور ہر طرح سے مجبور نہ کر دیئے جائیں ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے، جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا تب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہئے۔

قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازہ سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہر گز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے اسلئے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔

ولما دخلوا من حيث امرهم ابوہم الخ یعنی برادران یوسف مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آجائیں، اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدابیر بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔

## مسائل و فوائد:

یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ سے اس بات کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں گے تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں لیکر مناسب قیمت مقرر کر سکتی ہے حضرات فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (معارف)

یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو اپنے حالات سے باخبر نہ کرنا امر الہی سے تھا:

حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ میں ایک بات نہایت حیرت انگیز یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد صاحب جو خدا کے پیغمبر بھی تھے ان کی مفارقت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں لیکن چالیس سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں اپنی خیریت کی خبر کسی طرح ان تک پہنچا دیتے لیکن یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہو، اور بھائیوں کو بھی اظہار واقعہ کے بغیر ہی رخصت کر دیا۔

یہ تمام حالات کسی ادنی انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ حقیقت یہ کہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اظہار حال سے روک دیا تھا کہ اپنے گھر کسی قسم کی کوئی خبر نہ دیں تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے کون اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ اپنی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے، بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ فِي لِحْنِ الْبَيْتِ فَأَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مِّنَ الْحَسَدِ لَنَا وَامْرَأَةٍ لَا يَخْبِرُهُمْ وَتَوَاطَّأَ مَعَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلَىٰ أَن يَبْقِيَ عِنْدَهُ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ هِيَ صَاعٌ مِّنْ ذَهَبٍ مَّرْصَعٌ بِالْجَوَاهِرِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ بَنِيَامِينَ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ نَادِيًا مِّنَادٍ بَعْدَ انْفِصَالِهِمْ عَنْ مَجْلِسِ يُوسُفَ أَيَّتُهَا الْعِجْرُ الْقَافِلَةُ ﴿٢٠﴾ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٢١﴾ قَالُوا وَ قَدْ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا مَالِ الَّذِي تَفْقَدُونَ ﴿٢٢﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ مِّنَ الطَّعَامِ وَأَنَا فِيهِ بِحَمْلِ زَعِيمٍ ﴿٢٣﴾ كَفِيلٌ قَالُوا تَاللَّهِ قَسَمٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٢٤﴾ مَّا سَرَقْنَا قُطٌّ قَالُوا أَيُّ الْمُؤَذِّنِ وَأَصْحَابِهِ فَمَا جَزَاؤُهُ أَيُّ السَّارِقِ إِنَّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٢٥﴾ فِي قَوْلِكُمْ مَا كُنَّا سَارِقِينَ وَوَجَدَكُمْ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَبْدَأُ خَبَرِهِ مَن وَجَدَ فِي رَحْلِهِ يَسْتَرْقُ ثُمَّ أَكْدَ بِقَوْلِهِ فَهُوَ أَيُّ السَّارِقِ جَزَاؤُهُ أَيُّ



المسروق لا غیر و كانت سنة ال يعقوب كَذَلِكَ الجزاء نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝۵۰ بالسرقۃ فصرفوا الى يوسف لتفتيش او عیتهم فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ ففتشها قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ لئلا يتهم ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا اى السقاية مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ قَالَ تعالى كَذَلِكَ الكيد كَذْنَا لِيُوسُفَ علمناه الاحتيال فى اخذ اخيه مَا كَانَ يوسف لِيَأْخُذَ أَخَاهُ رقيقا عن السرقة فِي دَيْنِ الْمَلِكِ حكم ملك مصر لان جزاؤه عنده الضرب وتغريم مثلى المسروق لا الاسترقاق إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اخذه بحكم ابيه اى لم يتمكن من اخذه الابمشية الله تعالى بالهامه سوال اخوته وجوابهم بسنتهم نَرَفَعُ دَرَجَتِكَ مِنْ شَاءٍ بالاضافة والتنوين فى العلم كيوسف وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ من المخلوقين عَلِيمٌ ۝۷۱ اعلم منه حتى ينتهى الى الله تعالى قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ اى يوسف و كان سرق لابی امه صنما من ذهب فكسره لئلا يعبدہ فَاسْرَهَا يُّوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا يَظْهَرُهَا لَهُمْ والضمير للكلمة التى فى قوله قَالَ فى نفسه أَنْتُمْ سَرَقْتُمْ مَكَانَهُ من يوسف واخيه لسرقتكم اخاكم من ابيكم وظلمكم له وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَالَمٌ بِمَا تَصِفُونَ ۝۷۲ تذكرون فى امره قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا يحبه اكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه فَخُذْ أَحَدَنَا اسْتَعْبِدْهُ مَكَانَهُ بدل امه إِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝۷۳ فى افعالك قَالَ مَعَآذَ اللَّهِ نصب على المصدر حذف فعله واضيف الى المفعول اى نعوذ بالله من أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۝۷۴ لم يقل من سرق تحرزا من الكذب إِنَّا إِذَا ان اخذنا غيره لَظَلِمُونَ ۝۷۵

**ترجمہ:** اور جب (برادران یوسف) یوسف کے حضور پہنچے تو (یوسف نے) اپنے بھائی (بنیامین) کو اپنے پاس

ٹھہرایا اور کہا میں تیرا وہی بھائی ہوں (جو گم ہو گیا تھا) لہذا اب تم اس حرکت پر جو یہ ہم سے حسد کی بنا پر کرتے رہے ہیں رنجیدہ نہ ہو، اور اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس کی خبر ان کو نہ دینا، اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ عنقریب کوئی ایسا حیلہ کیا جائیگا کہ اس کے ذریعہ اس کو اپنے پاس روک لے اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سامان ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیا وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس پر جواہر جڑے ہوئے تھے، پھر ایک آواز دینے والے نے ان کے یوسف کی مجلس سے جدا ہونے کے بعد آواز دی، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ جواب دیا شاہی پیانہ گم ہے، اور جو شخص لا کر دے گا اس کو ایک بار شتر غلہ انعام ملے گا اور اس بار شتر کا میں ضامن ہوں، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس قسم میں تعجب کے معنی ہیں، تم خوب جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں، یعنی ہم نے ہرگز چوری نہیں کی، اعلان کرنے والے اور اس کے ساتھیوں نے کہا چور کی (تمہارے نزدیک) کیا سزا ہے اگر تم اپنی بات "ماکنا سارقین" میں جھوٹے نکلے اور چور تمہارے اندر ہی سے نکلا، انہوں نے کہا اس کی جزاء خود وہ ہے جس کے سامان میں

وہ پیالہ نکلے (یعنی) اس کو غلام بنالیا جائے (جزاؤ ۵) مبتداء ہے من وجد الخ اس کی خبر ہے، پھر اس کو اپنے قول فہو جزاؤ ۵ سے مؤکد کیا، یعنی وہی چور اس مال مسروق کی جزاء ہے نہ کہ دوسرا اور آل یعقوب کا یہی دستور تھا، ہم تو ایسے ظالموں کو چوری کی ایسی ہی سزا دیتے ہیں، چنانچہ ان کو یوسف کے پاس ان کے سامان کی تلاشی کے لئے لایا گیا، چنانچہ اپنے حقیقی بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے یوسف علیہ السلام نے دوسروں کے سامان کی تلاشی شروع کی تاکہ تہمت کا شک نہ ہو پھر اس پیالے کو اپنے (حقیقی) بھائی کے سامان سے برآمد کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یوسف کے لئے ایسی ہی تدبیر کی یعنی اپنے بھائی کو روکنے کے لئے (یوسف کو) ایسی تدبیر سکھائی، یوسف کے لئے ملک مصر کے قانون کی رو سے یہ ممکن نہ تھا کہ چوری کے بدلے میں اپنے بھائی کو غلام بنالے اس لئے کہ چور کی سزا ان کے نزدیک زد و کوب کرنا اور مال مسروق کی دو گنی مقدار تاوان ڈالنا تھا نہ کہ غلام بنانا، مگر یہ کہ اللہ ہی یوسف کے والد کے قانون کے مطابق اس کو پکڑ کر رکھنا چاہے، یعنی یوسف اپنے بھائی کو روکنے پر محض اللہ کی مشیت ہی سے قادر ہوئے یوسف کو اپنے بھائیوں سے سوال کا الہام کے ذریعہ اور ان کے اپنے قانون کے مطابق جواب کے ذریعہ، ہم جس کے چاہیں علم میں درجات بلند کر دیں جیسا کہ یوسف کے (درجات من) میں اضافت اور تنوین (دونوں درست ہیں) مخلوق میں سے ہر ذی علم پر دوسرا ذی علم فوقیت رکھنے والا موجود ہے یعنی ہر ذی علم کے اوپر عالم موجود ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پر منتہی ہوتا ہے۔

قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائیوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے (یعنی) اس نے اپنے نانا کا سونے کا بت چرا کر توڑ دیا تھا تا کہ وہ اس کی بندگی نہ کرے، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل ہی میں رکھا (یعنی اس بات کو پی گئے) ان کے سامنے اس کو ظاہر نہ کیا اور (ہا) ضمیر اس کلمہ کی طرف راجح ہے جو ان کے قول سے مفہوم ہے (بس زیر لب) اتنا کہہ کر رہ گیا کہ تم تو یوسف اور اس کے بھائی سے بدتر ہو تمہارے اپنے بھائی کو اپنے باپ سے چرانے کی وجہ سے اور اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے بھائیوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے ہماری بہ نسبت اس سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اپنے ہلاک ہونے والے بیٹے کے بجائے اسی سے دل بہلاتا ہے، اور اس کی جدائی اس کو غم زدہ کر دے گی، لہذا اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو غلام بنا لیجئے، ہم برتاؤ میں آپ کو بڑا ہی نیک نفس سمجھتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا (ایسی نا انصافی سے) اللہ بچائے (معاذ اللہ) مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا فعل (نعوذ) حذف کر دیا گیا ہے اور مفعول کی جانب اضافت کر دی گئی ہے (ای نعوذ باللہ) یعنی اللہ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم اس کے علاوہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہو کسی دوسرے کو پکڑ کر رکھ لیں (حضرت یوسف علیہ السلام نے) جھوٹ سے بچنے کے لئے من سرق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اگر ہم نے کسی دوسرے کو پکڑ کر رکھ لیا تو اس صورت میں ہم بڑے نا انصاف کہلائیں گے۔



## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلُهُ:** تَوَاطَّأَ مَعَهُ، تَوَاطَّأَ، اِی تَوَافَقَ دَوْنُوں نِے اِتْفَاقَ کَر لِیَا۔

**قَوْلُهُ:** السَّقَايَةُ، پانی پلانے کا برتن پانی پلانے کی جگہ، پانی پلانا، یہاں پانی کا پیالہ مراد ہے، بعد میں اس پیالہ کو کیل کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، صاع اس میں ایک لغت صواع بھی ہے۔

**قَوْلُهُ:** لَنَلَا يَتَّهُمُ، تاکہ سازش کی تہمت نہ لگے۔

**قَوْلُهُ:** عَلِمْنَاهُ الْاِحْتِيَالَ، یہ کدنا لیوسف کی تفسیر ہے اس تفسیر کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف کید کی نسبت کی نفی مقصود ہے، کدنا کے معنی ہیں علمنا الکید، ہم نے یوسف کو حیلہ سکھایا۔

**قَوْلُهُ:** بِحُكْمِ اَبِيهِ، یعنی یوسف کے والد یعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ کی شریعت کے مطابق ان کی شریعت میں چوری کی سزا غلام بنالینا تھی۔

**قَوْلُهُ:** بِالْهَامِ سوال اخوتہ و جوابہم بسنتہم، مصری قانون کی رو سے بنیامین کو غلام بنا کر نہیں روک سکتے تھے، اسلئے کہ مصری قانون میں چوری کی سزا زد و کوب کرنا اور مال مسروقہ کی دو گنی مقدار تاوان وصول کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ کے دل میں بذریعہ الہام یہ بات ڈالی کہ خود ان ہی سے سوال کرو کہ چوری کی سزا کیا ہونی چاہئے تاکہ وہ اپنے قانون کے مطابق جواب دیں کنعانی قانون میں چوری کی سزا استرقاق (غلام بنانا تھی) اس طرح برادران یوسف نے خود ہی بنیامین کی سزا یعنی غلام بنالینا تجویز کر دیا۔

**قَوْلُهُ:** مِنَ الْمَخْلُوقِينَ بعض حضرات نے جن میں فلاسفہ اور معتزلہ بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ کے قول ”فوق کل ذی علم علیم“ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم بالذات ہے نہ کہ عالم بالصفات اسلئے کہ اگر اللہ تعالیٰ عالم بالصفات ہو تو ہر ذی علم کے اوپر علم ہے اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی علم ہو حالانکہ یہ باطل ہے۔

**جَوَابُ:** مفسر علام نے مِنَ الْمَخْلُوقِينَ کا اضافہ کر کے اسی سوال کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ذی علم پر فوقیت مخلوق کے اعتبار سے ہے نہ کہ خالق کے اعتبار سے، مِنَ الْمَخْلُوقِينَ کی قید کے بعد پھر حتیٰ ینتھی کی قید کی ضرورت نہیں رہتی۔

**قَوْلُهُ:** وَالضَّمِيرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي فِي الْخِ اس میں ما اضممر عاملہ علی شریطة التفسیر کی طرف اشارہ ہے، خازن میں ہے کہ فاسرّھا کی ضمیر مفعولی میں تین اقوال ہیں۔

① ضمیر بعد والے کلمہ یعنی انتم شر مکانا کی طرف راجع ہے۔

② فقد سرق اخ له کی طرف راجع ہے۔

③ ضمیر حجة کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہوگا کہ یوسف نے اس احتجاج کو ترک کر دیا۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

فلما دخلوا على يوسف الخ جب برادران يوسف شہر مصر میں داخل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق اُن کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی آؤ بھگت کی اور شاہی اکرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا، دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرایا چونکہ برادران یوسف گیارہ تھے دو دو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو تنہا ایک کمرہ میں ٹھہرایا اس میں مصلحت یہ تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہو سکیں چنانچہ آپس میں تنہائی میں خوب باتیں ہوئی ہوں گی دونوں حقیقی بھائیوں کی ملاقات ایک مدت دراز یعنی بیس اکیس سال بعد ہو رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن کن حالات سے گذرتے ہوئے اس مرتبہ پر پہنچے ہیں، بنیامین نے سنا ہوگا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کیں ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی ہوگی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے مصیبتوں کے دن ختم ہو چکے ہیں اب تم میرے ہی پاس رہو گے، یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ دلی خواہش رہی ہوگی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے اور یقیناً اس کیلئے کوئی تدبیر بھی ضرور سوچی ہوگی، مگر انتہائی خواہش کے باوجود یوسف علیہ السلام کے لئے ایسا کرنا ممکن نہ تھا اسلئے کہ مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو۔

## بنیامین کو روک لینے کی تدبیر:

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه آيات مذکوره میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لئے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدہ کے موافق غلہ دیدیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ الگ اونٹ پر رکھا گیا۔

بنیامین کے لئے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا، اس برتن کو قرآن مجید نے ایک جگہ لفظ ”سقایہ“ سے اور دوسری جگہ ”صواع الملک“ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے سقایہ کے معنی ہیں پانی پینے کا برتن اور صواع بھی اسی قسم کا ایک برتن ہوتا ہے اور نا۔ پنے کے برتن کو بھی صواع یا صاع کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی پینے کا کوئی مخصوص برتن ہو مگر برکت کے طور پر اسے غلہ ناپنے کے کام میں لیا جانے لگا ہو البتہ صواع الملک میں ملک کی جانب نسبت کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا، بہر حال وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا، قیمتی برتن ہونے کے علاوہ وہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔



ثم اذن مؤذن الخ یعنی کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ اے قافلہ والو! تم چور ہوندا دینے والا کوئی مطبخ وغیرہ کا ذمہ دار رہا ہوگا اور اس طے شدہ حیلہ کا علم نہ ہوگا اور جب سرکاری ساز و سامان کی جانچ پڑتال کی ہوگی تو وہ مخصوص برتن نہ ملنے کی وجہ سے برادران یوسف پر شبہ ہوا ہوگا اس لیے کہ شاہی محل میں ان کے سوا اور کوئی نہ ٹھہرا تھا جس کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگایا برادران یوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم پر خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو، آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ کارندے کہنے لگے شاہی پیالہ (پیالہ) گم ہو گیا ہے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائیگا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں، برادران یوسف نے کہا خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آچکے ہیں، کارندوں نے کہا اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہئے انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے یعنی وہ تمہارے حوالہ کر دیا جائیگا ہمارے یہاں چوری کی یہی سزا ہے، جب کارندوں نے برادران یوسف کا یہ جواب سنا تو تلاشی لینی شروع کی ابتداء دوسرے بھائیوں سے کی اور جب ان کے سامان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالہ برآمد ہوا اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ پیش کیا، حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بیحد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کار سازی کا شکر ادا کیا اور خاموش رہے اور یہ ظاہر نہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے خود رکھا تھا، ادھر بنیامین خاموش رہے چونکہ یہ واقعہ ان کی مرضی کے عین موافق تھا۔

برادران یوسف نے جب دیکھا کہ مسروقہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے لگے اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔

### حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب چوری کے واقعہ کی حقیقت:

ابن کثیر نے بحوالہ محمد بن اسحق، مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنیامین کی ولادت ہوئی تھی اور اسی ولادت کے سلسلہ میں ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا تھا اب یہ دونوں بچے بغیر ماں کے رہ گئے جس کی وجہ سے انکی تربیت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کو کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بیحد محبت کرنے لگتا تھا پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہیں تھیں، دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ایسا ہی حال تھا مگر بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ضرورت اس کی تھی ان کو ابھی کسی عورت ہی کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لئے پھوپھی کے حوالہ کر دیا جب یوسف علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف کو اپنے پاس رکھیں جب پھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کر دیا جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالہ کر دیا ایک تدبیر ان کو واپس

لینے کی یہ کی کہ پھوپھی کے پاس ایک پڑکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو ملا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی یہ پڑکا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا۔

یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت کر دی کہ میرا پڑکا چوری ہو گیا ہے جب تلاشی لی گئی تو یوسف کے پاس سے برآمد ہوا، شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ سکیں چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر پھوپھی کے حوالہ کر دیئے گئے اور جیتک پھوپھی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔

یہ واقعہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا تھا، اس واقعہ کی حقیقت اسی وقت سب لوگوں پر عیاں ہو گئی تھی کہ پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لئے یہ سازش رچائی تھی جس کو کسی طرح بھی چوری نہیں کہا جاسکتا مگر یوسف کے بھائیوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ چوری کا واقعہ نہیں تھا بددیانتی کی وجہ سے اس کو یوسف کے منہ ہی پر چوری کا واقعہ بنا کر پیش کیا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے بعض مفسرین نے نانا کے گھر سے سونے کی مورتی چرانے کی بات کہی جیسا کہ صاحب جلالین نے بھی نقل کیا ہے مگر یہ بات کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے وکان ابو امہ کافراً یعبدا الاصنام فامرته امہ بان یسرق تلك الاوثان ویکسرها ففعل۔ (کہیں)

جب یوسف نے دیکھا کہ خود ان کے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں تو ضبط سے کام لیا اور غصہ کو پی کر رہ گئے اور دل میں کہا کہ تمہارے لئے نہایت بری جگہ ہے کہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو حالانکہ اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

### برادران یوسف کا آپس میں مشورہ:

برادران یوسف نے جب یہ صورت حال دیکھی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح بنیامین کو حاصل کیا جائے؟ جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو کہنے لگے اب صرف ایک صورت باقی ہے کہ خوش آمدانہ عرض معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کو واپسی کی ترغیب دلائیں، کہنے لگے اے سردار با اقتدار ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اس کو اس سے پہلے بھائی کا بھی غم ہے آپ اس پر رحم کیجئے اور آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے آپ بلاشبہ پاک نفس اور بااخلاق شخص ہیں عزیز مصر (یوسف) نے کہا، خدا کی پناہ یہ کیسے ممکن ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا يَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا مَصْدَرٌ يَصْلَحُ لِلوَاحِدِ وَغَيْرِهِ اِي يَنَاجِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ كَبِيرُهُمْ سَنَا رَوِيْلٌ اَوْرَايَا يَهُودَا اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتَقًا عَهْدًا مِّنَ اللّٰهِ فِىْ اَخِيْكُمْ وَمِنْ قَبْلُ مَا زَائِدَةٌ فَطَرْتُمْ فِىْ يُّوسُفَ وَقِيلَ مَا مَصْدَرِيْهِ مَبْتَدَأُ خَبْرُهُ مِنْ قَبْلِ فَلَنُاْبِرَحَ اَرْضَ مِصْرَ الْاَرْضِ بِالْعُودِ اِلَيْهِ حَتَّى يَاْذَنَ لِّىْ اَبِىَّ بِالْعُودِ اِلَيْهِ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ بِخُلَاصٍ اُخَى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ۝۸۰ اَعْدَلَهُمْ



إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا تَقِينَا مِنْ مَشَاهِدَةِ الصَّاعِ فِي رَحْلِهِ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ لِمَا غَاب عَنَّا حِينَ اعْطَاكَ الْمُوثِقَ حَفِظِينَ<sup>(٨٦)</sup> وَلَوْ عَلَّمْنَا أَنَّهُ يَسْرِقُ لَمْ نَأْخُذْهُ وَسُئِلَ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا هِيَ مِصْرَ أَيْ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَاسْأَلَهُمْ وَالْعِيرَ أَيْ أَصْحَابَ الْعِيرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ كِنْعَانَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ<sup>(٨٧)</sup> فِي قَوْلِنَا فَارْجِعُوا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ زَيْنَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً<sup>(٨٨)</sup> ففعلتموه اتهمهم لما سبق منهم في أمر يوسف فَصَبَرَ جَمِيلٌ<sup>(٨٩)</sup> صَبْرٌ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ بِيُوسُفَ وَأَخُوهُ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بِحَالِي الْحَكِيمُ<sup>(٩٠)</sup> فِي صَنْعِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ تَارِكاً خُطَابَهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ أَلْفَ بَدَلٍ مِنْ يَاءٍ الْإِضَافَةُ أَيْ يَاحْزَنِي عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنُهُ انْصَحَقَ سَوَادُهُمَا وَبَدَلَ بَيَاضاً مِنْ بَكَائِهِ مِنَ الْحُزَنِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَظِيمٌ<sup>(٩١)</sup> مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ لَا يَظْهَرُ كَرْبُهُ قَالُوا تَاللَّهِ لَا تَقْتُؤَا تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا مَشْرِفًا عَلَىٰ الْهَلَاكِ لَطُولُ مَرَضِكَ وَهُوَ مُصْدَرٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَغَيْرُهُ أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ<sup>(٩٢)</sup> الْمَوْتَى قَالَ لَهُمْ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي هُوَ عَظِيمُ الْحُزَنِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْتَثَ إِلَى النَّاسِ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ لَا إِلَىٰ غَيْرِهِ فَهُوَ الَّذِي تَنْفَعُ الشُّكُوى إِلَيْهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ<sup>(٩٣)</sup> مِنْ أَنَّ رُؤْيَا يُوسُفَ صَدَقَ وَهُوَ حَىٰ ثُمَّ قَالَ لِبَنِي إِذْ هَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ أَطْلُبُوا أَخْبَرَهُمَا وَلَا تَأْيِسُوا تَقْنَطُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ رَحْمَتُهُ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ<sup>(٩٤)</sup> فَانْطَلَقُوا نَحْوَ مِصْرَ لِيُوسُفَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَالْجُوعُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ مَدْفُوعَةٍ يَدْفَعُهَا كُلُّ مَنْ رَأَاهَا لَرَدَاءِ تَهَاوُكَانَتْ دِرَاهِمُ زَيْوْفَا وَغَيْرِهَا فَأَوْفَىٰ أَمْ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا بِالْمَسَامَحَةِ عَنْ رَدَاءَةِ بِضَاعَتِنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ<sup>(٩٥)</sup> يَشْبَهُهُمْ فَرَّقَ عَلَيْهِمْ وَأَدْرَكَتْهُ الرَّحْمَةُ وَرَفَعَ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ تَوْبِيخاً هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ مِنَ الضَّرْبِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَخِيهِ مِنْ هَضْمِكُمْ لَهُ بَعْدَ فِرَاقِ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ<sup>(٩٦)</sup> مَا يُؤَلِّ إِلَيْهِ أَمْرُ يُوسُفَ قَالُوا بَعْدَ أَنْ عَرَفُوهُ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ شِمَائِلِهِ مَسْتَنْبِتِينَ عَرَانِكَ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ وَادْخَالِ الْفَاءِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِينِ لَأَنْتَ يُوسُفُ<sup>(٩٧)</sup> قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِالْاجْتِمَاعِ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ يَخَفُ اللَّهُ وَيَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَنَالُهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ<sup>(٩٨)</sup> فِيهِ وَضَعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا فَضْلَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِالْمَلِكِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ مَخْفَفَةٌ أَيْ أَنَا كُنَّا الْخَطِيئِينَ<sup>(٩٩)</sup> أَثْمِينَ فِي أَمْرِكَ فَاذِلْنَا لَكَ قَالَ لَا تَتْرِبَ عَتَبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مِظْنَةُ التَّثْرِيبِ فَغَيْرُهُ أُولَىٰ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ<sup>(١٠٠)</sup> وَسَأَلَهُمْ عَنْ أَبِيهِ فَقَالُوا ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ إِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا وَهُوَ قَمِيصُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي لَبَسَهُ حِينَ الْقِي

فِي النَّارِ كَانَ فِي عُنُقِهِ فِي الْجَبِّ وَهُوَ مِنَ الْجَنَّةِ امْرُؤٌ جَبْرَائِيلُ بَارِسَالَهُ لَهُ وَقَالَ اَنْ فِيهِ رِيحُهَا وَلَا يَلْقَى عَلَى مَسْتَلَى الْاَعْوْفَى فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ اَبِي يَاتٍ يَصِرُ بَصِيرًا وَاتَوْنِي بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۹۷﴾

**ترجمہ:** جب برادران یوسف، یوسف کی طرف سے بالکل ناامید ہو گئے تو ایک گوشہ میں جا کر مشورہ کرنے لگے (نجیاً) مصدر واحد اور غیر واحد سب پر اس کا اطلاق صحیح ہے، یعنی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان میں جو عمر کے لحاظ سے یارائے کے اعتبار سے بڑا تھا جس کا نام روبیل یا یہودا تھا بولا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے تمہارے بھائی کے بارے میں خدا کے نام پر پختہ عہد لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم زیادتی کر ہی چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے، ما، زائدہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ ما مصدر یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر من قبل ہے، اب میں تو ملک مصر کو ہرگز نہ چھوڑوں گا تا آن کہ ابا جان ہی مجھے اپنے پاس واپس آنے کی اجازت نہ دیدیں، یا اللہ ہی میرے بھائی کو رہائی دلا کر میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تم اپنے ابا جان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کر لی ہے (اس لئے گرفتار ہوئے ہیں) اور ہم وہی شہادت دے رہے ہیں جن کا ہم کو یقینی علم ہوا ہے، اس کے کجاوہ سے پیالہ برآمد ہوتے دیکھنے کی وجہ سے، اور قول و قرار کرتے وقت کچھ ہم غیب کے جاننے والے تو تھے نہیں اور اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ چوری کرے گا تو ہم (ہرگز) عہد نہ کرتے، اور اس بستی والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم تھے اور وہ بستی مصر ہے یعنی اس بستی والوں کے پاس کسی کو بھیج کر تحقیق کرا لیجئے اور اس قافلے والوں سے دریافت کر لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، اور وہ کنعانی لوگ ہیں، اور عیسر سے اصحاب غیر مراد ہیں، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں چنانچہ (نو بھائی) حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذکورہ تمام باتیں ابا جان سے کہیں (یعقوب علیہ السلام نے) کہا (حقیقت ایسی نہیں ہے) بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی جس کو تم نے عملی جامہ پہنا دیا، ان کو متہم کرنے کی وجہ بھائیوں کی وہ حرکت تھی جو وہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں کر چکے تھے، لہذا اب صبر ہی بہتر ہے، (تقدیر عبارت یہ ہے) فصبری صبر جمیل، مجھے امید ہے کہ اللہ یوسف علیہ السلام اور اس کے دونوں بھائیوں (بنیامین اور یہودا) کو میرے پاس پہنچا دے گا وہی میری حالت سے واقف (اور) اپنی صنعت میں با حکمت ہے اور ان سے سلسلہ گفتگو ختم کر کے ان کی طرف منہ پھیر لیا، اور کہا ہائے یوسف! اسفسی کا الف یاء اضافت سے بدلا ہوا ہے، معنی میں یا حزن کی ہے، یوسف کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں (یعنی) آنکھوں کی سیاہی زائل ہو کر سفیدی میں تبدیل ہو گئی تھی، وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے (یعنی) مغموم بے چین تھے، اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کر رہے تھے، بیٹوں نے کہا واللہ تم تو ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہو گے یہاں تک کہ اپنے طول مرض کی وجہ سے لب جان ہو جاؤ گے (حسرتاً) مصدر ہے اس میں واحد اور غیر واحد سب برابر ہیں، یا ہلاک ہی ہو جاؤ گے (یعقوب) نے ان سے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں نہ کہ کسی اور سے (بٹ) اس شدید غم کو کہتے ہیں کہ جس پر صبر نہ



کیا جاسکے یہاں تک کہ لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے ایک وہی ذات ایسی ہے کہ اسی سے فریاد فائدہ دے سکتی ہے اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو اس بات سے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے اور وہ زندہ ہے (یعقوب علیہ السلام) نے کہا میرے پیارے بچو! جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو (یعنی) ان کی خبر نکالو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو یقیناً اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، چنانچہ برادران یوسف مصر کی طرف روانہ ہوئے، جب یہ لوگ یوسف کے حضور حاضر ہوئے تو عرض کیا اے سردار با اقتدار ہم اور ہمارے بچے بھوک (فاقہ) میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں جس کو اس کے کھوٹے ہونے کی وجہ سے ہر وہ شخص رد کرتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اور وہ کھوٹے دراہم یا ان کے علاوہ تھے، آپ ہم کو بھر پور غلہ دیجئے اور ہماری کھوٹی پونجی سے چشم پوشی کرتے ہوئے ہمارے اوپر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے، یعنی ان کو اجر عطا کرتا ہے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو ان پر ترس آ گیا، اور یوسف کا دل ان پر نرم ہو گیا اور یوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان جو حجاب تھا وہ ہٹا دیا، پھر زجروتوئخ کے طور پر ان سے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ زد و کوب اور فروخت وغیرہ کا کیا سلوک کیا تھا؟ اور اس کے بھائی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تھا اس کے بھائی سے جدا ہونے کے بعد اس وقت جبکہ تم کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف کس رتبہ کو پہنچے گا، یوسف کی پہچان کے بعد جب یوسف کے خصائل ظاہر ہو گئے تو اقرار کرتے ہوئے کہنے لگے کیا تم سچ مچ یوسف ہی ہو؟ (ء انک) میں دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل اور دونوں کے درمیان دونوں صورتوں میں الف داخل کر کے، انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی (بنیامین) ہے بلاشبہ اللہ نے جمع کر کے ہمارے اوپر انعام فرمایا، واقعی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور پیش آنے والے مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا، اس میں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر رکھا ہے، کہنے لگے بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر ملک وغیرہ میں فضیلت دی ہے اور بے شک ہم تیرے معاملہ میں خطا اور گنہگار تھے ان مخففہ عن الثقیلہ ہے سو ہم کو (اللہ نے) تمہارے سامنے ذلیل کر دیا، (یوسف علیہ السلام) نے کہا آج تم پر کوئی ملامت (الزام) نہیں، عدم ملامت کے لئے ایوم کو خاص کیا اسلئے کہ وہ دن ملامت کا دن تھا لہذا دیگر ایام ملامت میں بطریق اولیٰ داخل ہوں گے، اللہ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور (یوسف نے) اپنے والد کے بارے میں دریافت کیا تو کہا ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، (یعنی نابینا ہو گئے ہیں) اب تم میرا یہ کرتے لے جاؤ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہی کرتہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالتے وقت پہنا تھا، اور کنویں میں بھی (یوسف) اس کو پہنے ہوئے تھے، اور وہ جنتی لباس تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کرتہ کو یعقوب کے پاس بھیجنے کے لئے کہا تھا، اور کہا تھا کہ اس میں ایک قسم کی خوشبو ہے، اور جب بھی کسی مبتلائے مصیبت پر ڈالا جاتا ہے اس کو عافیت نصیب ہوتی ہے، تم اس کو میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دو ان کی بینائی لوٹ آئی گی اور تم اپنے سب گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: استیئسوا، وہ ناامید ہو گئے (استیئاس) سے ماضی مذکر غائب۔

قَوْلٌ: یئسوا اس میں اشارہ ہے کہ استفعل معنی میں فعل کے ہے اور سین و تاء مبالغہ کے لئے ہیں، ای یئسوا یا ساء کاملاً۔

قَوْلٌ: مصدر صالح الخ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ خلصوا جمع ہے اور نجیا واحد ہے اور واحد کا حمل جمع پر جائز نہیں ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ نجیا مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق واحد و جمع سب پر ہوتا ہے۔

قَوْلٌ: ای یناجی بعضهم بعضاً، اس میں اشارہ ہے کہ نجیا حال ہے تقدیر عبارت یہ ہے خلصوا متناجین۔

قَوْلٌ: صبری اس میں اشارہ ہے کہ فصبر جمیل، صبری مبتداء محذوف کی خبر ہے، بعض حضرات نے صبری کے بجائے امری محذوف مانا ہے۔

قَوْلٌ: انمحق انمحاق (انفعال) یہ محق سے ماخوذ ہے بمعنی مٹانا اور باطل کرنا۔

قَوْلٌ: لا، اس میں اشارہ ہے کہ تفتئوا سے پہلے حرف نفی لا محذوف ہے، ورنہ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم بھول جاتے ہو اور یاد کرتے رہتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تفتئوا جواب قسم ہے اور جواب قسم جب ماضی مثبت واقع ہوتا ہے تو اس پر لام اور نون کا لانا ضروری ہوتا ہے حالانکہ یہاں یہ دونوں نہیں ہیں۔

قَوْلٌ: حرصاً، حرصاً مصدر ہے لہذا جمع پر حمل درست ہے۔

قَوْلٌ: مزجاة ازجیت سے ماخوذ ہے ازجیتہ ای دفعۃً۔

قَوْلٌ: مستثبتین اور بعض نسخوں میں متثبتین ہے، اس میں اشارہ ہے کہ هل علمتم اور ما فعلتم بیوسف میں ما استفہام تقریری ہے۔

قَوْلٌ: فاذلنا لك الخ ای جعلنا ذلیلاً۔ (ترویج الارواح)

## تفسیر و تشریح

فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا الخ جب برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے ان میں سے علم و فضل میں بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا یا عمر میں بڑے بھائی تھے جس کا نام روبیل تھا کہا میں تو یہیں رہوں گا آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جائیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی جس کی پاداش میں ان کو روک لیا گیا ہے، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ چشم دید حالات ہیں کہ مسروقہ مال ہمارے سامنے بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، اور ہمیں کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں کہ یہ چوری کرے گا ورنہ ہم ہرگز اس کو واپس لانے کی ذمہ داری نہ لیتے۔



چونکہ برادرانِ یوسف اس سے پہلے ایک فریبِ یوسف کے بارے میں دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے مذکورہ بیان سے والد صاحب کو ہرگز اطمینان نہ ہوگا، اس لئے مزید تاکید کے لئے کہا کہ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آپ مصر کے لوگوں سے تحقیق کرا لیں، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔

قال بل سولت لكم انفسكم الخ غرضیکہ یعقوب علیہ السلام نے برادرانِ یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی چونکہ یوسف کے معاملہ میں ان بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا اس لئے اس مرتبہ ان کی سچی بات کا بھی یقین نہیں کیا، اور کہہ دیا ”بل سولت لكم انفسكم امراً، فصبر جميل“ یعنی تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے میرے لئے صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھے ملا دے گا۔

وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف الخ اس دوسرے صدمہ کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملہ میں گفتگو موقوف کر دی اور اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کر دی، اور اسی غم میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی مقاتل نے کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت چھ سال رہی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنا شروع کر دیا دل ہی دل میں گھٹتے رہتے تھے کسی سے کچھ نہ کہتے تھے۔

## یعقوب علیہ السلام کی اتنی شدید آزمائش کس وجہ سے ہوئی؟

امام قرطبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس شدید ابتلا و امتحان کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے، اچانک حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ خراٹے کی آواز نکلی تو یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی ایسا تین مرتبہ ہوا تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ میرا دوست مجھ سے ہمکلامی کے وقت غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے میری عزت و جلال کی قسم کہ ان کی دونوں آنکھیں نکال لوں گا اور جس کی طرف توجہ کی ہے اس کو مدت دراز کے لئے اس سے جدا کر دوں گا۔ (معارف)

فلما دخلوا علیه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، جب برادرانِ یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات ہوئی تو خوش آمدانہ گفتگو شروع کی، اپنی محتاجی اور بیکسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کیلئے بھی مناسب قیمت موجود نہیں ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی نخالص چیزیں غلہ خریدنے کیلئے لے کر آئے ہیں آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول فرمالیں اور غلہ

پورا عنایت فرمادیں ہماری کھوٹی پونجی کی وجہ سے غلہ میں کمی نہ کریں، ظاہر ہے کہ ہمارا استحقاق نہیں ہے مگر آپ خیرات سمجھ کر دیدتے اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزاء خیر عطا کرتا ہے۔

یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہوئے اور یوسف علیہ السلام پر منجانب اللہ اظہار حال کی جو پابندی لگی ہوئی تھی اب اس کے خاتمہ کا وقت آ گیا تھا۔

### یعقوب علیہ السلام کا عزیز مصر کے نام خط:

تفسیر مظہری اور قرطبی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا جس کا مضمون یہ تھا۔

”منجانب یعقوب صفی اللہ بن اسحق ذیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ، بخدمت عزیز مصر اما بعد! ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعہ میرا امتحان لیا گیا، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام“۔

جب یوسف نے خط پڑھا تو کانپ گئے، اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور یوسف کی اس شان سے بھی ناواقف تھے جو اس کو حاصل ہونے والی تھی۔

برادران یوسف علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصہ سے کیا واسطہ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو پھر جب اس پر غور و تامل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لئے ان سے کہا۔

انک لانت یوسف کیا تو سچ مچ یوسف ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلادیا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ مجھے کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرماں روائی بھی عطا فرمادی، اور یہ نتیجہ ہے اس صبر و تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔



## بھائیوں کا اعتراف جرم:

بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی، فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح ایذائیں پہنچائی تھیں قتل کی سازشیں کیں معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا حتیٰ کہ وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا یہی ”لا تشریب علیکم الیوم“ کے الفاظ فرما کر معاف فرما دیا تھا۔

اذہبوا بقمیصی هذا الخ یعنی میں بحالت موجودہ شام کا سفر نہیں کر سکتا تم جاؤ اور والدین اور اپنے سب متعلقین کو یہاں لے آؤ چونکہ والد بزرگوار کی نسبت معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے اس لئے اپنا کرتہ دے کر فرمایا یہ ان کی آنکھوں کو لگا دینا بینائی بحال ہو جائے گی۔

ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے روانہ ہوا ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، خدا کی قدرت، یوسف قریب ہی چاہ کنعان میں موجود ہیں کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے کیونکہ خدا کو امتحان پورا کرنا تھا، مگر جب خدا کو منظور ہوا تو ادھر صد ہا میل دور مصر سے قافلہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ لے کر چلا ادھر پیرا ہن یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے مشام جان کو معطر کرنے لگی، کرتہ کی وجہ سے بینائی کا عود کر آنا ظاہر ہے کہ کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک معجزہ تھا، یوسف علیہ السلام کو باذن خداوندی معلوم ہو گیا تھا کہ جب ان کا کرتہ والد کے چہرے پر ڈالا جائیگا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کر دیں گے۔

## جنتی کرتہ کی خصوصیت:

ضحاک اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی اسلئے کہ یہ کرتہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تھا، پھر یہ جنتی کرتہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہا آپ نے اس کرتے کو ایک متبرک شئی سمجھ کر ایک نلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا تھا تا کہ نظر بد سے محفوظ رہیں، برادران یوسف نے جب دھوکا دینے کے لئے ان کا کرتہ اتار لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈالنے لگے تو جبریل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی سے کرتا نکال کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا اور یہ کرتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا، اس وقت بھی جبریل ہی نے

حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جنت کا لباس ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر نابینا کی آنکھوں سے لگا دیا جائے تو بینائی عود کر آتی ہے۔ (معارف)

## حضرت مجدد الف ثانی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی تحقیق:

حضرت مجدد الف ثانی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی اسلئے ان کے جسم کے متصل ہونے والے ہر کرتہ کی یہ خاصیت ہو سکتی ہے۔ (مظہری)

## مادی سبب:

یہ بات قابل توجہ اور قرین عقل و قیاس ہے کہ کسی شدید صدمہ کی وجہ سے جس طرح بینائی جاسکتی ہے اسی طرح بیحد مسرت اور خوشی کی وجہ سے عود بھی کر سکتی ہے، چنانچہ واقعات و مشاہدات کی وجہ سے یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ کسی سخت صدمہ یا غیر معمولی خوشی کے اثر سے بعض نابینا دفعۃً بینا ہو گئے ہیں۔ (فوائد عثمانی)

قرطبی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ برادران یوسف میں سے یہودا نے کہا کہ یہ کرتہ میں لے کر جاؤں گا کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے کر گیا تھا جس سے والد صاحب کو صدمہ پہنچا تھا، اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونی چاہئے۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ خَرَجَتْ مِنْ عَرِيشِ مِصْرَ قَالَ أَبُوهُمَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ بَنِيهِ وَأَوَّلَادِهِمْ إِنِّي لَأَجْدُرِيحُ

يُوسُفَ أَوْصَلْتَهُ إِلَيْهِ الصَّبَا بِأَذْنِهِ تَعَالَى مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ أَوْ أَكْثَرَ لَوْلَا أَنْ تُفْنِدُونِ ۙ

تَسْفَهُونِي لَصَدَقْتُمُونِي قَالُوا لَهُ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ خَطَايِكَ الْقَدِيمِ ۙ مَنْ أَفْرَاطُكَ فِي مَحَبَّتِهِ وَرَجَاءِ

لِقَائِهِ عَلَى بُعْدِ الْعَهْدِ فَلَمَّا أَنْ زَائِدَةُ جَاءَ الْبَشِيرُ يَهُودَا بِالْقَمِيصِ وَكَانَ قَدْ حَمَلَ قَمِيصَ الدَّمِ فَاحْبَبَ أَنْ

يَفْرَحَهُ كَمَا أَحْزَنَهُ الْقَتْلُ طَرَحَ الْقَمِيصَ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ رَجْعَ بَصِيرًا قَالِ الْمَاقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ۙ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۙ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ

اخر ذلك الى السحر ليكون اقرب الى الاجابة وقيل الى ليلة الجمعة ثم توجهوا الى مصر وخرج

يوسف والا كابر لتلقيهم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فِي مَضْرِبِهِ أَوَىٰ فِي مِصْرَ إِلَىٰ أَبِيهِ أَبَاهُ وَأُمُّهُ أَوْ خَالَتُهُ وَقَالَ

لَهُمْ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ۙ فَدَخَلُوا وَجَلَسَ يُونُسَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ وَرَفَعَ أَبُوهُ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ

عَلَى الْعَرْشِ السَّرِيرِ وَخَرُّوا أَيْ أَبَوَاهُ وَأَخُوته لَهُ سُجَّدًا ۙ سَجُودَ انْحِنَاءٍ لَا وَضَعَ جَبْهَةً وَكَانَ تَحْتِهِمْ فِي ذَلِكَ

الزَّمَانِ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُ رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِلَىٰ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ لَمْ



يقول من الجب تكرر ما لئلا يخجل اخوته وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ الْبَادِيَةِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ اِفْسَدَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بِخَلْقِهِ الْحَكِيمُ<sup>(۱۰)</sup> في صنعه واقام عنده ابوه اربعا وعشرين سنة اوسبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه ثمان عشرة اواربعين اوثمانين سنة وحضره الموت فوضي يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه فمضى بنفسه ودفنه ثمه ثم عاد الى مصر واقام بعده ثلاثا وعشرين سنة ولم ماتم امره وعلم انه لا يدوم تاقت نفسه الى الملك الدائم فقال رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا فَاطَّرَ خَالِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌّ مَتَوَلَى مَصَالِحِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ<sup>(۱۱)</sup> من ابائي فعاش بعد ذلك اسبوعا واكثر ومات وله مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفنوه في اعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من لا انتضاء لملكه ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ أَمْرِ يُوسُفَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ أَخْبَارَ مَا غَابَ عَنْكَ يَا مُحَمَّدٌ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ لَدَى إِخْوَةِ يُوسُفَ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ فِي كَيْدِهِ أَيْ عَزَمُوا عَلَيْهِ وَهُمْ يَمْكُرُونَ<sup>(۱۲)</sup> به اى لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها وانما حصل لك علمها من جهة الوحي وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ وَلَوْ حَرَصْتَ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِمُؤْمِنِينَ<sup>(۱۳)</sup> وَمَا سَأَلَهُمْ عَلَيْهِ أَيْ الْقُرْآنَ مِنْ أَجْرِ تَاخُذِهِ إِنَّ مَا هُوَ أَيْ الْقُرْآنَ الْأَذْكُرُ عِظَةً لِلْعَالَمِينَ<sup>(۱۴)</sup>

**ترجمہ:** اور جب یہ قافلہ مصر کی آبادی سے باہر نکلا تو ان کے والد نے حاضرین میں سے ان سے جوان کے بیٹے اور پوتوں میں سے موجود تھے کہا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اگر تم مجھے سٹھپایا ہوا قرار نہ دو تو تم میری تصدیق کرو گے، باد صبانے باذن خداوندی یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو یعقوب تک تین دن کی یا آٹھ دن کی یا اس سے زیادہ کی مسافت سے پہنچا دیا تھا، تو حاضرین نے ان سے کہا واللہ تم تو اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو اس سے بیحد محبت کرنے اور اس سے ملاقات کی (شدید) خواہش کی وجہ سے باوجود عرصہ دراز گزر جانے کے، چنانچہ جب خوشخبری دینے والا یہودا کرتے لے کر آیا اور یہودا ہی خون آلود کرتے لے کر گیا تھا لہذا اس نے چاہا کہ جس طرح میں نے ابا جان کو رنج پہنچایا تھا اسی طرح میں ہی ان کو پیغام مسرت سناؤں (اور) یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کرتہ ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لئے ہماری خطاؤں کی معافی طلب کیجئے بے شک ہم قصور وار ہیں، فرمایا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے معافی مانگوں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے، اس استغفار کو صبح (صادق) تک مؤخر کیا تا کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے، اور کہا گیا ہے کہ جمعہ کی رات تک مؤخر کیا پھر مصر کی طرف متوجہ ہوئے، اور یوسف اور عمائدین سلطنت ان کی ملاقات کے لئے (شہر سے) باہر نکلے،

جب (برادران یوسف کا) پورا گھرانہ یوسف کے پاس خیمہ میں پہنچ گیا تو اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی (یعنی) اپنے والد اور والدہ کو یا اپنی خالہ کو، اور کہا بمشیت خداوندی تم لوگ امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، چنانچہ یہ لوگ داخل ہوئے اور یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ تخت پر بیٹھے اور اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیا اور ان کے والدین اور ان کے بھائی یوسف کے سامنے سجدہ میں گر گئے اور یہ سجدہ جھکنے کے طور پر تھا نہ کہ زمین پر پیشانی رکھ کر، اور اس زمانہ میں ان لوگوں کو سلام کا یہی طریقہ تھا، تب (یوسف نے) کہا ابا جان یہ میرے سابق خواب کی تعبیر ہے میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور یہ نہیں کہا کہ کنویں سے نکالا بھائیوں کے اکرام کی وجہ سے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں اور آپ لوگوں کو اس اختلاف کے بعد کہ جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، صحرا سے آئے میرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہت علم والا (اور) اپنی صنعت کے بارے میں حکمت والا ہے اور یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنے والدین کو اپنے پاس ۲۲ سال یا ۲۷ سال مقیم رکھا، اور جدائی کی مدت ۱۸ سال یا ۲۰ سال یا ۸۰ سال تھی مصر ہی میں یعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ کا انتقال ہوا اور یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ کو وصیت کی کہ ان (کے تابوت) کو اٹھا کر لیجائیں اور ان کے والد (اسحق) کے پاس دفن کریں، چنانچہ یوسف بذات خود اس کو لے گئے اور ان کو (وصیت کے مطابق) دفن کیا، پھر مصر واپس آ گئے، اور اس کے بعد مصر میں ۲۳ سال رہے، اور جب ان کا کام (مصر میں) مکمل ہو گیا اور سمجھ گئے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور ان پر ملک بقاء کا شوق غالب آ گیا، تو یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر سکھلائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! یہی میرا مصلحتوں کا والی ہے دنیا اور آخرت میں تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور تو مجھے صالحین (یعنی) میرے آباء (واجداد) کے ساتھ ملا دے اس کے بعد حضرت یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ ایک ہفتہ یا اس سے (کچھ) زائد بقید حیات رہے اور ان کی عمر ۱۲۰ سال ہوئی اور اہل مصر نے یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ کے مقام دفن میں اختلاف کیا چنانچہ ان کو ایک سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے اوپر کی جانب دفن کر دیا تاکہ دونوں جانب کو برکت حاصل ہو، پاک ہے وہ ذات جس کے ملک کا کبھی اختتام نہیں ہے، یوسف کا یہ واقعہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے اے محمد جو تجھ سے مخفی ہیں، جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے جبکہ انہوں نے یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بارے میں سازش کی تھی، یعنی اس کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، حال یہ کہ وہ یوسف کے ساتھ مکر کر رہے تھے یعنی (اے محمد) تم برادران یوسف کے پاس موجود نہیں تھے کہ ان کے قصہ سے واقف ہوتے کہ اس واقعہ کی خبر دیتے، آپ کو اس کا علم بذریعہ وحی ہوا ہے اور اکثر لوگ یعنی اہل مکہ اگرچہ آپ ان کے ایمان کے خواہشمند ہیں قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ قرآن پر ان سے اجرت کا سوال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو وصول کرتے ہوں، یہ یعنی قرآن تو تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہی نصیحت ہے۔



## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** خرج من عريش مصر، عريش ایک قول کے مطابق ملک مصر و شام کی سرحد پر ایک مشہور شہر کا نام ہے دوسرا قول یہ ہے کہ عريش آبادی کو کہتے ہیں مراد مصر کی آبادی ہے۔

**قَوْلٌ:** من بنیہ و اولادہم اس سے معلوم ہوا ہے کہ برادران یوسف میں سے کچھ اپنے والد کے پاس بھی رہ گئے تھے حالانکہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ تمام بھائی مصر چلے گئے تھے، تفسیر خازن میں ہے من اولاد بنیہ، اور شیخ زادہ کی عبارت ہے ”من ولد ولده“۔

**قَوْلٌ:** اوصلته اليه الصبا، ای ریح الصبا مضاف محذوف ہے ای باد صبا، یہاں ایک قوی شبہ یہ ہے کہ صبا مشرق سے جانب مغرب چلنے والی ہوا کو کہتے اور مغرب سے مشرق کی جانب چلنے والی ہوا کو دبور کہتے ہیں اور شام مصر سے جانب مشرق میں واقع ہے لہذا شام کی طرف سے آئی والی ہوا صبا کہلائے گی لہذا صبا شام (کنعان) سے مصر کی طرف خوشبو کو لاتو سکتی ہے مگر یجا نہیں سکتی البتہ دبور مصر سے شام کی طرف خوشبو لیجا سکتی ہے مناسب ہوتا کہ مفسر علام صبا کے بجائے دبور فرماتے۔ (واللہ اعلم)

**قَوْلٌ:** تفندون (تفعیل، تفنید) صیغہ جمع مذکر حاضر درازی عمر کی وجہ سے عقل کا کمزور ہو جانا، سٹھیا جانا، عقل میں فتور یا نقصان کا آ جانا۔

**قَوْلٌ:** لصد قتمونی یہ لولا کا جواب ہے۔

**قَوْلٌ:** فی مضربة بڑا خیمہ۔

**سُؤال:** مضربة محذوف ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

**جواب:** اس لیے کہ دخلوا علی یوسف کہنے کے بعد ادخلوا مصر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اسلئے کہ دخول کے بعد دخول کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لئے فی مضربة محذوف مانا تا کہ اول دخول سے خیمہ میں دخول مراد ہو جو استقبال کے لئے شہر سے باہر بنایا تھا اس کے بعد دوسرا دخول شہر میں ہوا۔

**قَوْلٌ:** امہ او خالته اس میں اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ آیا یوسف کی والدہ راحیل اس وقت زندہ تھیں یا نہیں، بعض حضرات کا قول ہے کہ بقید حیات تھیں، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بنیامین کی ولادت کے وقت انتقال ہو گیا تھا ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل کی بہن لیآ سے نکاح کر لیا تھا اور مجازاً خالہ کو بھی ماں کہہ دیا جاتا ہے جس طرح چچا کو مجازاً ابا کہہ دیا جاتا ہے عبرانی میں بنیام دروزہ کو کہتے ہیں اسی مناسبت سے بنیامین نام رکھا گیا تھا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔

(حاشیہ جلالین)

**قَوْلٌ:** آمنین، ای آمنین من القحط وسائر المکارہ۔

قَوْلًا: الی اس میں اشارہ ہے کہ یاء بمعنی الی ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحِ

ولما فصلت العیر یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہم سب کو یہ داستان فراموش کر دینی چاہئے میں درگاہ الہی میں دعاء کرتا ہوں کہ وہ تمہاری غلطی معاف فرمادے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔  
اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرے پیراہن کو لیتے جاؤ یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا انشاء اللہ شمیم یوسف ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی، اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔

## برادران یوسف کا کاروان کنعان کے لئے روانہ:

ادھر برادران یوسف کا کاروان پیراہن یوسفی ساتھ لے کر کنعان کے لئے روانہ ہوا ادھر خدا کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو شمیم یوسف نے مہکا دیا فرمانے لگے اے خاندان یعقوب اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آرہی ہے، سب کہنے لگے واللہ تم تو اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔

غرضیکہ یہ کنعانی قافلہ بخیر و عافیت کنعان پہنچ گیا، اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کا پیراہن یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں، فرمانے لگے دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

برادران یوسف کے لئے یہ وقت بڑا کٹھن تھا، شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے اے ابا جان آپ ہمارے لئے جناب باری میں گناہوں کی مغفرت کی دعاء کر دیجئے کیونکہ اب یہ تو ظاہر ہو ہی چکا ہے کہ بلاشبہ ہم سخت خطا کار اور قصور وار ہیں، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم میں عنقریب تمہارے لئے دعاء کروں گا بلاشبہ وہ غفور الرحیم ہے۔

یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا کرنے کے بجائے وعدہ فرمایا کہ عنقریب دعاء کروں گا، اسکی وجہ عام مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس وعدہ کا مقصد یہ تھا کہ رات یا آخر شب میں اہتمام سے دعاء کروں گا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اصل معاملہ حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کا تھا گویا بواسطہ حضرت یعقوب کو بھی تکلیف پہنچی تھی، حضرت یوسف چونکہ اصل صاحب معاملہ تھے اس لئے انہوں نے فوراً دعاء مغفرت کر دی مگر چونکہ یعقوب علیہ السلام کا براہ راست معاملہ نہیں تھا اسلئے وعدہ کر لیا تا کہ اصل



## خاندان یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کا مصر میں:

غرض یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام اپنے پورے خاندان کو لیکر مصر پہنچے، جس وقت یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کا خاندان مصر پہنچا تو اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق ۶۷ یا ۷۰ تھی اس وقت حضرت یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کی عمر ۱۳۰ سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں ۷۱ سال زندہ رہے۔

جب یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد مع خاندان شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لئے شہر سے باہر نکلے، جب دونوں نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو فرط محبت میں یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام نے یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کو سینہ سے لگا لیا، اور جب یہ پر مسرت اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب تو آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔

اس وقت مصر کا دار السلطنت رمیس تھا، حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام اپنے والد ماجد اور تمام دیگر افراد خاندان کو بڑے کڑ و فر اور تزک و احتشام کے ساتھ شاہی سوار یوں میں بیٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں قیام کرایا۔

جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ اہل مصر کا بھی حضرت یعقوب اور ان کے خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کے عزت و احترام سے واقف ہو جائیں، دربار منعقد ہوا تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے، یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی، جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام شاہی محل سے باہر تشریف لائے اور شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے، اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لئے سجدہ میں گر پڑے موجودہ صورت کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، یہ دیکھ کر یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا اپنے والد سے کہنے لگے وَقَالَ يَا اَبَتِ هَذَا تَوَلَّيْتُ رِءْیَا مِنْ قَبْلِ الْخ.

تورات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کروں گا۔

## حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کی وفات:

حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کا انتقال ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کئے گئے، ابن اسحق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آبا و اجداد کے پاس دفن کریں اس حکم

کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین (کنعان) میں لے گئے اور حضرت اسحق و یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فراعنہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی۔ (مظہری)

### حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات:

تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالہ سے مذکور ہے کہ مصر میں ۲۴ سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ۱۴۷ سال کی عمر میں ہوئی، حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف ان کی وصیت کے مطابق منتقل کیا گیا۔

وَكَانَ مِنْ آيَةٍ دَالَةٍ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَيَسْأَلُونَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝<sup>۱۵</sup>  
لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ حَيْثُ يَقْرُونَ بِنَافِهِ الْخَالِقِ الرَّازِقِ ۝<sup>۱۶</sup> إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝<sup>۱۷</sup> بِهِ بَعَادَةُ  
الْأَصْنَامِ وَلِذَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَّتِهِمْ لَبِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَاهُ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا لَكَ يَعْزُونَهَا  
أَفَآمَنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ نَعْمَةٌ تَغْشَاهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً فَجَاءَتْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝<sup>۱۸</sup>  
بَوَقْتُ اتِّبَانِهَا قَبْلَهُ قُلْ لَهُمْ هَذِهِ سَبِيلِي ۝<sup>۱۹</sup> وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ أَدْعُو إِلَى دِينِ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ۝<sup>۲۰</sup> حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ أَنَا وَمَنْ  
اتَّبَعَنِي ۝<sup>۲۱</sup> أَسْنِ بِي عَطْفٌ عَلَى أَنَا الْمَبْتَدَأُ الْمَخْبَرُ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ وَتُبْحَنُ اللَّهُ تَنْزِيهَا لَهُ عَنِ الشُّرَكَاءِ  
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝<sup>۲۲</sup> مِنْ جُمْلَةِ سَبِيلِهِ أَيْضًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي ۝<sup>۲۳</sup> وَفِي قِرَاءَةِ بِالنُّونِ وَكُسْرِ الْحَاءِ  
إِلَيْهِمْ لَا مَلَأَكَةَ مَنْ أَهْلِ الْقُرَى ۝<sup>۲۴</sup> لَانْهَمُ اعْلَمُ وَاحِلَمُ بِخِلَافِ أَهْلِ الْبَوَادِي لَجَفَائِهِمْ وَجَهْلِهِمْ  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝<sup>۲۵</sup> أَيْ الْخِرَامُ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ كَهْمُ  
بِتَكْذِيبِهِمْ رَسُلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ ۝<sup>۲۶</sup> خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝<sup>۲۷</sup> بِأَلْيَاءِ وَالتَّاءِ يَا أَهْلَ مَكَّةَ هَذَا  
فَتَوْمَنُونَ حَتَّى غَايَةِ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ۝<sup>۲۸</sup> أَيْ فِتْرَاخِي نَصْرَهُمْ حَتَّى إِذَا اسْتَيْشَسَ يَتَسَّ  
الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ۝<sup>۲۹</sup> بِالتَّشْدِيدِ تَكْذِيبًا لَا إِيْمَانَ بَعْدَهُ وَالتَّخْفِيفِ ۝<sup>۳۰</sup> أَيْ ظَنُّ الْإِسْمِ أَنْ  
الرُّسُلَ أَخْلَفُوا مَا وَعَدُوا بِهِ مِنَ النِّصْرِ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى ۝<sup>۳۱</sup> بَنُونِ مَشْدُودًا وَمُخَفَّفًا وَبَنُونَ مَشْدُودًا مَاضٍ  
مَنْ نَشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝<sup>۳۲</sup> الْمُشْرِكِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ۝<sup>۳۳</sup> أَيْ الرُّسُلَ



عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ اصحاب العقول مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ حَدِيثًا يُفْتَرَى يَخْتَلِقُ وَلَكِنْ كَانَ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ وَتَفْصِيلَ تَبْيِينِ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ خصوصاً بالذکر لانتفاعهم بہ دون غیرہم۔

**ترجمہ:** آسمانوں اور زمین میں خدا کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے یعنی اس کو خالق و رازق تسلیم کرنے کے باوجود بتوں کی بندگی کر کے مشرک ہیں اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے تلبیہ میں کہا کرتے تھے لَبِیکَ لَا شَرِیکَ لَکَ الْاَشْرِیکَا هُوَ لَکَ تَمَلِکْهُ وَمَا مَلِکَ (ترجمہ) ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ اس کا تو مالک ہے اور اس کا بھی تو مالک ہے جس کا وہ مالک ہے اور وہ الا شریک سے اصنام مراد لیتے تھے، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی چھا جانے والا عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ پہلے سے اس کے آنے کا احساس نہ کر سکیں، آپ ان سے کہہ دو یہ ہے میرا طریقہ اور طریقہ کی تفسیر اپنے قول ادعوا الی اللہ الخ سے کی ہے، کہ میں اور میری اتباع کرنے والے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اللہ کے دین کی طرف علی وجہ البصیرت حجة واضحة کے ساتھ دعوت دیتے ہیں من کا عطف، انا مبتداء پر ہے جس کی خبر اس کا ماقبل (یعنی علی وجہ البصیرة) ہے اور اللہ پاک ہے وہ شریک کے نقص سے بری ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یہ بھی آپ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، آپ سے پہلے بستی والوں میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے نہ کہ فرشتے (اور عورت) ایک قراءت میں (نوحی) نون اور حاء مکسورہ کے ساتھ ہے، یعنی شہروں کے رہنے والے تھے، اس لئے کہ شہری بہ نسبت بدویوں کے زیادہ جاننے والے اور زیادہ بردبار ہوتے ہیں، نہ کہ بادیہ نشین اپنے جہل و ظلم کی وجہ سے، کیا مکہ والوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ کہ ان سے پہلے والوں کا ان کے اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے کیسا انجام ہوا؟ ان کو ہلاک کر کے یقیناً آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے اے اہل مکہ! کیا تم اسے سمجھتے نہیں ہو کہ ایمان لے آؤ (یعقلون) یا اور تاء کے ساتھ ہے حتیٰ اس کی غایت کیلئے ہے جس پر وما ارسلنا من قبلك الا رجالا دلالت کرتا ہے، یعنی ان کی نصرت مؤخر ہو گئی، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور رسولوں نے یقین کر لیا کہ ان کو جھٹلایا گیا (کذبوا کے ذال کی) تشدید کے ساتھ ایسی تکذیب کہ اس کے بعد ایمان (کی توفیق) نہیں اور (ذال) کی تخفیف کے ساتھ بھی، یعنی امتوں نے گمان کر لیا کہ رسولوں نے اس نصرت کی وعدہ خلافی کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو ان کے پاس ہماری نصرت آپہنچی تو جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں (نذجی) دونوں اور جیم مشدد کے ساتھ ہے اور جیم کی تخفیف کے ساتھ (بھی ہے) اور ایک نون اور جیم مشدد کے ساتھ ماضی مجھول کا صیغہ، اور ہمارا عذاب مشرکوں سے ہٹایا نہیں

جائے گا، بلاشبہ ان رسولوں کے قصوں میں عقلمندوں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ سابقہ کتب کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے رحمت ہے (مومنین) کا ذکر خاص طور پر اس لئے ہے کہ وہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: کائین، یہ دراصل کای تھا توین کونون سے بدل دیا کاین ہو گیا یہ کاف تشبیہ اور ای سے مرکب ہے، یہ اکثر کم خبریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو تکثیر کے معنی دیتا ہے مثلاً کای من رجل رأیت میں نے بہت سے آدمی دیکھے، اور کبھی کبھی استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کای تقریر سورۃ الاحزاب تم نے سورۃ احزاب کتنی مرتبہ پڑھی، کاین مبتداء ہے اور من آیۃ تمیز مجرور بمن ہے۔

قَوْلٌ: فی السموات والارض آیۃ کی صفت ہے۔

قَوْلٌ: یمرؤن علیہا جملہ ہو کر کائین کی خبر ہے اور وہم عنہا معرضون جملہ ہو کر یمرون کی ضمیر سے حال ہے۔

قَوْلٌ: المخبر عنہ بما قبلہ، انا اور من مبتداء مؤخر اور علی بصیرۃ خبر مقدم، کما صرح المفسر۔

قَوْلٌ: بخلاف اهل البواد اس میں اشارہ کہ اهل القرى سے شہروں کا مقابل مراد ہے لہذا اب یہ اعتراض وارد نہ ہوگا کہ انبیاء زیادہ تر شہر ہی میں مبعوث ہوئے ہیں۔

قَوْلٌ: یئس استیئس میں (س ت) طلب کے لئے نہیں ہے۔

قَوْلٌ: تکذیبا لا ایمان بعدہ، اس میں اس شبہ کا جواب ہے کہ تکذیب تو پہلے ہی سے موجود تھی یعنی اب ایسی تکذیب کر دی کہ اس کے بعد ایمان کی توقع ختم ہو گئی اور ظنوا کا ترجمہ ایقن الرسل، قد کذبوا کی تشدید کی صورت میں ہوگا اور تخفیف کی صورت میں ظنوا اپنے معنی پر ہوگا۔

قَوْلٌ: فنذجی جیم کی تشدید کے ساتھ، تنجیۃ (تفعیل) سے ہم بچا لیتے ہیں، فنذجی مخففا (افعال) مضارع جمع متکلم، نجی ماضی مجہول واحد مذکر غائب (تنجیۃ تفعیل) سے اس کو بچایا گیا (مشددا) کا تعلق ہر قراءت میں جیم کے ساتھ ہے، ماضی مجہول کی صورت میں من نشاء نائب فاعل ہوگا پہلی دونوں صورتوں میں مفعول بہ ہوگا، بعض حضرات نے مشددا کونون کی صفت قرار دیا ہے جو کہ سہو ہے۔

## تفسیر و تشریح

و کاین من آیۃ الخ، آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں بے شمار چیزوں کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خالق اور صانع ایک ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا



ہے اور ان میں آپس میں کبھی ٹکراؤ و تصادم نہیں ہوتا، لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گذر جاتے ہیں نہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کا بیان تھا جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت و قدرت ہی کے قائل نہیں تھے، آگے ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو وجود باری کے قائل تو ہیں مگر اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں، فرمایا۔

وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، یعنی ان میں جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو سراسر ظلم اور جہل ہے، قرآن اس کو بوضاحت بیان کرتا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق و مالک، و رازق و مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں آج کے قبر پرستوں کا بھی شرک یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انھیں مدد کے لئے پکارتے ہیں۔

امام المفسرین ابن کثیر نے فرمایا، کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں کہ جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے، صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ریا شرک اصغر ہے اسی طرح ایک حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی منت اور نذر و نیاز ماننا بھی باتفاق فقہاء اس میں داخل ہے۔

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا الخ یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں نہ فرشتے اور نہ عورت، اسی طرح انبیاء کا مقام بعثت قریہ تھا جو قصبہ دیہات اور شہر کو شامل ہے ان میں سے کوئی بھی صحراء نشینوں میں سے نہیں تھا اسلئے کہ اہل باد یہ نسبت طبعیت کے سخت اور اخلاق کے کھر درے ہوتے ہیں، یہ خیال بے بنیاد اور لغو ہے کہ اللہ کا رسول فرشتہ ہونا چاہئے نہ کہ انسان بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے انسانوں کا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا چلا آیا ہے، البتہ عام انسانوں سے اس کو امتیاز حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی طرف بارگاہ الہی کی طرف سے براہ راست وحی آتی ہے، نبوت کسی کی سعی و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی، البتہ اللہ خود ہی اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کام کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔

حتى اذا استيئس الرسل الخ رسولوں کو یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے ہوئی۔

وظنوا انهم قد كذبوا الخ اس آیت کی مختلف قراءتوں کی وجہ سے اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن زیادہ مناسب مفہوم یہ ہے کہ ظنوا کا فاعل قوم کفار کو قرار دیا جائے یعنی کفار نے جب دیکھا کہ رسولوں نے جس عذاب کی دھمکی دی تھی جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی اور اس کے آنے کے آثار بھی وورد ورتک نظر نہ آئے تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے اس آیت میں لفظ کذبوا مشہور قراءت کے مطابق پڑھا گیا، مطلب یہ ہوگا کہ عذاب موعود کے آنے میں بہت زیادہ تاخیر ہونے کی وجہ سے پیغمبر یہ خیال کر کے مایوس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی وعدہ عذاب

کا جو وقت ہم نے اپنے اندازہ کے مطابق اپنے ذہنوں میں مقرر کر رکھا تھا وقت پر عذاب نہ آئیگا اور وعدہ الہی کا وقت مقرر کرنے میں ہم سے غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مایوسی ہوئی، اسی مایوسی کی حالت میں ان کو ہماری مدد پہنچی اور وہ یہ کہ وعدہ کے مطابق کفار پر عذاب آیا، پھر ہم نے اس عذاب سے مومنین کو بچا لیا اور کفار ہلاک ہو گئے اسلئے کہ ہمارا عذاب مجرموں سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ ضرور آکر رہتا ہے اسلئے کفار مکہ کو چاہئے کہ عذاب میں تاخیر ہونے سے دھوکہ میں نہ رہیں۔

بعض قراءتوں میں کذبوا تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے یہ مصدر تکذیب سے مشتق ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انبیاء نے اندازہ سے جو عذاب کا وقت مقرر کر دیا تھا اس عذاب کے بروقت نہ آنے پر ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری تکذیب نہ کرنے لگیں کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔

لقد کان فی قصصہم عبرة لاولی الالباب، قرآن کریم میں جو قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں ان کو گھڑا نہیں بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضرورتیں اجمالی یا تفصیلی یا اصولی طور پر موجود ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ هِيَ ثَلَاثُ اَرْبَعُوْنَ اٰیَةً وَفِيْهَا

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ اَوَّلًا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا، الْاَيَةُ، وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ  
كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا، الْاَيَةُ، اَوْ مَدَنِيَّةٌ اِلَّا وَلَوْ اَنَّ قَرَأْنَا الْاَيَتَيْنِ ثَلَاثُ  
اَوْ اَرْبَعُ اَوْ خَمْسُ اَوْ سِتُّ وَاَرْبَعُوْنَ اَيَةً.

سورہ رعد مکی ہے، علاوہ ولا یزال الذین کفروا پوری آیت کے،  
اور یقول الذین کفروا لست مرسلًا پوری آیت کے، یا مدنی ہے سوائے ولو  
اَنَّا قرآنا دو آیتوں کے ۲۳ یا ۲۴ یا ۲۵ یا ۲۶ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْمَرْفَعُ ۝ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَرَادِهِ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْاَيَاتُ اَلَيْتُ  
الْكِتٰبُ الْقُرْاٰنَ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰی مِنْ ۝ وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِی الْقُرْاٰنُ مُبْتَدَاً خَبْرُهُ الْحَقُّ لَا شَكَّ فِیْهِ  
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اِی اِهْلَ مَكَّةَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ① ۝ بَاَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالٰی ۝ اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا اِی  
الْعَمَدَ جَمْعُ عَمَادٍ وَهِيَ الْاَسْطُوَانَةُ وَهِيَ صَادِقٌ بِاَنَّ لَا عَمَدَ اَصْلًا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ اسْتِوَاءً یَلِیْقُ بِهِ وَخَرَّ  
ذُلُّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ ۝ مِنْهُمَا یَجْرِیْ فِی فَلَکِهِ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۝ یَوْمَ الْقِیَمَةِ یُذَبِّرُ الْاَمْرَ یَقْضِیْ اَمْرَ مَلِكِهِ یُفْصَلُ  
یُبَیِّنُ الْاٰیَاتِ دِلَالَاتٍ قُدْرَتِهِ ۝ لَعَلَّكُمْ یَا اِهْلَ مَكَّةَ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ بِالْبَعْثِ تَوْقِنُوْنَ ② ۝ وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ بَسْطَ  
الْاَرْضَ وَجَعَلَ خَلْقَ فِیْهَا رَوَاسِیَ جِبَالًا ثَوَابِتَ ۝ وَاَنْهَارًا ۝ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیْهَا زَوٰجِیْنَ اُنْثٰی یُعْشٰی اِلَیْلَ النَّهَارِ  
اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ اَلٰیَاتٍ دِلَالَاتٍ عَلٰی وَحْدَانِیَّتِهِ تَعَالٰی ۝ لِقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ③ ۝ فِی صُنْعِ اللّٰهِ وَفِی الْاَرْضِ قَطْعُ  
بَقَاعٍ مُّخْتَلِفَةً مُّتَجَوِّرًا ۝ مُتَلَاصِقَاتٍ فَمِنْهَا طِیْبٌ وَسَبْغٌ وَقَلِیْلُ الرِّیْعِ وَكَثِیْرُهُ وَهِيَ مِنْ دَلٰلِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالٰی  
وَجَنَّاتٍ بَسَاتِیْنٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَزَرْعٍ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰی جَنَّاتٍ وَالْجَرِّ عَلٰی اَعْنَابٍ وَكَذَا قَوْلُهُ وَنَخِیْلٌ صِنْوَانٌ جَمْعُ

صَنَوِوهِی النِّخْلَاتُ یَجْمَعُهَا اَصْلٌ وَاحِدٌ وَتَنْشَعُبُ فِرْعَوْنِهَا وَغَیْرُ صَنَوَانٍ مِّنْفَرْدَةٍ یُسْقٰی بِالتَّاءِ اِی  
الْجَنَاتُ وَمَا فِیْهَا وَالْیَاءِ اِی الْمَذْکُورُ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتَفْضِلُ بِالنُّونِ وَالْیَاءِ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُکْلِ بضم  
الکافِ وَسکونِهَا فَمِنْ حُلُوٍّ وَحَامِضٍ وَهُوَ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالٰی اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ الْمَذْکُورِ  
لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ④ یَتَدَبَّرُوْنَ وَاِنَّ تَعَجَّبَ یَا مُحَمَّدٌ مِنْ تَکْذِیْبِ الْکَفَّارِ لَکَ فَعَجَبٌ حَقِیْقٌ بِالْعَجَبِ  
قَوْلُهُمْ مِّنْکَرِیْنِ لِلْبَعْثِ اِذَا کُنَّا تُرَابًا اَنَا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ⑤ لَآنَ الْقَادِرَ عَلٰی اَنْشَاءِ الْخَلْقِ وَمَا تَقَدَّمَ عَلٰی  
غَیْرِ مِثَالٍ سَبَقَ قَادِرٌ عَلٰی اِعَادَتِهِمْ وَفِی الْهَمْزَتِیْنِ فِی الْمَوْضِعِیْنِ التَّحْقِیْقُ وَتَحْقِیْقُ الْاَوَّلٰی وَتَسْهِیْلُ  
الثَّانِیَةِ وَاَدْخَالُ الْفِیْ بَیْنَهُمَا عَلٰی الْوُجْهِیْنِ وَتَرْکُهَا وَفِی قِرَاءَةٍ بِالْاِسْتِفْهَامِ فِی الْاَوَّلِ وَالْخَبَرِ فِی الثَّانِیِ  
وَآخَرِیْ عِکْسُهُ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِکَ الْاَغْلٰی فِیْ اَعْنَاقِهِمْ وَاُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ⑥  
وَنَزَلَ فِی اسْتَعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ اسْتِهْزَاءً وَیَسْتَعْجِلُوْنَکَ بِالسَّیِّئَةِ الْعَذَابِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ الرَّحْمَةِ  
وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلٰتُ جَمْعُ الْمَثَلَةِ بوزن السَّمَرَةِ اِیْ عِقَابَاتُ امثَالِهِمْ مِنْ الْمُکَذِّبِیْنَ اَفَلَا یَعْتَبِرُوْنَ  
بِهَا وَاِنَّ رَبَّکَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی مَعْظَمِیْمِهِمْ ⑦ وَالْاَلَمَ یَتْرَکُ عَلٰی ظَهْرِهَا دَابَّةٌ وَاِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیْدُ  
الْعِقَابِ ⑧ لِمَنْ عَصَاهُ وَیَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَوَّلًا ⑨ اَنْزَلَ عَلَیْهِ عَلٰی مُحَمَّدٍ اٰیَةً مِّنْ رَّبِّهِ کَالْعَصَا وَالْیَدِ  
وَالنَّاقَةِ قَالَ تَعَالٰی اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مَّخْوَفُ الْکَافِرِیْنَ وَلَیْسَ عَلَیْکَ اِتِّیَانُ الْاٰیٰتِ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑩ نَبِیُّ  
یَدْعُوْهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ بِمَا یُعْطِیْهِ مِنَ الْاٰیٰتِ لَا بِمَا یَقْتَرِحُوْنَ.

## تَرْجُمَہُ:

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے، اَلَمْر، اس سے اپنی مراد کو اللہ ہی بہتر  
جانتا ہے، یہ آیتیں قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور (آیات الكتاب) میں اضافت بمعنی مَنْ ہے اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے  
رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے (یعنی) اس میں کوئی شک نہیں ہے، (وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْکَ الْخَبَرُ) مبتداء ہے اور  
الْحَقُّ اس کی خبر ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ منجانب اللہ ہے اور وہ اہل مکہ ہیں، اللہ وہ ہے جس نے  
آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند فرمایا جو تم کو نظر آتے ہوں، العمد، عماد کی جمع ہے اور وہ ستون ہیں اور عدم رویت اس  
وقت بھی صادق آتی ہے جبکہ ستون ہی نہ ہوں پھر وہ تخت شاہی پر جلوہ فرما ہوا ایسی جلوہ فرمائی کہ جو اس کے شایان شان ہے اور  
اس نے شمس و قمر دونوں کو قانون کا پابند بنایا ان میں سے ہر ایک اپنے مدار پر ایک مدت (یعنی) قیامت تک کے لئے جاری ہے  
(وہی اللہ) ہر کام کی تدبیر کرتا ہے (یعنی) اپنے ملک کے معاملات طے کرتا ہے اور وہ اپنی قدرت کی دلائل کو خوب کھول کھول  
کر بیان کرتا ہے تاکہ اے اہل مکہ بعث کے ذریعہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس نے زمین کو  
پھیلایا اور اس میں نہ ہلنے والے پہاڑ پیدا کئے اور نہریں پیدا کیں اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دھڑے دھڑے جوڑے پیدا



کئے وہ رات کی تاریکی کے ذریعہ دن کو چھپا دیتا ہے یقیناً اس مذکور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی صنعت میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے، اور زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، ان میں زرخیز بھی ہیں اور بنجر بھی اور قلیل النفع بھی ہیں اور کثیر النفع بھی، یہ بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور انگور کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں (ذرع) رفع کے ساتھ جنات پر عطف کی وجہ سے اور جر کے ساتھ بھی اعذاب پر عطف کی وجہ سے، اور کھجور کے درخت ہیں (صنوان) صنو کی جمع ہے کھجور کے ان درختوں کو کہتے ہیں جن کی جڑ ایک ہو اور اوپر اس میں متعدد شاخیں ہوں اور کچھ اکہرے بھی ہیں سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے (تسقی) کی ضمیر مذکور کی طرف راجع ہوگی مگر مزے میں ہم بعض کو بہتر بنا دیتے اور بعض کو کمتر (نفسضل) نون اور یاء کے ساتھ ہے (الاکمل) کاف کے ضمہ اور اس کے سکون کے ساتھ (دوقراءتیں ہیں) بعض ان میں شیریں اور بعض ترش ہوتے ہیں یہ بھی خدا کی قدرت کے دلائل میں سے ہے، بلاشبہ ان مذکورہ باتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور اگر اے محمد آپ کو کفار کے آپ کی تکذیب کرنے سے تعجب ہوتا ہے تو درحقیقت منکرین بعث کا یہ قول قابل تعجب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے؟ اس لئے کہ جو ذات سابقہ نمونے کے بغیر از سر نو پیدا کرنے اور مذکورہ چیزوں پر قادر ہے وہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور دونوں ہمزوں میں دونوں جگہ تحقیق اور پہلے کی تحقیق اور ثانی کی تسہیل اور دونوں صورتوں میں دونوں ہمزوں کے درمیان الف داخل کر کے اور ادخال کو ترک کر کے (سب جائز ہے) اور ایک قراءت اول میں استفہام اور ثانی میں خبر اور دوسری قراءت میں اس کا برعکس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہے، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے بطور استہزاء عذاب کے بارے میں جلدی مچانے کے بارے میں (آئندہ) آیت نازل ہوئی یہ لوگ نیکی یعنی رحمت سے پہلے برائی کے لئے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں مثلاً، مثلاً کی جمع ہے سُمُرَة کے وزن پر، یعنی ان جیسے تکذیب کرنے والوں کی سزائیں (گزر چکی ہیں) کیا اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتی کے باوجود ان کو معاف بھی کرتا ہے ورنہ تو وہ روئے زمین پر کوئی چلنے والا (یعنی ذی روح) نہ چھوڑے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب اپنی نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے اور کافر کہتے ہیں کس لئے محمد ﷺ پر نہیں اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی جیسا کہ عصا (موسیٰ علیہ السلام) اور یَد (بیضاء) اور اونٹنی (ناقہ صالح علیہ السلام) اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو کافروں کو محض آگاہ کرنے والے ہیں (یعنی) ڈرانے والے ہیں، معجزات کا لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، اور ہر قوم کے لئے رہنما ہوتا ہے (یعنی) نبی ہوتا ہے جو لوگوں کو ان معجزات کے ذریعہ جو اس کو اللہ عطا کرتا ہے ان کے رب کی طرف بلاتا ہے نہ کہ ان معجزات کے ذریعہ جن کو وہ تجویز کرے۔

## تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** سورة الرعد مكية سورة الرعد مبتداء ہے مکیہ خبر اول ہے اور ثلث الخ خبر ثانی ہے، مکی مدنی ہونے کے بارے میں پانچ قول ہیں ① پوری سورت مکی سوائے ”ولا یزال الذین کفروا (الآیة) کے ② پوری سورت مکی ہے سوائے هو الذی یریکم البرق، الی قوله. له دعوة الحق ③ پوری سورت مدنی ہے سوائے وَلَوْ اَنْ قَرَأْنَا (دو آیتیں) ④ کہا گیا ہے کہ پوری سورت مدنی ہے، ⑤ کہا گیا ہے کہ پوری سورت مکی ہے۔

**قَوْلٌ:** الاضافة بمعنى من، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آیات الكتاب میں اضافت الشئ الی نفسه لازم آرہی ہے اس لئے کہ آیات اور کتاب ایک ہی شے ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اضافت اشئ الی نفسه اس وقت لازم آتی جب اضافت بمعنی لام ہوتی یہاں اضافت بمعنی من ہے فلا حرج۔

**قَوْلٌ:** بانه من عنده یہ جملہ یؤمنون کا مفعول بہ ہے۔

**سُؤَالٌ:** یؤمن متعدی بالی استعمال ہوتا ہے نہ کہ متعدی بالباء۔

**جَوَابٌ:** یؤمنون، یقرّون کے معنی کو متضمن ہے لہذا تعدیہ بالباء درست ہے۔

**قَوْلٌ:** اللہ الذی رفع السموات الخ اللہ مبتداء ہے اور الذی الخ اس کی خبر ہے۔

**قَوْلٌ:** وهو صادق بان لا عمداً اصلاً یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ جمع کی نفی بطور مفہوم کے ثبوت واحد پر دلالت کرتی ہے یعنی ایک ستون ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ مقید کی نفی مطلق کی نفی پر دلالت کرتی ہے، یہاں نفی موصوف اور صفت دونوں کی طرف راجع ہے۔

**قَوْلٌ:** جعل، یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ جعل متعدی بدو مفعول ہوتا ہے حالانکہ یہاں دو مفعول نہیں ہیں۔

**جَوَابٌ:** جعل بمعنی خلق ہے نہ کہ بمعنی صیّر۔

**قَوْلٌ:** من کل نوع میں من کُل الثمرات کی تفسیر ہے۔

**قَوْلٌ:** یغشی اللیل النہار یہ جملہ مستأنفہ ہے اور ما قبل میں مذکور افعال کے فاعل سے حال بھی ہو سکتا ہے، یغشی کا فاعل ضمیر ہو مستتر ہے جو اللہ کی طرف راجع ہے، اللیل مفعول اول ہے اور النہار مفعول ثانی یعنی اللہ تعالیٰ رات کے ذریعہ دن کو چھپا دیتا ہے۔

**قَوْلٌ:** صنوان، بالتثلیث، نخلة لہار اُسان واصلها واحد، ایسا کھجور کا درخت کہ جس کی جڑ ایک ہو سر دو ہوں۔

**قَوْلٌ:** بالتاء والياء تُسقى مؤنث کی صورت میں اس کا نائب فاعل الجنات ہوگا اور یُسقى مذکر کی صورت میں اس کا فاعل مذکور ہوگا۔



قَوْلًا: بالياء، یعنی نُفِصِلُ میں یاء اور نون دونوں جائز ہیں مذکر غائب کی صورت میں يُدَبِّرُ کے ساتھ مطابقت ہوگی۔  
قَوْلًا: حقیق بالعجب۔

سُؤَال: فعجب کی تفسیر حقیق سے کس مقصد کے پیش نظر کی ہے؟

جَوَاب: اس کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَال: کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عجب خبر مقدم ہے اور قولہم مبتداء مؤخر ہے، اور عجب مصدر ہے اور مصدر کا حمل قولہم پر درست نہیں۔

جَوَاب: حقیق محذوف مانا تا کہ حمل درست ہو جائے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

### فضائل سورۃ رعد:

سورۃ رعد کا مختصر (قریب المرگ شخص) کے پاس پڑھنا مستحب ہے اس سے روح نکلنے ہونے میں آسانی ہوتی ہے، ابن ابی شیبہ نے جابر بن زید سے روایت کیا ہے، قال! کان یستحب اذا احتضر المیت أن یقرأ عندہ سورۃ الرعد فان ذلك یخفف عن المیت وانه اھون لِقْبْضْہ وَایسرُ لسانہ۔ (فتح القدیر شوکانی)

المرء، تلك ایت الکتب (الآیۃ) حروف مقطعات کے متعلق الم کے شروع میں بحث گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے احوط اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کی جائے اور اس کی حقیقی مراد کو اللہ کے حوالہ کیا جائے، اس سورت میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے وہ اس عظیم الشان قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کتاب جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے یقیناً حق و صواب ہے، لیکن تعجب کا مقام ہے کہ ایسی صاف اور واضح حقیقت کے ماننے سے بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔

### سورت کا مرکزی مضمون:

پہلی آیت میں مرکزی مضمون کی مناسبت سے تمہیدی مضمون تھا دوسری آیت سے اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی ﷺ اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ تین بنیادی باتوں پر مشتمل تھی ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ ہی کی ہے اس کے علاوہ کوئی مستحق بندگی نہیں، دوسرے یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں سب کو اپنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں

بلکہ خدا کی طرف سے ہے یہی تین باتیں ہیں جنہیں لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔

دوسری آیت (اللّٰهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا) میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں کہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات کو ذرا غور سے دیکھو تو یقین کرنا پڑے گا کہ اس کو بنانے والی کوئی ایسی ذات ہے کہ جو قادر مطلق اور تمام مخلوقات و کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

## کیا آسمان کا جرم آنکھوں سے نظر آتا ہے؟

عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ جو ہم کو نظر آتا ہے آسمان کا رنگ ہے، مگر فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ رنگ روشنی اور اندھیرے کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے جیسا کہ گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے، مگر ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں۔

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہو گیا جیسی جلوہ فرمائی کہ اس کی شایان شان ہے اس جلوہ فرمائی کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طرح کا استوٰی شان الہی کے لائق ہے وہ مراد ہے۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اپنا دورہ ایک سال اور چاند ایک ماہ میں پورا کرتا ہے، لِاجْلِ مُسَمِّی کے معنی اگر وقت مقرر تک کے لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ چاند سورج قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے کائناتی دلائل کو پیش کرنے اور ان میں غور و فکر کی دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذات اتنی عظیم الشان مخلوق پیدا کر سکتی ہے اس کے لئے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟!

شمس و قمر کو مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جس ضابطہ کا پابند بنا دیا ہے ہزار ہا سال گزر گئے مگر اسی ضابطہ کی پابندی کے ساتھ رفتار میں کمی بیشی کے بغیر چل رہے ہیں نہ تھکتے ہیں اور نہ اپنے کام سے انحراف کرتے ہیں یہ نظام قدرت باواز بلند کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو انسان کے ادراک و شعور سے بالاتر ہے۔

یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ ہر امر کا انتظام حکمت اور مصلحت کے ساتھ کرتا رہتا ہے یعنی وہ محض صانع اور خالق ہی نہیں کہ جو ایک مرتبہ تخلیق کے بعد معطل ہو کر بیٹھ گیا ہو جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے بلکہ حاکم اور متصرف بھی ہے۔

وَهُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ کرۂ ارض جو کہ دیگر بہت کروں کے مقابلہ میں مثل ذرہ کے ہے پھر بھی اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ایک عام آدمی کے لئے نہایت دشوار ہے، اور بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعہ زمین میں گویا میخیں گاڑ دی ہیں، نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا ہے کہ جس سے انسان خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جدا گانہ ہوتے ہیں اور ان میں



مختلف انواع و اقسام کے ساتھ ساتھ جوڑے بھی پیدا کئے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نر اور مادہ دونوں بنائے جیسا کہ جدید تحقیق نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوڑے سے مراد میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ و سفید، ذائقہ دار اور بد ذائقہ اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کیں۔

وفی الارض قطع متجاورات یعنی صانع حکیم نے پوری روئے زمین کو یکساں نہیں بنایا، بلکہ اس میں بے شمار نطے پیدا کئے جو متصل ہونے کے باوجود شکل میں، رنگ میں، مادہ ترکیب میں، خاصیتوں میں، قوتوں اور صلاحیتوں میں، کیمیاوی یا معدنی خزانوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان مختلف خطوں کی پیدائش اور ان کے اندر طرح طرح کا تفاوت و اختلاف کی موجودگی اپنے اندر اتنی حکمتیں اور مصلحتیں رکھتی ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق یقیناً کسی حکیم مطلق کے سوچے سمجھے اور اس کے دانشمندانہ ارادہ کا نتیجہ ہے اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینا ایک بڑی جرأت اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔

کھجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جڑ سے ایک ہی تنا نکلتا ہے اور بعض میں ایک جڑ سے دو یا زیادہ نکلتے ہیں، ان باتوں سے خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات ملتے ہیں جو اس کی توحید اور قادر مطلق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ کبھی دیکھ کر پریشان نہ ہوگا کہ انسانی طبائع اور میلانات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہر حیثیت سے یکساں بنادیتا مگر جس حکمت پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یکسانی نہیں بلکہ تنوع اور رنگارنگی کی متقاضی ہے، سب کو یکساں بنادینے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ ہست و بود ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا، چمن اسی کو کہتے ہیں جس میں ہمہ قسم کے پھول ہوں ہر پھول کا رنگ اور مہک الگ ہو، گویا کہ یہ کارخانہ قدرت ایک چمن ہے جس میں بیلا بھی ہے اور چنبیلی بھی، جوہی بھی ہے اور موگھرا بھی، گلاب بھی ہے اور گل ہزارہ بھی، رات کی رانی بھی ہے اور دن کا راجہ بھی غرضیکہ ہر ایک اپنی مہک سے مشام جان کو معطر کر رہا ہے اور اپنی خوش رنگی سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخش رہا ہے، اگر کسی باغ میں گلاب ہی گلاب ہوں جو کہ پھولوں کا راجہ ہے تو اس کو چمن نہیں کہا جاسکتا البتہ اس کو گلاب کا کھیت کہہ سکتے ہیں چمن نہیں۔

وَإِنْ تَعَجَّبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا ۖ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اس آیت میں خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے کہ کفار آپ کے کھلے معجزات اور آپ کی نبوت پر کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس کے برخلاف ایسے پتھروں کو پوجتے ہیں کہ جن میں نہ حس ہے اور نہ حرکت اور نہ عقل ہے نہ شعور وہ خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں یہ قابل تعجب بات ہے۔

اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائیگا؟ حالانکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بیشمار حکمتوں کے ساتھ اسی نے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ پیدا

کردینا اس کے لئے مشکل اور عقل کے اعتبار سے اس میں کیا استحالہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو پہچانا نہیں ہے اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابلِ تعجب ہے اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے انکار تعجب کی چیز ہے۔

باوجودیکہ قوموں اور بستیوں کی تباہی کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں اور اپنے سفر کے دوران ان کی ہلاکت کی نشانیاں دیکھتے ہیں مگر ایک بے عقل و شعور حیوان کی طرح چشمِ عبرت بند کر کے گزر جاتے ہیں اس کے باوجود جلدی عذاب مانگتے ہیں، یہ کفار کے اس سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اے پیغمبر اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو حالات اور ضروریات اور اپنی منشا کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے، لیکن کافرا اپنے حسبِ منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں جیسا کہ کفار مکہ آپ ﷺ سے کہتے تھے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، جب ان کے مطلوبہ معجزے نہ دکھائے جاتے تو کہتے کہ ان پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں کی گئی؟ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر تمہارا کام صرف انذار و تبلیغ ہے وہ تم کرتے رہو کوئی مانے یا نہ مانے اس سے تم کو کوئی غرض نہیں اسلئے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے تمہارا کام راستہ دکھانا ہے۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ گزشتہ ہر قوم میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں اور ہر نبی کا وظیفہ اور کارِ منصبی یہ تھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، معجزات کا ظاہر کرنا کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا یہ سب اللہ کے اختیار و قدرت میں ہوتا ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَوَاحِدٍ وَمُتَعَدِّدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَا نَغِيصُ النَّاقُصُ الْأَرْحَامُ مِنْ مَدَّةِ الْحَمْلِ وَمَا تَزِدَادُ مِنْهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝۸ بِقَدْرِ وَاحِدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوبِدَ الْكَبِيرُ الْعَظِيمُ الْمُتَعَالَى ۝۹ عَلَى خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ بَيَاءٌ وَدُونِهَا سَوَاءٌ مِّنْكُمْ فِی عِلْمِهِ تَعَالَى مِّنْ أَسْرَارِ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ مُّسْتَخْفٍ ۝۱۰ بِطَلَبِهِ وَسَارِبٌ ظَاهِرٌ بِذِهَابِهِ فِي سِرِّهِ أَيْ طَرِيقَهُ بِالنَّهَارِ ۝۱۱ لَهُ لِلنَّاسِ مُعَقِّبَاتٌ مَّلَائِكَةٌ تَعْتَقِبُهُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قُدَّامَهُ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَائِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ أَيْ بِأَمْرِهِ مِنَ الْجَنِّ وَغَيْرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ إِلَّا يَسْلُبُهُمْ نِعْمَتَهُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝۱۲ مِنَ الْحَالَةِ الْجَمِيلَةِ بِالْمَعْصِيَةِ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا عَذَابًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۝۱۳ مِنَ الْمَعْقِبَاتِ وَلَا غَيْرِهَا وَمَا لَهُمْ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِمْ سُوءًا مِّنْ دُونِهِ أَيْ غَيْرِ اللَّهِ مِنْ زَائِدَةٍ ۝۱۴ يَمْنَعُهُ عَنْهُمْ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا لِّلْمَسَافِرِ



مِنَ الصَّوَاعِقِ وَطَمَعًا لِّلْمَقِیْمِ فِی الْمَطَرِ <sup>وَيُنْشِئُ</sup> يَخْلُقُ السَّحَابَ الثَّقَالَ <sup>١٧</sup> بِالْمَطَرِ <sup>وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ</sup> هُوَ مَلَكٌ  
 مُّوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ يَسُوْقُهُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ اِیْ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَ تَسْبِيْحُ الْمَلٰٓئِكَةِ مِنْ خِيفَتِهِ اِیْ اللّٰهُ  
 وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَهِيَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ السَّحَابِ فِیْصِبُ بِهَا مَنْ یَّشَآءُ فَتُحْرَقُ نَزَلَ فِی رَجُلٍ بَعَثَ اِلَیْهِ  
 النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ یَدْعُوْهُ فَقَالَ مَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ اَمِنْ ذَهَبٍ هُوَ اَمْ مِنْ فِضَّةٍ اَمْ نَحَاسٍ  
 فَنَزَلَتْ بِهٖ صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ بِقَحْفِ رَاسِهِ وَهُمْ اِیْ الْكَفَارُ <sup>یُجَادِلُوْنَ</sup> یُخَاصِمُوْنَ النَّبِیَّ فِی اللّٰهِ  
 وَهُوَ شَدِیْدُ الْمِحَالِ <sup>١٨</sup> الْقُوَّةُ اَوْ الْاِخْذُ لَهُ تَعَالٰی دَعْوَةُ الْحَقِّ اِیْ کَلِمَتُهُ وَهِيَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ  
 بِالْبَیِّنَاتِ وَالتَّائِبِیْنَ یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِیْ غَیْرِهِ وَهَمِ الْاَصْنَامُ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ شَیْءٌ مِّمَّا یَطْلُبُوْنَہٗ اِلَّا اَسْتَجَابَہٗ  
 کَبَاسِطُ اِیْ کَاسْتَجَابَہٗ بِاسِطٍ کَفَّیْہٗ اِلَی الْمَآءِ عَلٰی شَفِیْرِ الْبَیْرِ یَدْعُوْہٗ لَیَبْلُغَ فَاهُ بِارْتِفَاعِہٖ مِنَ الْبَیْرِ اِلَیْهِ  
 وَمَا هُوَ بِالْغَیْثِ اِیْ فَاهُ اَبَدًا فَكَذٰلِكَ مَا هُمْ بِمُسْتَجِیْبِیْنَ لَهُمْ وَمَا دُعَاءُ الْکَافِرِیْنَ عِبَادَتُهُمُ الْاَصْنَامُ اَوْ حَقِیْقَةُ  
 الدُّعَاءِ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ <sup>١٩</sup> ضِیَاعٌ وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا كَالْمُنَافِقِیْنَ وَمَنْ  
 اُكْرِهَ بِالسَّیْفِ وَ یَسْجُدُ ظَلُمًا بِالْغَدُوِّ الْبَکْرِ وَالْاَصَالِ <sup>٢٠</sup> الْعِشَیَا قُلْ یَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِکَ مَنْ  
 رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللّٰهُ اِنْ لَمْ یَقُوْلُوْہٗ لَاجَوَابٍ غَیْرِہٗ قُلْ لَهُمْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِہٖ اِیْ غَیْرِہٗ اَوْلِیَاءَ  
 اَصْنَامًا تَعْبُدُوْنَہَا لَا یَمْلِکُوْنَ اَنْفُسَہُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَتَرٰکُمْ مَا لَکُمْمَا اسْتَفْہَامُ تَوْبِیْخٍ  
 قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ الْکَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ الْکُفْرُ وَالنُّوْرُ الْاِیْمَانُ لَا  
 اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَکَآءَ خَلَقُوْا کَخَلْقِہٖ فَتَشَابَہُ الْخَلْقِ اِیْ خَلَقَ الشُّرَکَآءَ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہُمْ فَاَعْتَقَدُوْا  
 اَسْتَحْقَاقَ عِبَادَتِہُمْ بِخَلْقِہُمْ اسْتَفْہَامُ اِنْکَارِ اِیْ لَیْسَ الْاَمْرُ کَذٰلِکَ وَلَا یَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةُ اِلَّا الْخَالِقُ  
 قُلْ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ لَا شَرِیْکَ لَہٗ فِیْہٗ فَلَا شَرِیْکَ لَہٗ فِی الْعِبَادَةِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ <sup>٢١</sup> لِعِبَادِہٖ ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا  
 لِلْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَقَالَ اَنْزَلَ تَعَالٰی مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مَطَرًا فَسَالَتْ اَوْدِیَۃٌ یُّقَدِّرُہَا بِمَقْدَارِ مَلِئْہَا  
 فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًّا عَلَیَّآ عَلَیْہٗ هُوَ مَا عَلٰی وَجْہِہٖ مِنْ قَدَرٍ وَنَحْوِہٖ وَمِمَّا یُوقَدُوْنَ بِالتَّائِبِیْنَ وَالْبَیِّنَاتِ  
 عَلَیْہٗ فِی النَّارِ مِنْ جَوَہِرِ الْاَرْضِ کَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنَّحَاسِ اَبْتِغَآءَ طَلَبِ حِلِیَّةٍ زِیْنَةٍ اَوْ مَتَاعٍ یُنْتَفَعُ بِہٖ  
 کَالَاوَانِیْ اِذَا اُذِیْبَتْ زَبَدٌ مِّثْلُہٗ اِیْ مِثْلُ زَبَدِ السَّیْلِ وَهُوَ خَبِثُہُ الَّذِیْ یَنْفِیْہِ الْکِبَرُ کَذٰلِکَ الْمَذْکُوْرُ  
 یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ اِیْ مِثْلَہُمَا فَاَمَّا الزَّبَدُ مِنَ السَّیْلِ وَمَا اَوْقَدَ عَلَیْہٖ مِنَ الْجَوَہِرِ فِیْ ذَہَبٌ جَفَاءٌ  
 بَاطِلًا مَّرْمِیًا بِہٖ وَاَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ الْمَآءِ وَالْجَوَہِرِ فِیْمَکْتُ یَبْقٰی فِی الْاَرْضِ زَمَانًا کَذٰلِکَ  
 الْبَاطِلُ یُضْمَحَلُّ وَیَمْحَقُ وَاِنْ عَلَا عَلٰی الْحَقِّ فِی بَعْضِ الْاَوْقَاتِ وَالْحَقُّ ثَابِتٌ بَاقٍ کَذٰلِکَ الْمَذْکُوْرُ  
 یَضْرِبُ یُبَیِّنُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ <sup>٢٢</sup> لِلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوْا لِلرَّوْحِ اَجَابُوْہُ بِالطَّاعَةِ الْحَسَنٰی الْجَنَّةُ وَالَّذِیْنَ لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَہٗ وَهَمِ

بِیِّنَاتٍ

بِیِّنَاتٍ

الْكَفَّارُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ الْعَذَابِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَهُوَ الْمَوَازِنُ  
بِكُلِّ مِائَةِ مِائَةٍ وَلَا يُغْفَرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبُئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۸﴾ الفرائض ہی

**ترجمہ:** اللہ بخوبی جانتا ہے کہ مادہ کس چیز سے حاملہ ہے؟ آیا لڑکا ہے یا لڑکی اور ایک ہے یا متعدد وغیرہ وغیرہ اور

مدت حمل میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے ہر چیز اس کے نزدیک مقدار اور تحدید کے ساتھ ہے کہ اس (مقررہ مقدار) سے تجاوز نہیں ہوتا، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ عظیم اور اپنی مخلوق پر قوت کے ذریعہ غالب ہے، (المتعال میں) یاء اور بغیر یاء دونوں قراءتیں ہیں تم میں سے کوئی شخص خواہ آہستہ بات کرے یا زور سے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب برابر ہے اور

وہ جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور (یا) دن میں راستہ میں چلنے (پھرنے) کی وجہ سے ظاہر ہو ہر انسان کے ساتھ آگے پیچھے (نگرانی) کے لئے رات دن کی ڈیوٹی والے فرشتے لگے رہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم سے جن وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا یعنی اس کی نعمتوں کو سلب نہیں کرتا تا آن کہ وہ خود ان صفات کو نہ بدل دے جو اس میں ہیں یعنی اپنی صفات جمیلہ کو معصیت سے نہ بدل دے، اور جب کسی قوم کے

بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکتا خواہ نگران فرشتے ہوں یا اور کوئی اللہ تعالیٰ جن کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے مقابلہ میں ان کا کوئی حامی نہیں ہوتا کہ ان کو عذاب سے بچا سکے (مِنْ وَال) میں مِنْ زائدہ ہے وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلی چمکاتا ہے جس سے مسافروں کو اندیشہ لاحق ہوتا ہے اور مقیمین کو بارش کی امید ہوتی ہے وہی ہے جو پانی سے

بھرے ہوئے بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور بادلوں کی گرج کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کے چلانے پر مقرر ہے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے یعنی وہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اور فرشتے اس کی یعنی اللہ کی ہیبت سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ

بجلیوں کو بھیجتا ہے اور وہ ایک قسم کی آگ ہے جو بادلوں سے نکلتی ہے سو وہ جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے تو وہ اس کو جلا ڈالتی ہے (آئندہ آیت) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کو دعوت دینے کے لئے آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا، تو اس شخص

نے کہا اللہ کا رسول کون؟ اور اللہ کیا؟ آیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے تو اس پر (آسمانی) بجلی گری اور اس کی سر کی کھوپڑی کو اچک لے گئی اور کفار اللہ کے بارے میں نبی ﷺ سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں فی الواقع وہ زبردست قوت والا یا پکڑ

والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ برحق ہے اور اس کا کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے اور وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ اور وہ بت ہیں، بندگی کرتے ہیں ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتیں، اس چیز کے بارے میں جس کو وہ طلب کر رہے ہیں ان کو پکارنا تو

قبولیت کے بارے میں ایسا ہے کہ کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر پانی سے کہے کہ اے پانی تو کنویں سے نکل کر میرے منہ میں پہنچ جا، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک کبھی پہنچنے والا نہیں، اسی طرح وہ (اصنام) بھی ان کی پکار کا

جواب دینے والے نہیں ہیں اور کافروں کا بتوں کی بندگی کرنا یا حقیقتہً ان کو پکارنا اکارتِ محض ہے (یعنی تیرے ہدف ہے) (اور



اللہ ہی ہے) کہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز بخوشی جیسا کہ مومنین اور منافقین اور وہ جس کو تلواریں کے ذریعہ مجبور کر دیا گیا ہو اور سب چیزوں کے سایہ صبح و شام (اللہ کو) سجدہ کرتے ہیں، اے محمد ﷺ اپنی قوم سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اور اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی بتا دو کہ وہ اللہ ہے، اس لئے کہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں، (پھر) ان سے کہو کہ (جب حقیقت یہ ہے) تو کیا تم نے اللہ کے غیر (یعنی) بتوں کو کارساز بنا لیا جن کی تم بندگی کرتے ہو جو اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں اور تم نے نفع نقصان کے مالک کو چھوڑ دیا؟! یہ استفہام تو نیچی ہے، (ان سے پوچھو) کیا نابینا اور بینا یعنی کافر اور مومن (اور) کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی یکساں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اور اگر ایسا نہیں تو کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے مانند کچھ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے شرکاء کی پیدا کردہ اللہ کی پیدا کردہ شئی ان پر مشتبہ ہو گئی؟ کہ ان کی تخلیق کی وجہ سے ان کو مستحق عبادت یقین کر لیا، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی بات ایسی نہیں ہے اور خالق (حقیقی) کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے (اور) اپنے بندوں پر غالب ہے، پھر حق و باطل کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو ندی (نالے) اپنی گنجائش کے مطابق اس کو لے کر بہہ نکلے پھر اس سیلاب نے پانی پر چڑھے جھاگوں کو اٹھا لیا وہ سطح آب پر آنے والا کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے اور ارضیاتی دھاتوں میں سے مثلاً سونا اور چاندی، اور تانبا جس کو آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کے لئے یا ساز و سامان بنانے کے لئے تاکہ ان سے استفادہ کیا جائے مثلاً برتن جبکہ اس کو پگھلایا جائے اسی طرح کے یعنی سیلاب کے جھاگوں کے مانند جھاگ ہیں اور وہ، وہ میل ہوتا ہے جس کو بھٹی الگ کر دیتی ہے، مذکورہ مثال کے مانند اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، سیلاب اور پگھلائی ہوئی دھات کے جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر ختم ہو جاتے ہیں یعنی بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں کہ وہ پانی اور دھات ہے تو وہ زمین پر ایک زمانہ تک ٹھہر جاتا ہے، اور حق ثابت اور باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مذکورہ مثال کی طرح مثالیں بیان کرتا ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی حکم برداری کی یعنی اطاعت کے ذریعہ فرمانبرداری کی، ان کے لئے جنت ہے، اور جن لوگوں نے کہ وہ کافر ہیں اس کی حکم برداری نہیں کی اگر ان کے لئے زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو اس کو عذاب کے عوض میں دیدیں گے یہی ہیں وہ لوگ جن کے لئے برا حساب ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کا مواخذہ ہے اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں کیا جائیگا، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بُری جگہ ہے وہ برا بکھونا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: الْمُتَعَالِ اسم فاعل واحد مذکر غائب، (تَفَاعَلَ سے) مصدر تَعَالَى، الْمُتَعَالِ اصل میں المتعالیٰ تھا آخر سے یاء حذف ہو گئی، مادہ عُلُوُّ ہے، یہاں ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید میں لیجانے کا مقصد معنی میں زیادتی کو بیان کرنا ہے، اس کے معنی ہیں

برتر، بزرگ تر، المتعال میں دو قراءتیں ہیں یاء کے ساتھ یعنی المتعالی اور بغیر یاء کے یعنی المتعال۔

قَوْلٌ: سَوَاءٌ مِنْكُمْ الْخ اس میں دو ترکیبیں ہیں، ① سَوَاءٌ خَبْرٌ مُقَدَّمٌ اور مَنْ أَسْرَ وَمَنْ جَهَرَ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ۔

سُئِلَ: جب مبتداء دو ہیں تو خبر بھی تشبیہ لانی چاہئے تھی یعنی سَوَاءٌ ان کہنا چاہئے تھا۔

جَوَابٌ: سَوَاءٌ چونکہ مصدر بمعنی مستو ہے لہذا اس میں واحد تشبیہ جمع سب برابر ہیں، ② سَوَاءٌ مُبْتَدَأٌ اور أَسْرَ الْقَوْلِ الْخ اس کی خبر۔

سُئِلَ: سَوَاءٌ نکرہ ہے اس کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔

جَوَابٌ: سَوَاءٌ کی صفت چونکہ مِنْكُمْ موجود ہے لہذا اس میں تخصیص پیدا ہوگئی جس کی وجہ سے سَوَاءٌ کا مبتداء بننا درست ہو گیا۔

قَوْلٌ: سَارِبٌ یہ سَرِبٌ سے اسم فاعل ہے بمعنی، راہ میں چلنے والا، گلیوں میں پھرنے والا، سارِب کی جمع سَرِبٌ ہے جیسا کہ رَاكِبٌ کی جمع رَاكِبٌ آتی ہے سَارِبٌ کا عطف مَنْ ہو مستخفٍ پر ہے نہ کہ مستخفٍ پر۔

قَوْلٌ: مُعَقَّبَاتٌ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مُعَقَّبَةٌ کی جمع ہے (تفعیل) سے تعقیب مصدر ہے، باری باری سے روز و شب میں آنے والے فرشتے۔ (بیضاوی، وکیب)

قَوْلٌ: تَعْتَقِبُ اس میں اشارہ ہے کہ مُعَقَّبَاتٌ اِعْتَقَبَ سے ہے، اصل میں مُتَعَقَّبَاتٌ تھا تاہم کو قاف میں ادغام کر دیا وہ ملائکہ جو آمد و رفت میں ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں، مراد وہ ملائکہ ہیں جو شب و روز میں ڈیوٹی بدلتے ہیں۔

قَوْلٌ: مَرَدٌّ، اسم فعل، ثَالِثًا، لَوِثَانًا۔

قَوْلٌ: مِنْ وَالٍ، مِنْ زائدہ ہے وَال اسم فاعل اصل میں والی تھا (ض) یاء حذف کر دی گئی، مددگار، حمایتی۔

قَوْلٌ: خَوْفًا وَطَمَعًا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دونوں مصدریت کی وجہ سے منصوب ہیں تقدیر عبارت یہ ہے، لتخافوا خَوْفًا، وَلَتَطْمَعُوا طَمَعًا، اور کہا گیا ہے یہ دونوں یُرِکَم کے کاف سے حال ہیں، اِیْ حَالٌ کُوْنُکُمْ خَائِفِیْنَ وَطَامِعِیْنَ، ابوالبقاء نے کہا ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے فعلوں کے مفعول بھی ہو سکتے ہیں، (مگر زنجیری نے انکار کیا ہے) اور بعض حضرات نے الْبَرَق سے بھی حال قرار دیا ہے۔ (اعراب القرآن للدرویش)

قَوْلٌ: تُسَبِّحُ اس میں اشارہ ہے کہ الملائکۃ کا عطف الرَّعْد پر ہے نہ کہ قریب پر۔

قَوْلٌ: بِقُحْفٍ، قُحْفٌ کھوپڑی، کاسہ سر (جمع) اقحاف، قُحُوف۔

قَوْلٌ: اِیْ کَلِمَةً اس میں اشارہ ہے کہ دعوت دعاء کے معنی میں نہیں ہے اور نہ بِمَعْنَى الدَّعْوَةِ الْمَجَابَةِ کے معنی میں ہے۔

قَوْلٌ: اِسْتِجَابَةً۔

سُئِلَ: اِسْتِجَابَةً مَقْدَرًا مَنَنِیْ کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جَوَابٌ: دو وجہ سے اول یہ کہ مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو جائے اس لئے کہ مستثنیٰ متصل ہی اصل ہے، اور مستثنیٰ منہ اِسْتِجَابَةً



ہے جو يستجیبون سے مفہوم ہے اسلئے کہ فعل مصدر پر دلالت کرتا ہے دوسرے یہ کہ اگر استجابة کو مقدر نہ مانا جائے تو تشبیہ العرض بالذات لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں ہے، اسلئے کہ استجابة عرض ہے اور باسط کفیه ذات، بتوں سے مراد مانگنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو پانی سے کہہ رہا ہو کہ اے پانی تو میرے منہ میں آ جا ظاہر ہے کہ یہ حماقت و سفاہت ہے اسلئے کہ پانی جماد ہے اس میں کسی کی فریاد سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح وہ شخص جو بتوں سے مرادیں مانگ رہا ہے وہ بھی سفیہ اور احمق ہے اسلئے کہ بت بھی جماد بے حس ہیں۔

قَوْلٌ: غُدُوٌّ، غداة کی جمع ہے، صبح کا وقت۔

قَوْلٌ: الْاَصَال، یہ اصیل کی جمع ہے شام کا وقت۔

قَوْلٌ: جُفَاءً بَرُوزِ غُرَابٍ، باطل، بے فائدہ يقال، جَفَا الْوَادِی وَالْقَدْرُ یعنی وادی (ندی) اور ہانڈی نے جھاگ باہر نکال دیئے۔

قَوْلٌ: اجابوہ بالطاعة اس میں اشارہ ہے کہ استجابوا (استفعال) افعال کے معنی میں ہے لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ یہاں طلب کے معنی مقصود نہیں ہیں۔

قَوْلٌ: الْجَنَّةُ، اس کے اضافہ سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے الْحُسْنٰی الْجَنَّةُ محذوف کی صفت ہے الْجَنَّةُ الْحُسْنٰی، مبتداء مؤخر اور للذین الخ خبر مقدم ہے۔

## تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ اُنْثٰی (الآیة) رحم مادر میں کیا ہے؟ نر ہے یا مادہ، خوبصورت ہے بد صورت، خوش نصیب ہے یا بد نصیب، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے یا قصیر العمر، ناقص تولد ہو گا یا کامل، یہ سب باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کا علم بلا واسطہ ہے، نہ کسی آلہ کا محتاج اور نہ ذریعہ کا۔ غرضیکہ وہ ہر ذرہ کے بدلتے ہوئے حالات سے واقف ہے، قرآن اور تخمینہ سے کوئی حکیم یا ڈاکٹر جو کچھ اس معاملہ میں رائے دیتا ہے اس کی حیثیت ایک گمان اور اندازہ کی ہوتی ہے بسا اوقات واقعہ اس کے خلاف نکلتا ہے، الٹرا ساؤنڈ یا ایکسرے مشین کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات بھی یقینی نہیں ہوتیں ان کا غلط ہونا بھی تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے اس کے علاوہ مشینوں کے ذریعہ معلومات حاصل کرنا ایک قسم کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والا علم ہے جیسا کہ کوئی آپریشن کر کے نر و مادہ ہونے کو متعین کر لے، اس کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں غیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی حواس سے غائب ہو یعنی نہ آنکھوں سے اور نہ آلات سے اس کو دیکھا جاسکے اور نہ کانوں اور آلات سے اسے سنا جاسکے اور نہ ناک سے سونگھا جاسکے اور نہ زبان سے چکھا جاسکے اور نہ ہاتھوں سے چھوا جاسکے، اور شہادت سے اس کے بالمقابل وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو انسانی حواس مذکورہ کے ذریعہ معلوم کیا جاسکے مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا علم غیب خاص اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ غائب کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و مشاہد کو جانتا ہے، عمومی حالات میں بچہ کے رحم مادر میں رہنے کی مدت ۲۸۰ دن ہوتی اگر

کوئی عارض پیش نہ آئے۔

لہ مُعَقَّبَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ (الآیۃ) یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے اور ہر ذرہ کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، بلکہ مزید براں اللہ کے مقرر کئے ہوئے نگران کا بھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورے کارنامہ زندگی کا کارڈ محفوظ کرتے جاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رات اور دن کے نگران فرشتے الگ الگ ہیں ان کی ڈیوٹی صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔

فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ، یعنی کسی کو بھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہئے کہ کوئی پیر یا فقیر یا کوئی جن یا فرشتہ ایسا زور آور ہے کہ تم خواہ کچھ بھی کرتے رہو وہ تمہاری نذروں اور نیازوں کی رشوت لے کر تم کو تمہارے برے اعمال کی پاداش سے بچالے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (الآیۃ) اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی کفرانِ نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتے یعنی ان کے امن و عافیت کو آفت و مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کرے ورنہ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز عمل بدل دیتے ہیں۔

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ میں تغیر احوال سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت و شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظت و رحمت کا طرز بدل دیتے ہیں۔

اس آیت کا عام طور پر جو یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ خود اچھے انقلاب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرے، اسی مفہوم میں یہ شعر مشہور ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا

یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح ہے مگر آیت مذکور کا یہ مفہوم نہیں ہے، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے جو شخص خود اپنے حالات کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ اسی حالت میں ہے کہ جب خود اصلاح کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت کے راستے تب ہی کھلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب موجود ہو، لیکن انعاماتِ الہیہ اس قانون کے پابند نہیں بسا اوقات اس کے بغیر بھی عطا ہو جاتے ہیں۔ (معارف)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ (الآیۃ) یعنی اللہ ہی کی ذات پاک ہے کہ جو تم کو برق و بجلی دکھلاتی ہے جو انسان کے لئے خوف بھی بن سکتی ہے کہ جس جگہ پڑ جائے سب کچھ خاک کر ڈالے، اور طمع و امید بھی ہوتی ہے کہ بجلی کی چمک کے بعد بارش آئے گی، جو انسانوں کی زندگی کا سہارا ہے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ (الآیۃ) یعنی امید و بیم کے وقت اسی ایک خدا کو پکارنا چاہئے کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور قبول کرتا



ہے یہاں دعوت عبادت کے معنی میں ہے یعنی اس کی عبادت حق اور صحیح ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و متصرف وہی ہے اس لئے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے، اور دعوت کے معنی کلمہ کے بھی ہیں جیسا کہ مفسر علام نے صراحت کی ہے۔

اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لئے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کنویں کی من (کنارے) پر کھڑا ہو کر اور دونوں ہاتھ پھیلا کر پانی سے کہے کہ اے پانی تو میرے منہ تک آ جا! ظاہر بات ہے کہ پانی جامد اور لاشعور چیز ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ پھیلانے والا پیاسا ہے اور نہ اسے یہ پتہ کہ یہ ہاتھ پھیلانے والا مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور نہ اس میں یہ قدرت کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے منہ تک پہنچ جائے، اسی طرح یہ مشرک اللہ کے سوا جن بتوں کو پکارتے ہیں انھیں نہ یہ پتہ کہ کوئی انھیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً بِقُدْرَہَا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ و تمثیل کے پیرایہ میں حق و باطل کی حقیقت واضح کی ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی منافقین کے لئے مثالیں بیان فرمائی ہیں، مثال سے مقصد بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرانا ہے۔

## حق و باطل کی مثال:

اس آیت میں مذکورہ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان جامع ہے بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے، اسلئے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے اور وادیوں کو دل سے تشبیہ دی ہے اسلئے کہ بارش کا پانی وادیوں اور ندی نالوں میں جا کر جمع ہوتا ہے اور بقدر وسعت پانی لے کر رواں ہو جاتا ہے جس طرح قرآن مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔ دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہے کہ جیسا ان مثالوں میں میل کچیل برائے چندے (وقتی طور پر) اصلی چیز کے اوپر چڑھا ہوا نظر آتا ہے لیکن انجام کار وہ پھینک دیا جاتا ہے اور اصلی چیز رہ جاتی ہے اسی طرح باطل گو چند روز حق کے اوپر نظر آئے لیکن آخر کار باطل محو اور مغلوب ہو جاتا ہے اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے۔

اسی طرح جب سونے چاندی وغیرہ کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تو میل کچیل اوپر آ کر اچھل کود شروع کر دیتا اور بڑی شان کے ساتھ کچھ دیر کے لئے اصل دھات پر چڑھ جاتا ہے اور سطح پر وہی نظر آتا ہے مگر کچھ ہی دیر کے بعد کوڑے دان کی نذر ہو جاتا ہے، اسی طرح باطل بظاہر کچھ دیر کے لئے حق کو مغلوب کر لیتا ہے مگر کچھ مدت کے بعد حق باطل سے اس طرح ٹکراتا ہے کہ باطل کا بھیجہ پاش پاش کر دیتا ہے۔

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوٓءُ الْحِسَابِ، بُری حساب نہیں یا سخت حساب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی خطا اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے اور ہر قصور پر مواخذہ کیا جائے۔

قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں، بخلاف ان کے جنہوں نے اپنے خدا سے وفاداری کی ہے ان سے حساب سیر یعنی ہلکا حساب لیا جائیگا، اور ان کی خدمات کے مقابلہ میں ان کی خطاؤں کو درگزر کیا جائیگا اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائیگا اس کی مزید توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے ابو داؤد میں مروی ہے، حضرت عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک کتاب اللہ میں سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہے ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئْهُ“ جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائیگا، اس پر حضور نے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کے مطیع و فرمانبردار بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کافرا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی قصور کی سزا قرار دیکر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہو گا وہ سزا پا کر رہے گا، حضرت عائشہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ ”فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا“ جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائیگا اس سے ہلکا حساب لیا جائیگا، حضور نے جواب دیا اس سے مراد صرف پیشی ہے مگر جس سے باز پرس ہوئی وہ تو مارا گیا۔

وَنَزَلَ فِي حِمَاةٍ وَأَبَى جَهْلٍ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ بَلَّغَ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ لَا إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يُتَعَذَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ ۝۱۹ اصحاب العقول الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْمَاخُودِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي عَالَمِ الذِّرَارِ أَوْ كُلِّ عَهْدٍ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝۲۰ بترك الايمان او الفرائض وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ مِنْ الْإِيمَانِ وَالرَّحِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أَيْ وَعِيْدَهُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝۲۱ تَقَدَّمَ مَثَلُهُ وَالَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ ابْتِغَاءَ طَلَبِ وَجْهِ رَبِّهِمْ لَا غَيْرَهُ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا فِي الطَّاعَةِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ كَالْجَهْلِ بِالْحِلْمِ وَالْإِذَى بِالصَّبْرِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝۲۲ أَيْ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ هِيَ جَنَّتُ عَدْنٍ أَقَامَةٍ يَدْخُلُونَهَا بِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أِبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ يَكُونُونَ فِي دَرَجَاتِهِمْ تَكْرِمَةً لَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝۲۳ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَوْ الْقُصُورِ أَوْ دُخُولِهِمْ لِلتَّهْنِيَةِ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هَذَا الثَّوَابُ بِمَا صَبَرْتُمْ بِصَبْرِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝۲۴ عُقْبَاكُمْ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْكَفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ الْبَعْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۲۵ أَيْ الْعَاقِبَةُ السَّيِّئَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَهِيَ جَهَنَّمُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ يُضِيقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَفَرَحُوا أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ فَرَحَ بِطَرِيقِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَيْ بِمَا نَالُوهُ فِيهَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي جَنْبِ حَيَاةِ الْآخِرَةِ الْإِمْتَاعِ ۝۲۶ شَيْءٌ قَلِيلٌ يَتَمَتَّعُ بِهِ وَيَذْهَبُ.



**تَرْجُمہ:** اور (آئندہ آیت) (حضرت) حمزہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، کیا وہ شخص کہ جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، کہ نہ اس کو جانتا ہو اور نہ اس پر یقین رکھتا ہو، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوتے ہیں، جو اللہ کے عہد (پیمان) کو پورا کرتے ہیں جو ان سے اس وقت لیا گیا تھا کہ جب وہ عالم ذر (یعنی چیونٹیوں) کی شکل میں تھے یا مطلقاً کسی عہد کو نہیں توڑتے، اور وہ ایمان یا فرائض کو ترک کر کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اور جو اس کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ (جس کا حکم دیا ہے) ایمان لانا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی اس کی وعید سے، اور بُرے حساب سے ڈرتے ہیں (اس جیسی آیت) سابق میں گذر چکی ہے، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لئے نہ کہ دنیاوی کسی غرض کے لئے طاعت پر اور مصیبت پر اور معصیت سے باز رہنے پر صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے طاعت میں ظاہر اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور بُرائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں مثلاً جہل کو بردباری سے اور تکلیف کو صبر سے یہی تو ہیں وہ جن کے لئے آخرت کا گھر ہے، یعنی دار آخرت میں اچھا انجام وہ جنت ہے جس میں وہ مقیم رہیں گے جہاں وہ خود بھی جائیں گے اور ان کے آباء اور ازاواج اور اولاد میں سے جو ایمان لائے ہوں گے وہ بھی جائیں گے اگرچہ انہوں نے ان کے جیسا عمل نہ کیا ہو وہ بھی ان ہی کے درجوں میں ہوں گے اور یہ ان کے اکرام کے طور پر ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازہ سے آئیں گے یا محفلوں کے ہر دروازہ سے آئیں گے، فرشتوں کا دخول اولی مبارکبادی کے لئے ہوگا وہ کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو یہ اجر و ثواب تم کو اس صبر کے بدلے میں ہے کہ جو تم نے دنیا میں کیا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے تمہارے لئے دار آخرت کا اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے توڑتے ہیں، اور کفر و معاصی کے ذریعہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت ہے (یعنی) اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لئے برا گھر ہے، یعنی آخرت میں ان کے لئے برا انجام ہے اور وہ جہنم ہے، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے اور اہل مکہ تو دنیوی زندگی میں اترا کر مست ہو گئے، یعنی اس پر جو ان کو دنیوی زندگی میں حاصل ہوا اور دنیوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں نہایت حقیر پونجی ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے اور (پھر) چھوڑ کر (دنیا سے) رخصت ہو جاتا ہے۔

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْهِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلًا:** اَفَمَنْ یَعْلَمُ حمزہ فعل محذوف پر داخل ہے اور فاء عاطفہ ہے تقدیر عبارت یہ ہے اَیَسْتَوِی المؤمن والکافر فمن یعلم الخ۔

قَوْلًا: لا اس میں اشارہ ہے کہ استفہام انکاری بمعنی نفی ہے۔

قَوْلًا: اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ یہ جملہ الذین صبروا مبتداء کی خبر ہے۔

قَوْلًا: هِیَ اس میں اشارہ ہے کہ جَنَّتْ عَدْنٌ مبتداء محذوف کی خبر ہے نہ کہ عُقْبَى الدَّارِ سے بدل جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔

قَوْلًا: یدخلونہا ہم۔

سُؤَال: ہم مقدر ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جَوَاب: تاکہ مَنْ صَلَحَ کا عطف یدخلونہا کی ضمیر پر درست ہو جائے، اسلئے کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لئے ضمیر منفصل کے ذریعہ تاکید لانا ضروری ہوتا ہے۔

قَوْلًا: یقولون، یقولون کو مقدر مانا تاکہ کلام مربوط و منظم ہو جائے۔

قَوْلًا: بما نالوا فیہا، یعنی دنیوی زندگی تو ہر شخص کو حاصل ہے نفس زندگی پر اترانا مراد نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں ان کو جو کچھ حاصل ہوا اس پر اترانا اور بے جا فخر کرنا مراد ہے۔

## تَفْسِیر و تَشْرِیْح

اَفَمَنْ یَعْلَمُ اَنْمَّا اَنْزَلَ اِلَیْكَ الْخ یعنی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو یعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟! استفہام انکار کے لئے ہے یعنی یہ اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طرح جھاگ پانی کے، اور سونا چاندی اور ان کا میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔

اور جن کے پاس عقل سلیم اور قلب صحیح نہ ہو اور انہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کی کثافت سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کر لیا ہو وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، الذین یؤمنون بعہد اللہ الخ یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔

سُؤَال: اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے۔

جَوَاب: اللہ کے عہد سے مراد اس کے احکام (اوامر و نواہی) ہیں جنہیں وہ بجالاتے ہیں، یا وہ عہد ہے جو عہد الست کہلاتا ہے، اور عہد و پیمان میں وہ قول و قرار بھی داخل ہیں جنہیں لوگ آپس میں کرتے ہیں۔

اور اہل دانش کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی کئے گئے عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے ان میں وہ عہد و پیمان بھی شامل ہیں جو اللہ سے کئے ہیں اور وہ بھی جو اللہ کے رسول کے لئے ہوں اور آپسی عہد و معاہدے بھی۔

وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ الْخ یعنی رشتوں اور قرابتوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور قائم رکھتے ہیں



مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں یا آنحضرت ﷺ اور قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان کو ملا دیتے ہیں۔ (معارف)

اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اور حدود اللہ سے تجاوز کر کے من مانی زندگی بسر نہیں کرتے، اور جب خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنوں اور بیگانوں میں امتیاز کئے بغیر علانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے وہ بھلائی سے پیش آتے ہیں یا عفو درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔

یَدْخُلُونَهَا وَمِنْ صَلَاحِ (الآیۃ) یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ قرابتداروں کو جمع کر دے گا تا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کے ادنیٰ درجہ کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا تا کہ وہ اپنے قرابتداروں کے ساتھ جمع ہو جائیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک رشتہ داروں کو جمع فرما دے گا اور جس کے پاس ایمان کو پونجی نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائیگا خواہ وہ جنتی کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَلٰی مُحَمَّدٍ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ قُلْ لَهُمْ إِنْ أَلَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ أَضِلَّاهُ فَلَا تُغْنِي الْآيَاتُ عَنْهُ شَيْئًا وَيَهْدِي إِلَى دِينِهِ مَنْ أَنَابَ ۚ رَجَعَ إِلَيْهِ وَيُبَدِّلُ مَنْ مَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَيْ وَعَدِهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ أَيْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَبْتَدَأُ خَبْرُهُ طُوبَى مُصَدِّرٌ مِنَ الطَّيِّبِ أَوْ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَاقُطْعُهَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَا بَ ۚ رَجَعَ كَذَلِكَ كَمَا أَرْسَلْنَا الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوَ تَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَيْ الْقُرْآنَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ حَيْثُ قَالُوا لَمَّا أَسْرَوْا بِالْجُودِ لَهُ وَمَا الرَّحْمَنُ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ۚ وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا لَهُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَسِيرْ عَنَّا جِبَالَ مَكَّةَ وَاجْعَلْ لَنَا فِيهَا أَنْهَارًا وَعَيُونًا لِغُرَسٍ وَنَزْرَعٍ وَابْعَثْ لَنَا أَبَا نَا الْمَوْتَى يُكَلِّمُونَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالَ نَقَلْتُ عَنْ أَمَا كُنْهَا أَوْ قَطَعْتَ شَقَقْتَ بِهِ الْأَرْضَ أَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَانَ يَحْيُوا لَمَّا آمَنُوا بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا لَا بَغْيَ لَهُ فَلَائِيُؤْمِنُ الْآمَنُ يَشَاءُ اللَّهُ إِيْمَانَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ أَوْتُوا مَا اقْتَرَحُوا وَنَزَلَ لَمَّا ارَادَ الصَّحَابَةُ أَظْهَارَ مَا اقْتَرَحُوا طَمَعًا فِي إِيْمَانِهِمْ أَفَلَمْ يَلَيْسَ يَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ مَخْفَفَةَ أَيْ أَنَّهُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا إِلَى الْإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ آيَةٍ وَلَا يُزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا بَصْنَعِهِمْ أَيْ بِكُفْرِهِمْ قَارِعَةً دَاهِيَةً تَقْرَعُهُمْ بِصَنُوفِ الْبَلَاءِ مِنَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَالْحَرْبِ

وَالْجَدْبَ أَوْ تَحُلَّ يَا مُحَمَّدُ بِجَيْشِكَ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۱۰  
وقد حلَّ بالحدیبیۃ حتی اثنی فتح مَكَّةَ.

**ترجمہ:** اور اہل مکہ میں سے کافر کہتے ہیں کہ محمد ﷺ پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ) عصا اور بیضاء اور ناقہ صالح جیسی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بے راہ کر دیتے ہیں نشانیاں (معجزات) اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی اپنے دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مَن سے اَلَّذِیْنَ آمَنُوا بدل ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے قلوب اللہ کے ذکر یعنی اس کے وعدہ سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی مومنوں کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کئے ان کے لئے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے (اَلَّذِیْنَ آمَنُوا) مبتداء ہے اور (طوبی) اس کی خبر ہے (طوبی) الطیب سے مصدر ہے یا جنت میں ایسا درخت ہے کہ (گھوڑ) سوار اس کے سایہ میں سو سال تک چلے گا تب بھی اس کی مسافت طے نہ کر سکے گا، یعنی جس طرح آپ سے پہلے ہم نے انبیاء بھیجے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ﷺ ان کو وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جس کو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے، یہ رحمن کے منکر ہیں اس لئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ رحمن کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا رحمن کیا چیز ہے؟ آپ کہئے کہ میرا پروردگار تو وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، اور (آئندہ آیت اس وقت) نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ نے آپ ﷺ سے کہا اگر تم نبی ہو تو مکہ کے پہاڑوں کو ہمارے یہاں سے ہٹا دو اور ہمارے لئے مکہ میں نہریں اور چشمے جاری کر دو، تاکہ ہم درخت لگائیں اور کھیتی کریں اور ہمارے مردہ آباء و اجداد کو زندہ کر دو تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور اگر بالفرض کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعہ پہاڑ اپنی جگہ سے منتقل کر دیئے جاتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاتے یا اس کے ذریعہ مردوں سے باتیں کرادی جاتیں یاں طور کہ ان کو زندہ کر دیا جاتا، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، بلکہ پورا اختیار اللہ ہی کو ہے نہ کہ کسی اور کو، تو بھی کوئی ایمان نہ لاتا مگر وہی جس کے ایمان کو اللہ چاہتا نہ کہ دوسرا، اگرچہ ان کی مطلوبہ نشانیاں دکھادی جاتیں، اور (آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی جبکہ صحابہ نے اہل مکہ کے ایمان کی خواہش کرتے ہوئے ان کی مطلوبہ نشانیاں کو ظاہر کرنے کی تمنا کی تو کیا ایمان والے اس بات کو نہیں جانتے کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بغیر نشانی کے سب لوگوں کو ایمان کی ہدایت دیدیتا اور کافروں (یعنی) اہل مکہ پر ان کے کرتوتوں یعنی کفر کی بدولت مختلف قسم کے ایسے حوادث مسلسل پہنچتے رہیں گے جو ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے مثلاً قتل اور قید اور جنگ اور خشک سالی اے محمد آپ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب (حدیبیہ میں) نزول فرمائیں گے یہاں تک ان کے خلاف اللہ کا نصرت کا وعدہ آجائے یقیناً اللہ (اپنے) وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور آپ نے حدیبیہ میں نزول فرمایا یہاں تک کہ مکہ کی فتح آگئی۔



## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: هَلَا، لَوْلَا کی تفسیر هَلَا سے کر کے اشارہ کر دیا کہ لولا تحضیہ ہے۔

قَوْلًا: وِیْبَدِلْ مِنْ مَنْ یعنی مَنْ اِنَابَ سے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا الخ جملہ ہو کر بدل الکل ہے۔

قَوْلًا: اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا میں ترکیب کے اعتبار سے پانچ صورتیں ہو سکتی ہیں ① اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا مبتداء اور بعد میں آنے والا

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا جملہ ہو کر اس کی خبر اور درمیان میں و تَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ، جملہ معترضہ، ② اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا، مَنْ

اناب سے بدل الکل، ③ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا، مَنْ کا عطف بیان ہو، ④ مبتداء محذوف کی خبر ہو، ای هم الذین آمنوا

⑤ فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہو ای اَمْدَحُ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا۔

قَوْلًا: ای وعدہ، ذکر اللہ کی تفسیر وعدہ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں عام بول کر خاص مراد ہے ورنہ ذکر اللہ وعدہ اور

وعید دونوں کو شامل ہے اور وعید سے قلوب مطمئن ہونے کے بجائے مضطرب ہوتے ہیں مفسر علام نے ای وعدہ سے اسی سوال

کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلًا: طوبی، خوبی، خوش حالی، جنت کے درخت کا نام، علامہ آلوسی نے طوبی کو طاب یطیب (ض) کا مصدر بتایا ہے

جیسا کہ بشری، زلفی اور یاء ساکن اپنے ماقبل ضمہ ہونے کی وجہ سے واؤ سے بدلی ہوئی ہے اصل میں طیبی تھا۔

قَوْلًا: فَسَیَّرَ عَنَا، ای سَیَّرَ بَقَرَاءَ تِلْكَ عَنَا جِبَالِ مَكَّةَ۔

قَوْلًا: شَقَّقَتْ یعنی آپ کی قراءت کی وجہ سے زمین شق ہو کر اس میں سے چشمے اور نہریں جاری ہو جاتیں، اور بعض نے کہا

ہے قُطِعَتْ کا مطلب ہے قرآن کے ذریعہ طی الارض یعنی سرعت کے ساتھ آناً فاناً مسافت طے ہو جایا کرے۔

قَوْلًا: لَمَّا اٰمَنُوا یہ لَوْ کا جواب ہے جو کہ محذوف ہے۔

قَوْلًا: لَا بَغِیْرَہ اس میں اشارہ ہے کہ لِلّٰهِ الامر جمیعاً، اصل عبارت ہے الامر جمیعاً لِلّٰهِ جار مجرور کو اختصاص کے

لئے مقدم کر دیا جس کو مفسر علام نے لا بغیرہ کہہ کر ظاہر کر دیا ہے۔

قَوْلًا: یَعْلَمُ، یَنْتَسِ کی تفسیر یَعْلَمُ سے کی ہے یعنی لَمْ یَنْتَسِ کی تفسیر لَمْ یَعْلَمُوا سے لغت بنی نفع یا ہوازن کے مطابق ہے

اور یا یأس کے علم کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے کی ہے اس لئے کہ جو شخص مایوس ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کام ہونے والا

نہیں ہے۔

قَوْلًا: بِصَنَعِهِمْ مَا صَنَعُوا کی تفسیر بِصَنَعِهِمْ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ مَا، مصدر یہ ہے نہ کہ موصولہ، لہذا عدم عائد کا

اعتراض واقع نہ ہوگا۔

قَوْلًا: الدَّاهِیَۃُ، الامر العظیم۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی یہ مشرکین مکہ ازراہ طعن و عناد کہتے تھے کہ یہ صاحب جو مدعی نبوت پیدا ہوئے ہیں آخر اپنے خدا کے یہاں سے کوئی معجزہ ہماری پسند کا کیوں نہیں لا دیتے؟

الذِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ذکر اللہ سے مراد تو حید کا بیان ہے جس سے مومنوں کے دلوں میں انشراح اور کافروں کے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے یا خدا کی بندگی، تلاوت قرآن، نوافل اور دعاء و مناجات مراد ہیں جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، یا اس کے احکام و فرامین کی بجا آوری مراد ہے جس کے بغیر اہل ایمان و تقویٰ بے قرار رہتے ہیں، یعنی ذکر الہی کی خاصیت ہی یہ ہے کہ یہ انسان کے قلب کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے الجھاوے سے بچا دیتا ہے، اور شرک سے جو انتشار و ذہنی پیدا ہوتا ہے یقیناً تو حید اس کے لئے تریاق کا کام دیتی ہے، البتہ اس اطمینان کے بھی مختلف درجے ہیں جس درجہ کا ذکر الہی ہوتا ہے اسی نسبت سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔

ذکر الہی کے آثار میں سے ایک اثر خوف و خشیت کا ہے ”اِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ“ لیکن یہ ماسوا کی طرف سے اطمینان اور فراغت، خوف خدا کے منافی بالکل نہیں بلکہ یہ دونوں کیفیتیں تو عین ایک دوسرے کی متمم اور مکمل ہیں۔

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ الْخِجْ جِسْ طَرَحْ ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لئے بھیجا ہے اسی طرح پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی تھی اور جس طرح تکذیب کے نتیجہ میں وہ قومیں عذاب الہی سے دوچار ہوئیں انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہئے۔

مشرکین مکہ ”رحمن“ کے لفظ سے بہت بدکتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رحمن اور رحیم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ (ابن کثیر)

## شان نزول:

لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ الْخِجْ مشرکین مکہ نے یہود کی تعلیم و ترغیب سے اس قسم کی فرمائشیں کی تھیں کہ دعویٰ تو پیغمبری کا ہے مگر داؤد علیہ السلام پیغمبر کی طرح پہاڑوں کی تسخیر کا تماشا کیوں نہیں دکھا دیتے، یا سلیمان علیہ السلام بن داؤد کی طرح ہوا کے دوش پر سفر کیوں نہیں کرواتے یا عیسیٰ نبی اللہ کی طرح مردوں سے کیوں گفتگو نہیں کر دیتے۔ مذکورہ آیت ان ہی بیہودہ فرمائشوں کے جواب میں نازل ہوئی، تفسیر بغوی میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

مشرکین مکہ جن میں ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن امیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور عبد اللہ بن امیہ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، اس نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم اور ہم سب آپ کے رسول ہونے کو تسلیم کر لیں تو ہمارے چند مطالبات ہیں اپنے قرآن کے ذریعہ ان کو پورا کر دیجئے تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔



مطالبات میں ایک تو یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور زمین بھی سنگ لائخ ہے جس میں نہ کاشت و زراعت کی گنجائش نہ باغات کی اور دوسری ضروریات کی، آپ معجزے کے ذریعہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے، تاکہ مکہ کی زمین کشادہ ہو جائے آخر آپ کے کہنے کے مطابق داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑ مسخر کر دیئے گئے تھے، اور داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے، آپ بقول خود اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام سے کم تو نہیں ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے آپ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا آپ بھی ہمارے لئے ایسا ہی کر دیں کہ ہمارے لئے شام و یمن وغیرہ کے سفر آسان ہو جائیں۔

تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ ان سے کچھ کم تو ہیں نہیں آپ بھی ہمارے لئے ہمارے دادا قصبی کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں۔

(معارف، مظہری، بحوالہ بغوی و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ)

مذکورہ آیت میں تسیر جبال سے مراد پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور قَطَّعت بہ الارض سے مراد مختصر وقت میں طویل مسافت طے کرنا جس کو طی الارض کہا جاتا ہے، اور کلمہ بہ الموتی سے مراد مردوں کو زندہ کر کے ان سے کلام کرنا مراد ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قرآن کے ذریعہ بطور معجزہ ان کے یہ مطالبات پورے کرادیئے جائیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں کیونکہ وہ ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزات کا مشاہدہ کرچکے ہیں جو ان کے مطلوبہ معجزات سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، رسول اللہ ﷺ کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اور تسخیر ہوا سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے، اسی طرح بے جان کنکریوں کا آپ کے دست مبارک میں بولنا اور تسبیح کرنا کسی مردہ انسان کے دوبارہ زندہ ہو کر بولنے سے کہیں زیادہ عظیم معجزہ ہے، لیلۃ المعراج میں مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کا سفر اور بہت مختصر وقت میں واپسی تسخیر ہوا اور تخت سلیمانی کے اعجاز سے بہت زیادہ عظیم ہے مگر یہ ظالم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ایمان نہ لائے تو اب ان مطالبات سے بھی ان کی نیت محض دفع الوقتی معلوم ہوتی ہے اسلئے کہ جب ہمارے مطلوبہ معجزے پیش نہ کئے جائیں گے تو ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائیگا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اسلئے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہمارے مطلوبہ معجزے دکھا دیتے۔

أَفَلَمْ يَأْتِئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا الْخِامِ بَغْوِي نَقْلُ كَيْفَ هُوَ كَمَا صَحَابَةُ كَرَامٍ نَبِيٍّ جَبَّ مُشْرِكِينَ كَيْفَ مَطَالِبَاتُ سَبْنِ تَوِي تَمَنَّا كَرْنِ لَكِ كَيْفَ بَطُورِ مَعْجَزِهِ كَيْفَ مَطَالِبَاتُ پُورِے كَرْدِيَّے جَائِئِے تَوْبَهْتَرِے سَارِے مَكَّه وَالِے مُسْلِمَانِ هُوَ جَائِئِے كَے، اور اسلام كو بڑی قوت حاصل ہو جائے گی اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اہل ایمان ان مشرکوں کی حیلہ جوئی اور معاندانہ بحثوں کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود اب تک ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے ہیں کہ ایسی تمنا کرنے لگے جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ہی انسانوں کو ایسی ہدایت دیدیتا کہ وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکتے مگر حکمت کا تقاضا یہ نہ تھا کہ سب کو ایمان و اسلام پر مجبور کر دیا جائے بلکہ حکمت یہی تھی کہ ہر شخص کا اپنا اختیار باقی رہے اپنے

اختیار سے اسلام کو پسند کرے یا کفر کو۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْخِ حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ نے فرمایا کہ قارعة کے معنی مصیبت اور آفت کے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے مطلوبہ معجزے اس لئے پورے نہیں کئے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مطلوبہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، تو اللہ کے نزدیک یہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں جیسا کہ اہل مکہ پر کبھی قحط کی مصیبت آئی اور کبھی اسلامی غزوات، بدر وغیرہ میں ان کے قتل و قید ہونے کی آفت نازل ہوئی، کسی پر بجلی گری اور کوئی کسی بلا میں مبتلا ہوا۔ (معارف)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ كَمَا اسْتَهْزَىٰ بِكَ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَلَيْتُ اسْهَلْتُ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا تَمَّ اخَذَتْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۙ اِی ہُوَ وَاَقْعُ مَوْقَعُهُ فَكَذَلِكَ اَفْعَلُ بِمَنِ اسْتَهْزَا بِكَ  
اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ عَمَلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُوَ اللَّهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ مِنْ الْاَصْنَامِ لَا دَلَّ عَلَىٰ  
هَذَا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُّوهُمْ لَهٗ مِّنْهُمْ اَمْ بَلْ اُتَيْنُوْنَهُ تَخْبِرُوْنَ اللّٰهُ بِمَا اِیْ بِشْرِيْكَ لَا يَعْلَمُ فِی الْاَرْضِ  
اسْتَفْهَامُ اِنْكَارِ اِیْ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِذْ لَوْ كَانَ لَعَلِمَهُ تَعَالٰی عَنْ ذٰلِكَ اَمْ بَلْ اُتْسَمُوْنَهُمْ شُرَكَاءَ  
بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَظَنِّ بَاطِلٍ لَا حَقِيْقَةَ لَهٗ فِی الْبَاطِنِ بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرَهُمْ كَفَرْتُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيْلِ  
طَرِيقِ الْهُدٰی وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَلِعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ  
اَشَدُّ مِنْهُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِیْ عَذَابِهٖ مِنْ وَّاقٍ ۙ مَّانَعٌ مِّثْلُ صِفَةِ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُوْنَ مَبْدَأُ خَبْرِهِ مَجْذُوفٌ  
اِیْ فِیْمَا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اُكْلُهَا مَا یُؤْكُلُ فِیْهَا دَائِمٌ لَا یَفْنٰی وَظِلُّهَا ۙ دَائِمٌ لَا تَنْسَخُهُ  
شَمْسٌ لَّعَدِمَهَا فِیْهَا تِلْكَ اِیْ الْجَنَّةُ عُقْبٰی عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشَّرْكَ وَعُقْبٰی الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۙ  
وَالَّذِيْنَ اتَّبَعَتْهُمْ اِلٰكُتُبٌ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَیْرِهِ مِنْ مُّؤْمِنِی الْیَهُودِ یَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ لِمَوَافَقَتِهِ مَا  
عِنْدَهُمْ وَمِنْ الْاَحْزَابِ الَّذِيْنَ تَحْزَبُوْا عَلَیْكَ بِالْمَعَادَاتِ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ وَالْیَهُودِ مَنْ یُّنْكِرُ بَعْضَهُ ۙ كَذَكَرِ  
الرَّحْمٰنِ وَمَا عَدَا الْقَصَصِ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ فِیْمَا اُنْزِلَ اِلَیَّ اَنْ اِیْ بَانَ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكْ بِهٖ ۙ اِلَیْهِ اَدْعُوْا وَ اِلَیْهِ  
مَآبٌ ۙ مَّرْجِعِیْ وَكَذٰلِكَ الْاَنْزَالُ اَنْزَلْنَاهُ اِی الْقُرْآنَ حُكْمًا عَرَبِیًّا ۙ بَلُغَةُ الْعَرَبِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ  
وَلٰكِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ اِی الْكُفْرَ فِیْمَا یَدْعُوْنَكَ اِلَیْهِ مِنْ مِّلَّتِهِمْ فَرْضًا بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ بِالتَّوْحِیْدِ  
مَالِكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٍ وَلِیِّ نَاصِرٍ وَلَا وَاَقٍ ۙ مَّانَعٌ مِنْ عَذَابِهٖ ۙ

ترجمہ: یقیناً آپ سے پہلے (بھی) رسولوں کا مذاق اڑایا گیا جیسا کہ آپ کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ نبی ﷺ کو تسلی

ہے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے ان کو سزائیں پکڑ لیا پس میرا عذاب کیسا رہا یعنی وہ اپنے محل میں واقع ہوا، تو



میں ہر اس شخص کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جو آپ کا مذاق اڑائیگا، کیا وہ ذات جو ہر متنفس کے اچھے برے عمل کی نگرانی ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے مانند ہوگا کہ جو ایسا نہیں ہے کہ وہ بت ہیں نہیں، اس (حذف جواب) پر وَجَعَلُوا لِلّٰهِ الْخِ دَالَتَ کر رہا ہے، آپ ان سے کہئے کہ ان کے نام تو بتاؤ وہ کون ہیں؟ بلکہ تم اللہ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، استفہام انکاری ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں اسلئے کہ اگر (شریک) ہوتا تو وہ اس کے علم میں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے، یا تم نے یوں ہی یہ بات گمان باطل سے کہی ہے کہ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لئے ان کے مکر کو یعنی کفر کو آراستہ کر دیا گیا ہے، اور ان کو براہ ہدایت سے روک دیا گیا ہے اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ان کے لئے دنیوی زندگی میں قتل و قید کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت ہی زیادہ سخت ہے اور انھیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، (الجنة التي الخ) مبتداء ہے اس کی خبر محذوف ہے، اور وہ فیما نقص علیکم ہے، اس میں نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے (یعنی) جنت کے ماکولات دائمی ہوں گے وہ کبھی فنا نہ ہوں گے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا، اس کو سورج ختم نہ کر سکے گا، اس لئے کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا یہ یعنی جنت ان لوگوں کا انجام ہوگا جو شرک سے بچتے رہے ہوں گے اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگی اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے جیسا کہ عبد اللہ بن سلام مومنین یہود میں سے اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہونے کی وجہ سے جو ان کے پاس ہے اور یہود و مشرکین کے کچھ گروہ جو دشمنی کی وجہ سے متحدہ محاذ بنا کر آپ پر حملہ آور ہوئے وہ ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں اور قصوں کے علاوہ (احکام) کا انکار کرتے ہیں آپ اعلانیہ کہہ دیجئے کہ جو چیز مجھ پر نازل کی گئی ہے مجھے تو اس میں حکم دیا گیا ہے کہ میں (صرف) اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی کافر مان بنا کر عربی زبان میں نازل کیا تا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، اور اگر آپ کے پاس توحید کا علم آنے کے بعد آپ نے کفار کی خواہشات کی بالفرض اگر ان باتوں میں جس کی طرف وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں اتباع کر لی تو اللہ کی جانب سے نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا، من زائدہ ہے۔

## تَحْقِیْقُ شَرِکِیْہِ لِتَسْمِیْلِہِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدُ

قَوْلُہٗ: کِیْفَ کَانَ عِقَابِہٖ، اِیْ عَلٰی اَیِّ حَالَةٍ کَانَ عِقَابِہٖ؟ ہَلْ کَانَ ظَلَمًا لَّہُمْ اَوْ کَانَ عَذْلًا؟ یعنی میرا عِقَابِ ظالمانہ رہا یا عادلانہ، اس کا جواب شارح نے اپنے قول ”هُوَ وَاَقْعُ مَوْقِعَہٗ“ سے دیدیا۔

قَوْلُہٗ: کَمَنْ لَیْسَ کَذٰلِکَ یَہٗ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ مَّبْتَدِءٌ کِیْ خَبْرٍ مَحْذُوفٍ ہِے، قَرِیْنَةُ مَقَابِلَہٗ سے چونکہ خبر کا حذف مفہوم ہے اسلئے کلام بے فائدہ ہونے کا اعتراض نہیں ہوگا۔

قَوْلًا: دَلَّ عَلَى هَذَا، یعنی مذکور پر وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ دَلَّالت کر رہا ہے اور مذکورہ سے مراد استفہام کا انکاری ہونا اور خبر محذوف پر دلالت کا ہونا، یعنی اجعلوا الخ دونوں باتوں پر دلالت کر رہا ہے۔

قَوْلًا: مَثَلُ جَنَّةِ التِّي وَوَعْدَ الْمُتَّقِينَ جملہ ہو کر مبتداء اس کی خبر محذوف ہے اور وہ فیما نقص علیکم ہے تجری من تحتها الانهار ضمیر محذوف سے حال ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، ”مَثَلُ الْجَنَّةِ التِّي وَوَعْدُ الْمُتَّقِينَ تجری من تحتها الانهار“۔

قَوْلًا: اُكْلُهَا دَائِمٌ، وَظِلُّهَا دَائِمٌ، یہ دونوں جملے بھی مبتداء خبر ہو کر حال ہیں، اور ظِلُّهَا مبتداء کی خبر دائم ماقبل کے قرینہ کی وجہ سے محذوف ہے۔

قَوْلًا: مَا يُوَكِّلُ فِيهَا۔

سُؤَالٌ: اُكْلُهَا کی تفسیر ما یوکل سے کس مقصد سے کی ہے۔

جَوَابٌ: اس کا مقصد دواعتراضوں کو دفع کرنا ہے، ① اگر اُكْلُهَا کو مصدر مانا جائے تو دائم کا حمل اس پر درست نہیں اور اگر اُكْلُ بمعنی ما کوک لیا جائے تو ماکول تو کھانے کے بعد معدوم ہو جاتا ہے لہذا دوام کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

جَوَابٌ: اُكْلٌ سے مراد ما مِنْ شَانِهِ اَنْ یُوَكِّلُ ہے اس تفسیر سے دونوں اعتراض ختم ہو گئے۔

قَوْلًا: فِيهَا، اس میں اشارہ ہے کہ اُكْلُهَا میں اضافت بمعنی فی ہے اور یہ اسناد مجازی ہے، اور اس میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔  
قَوْلًا: حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ دونوں انزلناہ کی ضمیر یعنی قرآن سے حال ہیں حالانکہ حُكْمًا اور عربیًا کا قرآن پر حمل درست نہیں ہے۔

جَوَابٌ: کا حاصل یہ ہے کہ حُكْمًا مصدر بمعنی مفعول یعنی ما یحکم بہ بین الناس۔

## تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ، اے محمد ﷺ یہ حالات جو آپ کو درپیش ہیں صرف آپ ہی کو پیش نہیں آئے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا رہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ تمسخر کرتے رہے ہیں مگر مجرموں اور منکروں کی فوراً پکڑ نہیں کی گئی جب حد اور بس ہو گئی اور مجرموں کا جرم انتہاء کو پہنچ گیا تو پھر ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا اور کیسا پکڑا؟ کہ کسی کو اس کے مقابلہ کی تاب نہ رہی۔

حدیث میں آتا ہے ”اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِیْ لِلظّٰلِمِ حَتّٰی اِذَا اخَذَهُ لَمَّ یُقْلِتُهُ“ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں اس کے بعد نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذٰلِكَ اَخَذُ رَبِّكَ اِذَا اخَذَ الْقُرْیٰ وَهِيَ ظٰلِمَةٌ اِذَا اخَذَهُ الِیْمُ شَدِیْدٌ“ (سورہ ہود) اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے یقیناً اس کی پکڑ بہت الم ناک اور سخت ہے۔ (صحیح بخاری)



اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ، اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ بے جان و بے شعور بتوں کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگران اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے، پھر فرمایا کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کو ان کی نظروں میں مزین کر رکھا ہے وہ اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے ہیں۔ (معارف)

قُلْ سَمُّوْهُمْ، لَہٗ اٰی قُلْ یَا مُحَمَّدٌ ﷺ جَعَلْتُمْ لَہٗ شُرَکَآءَ فَسَمُّوْهُمْ، مَنْ هُمْ؟ یعنی اے محمد آپ مشرکوں سے کہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں تم ان کا نام تو لو وہ کون ہیں؟ یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تا کہ انھیں پہچان سکیں، اسلئے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یعنی ان کا وجود ہی نہیں ہے اسلئے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا اس پر تو کوئی شئی مخفی نہیں ہے۔

### اہل کتاب صحابہ اور صحابیات کی تعداد:

الَّذِیْنَ آتٰنَا هُمُ الْکِتَابَ، اس آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو مشرف باسلام ہو کر اصحاب رسول کی مبارک جماعت میں شامل ہوئے، ان کی تعداد ۶۳ بتائی گئی ہے اور ۷ نام کتابیات کے ان کے علاوہ ہیں کل تعداد ۷۰ ہوتی ہے۔

(ماجدی، ملخصاً)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِیًّا (الآیۃ) جس طرح انبیاء سابقین پر کتابیں ان کی مقامی زبان میں نازل کیں اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا اس لئے کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی ہیں جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو ان کی سمجھ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لئے عذر بن جاتا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے ان کا یہ عذر بھی دور کر دیا۔

آپ ﷺ کو مشرکین مکہ اور اہل کتاب کی خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے مثلاً اہل کتاب کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو ہمیشہ کے لئے قبلہ رہنے دیا جائے اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کی جائے اسی طرح مشرکین کی خواہش تھی کہ ہمارے بتوں کی تنقیص نہ کی جائے بلکہ ان کی شان میں کچھ تو صافی کلمے فرمائے جائیں، یا یہ کہ ایک سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کریں اور ایک سال تم ہمارے معبودوں کی بندگی کرو وغیرہ وغیرہ۔

وَنَزَلَ لِمَا عَيَّرُوْهُ بِكُثْرَةِ النِّسَاءِ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۖ اَوْلَادًا وَاَنْتَ مَثَلُهُمْ وَمَا كَانَ لِرُّسُوْلٍ مِنْهُمْ اَنْ يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لَانَهُمْ عَبِيْدٌ مَُّرْبُوْبُوْنَ لِكُلِّ اَجَلٍ مَّدَّةٌ ۚ كِتَابٌ مَّكْتُوْبٌ فِيْهِ تَحْدِيْدُهُ يَمَّحُوْا اللّٰهَ مِنْهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُۙ بِالْتَّخْفِیْفِ وَالتَّشْدِیْدِ فِيْهِ مَا يَشَآءُ مِنْ الْاَحْكَامِ وَغَيْرِهَا وَعِنْدَہٗ اُمُّ الْکِتٰبِ ۙ اَصْلُہُ الَّذِی لَا یُغٰیِّرُ مِنْہٗ شَیْءٌ وَہُوَ مَا کُتِبَ فِی الْاَزْلِ وَاِنْ مَا فِیْہِ اَدْغَامٌ نُّونٌ اِنْ

الشرطية في ما المزيده نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بِهِ مِنْ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ  
 اِى فِذَاكَ اَوْ نَتَوَفَّيْكَ قَبْلَ تَعْذِيبِهِمْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا عَلَيْكَ اِلَّا التَّبْلِيغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ① اِذَا صَارُوا  
 اِلَيْنَا فَنُجَازِيهِمْ اَوْ لَمْ يَرَوْا اِى اَهْلُ مَكَّةَ اَنَا نَاتِي الْاَرْضَ نَقْصِدُ اَرْضَهُمْ نَقْصُهَا مِنْ اطْرَافِهَا بِالْفَتْحِ عَلَى النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ لَا مَعْقِبَ رَاۓَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ②  
 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْاَسْمِ بِانْبِيَائِهِمْ كَمَا مَكَرُوا بِكَ فَاِنَّ الْمَكْرَ جَمِيعًا وَلَيْسَ مَكْرُهُمْ كَمَكْرِهِ  
 لَآنَّ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ فَيُعْذِلُ لَهَا جَزَائِهَا وَهَذَا هُوَ الْمَكْرُ كُلُّهُ لَآنَّ يَأْتِيهِمْ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا  
 يَشْعُرُونَ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ الْمُرَادُ بِهِ الْجَنْسُ وَفِي قِرَاءَةِ الْكُفَّارِ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ③ اِى الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي  
 الدَّارِ الْاٰخِرَةِ اَلَهُمْ اَمَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ لَهُمْ  
 كُفًى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ④ عَلَى صِدْقِي اَفَلَمْ يَلَيْسَ مِنْ مُّؤْمِنِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

**ترجمہ:** آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب انہوں نے آپ ﷺ کو کثرت ازواج پر عار دلائی، ہم آپ  
 سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو بیوی بچوں والا بنایا، اور آپ بھی ان کے مثل ہیں ان میں سے کسی  
 رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لاسکے، اس لئے کہ وہ تربیت یافتہ بندے ہیں، ہر دور کے لئے ایک  
 کتاب ہے وہ اسی (دور) کے لئے محدود ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جن احکام وغیرہ کو چاہتا ہے  
 باقی رکھتا ہے ام الکتاب (اصل) اسی کے پاس ہے اصل کتاب کہ اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کرتا اور وہی ہے جس کو اس نے  
 ازل میں لکھا اور جس عذاب کی دھمکیوں کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے (امّا) میں ان شرطیہ کا ما زائدہ میں ادغام ہے ان میں  
 سے بعض ہم آپ کو دکھا دیں (یعنی) آپ کی زندگی ہی میں (ان پر) وہ عذاب آجائے اور جواب شرط محذوف ہے، اِى فِذَاكَ،  
 یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ان کو عذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دیدیں آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور بس یعنی  
 آپ پر تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو بدلہ دیں  
 گے کیا اہل مکہ نہیں دیکھتے کہ ہم نبی ﷺ کو فتح دیکر زمین اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق میں جو  
 چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے، ان سے پہلے امتوں نے بھی اپنے انبیاء کے  
 ساتھ مکاریاں کی ہیں جیسا کہ آپ کے ساتھ مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں اور ان کی تدبیریں اس کی  
 تدبیر جیسی نہیں ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنفس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا لہذا اس کے لئے اس کی جزاء تیار  
 رکھتا ہے اور یہی اس کی مکمل تدبیر ہے، اس لئے کہ اس کو اس طرح بروئے کار لاتا ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور کافروں  
 کو عنقریب معلوم ہو جائیگا اور کافر سے مراد جنس کافر ہے، اور ایک قراءت میں (کافر کے بجائے) کفار ہے کہ دار آخرت کس کے





## نبیوں اور رسولوں کے متعلق کفار و مشرکین کا عام تصور:

کفار و مشرکین کا رسول اور نبی کے متعلق ایک عام تخیل یہ تھا کہ وہ جنس بشر کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق مثل فرشتوں کے ہونی چاہئے جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے، قرآن کریم نے ان کے اس خیالِ فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے نبوت و رسالت کی حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں سمجھا، اس لئے تمہارے ذہن میں اس قسم کے وہی خیالات پیدا ہوئے، کیونکہ رسول کو حق تعالیٰ ایک نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں، انہی جیسے اعمال و اخلاق سیکھیں، اور یہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے ہم جنس انسان ہی کی پیروی کر سکتا ہے، جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے، مثلاً فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس اور نہ نفسانی خواہشات سے ان کو کوئی واسطہ نہ اس کو نیند آئے نہ اونگھ نہ تکان لاحق ہونہ کسل اب اگر انسان کو ان کی پیروی کا حکم دیا جاتا تو یہ ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی۔

## آپ ﷺ اور تعدد ازواج:

آپ ﷺ کے متعلق بھی لوگوں کو یہی اعتراض اور شبہ ہوا، اور آپ ﷺ کے تعدد ازواج سے ان کا یہ شبہ اور بڑھ گیا، اس کا جواب آیت کے پہلے جملہ میں یہ دیا گیا ہے کہ ایک یا اس سے زائد نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت و رسالت کے منافی سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کی تو ابتداء آفرینش سے یہی سنت رہی ہے کہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اولاد بناتے ہیں جتنے انبیاء علیہم السلام پہلے گزرے ہیں اور ان میں سے بعض کی نبوت کے تو تم بھی قائل ہو وہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھے اور صاحب اولاد تھے۔

## حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور سات سو باندیاں تھیں:

حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں آزاد اور سات سو باندیاں تھیں اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں اور کثرت ازواج سے ان کی نبوت میں نہ کوئی نقص تھا اور نہ قباح لہذا یہ آپ کی نبوت کے لئے قاذور اور عیب کیسے ہو سکتا ہے؟

## آپ ﷺ کی اولاد کی تفصیل:

آپ ﷺ کی سات اولاد تھیں چار لڑکیاں اور تین لڑکے ان کی ترتیب اس طرح تھی، سب سے بڑے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بعد عبد اللہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا، ان کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب حضرت خدیجہ سے تھے سوائے ابراہیم



کے کہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے اور سوائے فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے سب کا انتقال آپ کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، البتہ حضرت فاطمہ آپ ﷺ کے انتقال کے بعد چھ ماہ بقید حیات رہیں۔

## کفار و مشرکین کے معاندانہ سوالات:

ہر زمانہ میں کفار و مشرکین اپنے زمانہ کے نبی کے سامنے معاندانہ سوالات پیش کرتے رہے ہیں، آپ ﷺ کے زمانہ کے مشرکین نے آپ سے بھی اسی قسم کے سوالات کئے تھے، ان میں دو سوال بہت عام ہیں ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں جیسا کہ سورہ یونس میں ان کا مطالبہ مذکور ہے ”اِنَّتَ بَقْرَانِ غَیْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ“ یعنی یا تو اس موجودہ قرآن کے بجائے بالکل ہی دوسرا قرآن لا دیجئے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا گیا ہو یا پھر آپ اس قرآن میں کچھ رد و بدل اور ترمیم کر کے ان آیتوں کو نکال دیجئے جن سے ہمارے بتوں کی مذمت نکلتی ہے یا جن میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے یعنی حلال کی جگہ حرام اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے۔

## موجودہ اعداء اسلام کی ذہنیت آج بھی یہی ہے:

مغربی صیہونی ذہن میں یہ بات آپ کی بعثت کے روز اول ہی سے کھٹک رہی ہے ان کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ان آیتوں کو حذف کر دیا جائے جن سے یہودیت اور نصرانیت کی مذمت ثابت ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دی جاتی ہے کبھی مالی لالچ دیا جاتا ہے تو کبھی اقتصادی پابندی کی دھمکی دی جاتی ہے ایسی کوششیں ماضی میں بھی متعدد بار ہو چکی ہیں جو ناکام رہی ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی کتاب کی حفاظت کا تاکید وعدہ فرمایا ہے، حال ہی میں اخبارات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی مشترکہ کوششوں سے ایک نیا قرآن، ”فرقان الحق“ کے نام سے شائع کیا ہے جس سے وہ تمام آیتیں جو یہود و نصاریٰ کی مذمت پر دلالت کرتی ہیں نکال دی ہیں، دنیا کا مسلمان صیہونیوں کی اس سازش سے واقف اور باخبر ہے اور ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہے۔

دوسرا مطالبہ نئے معجزات طلب کرنے کا ہے کہ اگر فلاں قسم کا معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے کہ کسی نبی یا رسول کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے معجزہ ظاہر کر سکے۔

لِکُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ، اجل کے معنی مدت متعینہ کے ہیں اور کتاب اس جگہ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی تحریر، معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا اور اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا اور کہاں مرے گا۔

اس طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانہ میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی اور کیا احکام نازل ہوں گے اسلئے کہ احکام ہر قوم اور ہر زمانہ کے مناسب آتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں فلاں معجزہ کس کس وقت ظہور پذیر ہوگا کس نبی کی شریعت کتنی مدت کے لئے ہے۔

## احکام قرآنی میں محو و اثبات کا مطلب:

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَّعِنْدَهُ اَمَ الْكِتَابِ ، اُمَّ الْكِتَابِ کے لفظی معنی ہیں اصل کتاب، مراد اس سے لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔

آیت کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے جس حکم کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس محو و اثبات کے بعد جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے جس پر نہ کسی کی دست رس ہے نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

ائمہ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ وغیرہ نے اس آیت میں محو و اثبات سے احکام کا محو و اثبات مراد لیا ہے اور آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ قوموں کے حالات اور زمانوں کے تغیرات کے مناسب احکام بھیجتے ہیں اور قوموں کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق احکام میں بھی محو و اثبات کرتے رہتے ہیں اور اصل کتاب بہر حال اس کے پاس محفوظ ہے جس میں محو و اثبات کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے اور جو احکام شرائط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں وہ بھی اس میں لکھے ہوتے ہیں، اور کچھ احکام علم الہی کے مطابق میعاد دی ہوتے ہیں مگر ان کو مطلق بیان کیا جاتا ہے جس کو بندہ اپنی لاعلمی کی بنا پر دائمی سمجھ لیتا ہے حالانکہ جب ان کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو وہ حکم ختم ہو جاتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔

## مذکورہ آیت کی دوسری تفسیر:

سفیان ثوری، وکیع وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی ایک دوسری تفسیر نقل کی ہے جس میں آیت کا تعلق نوشتہ تقدیر سے قرار دیا ہے اور آیت کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ قرآن وحدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیریں اور ہر شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والا رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اور ان سب چیزوں کی مقداریں اللہ تعالیٰ نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دی ہیں پھر بچہ کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھوا دیا جاتا ہے اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چٹھا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہر فرد مخلوق کی عمر، رزق، حرکات و سکنات سب متعین ہیں اور لکھے ہوئے ہیں مگر اللہ اس نوشتہ تقدیر میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، ”وَعِنْدَهُ اَمَ الْكِتَابِ“ یعنی اصل کتاب جس کے مطابق محو و اثبات



کے بعد انجام کار عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ بہت سی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں اور بعض سے گھٹ جاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے غرضیکہ اسی قسم کی بہت سی احادیث محو اثبات پر دلالت کرتی ہیں۔

مذکورہ آیت کے مضمون کا ماحصل یہ ہے کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمر یا رزق وغیرہ میں رد و بدل کسی عمل یا دعاء کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے مراد وہ کتاب تقدیر ہے جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی شرط پر معلق ہوتا ہے جب وہ شرط نہ پائی جائے تو وہ حکم بھی نہیں پایا جاتا یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق محو اثبات ہوتا رہتا ہے لیکن آیت کے آخری جملہ میں ”وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ“ نے بتلادیا کہ اس تقدیر معلق کے اوپر ایک تقدیر مبرم ہے، جو ام الکتاب میں لکھی ہوئی اللہ کے پاس ہے وہ صرف علم الہی کے لئے مخصوص ہے اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعاء کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں اسی لئے وہ محو اثبات اور کمی بیشی سے بالکل پاک ہے۔

(ابن کثیر، معارف)

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اس آیت میں آپ ﷺ کو تسلی دینے اور مطمئن کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے آپ سے کئے ہیں کہ اسلام کی مکمل فتح ہوگی اور کفر اور کافر ذلیل ہوں گے یہ تو ہو کر رہے گا مگر آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ فتح مکمل کب ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہو، اور آپ کے اطمینان کے لئے تو اتنا کافی ہے آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کو ان کے اطراف سے برابر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یعنی یہ اطراف لگاتار مسلمانوں کے قبضے میں آتے جا رہے ہیں اس سے ایک دن اس فتح کی تکمیل بھی ہو جائے گی، حکم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَنَانٌ اَوْ خَمْسُ آيَاتٍ وَسَبْعٌ رُكُوعًا

سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ اِلَّا، الْمُرْتَرِ اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
(الایتین) احدى او ثناتان او اربع او خمس و خمسون آية.

سورہ ابرہیم مکی ہے، مگر المرتر الی الذین الخ دو آیتیں ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۵  
آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَةُ اللَّهُ اعلم بمراده بذلك هذا القرآن كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ  
يَا مُحَمَّدُ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الْإِيمَانِ بِإِذْنِ بَاسِرٍ رَبِّهِمْ وَيَبْدُلُ مِنَ النُّورِ  
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْغَلْبِ الْحَمِيدِ الْمَحْمُودِ اللَّهُ بِالْجَرِيدِ أَوْ غُطْفِ بَيَانٍ وَمَا بَعْدَهُ صِفَةُ وَالرَّفْعُ مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ  
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ نَعَتْ يَسْتَحِبُّونَ  
يَخْتَارُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دِينَ الْإِسْلَامِ وَيَبْغُونَهَا أَى السَّبِيلِ عِوَجًا  
مَعُوجَةً أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ عَنْ الْحَقِّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ بَلُغَةٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لِيَفْهَمَهُمْ مَا  
أَتَى بِهِ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ فِي مَلِكِهِ الْحَكِيمُ ۝ فِي صَنْعِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا  
التَّسْعِ وَقُلْنَا لَهُ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الْإِيمَانِ وَذَكَرَهُمْ بِإِسْمِ اللَّهِ بِنِعْمِهِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَتَذَكِيرٍ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ عَلَى الطَّاعَةِ شَكُورٍ ۝ لِلنَّعْمِ وَآذَكَرَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا  
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ الْمَوْلُودِينَ وَيَسْتَحْيُونَ  
يَسْتَبْقُونَ نِسَاءَكُمْ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ أَنْ مَوْلودا يُولَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَكُونُ سَبَبَ ذَهَابِ مَلِكِ فِرْعَوْنَ  
وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ أَنْجَاءٌ أَوْ الْعَذَابُ بَلَاءٌ أَنْعَامٌ أَوْ ابْتِلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

تَرْجُمَہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الرء، اس سے اپنی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا



ہے یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے اے محمد اس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی ظلمتوں سے انکے رب کے حکم سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالیں، اور الی النور سے الی صراط العزیز بدل ہے یعنی غالب اور قابل ستائش اللہ کے راستہ کی طرف (لایس) (اللہ) کاجر (العزیز) سے بدل یا عطف بیان ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا مابعد (یعنی الذی له الخ) اللہ کی صفت ہے اور (اللہ) کے رفع کی صورت میں اللہ مبتداء ہوگا اور الذین له اس کی خبر ہوگی وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ملک اور تخلیق اور مملوک ہونے کے اعتبار سے، اور کافروں کے لئے تو شدید عذاب کی وجہ سے ہلاکت (و بربادی) ہے جو دنیوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرتے ہیں (الذین) الکافرین کی صفت ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستہ یعنی دین اسلام سے روکتے ہیں اور اس راستہ میں کجی نکالتے ہیں یہی لوگ پرلے درجہ کی گمراہی میں ہیں (یعنی) حق سے دور ہیں ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ وہ جو کچھ لے کر آیا ہے اسے ان کو سمجھائے اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، وہ اپنے ملک میں غلبہ والا اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے اور یہ امر واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے نو معجزے دیکر بھیجا اور ان سے کہا یہ کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو کفر کی ظلمت سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال اور انھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلا بلاشبہ اس تذکیر میں طاعتوں پر ہر صبر کرنے والے اور نعمتوں پر شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں اور اس وقت کا ذکر جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جبکہ تم کو قوم فرعون سے نجات دی وہ تم کو شدید تکلیف پہنچا رہا تھا اور تمہارے نومولود لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا اور اس نجات یا عذاب میں ہمارے رب کی طرف سے بڑا انعام یا بڑی آزمائش تھی۔

## تحقیق و ترمیم و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: هذا القرآن، اس تقدیر میں اشارہ ہے کہ کتاب انزلناہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، نہ کہ کتاب مبتداء اور انزلناہ، اس کی خبر، اس لئے کہ کتاب نکرہ محضہ ہے جس کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔

قَوْلٌ: ویدل من الی النور، الی صراط العزیز، الی صراط العزیز، الی النور سے اعادہ عامل کے ساتھ بدل ہے۔

قَوْلٌ: بالجبر بدل او عطف بیان، یعنی لفظ اللہ، العزیز سے بدل ہے یا عطف بیان ہے۔

سؤال: اللہ، علم ہے اور العزیز صفت ہے علم کا صفت سے بدل واقع ہونا صحیح نہیں ہے۔

جواب: العزیز صفت مختصہ ہونے کی وجہ سے بمنزلہ علم کے ہے لہذا لفظ اللہ کا اس سے بدل واقع ہونا درست ہے۔

## قاعدہ معروفہ:

صفت معروفہ اگر موصوف پر مقدم ہو تو صفت کا اعراب حسب عامل ہوتا ہے اور موصوف بدل یا عطف بیان واقع ہوتا ہے، اصل عبارت اس طرح ہے، ”الی صراط اللہ العزیز الحمید الذی له مافی السموات وما فی الارض“ لفظ اللہ کی تین صفات ہیں ان میں سے دو مقدم ہیں اور ایک مؤخر ہے العزیز اور الحمید مقدم ہیں اور الذی له مافی السموات الخ مؤخر ہے۔

اسی معروف قاعدہ کے اعتبار سے لفظ اللہ، العزیز سے بدل یا عطف بیان واقع ہے، دوسری صورت لفظ اللہ میں رفع کی ہے، اس میں لفظ اللہ مبتداء اور الذی له مافی السموات الخ اس کی خبر ہوگی۔

قَوْلًا: نعت، یعنی الذین یستحبون الخ جملہ ہو کر للکافرین کی صفت ہونے کی وجہ سے محلا مجرور ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ مبتداء ہونے کی وجہ سے محلا مرفوع ہے اور اولئک فی ضلال بعید اس کی خبر ہے۔

قَوْلًا: بنعمہ۔ ایام اللہ سے نعمت مراد اس طرح ہے کہ یہ ظرف بول کر مظروف مراد لینے کے قبل سے ہے نعمتیں اور احسانات چونکہ ایام میں حاصل ہوتے ہیں اسلئے ایام بول کر انعامات اور احسانات مراد لئے ہیں۔

قَوْلًا: یستبقون، یستحبون کی تفسیر یستبقون سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یستحبون کے معنی موضوع لہ مراد نہیں ہیں بلکہ لازم معنی مراد ہیں۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

سورہ ابراہیم ترتیب کے لحاظ سے چودھویں سورت ہے، باختلاف تعداد چند آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے، سورت کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے اس سورت کے مرکزی مضامین میں ان لوگوں کو فہمائش اور تنبیہ کرنا ہے کہ جو نبی ﷺ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لئے ہر طرح کی تدبیریں اور بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے۔

اس سورت کی شروع میں رسالت اور نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے، پھر توحید کا بیان ہے اور اس کے شواہد کا ذکر ہے اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔

الر، کتب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم۔ الر ان حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے متعلق بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس میں اسلم اور محتاط طریقہ سلف صالحین کا ہے کہ اس پر ایمان و یقین رکھیں کہ جو کچھ اس کی مراد ہے وہ حق ہے لیکن اس کے معنی کی تحقیق و تفتیش کے درپے نہ ہوں۔



تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کہ خدا کے راستہ پر لانا ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو شخص خدا کی راہ پر نہیں وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو، بخلاف اس کے کہ جس نے خدا کا راستہ پالیا وہ علم کی روشنی میں آگیا خواہ وہ ان پڑھ دیہاتی ہی کیوں نہ ہو۔

## ہدایت صرف خدا کا فعل ہے:

لتخرج الناس من الظلمت الى النور باذن ربهم، ناس سے تمام عالم کے انسان مراد ہیں، ظلمت، ظلمتہ کی جمع ہے یہاں ظلمت سے کفر و شرک اور بد اعمالیوں کی ظلمت مراد ہے اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، چونکہ کفر و شرک کی بہت سی انواع و اقسام ہیں اسلئے ظلمات کو جمع لایا گیا ہے اور ایمان اور حق ایک ہی ہے اسلئے نور کو مفرد کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے، اس آیت میں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے کو اگرچہ آپ ﷺ کا فعل قرار دیا گیا ہے مگر حقیقت میں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے یہ اسناد مجازی نسبت الی السبب کے قبیل سے ہے اس لئے کہ ہدایت دینا محض اللہ کا کام ہے آپ کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے ”انک لاتہدی من احببت“ آپ اپنے مہربان چچا خواجہ ابوطالب کو تمام تر خواہش کے باوجود ایمان پر نہ لاسکے اسی آیت کے آخر میں الا باذن ربهم کا لفظ بڑھا دیا تاکہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکالنا آپ کا کام ہے، اس میں دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مبلغ خواہ وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو راہ راست پیش کر دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔

## اللہ کے راستہ سے روکنے کا مطلب:

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے مین میکھ نکالتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لئے کتابیں نازل کیں اور کتابوں پر عمل کر کے دکھانے کے لئے رسول بھیجے تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو اُس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہدایت ملے گی اس کو جس کو اللہ چاہے گا۔

جس طرح ہم نے اے محمد آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات و دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انھیں کفر و جہل کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے روشناس کرائیں۔

ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور، صبر اور شکر یہ دو بڑی خوبیاں ہیں اسلئے یہاں صرف ان ہی دو کا ذکر کیا گیا ہے یہاں دونوں مبالغہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں ”صبار“ بہت صبر کرنے والا ”شکور“ بہت شکر کرنے والا، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی وہ کبھی نعمتوں اور برکتوں سے محروم نہ ہوگا، اور اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ اعْلَمَ رَبُّكُمْ لِيْنْ شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ لَا زِيْدَ لَكُمْ وَلِيْنْ كَفَرْتُمْ جَحْدَتُمُ النِّعْمَةِ بِالْكَفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ لَا عَذْبَنَكُمْ دَلَّ عَلَيْهِ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ ۝۷ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ مِّنْ خَلْقِهِ حَمِيْدٌ ۝۸ مَحْمُودٌ فِي صَنْعِهِ بِهِمُ الْمَرِيَاتِكُمْ اسْتِفْهَامِ تَقْرِيرِ نَبِؤَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَثَمُوْدَ قَوْمِ صَالِحٍ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۝۹ لَكثَرْتُهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْحَجَجِ الْوَاضِحَةِ عَلَىٰ صَدَقَتِهِمْ فَرَدُّوْا أَيْ الْأَسْمِ أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَفْوَاهِهِمْ أَيْ إِلَيْهَا لِيَعْضُوا عَلَيْهَا مِنْ شِدَّةِ الْغِيْظِ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَلَىٰ زَعْمِكُمْ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝۱۰ مَوْقِعِ لِلرِّيْبَةِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ اسْتِفْهَامِ انْكَارِ أَيْ لَا شَكَّ فِي تَوْحِيدِهِ لِلدَّلَائِلِ الظَّاهِرَةِ عَلَيْهِ فَاطِرِ خَالِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُدْعُوْكُمْ إِلَى طَاعَتِهِ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ مِنْ زَائِدَةٍ فَانِ الْإِسْلَامِ يَغْفِرُ بِهِ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَبْعِيضِيَّةٍ لِإَخْرَاجِ حَقُوقِ الْعِبَادِ وَيُؤَخِّرَكُمْ بِمَا عَذَابُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَجَلَ الْمَوْتِ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ بِالْأَبْشَرِ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِنَ الْأَصْنَامِ فَاتُّوْنَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۝۱۱ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ عَلَىٰ صَدَقَتِهِمْ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّمَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا قُلْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِأَمْرِهِ لَنَا عَلَيْهِ سَبَبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۲ يَتَّقُوا بِهِ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ أَيْ لَا مَانِعَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ هَدَانَا سَبْلُنَا وَلَنْصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا عَلَىٰ إِذَا كُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝۱۳

**تَرْجُمَہ:** اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم توحید اور اطاعت کے ذریعہ میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں بے شک تم کو مزید دوں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعہ (میری) نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں تم کو ضرور عذاب دوں گا، لا عذبناکم، (جواب محذوف پر) ان عذابوں کی شدید دلالت کر رہا ہے، یقیناً میرا عذاب نہایت سخت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اور روئے زمین کے تمام باشندے ناشکری کریں تو بھی اللہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور اپنی صنعت میں قابل ستائش ہے کیا تمہارے پاس استفہام تقریری ہے تم سے پہلے لوگوں کی (یعنی) قوم نوح کی اور عاد کی اور قوم ہود اور ثمود کی اور قوم صالح کی اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد ہوئے خبریں نہیں آئیں جن کی تعداد ان کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول اپنی صداقت پر واضح دلائل لیکر آئے تو ان امتوں نے اپنے ہاتھ شدت غضب کی وجہ سے کاٹنے کے لئے اپنے منہ میں دبائے اور کہہ دیا کہ بزم خود جس چیز کو تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کے ہم



منکر ہیں اور ہم تو یقیناً اس کے بارے میں جس کی تم دعوت دے رہے ہو الجھن میں ڈالنے والے شک میں ہیں، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کیا تم حق تعالیٰ کے بارے میں شک میں ہو استفہام انکاری ہے، توحید پر واضح دلائل موجود ہونے کی وجہ سے اس کی توحید میں کسی شک (کی گنجائش) نہیں ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ تم کو اپنی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے تاکہ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کرے من زائدہ ہے یہ امر واقعہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اسلام سے پہلے کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں یا (من تبعیضیہ) ہے حقوق العباد کو خارج کرنے کے لئے اور یہ کہ ایک مقررہ وقت تک کے لئے تمہیں مہلت عطا فرمائے یعنی موت تک ان لوگوں نے جواب دیا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں بتوں سے روک دو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اچھا تو ہمارے سامنے اپنی صداقت پر کوئی کھلی دلیل پیش کرو ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جیسا کہ تم نے کہا لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت عطا کر کے اپنا فضل کرتا ہے اور ہماری مجال نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا کر تم کو دکھاسکیں اسلئے کہ ہم تربیت یافتہ بندے ہیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں یعنی ہمارے لئے اس سے کوئی مانع نہیں ہے جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں دکھائیں واللہ جو ایذا میں تم ہمیں دو گے ہم ضرور اس پر صبر کریں گے (یعنی) تمہاری ایذا رسانی پر، تو کل کرنے والوں کیلئے یہی لائق ہے کہ اللہ پر توکل کریں۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: اعلم، تاذن کی تفسیر اعلم سے کر کے اشارہ کر دیا کہ تاذن باب تفعیل اپنی خاصیت کے اعتبار سے تکلف پر دلالت کرتا ہے جو شان باری تعالیٰ کے مناسب نہیں ہے لہذا تاذن بمعنی اذن ہے۔

قَوْلًا: لا عذابکم یہ شرط کی جزاء ہے جو محذوف ہے، نہ کہ ان عذابی لشدید لہذا ان عذابی کے شرط پر عدم ترتب کا اعتراض ختم ہو گیا، اور حذف جواب پر ان عذابی لشدید دلالت کر رہا ہے۔

قَوْلًا: ای الیہا، اس میں اشارہ ہے کہ فی بمعنی الی ہے، ایدیہم اور افواہہم، دونوں کی ضمیریں کفار کی طرف راجع ہیں یعنی کفار نے اپنے ہاتھ شدید غصہ کی وجہ سے اپنے منہ میں دبائے اور یہ تفسیر عضوا علیکم الانامل من الغیظ کے مطابق ہے، اور بعض حضرات نے ثانی ہم کی ضمیر دسل کی طرف لوٹائی ہے، مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امت کے لوگوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھ دیئے تاکہ حق بات نہ بول سکیں، یہ خلاف ظاہر ہے۔

قَوْلًا: بزعمکم یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بما ارسلتم سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار ما جاء به الرسل کے قائل تھے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں تو تمہارا رسول ہونا تسلیم نہیں مگر بقول شما بھی ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

قَوْلًا: لا شك في توحيدہ ایک شبہ کا جواب ہے کہ شبہ یہ ہے کہ ہمزہ انکاری کا حق یہ ہے کہ شک (مظروف) پر داخل ہونہ کر ظرف پر اور یہاں اللہ پر داخل ہے جو کہ ظرف ہے حاصل جواب یہ ہے کہ کلام شک میں نہیں ہے بلکہ مشکوک میں ہے فتدبر۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

اذ تأذن ربكم، تأذن، اعلم کے معنی میں ہے، بولا جاتا ہے تأذن بوعده لكم، ای اعلمکم بوعده لكم، اس نے اپنے وعدہ سے تمہیں آگاہ کیا، ان عذابی لشدید، سے معلوم ہوتا ہے کہ کفرانِ نعمت اللہ کو سخت ناپسند ہے اسی وجہ سے اس نے ناشکری پر سخت عذاب کی وعید بیان کی ہے، آپ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ”کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔“ (صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری میں خود بندہ ہی کا فائدہ ہے اور اگر ناشکری کرے گا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے اگر سارا جہان ناشکر ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟

## ایک حدیث قدسی:

ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”یا عبادی! لو ان اولکم و اخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل منکم مازاد ذلك فی ملکي شیئا، یا عبادی! لو ان اولکم و اخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم مانقص ذلك فی ملکي شیئا، یا عبادی! لو ان اولکم و اخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعيد واحد، فسالونی فاعطیت کل انسان مسأله مانقص ذلك من ملکي شیئا الا کما ينقص المخیط اذا ادخل فی البحر“۔

(صحیح مسلم کتاب البر)

تَرْجُمَہُ: اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر اور روئے زمین کے تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کے طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر اور انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے





متعلق بخلق اِنْ يَشَاءُ ذُهِبَكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۱۹ بدلکم وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ۲۰ شدید وَبَرُّوْا اِی الخلائق والتعبیر فیہ وفیما بعدہ بالماضی لتحقق وقوعہ لِلّٰهِ جَمِیْعًا فَقَالَ الضَّعَفُوْا الْاِتِّبَاعَ لِلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا الْمُتَّبِعِیْنَ اِنَّا کُنَّا لَکُمْ تَبَعًا جمع تابع فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ دافعون عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ۲۱ من الاولی للتبیین والثانیۃ للتبعیض قَالُوْا اِی الْمُتَّبِعُوْنَ لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدٰیْکُمْ لَدَعَوْنَا کُمْ اِلٰی الْهُدٰی سَوَاءً عَلٰیْنَا اَجَزَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ زَائِدَةٍ ۲۲ مَحْصِصٌ ۲۳ ملجأ۔

**ترجمہ:** اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو یقیناً ملک بدر کر دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کافروں ہی کو غارت کر دیں گے اور ان کی ہلاکت کے بعد تم کو ان کی زمین پر بسادیں گے، یہ مدد اور وراثت ارضی اس کے لئے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے گا اور عذاب کی وعید کا ڈر رکھے گا اور رسولوں نے اپنی قوم کے مقابلہ میں اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ کی اطاعت کے مقابلہ میں ہر سرکشی کرنے والا ضدی حق کا دشمن نامراد ہو گیا، اس کے سامنے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوگا جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائیگا، اور وہ ایسا پانی ہے کہ جو جہنمیوں کے اندر سے نکلے گا جو پیپ اور خون کا آمیزہ ہوگا جس کو وہ مجبوراً پیئے گا (یعنی) اس کی تلخی کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیئے گا اس کی قباحت اور کراہت کی وجہ سے اس کو نکل نہ سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی نظر آئے گی یعنی موت کے اسباب جو موت کے متقاضی ہوں گے مختلف اقسام کے عذابوں سے، مگر وہ مرے گا نہیں اور اس عذاب کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا سخت عذاب ہوگا اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں کے اعمال صالحہ مثلاً صلہ رحمی اور صدقہ کی مثال ان سے منفع نہ ہونے میں الذین کفروا مبتداء (مبدل منہ) اور اعمالہم بدل ہے اس راکھ کی سی ہے کہ جس پر آندھی کے دن تیز و تند ہوا چلی ہو (اور) اس کو اڑتا ہوا غبار کر دیا ہو کہ اس کے اجر کے پانے پر قادر نہ ہونگے (یعنی اپنے اعمال صالحہ کا اجر پانے پر قادر نہ ہو) اور مجرور (کرماد) مبتداء کی خبر ہے، جو بھی انہوں نے دنیا میں عمل (صالح) کیا کفار اس پر یعنی اس کا اجر پانے پر اس کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے قادر نہ ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہلاکت ہے، اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا استفہام تقریری ہے، کہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا کیا، بالحق، خلق کے متعلق ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہارے بجائے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے اور اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور پوری مخلوق (روز محشر) اللہ کے روبرو حاضر ہوگی اور تعبیر یہاں اور آئندہ صیغہ ماضی کے ذریعہ یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے ہے اس وقت کمزور لوگ یعنی تابعین سربراہوں (یعنی) متبوعین سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے تبعا، تابع کی جمع ہے تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دفع کر سکتے ہو پہلا من تبیین کے لئے ہے اور دوسرا تبعیض کے لئے ہے، مخدومین جواب دیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے (یعنی) ہم تم کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے، اب ہم خواہ وائے



ویلا کریں یا صبر کریں دونوں ہمارے لئے برابر ہیں (اب) ہمارے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے من زائدہ ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** لتصیرن مفسر علام نے لتعودن کی تفسیر لتصیرن سے کر کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔

**سُؤَالٌ:** سوال یہ ہے کہ عود کے لئے پہلے اس حالت پر ہونا ضروری ہے جس سے عود کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام پہلے اپنی امت کے دین پر ہوتے تھے بعد میں اس سے نکل کر دین حق پر آتے تھے حالانکہ امر واقعہ ایسا نہیں ہے نبی ابتداء ہی سے دین حق پر ہوتے ہیں؟

**جَوَابٌ:** جواب کا حاصل یہ ہے لتعودن، تصیرن کے معنی میں ہے، یعنی تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔

**قَوْلٌ:** بعد ہلاکھم، اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ:** یدخلھا، یدخلھا محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ یسقی کا عطف محذوف پر ہے تاکہ عطف فعل علی الاسم لازم نہ آئے۔

**قَوْلٌ:** فیھا۔

**سُؤَالٌ:** (فیھا) مقدر ماننے کا کیا فائدہ ہے؟

**جَوَابٌ:** جب معطوف جملہ واقع ہوتا ہے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو معطوف علیہ کی طرف راجع ہوتا ہے۔

**قَوْلٌ:** یتجرعہ، ای یتکلف۔

**قَوْلٌ:** یزدردہ، الازدرداد خوشگوار اور سہولت سے کسی چیز کا حلق میں اتارنا۔

**قَوْلٌ:** اسبابہ المقتضیۃ للموت، اس میں اشارہ ہے کہ جہنم میں موت نہیں ہوگی اسلئے کہ موت کے لئے تو ایک ہی سبب کافی ہوتا ہے چہ جائے کہ بہت سے اسباب موجود ہوں اور پھر بھی موت نہ آئے، یہ موت نہ آنے کی دلیل ہے۔

**قَوْلٌ:** ویبدل منہ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَالٌ:** مبتداء اور خبر کے درمیان (اعمالھم) کا فصل بالاجنبی لازم آرہا ہے جو درست نہیں ہے۔

**جَوَابٌ:** یہ فصل اجنبی نہیں ہے بلکہ وہ مبتداء سے بدل ہے اور بدل مبدل منہ سے اجنبی نہیں ہوتا۔

**قَوْلٌ:** فی یوم عاصف، عاصف کی یوم کی طرف اسناد مجاز کے طور پر ہے اور یوم عاصف، نہارہ صائم و لیلہ قائم کے قبل سے ہے۔

**قَوْلٌ:** من الاولی للتبیین یعنی من اپنے بعد واقع ہونے والے لفظی کے بیان کے لئے ہے بیان جو کہ عذاب اللہ ہے مبین یعنی شئی پر مقدم ہے تقدیر عبارت یہ ہے، ”هل انتم مغنون عنا بعض الشئ هو بعض عذاب اللہ“۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

قال الذين كفروا لرسولهم الخ حضرات انبیاء کے وعظ و تذکیر سے بجائے اس کے کہ منکرین کے دل کچھ نرم پڑتے اور ٹھنڈے دل سے اپنے رسول کی بتائی باتوں پر غور کرتے اٹھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ہی ہمارے دھرم میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے گمراہ لوگوں کے دین دھرم میں شامل ہوا کرتے تھے اور وحی ہدایت آنے کے بعد دین باطل کو ترک کر کے دین حق کی طرف آتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح خاموش زندگی بسر کرتے تھے کسی دین کی تبلیغ اور رائج الوقت دین کی تردید نہیں کرتے تھے اس لئے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ بھی ہماری ملت میں ہیں، اور کار نبوت شروع کرنے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکوں کی ملت میں شامل نہیں ہوئے تھے کہ ان پر اس سے خروج کا الزام عائد کیا جائے۔

ولنسبکنکم الارض الخ اسی وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی مدد فرمائی، اگرچہ آپ ﷺ کو بادل ناخواستہ مکہ سے نکلنا پڑا لیکن چند سالوں کے بعد ہی آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم مشرکین سر جھکائے کھڑے آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر تھے، لیکن آپ نے خلق عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا تشریب علیکم الیوم کہہ کر سب کو معاف فرمادیا۔

مثل الذين كفروا برہم اعمالہم کرماد الخ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی، خود مختاری نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا کہ جس کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، ایسے لوگوں کی زندگی بھر کا سرمایہ عمل ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسا کہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑا دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ ان کی عبادتیں اور ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے خیراتی اور رفاہی کارنامے بھی جن پر ان کو فخر و ناز تھا سب کے سب آخر کار راکھ کا ڈھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اسے خدا کی میزان میں رکھ کر کچھ وزن پاسکیں۔

## دوزخیوں کی آپس میں گفتگو:

جہنمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لئے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کریں چنانچہ وہ رورور کر خوب آہ وزاری کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر کہیں گے جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ



نہیں ہوگا، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع و فزع اب رہائی کی کوئی صورت نہیں یہ ان کی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ ابليس لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وَاَدْخَلَ اهل الجنة الجنة واهل النار النار واجتمعوا عليه  
 اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ بِالْبَعثِ وَالْجَزَاءِ فَصَدَقَكُمْ وَوَعَدْتُكُمْ اَنَّهُ غَيْرُ كَائِنٍ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ  
 سُلْطٰنٍ قُوَّةٍ وَقُدْرَةٌ اَقْهَرُكُمْ عَلٰی مَتَابَعَتِيْ اِلَّا لٰكِنْ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُمُوْنِيْ وَلَوْ مَوَّانَفْسُكُمْ عَلٰی  
 اِجَابَتِيْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ بِمَغِيْثِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكُسْرِهَا اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنَ بِاَشْرَاكُمْ  
 اِيَّايْ مَعَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ فِى الدُّنْيَا قَالَ تَعَالٰى اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۲۶ مَوْلٰم  
 وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ اِىْ حَالٍ مَّقْدَرَةٌ فِىْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ  
 تَجْتَنِّيْهِمْ فِيْهَا مِنْ اللّٰهِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَفِيْمَا بَيْنَهُمْ سَلٰمٌ ۝۲۷ اَلَمْ تَرَ تَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيَبْدُلُ مِنْهُ  
 كَلِمَةً طَيِّبَةً اِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ هِىَ النَّخْلَةُ اَصْلُهَا ثَابِتٌ فِى الْاَرْضِ وَفَرْعُهَا غَضَنُهَا  
 فِى السَّمَاءِ ۝۲۸ تُؤْتٰى ثَمَرُهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۝۲۹ بَارَادَتُهُ كَذٰلِكَ كَلِمَةُ الْاِيْمَانِ ثَابِتَةٌ فِى قَلْبِ  
 الْمُؤْمِنِ وَعَمَلُهُ يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ وَيُنَالُهُ بِرَكَتِهِ وَثَوَابِهِ كُلُّ وَقْتٍ وَيَضْرِبُ يَبِيْنَ  
 اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۳۰ يَتَعٰظُوْنَ فِىْؤْمِنُوْنَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ هِىَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ  
 هِىَ الْحَنْظَلَةُ اِجْتَنَّتْ اِسْتَوْصَلَتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝۳۱ مَسْتَقَرُّ وَثَبَاتٍ كَذٰلِكَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ  
 لَا ثَبَاتَ لَهَا وَلَا فَرْعَ وَلَا بَرَكَةَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ هُوَ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا  
 وَفِى الْاٰخِرَةِ اِىْ فِى الْقَبْرِ لِمَا يَسْأَلُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ عَنْ رَبِّهِمْ وَدِيْنِهِمْ وَنَبِيِّهِمْ فَيَجِيبُوْنَ بِالصَّوَابِ كَمَا فِى  
 حَدِيْثِ الشَّيْخِيْنَ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۝۳۲ الْكُفَّارُ فَلَا يَهْتَدُوْنَ لِلْجَوَابِ بِالصَّوَابِ يَقُولُوْنَ لَا نَدْرِى كَمَا فِى  
 الْحَدِيْثِ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝۳۳

**ترجمہ:** اور جب فیصلہ چکا دیا جائیگا، اور اہل جنت، جنت میں، دوزخی دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے اور  
 دوزخی شیطان کے پاس جمع ہوں گے تو ابلیس ان سے کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بعث اور جزاء کے جتنے وعدے تم  
 سے کئے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ (بعث وغیرہ) کچھ ہونے والا نہیں ہے میں نے اس کو  
 پورا نہیں کیا (یعنی اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہو گیا) اور میری تم پر کوئی زور زبردستی تو تھی نہیں کہ جس کے ذریعہ میں تم کو اپنی  
 اطاعت پر مجبور کرتا البتہ اتنی بات ضرورت ہے کہ میں نے تم کو دعوت دی تو تم نے میری بات پر لبیک کہہ دیا، لہذا اب تم  
 میری دعوت پر لبیک کہنے پر مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔

میں نہ تمہاری فریادری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری (مصرخی) یاء کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے اس سے پہلے دنیا میں جو تم نے مجھے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ظالموں کے لئے دردناک سزا یقینی ہے (بخلاف) ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائیگا کہ جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی جن میں وہ اپنے رب کی اجازت سے ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کے لئے اللہ اور فرشتوں کی طرف سے اور خود آپس میں بھی سلامتی کی مبارک بادی ہوگی خالدین (جنت) سے حال مقدرہ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کو اور کلمہ طیبہ مثلاً سے بدل ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اچھی نسل کا درخت ہو اور وہ کھجور کا درخت ہے، کہ اس کی جڑیں زمین میں (گہری) جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم و ارادہ سے پھل دے رہا ہے کلمہ ایمان کی مثال ایسی ہی ہے کہ قلب مومن میں جما ہوا ہے اور اس کا عمل آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور مومن اپنے عمل کی برکت اور ثواب ہر آن پاتا ہے، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لئے دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت (سبق) حاصل کریں اور ایمان لے آئیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کہ وہ کلمہ کفر ہے برے نسل کے درخت کی سی ہے اور وہ حنظل کا درخت ہے کہ اس کو سطح زمین سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے لئے کوئی استحکام نہیں ہے کلمہ کفر ایسا ہی ہے کہ نہ اس کیلئے استحکام ہے اور نہ اس کی شاخیں ہیں اور نہ برکت ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک قول ثابت کی بنیاد پر کہ وہ کلمہ توحید ہے دنیا اور آخرت کی (یعنی) قبر کی زندگی میں ثبات عطا کرتا ہے جبکہ دوفرشتے ان کے رب اور ان کے دین اور ان کے نبی کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ درست جواب دیں گے، جیسا کہ شیخین کی حدیث میں ہے، اور ظالموں کا فروں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ درست جواب تک رسائی نہیں پاتے بلکہ وہ کہتے ہیں (ہساء ہساء لاندری) ہائے افسوس کہ ہم نہیں جانتے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔

## تحقیق و ترکیب تسبیح و تفسیری فوائد

قَوْلًا: وعد الحق، ای وعدا من حقه ان ینجز، یعنی ایسا وعدہ کہ جس کا حق یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اور اضافت موصوف الی الصفہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے الی الوعد الحق۔

قَوْلًا: لکن اس میں اشارہ ہے کہ الا ان دعوتکم، دعوتکم، مستثنیٰ منقطع ہے، اسلئے کہ دعاء سلطان کی جنس سے نہیں ہے۔

قَوْلًا: بالفتح یعنی مصرخی میں یاء پر فتح اور کسرہ دونوں قراءتیں ہیں فتح تخفیف کے لئے ہے اور کسرہ اصل کے مطابق، مصرخ اسم فاعل مذکر، فریادری کرنے والا (افعال) اصراخ، اضداد میں سے ہے اس کے معنی فریادری کرنے والا، اور فریاد خواہ یعنی دادرس اور دادخواہ۔

قَوْلًا: حال مقدرة یعنی مقدرین خلودہم، خالدین، جنت سے حال ہے جنت کا وجود مقدم ہے اور دخول جنت بعد



میں ہوگا معلوم ہوا کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک نہیں ہے حالانکہ ایک ہونا ضروری ہے، جواب یہ ہے کہ حال مقدرہ ہے ای مقدرین خلودہم۔

قَوْلًا: تعطی اس میں اشارہ ہے کہ تو تئی ایتاء سے ہے نہ اتیان سے۔

قَوْلًا: اجثت اس کو اکھاڑا گیا ماضی مجھول واحد مؤنث غائب، مصدر اجثثا (افتعال)۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

### اللہ کا وعدہ:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قَضَى الْاَمْرَ (الآیۃ) یہاں فیصلے سے مراد یہ ہے کہ مطیع جنت میں اور نافرمان دوزخ میں پہنچ چکیں گے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایک روز جزاء اور سزا کا آنے والا ہے، اہل ایمان کو اس روز نجات نصیب ہوگی اور اہل کفر کو ہلاکت۔

### شیطان کا وعدہ:

شیطان کا وعدہ یہ ہے کہ کفر پر ایمان کو ترجیح نہیں، جنت اور دوزخ سب ڈھکوسلے ہیں، آخرت میں جزا سزا کسی کو نہیں ہوگی۔ دوزخ میں جب دوزخی سارا الزام ابلیس پر ڈالیں گے تو شیطان کہے گا کہ تمہارے گلے شکوے اس حد تک تو صحیح ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا، اس سے مجھے ہرگز انکار نہیں، اللہ کے وعدے اور اس کی وعید میں تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی ہر بات اور ہر وعدہ صد فی صد صحیح نکلا، اور میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دنیا میں دلائے اور خوشنما باغ تم کو دکھائے اور پر فریب تو قعات کے جال میں میں نے تم کو پھانسا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے یہ یقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت کچھ ہے ہی نہیں، سب ڈھکوسلے ہیں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو فلاں حضرت کے تصدق سے تم صاف بچ نکلو گے، بس ان کی خدمت میں نذر و نیاز کی رشوت پیش کرتے رہو اور پھر جو چاہو کرتے پھر و نجات دلانے کا ذمہ ان کا، یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا یا اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ کہلواتا رہا سب دھوکا اور فریب تھا۔

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اَلْخِ جہنم میں ابلیس جہنمیوں کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہے گا کہ میں کب تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی غلط راستے پر کھینچ کر لایا نہ میرا تم پر کوئی دباؤ تھا نہ زور زبردستی، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلہ میں اپنی دعوت باطل تمہارے سامنے پیش کی سچائی کے مقابلہ میں جھوٹ کی طرف بلایا، باقی ماننے اور نہ ماننے کا اختیار تو آپ حضرات کو ہی حاصل تھا میرے پاس آپ کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی لہذا اس غلط انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنے کے بجائے خود تمہیں اٹھانی چاہئے، اسلئے کہ اس انتخاب میں تمام تر قصور تمہارا ہی ہے تم نے عقل و شعور سے ذرا کام نہ لیا دلائل واضحہ کو تم نے نظر انداز کیا اور دعوائے محض کے پیچھے لگے رہے جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی لہذا نہ تم کو اس قہر و غضب سے

نکلا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس عذاب سے مجھے نکلا سکتے ہو، کہ جس میں میں مبتلا ہوں، اور مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک سمجھتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس اللہ نے ساری کائنات بنائی اس کی تدبیر وہی کرتا رہا بھلا اس کا شریک کوئی کیونکر ہو سکتا ہے؟

المتر کیف ضرب اللہ مثلاً الخ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ جو گرمی سردی غرضیکہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر وقت آسمان کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ سے اسلام یا لا الہ الا اللہ اور شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔

کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل (اندرائن) کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں اوپر ہوتی ہیں اور ذرا سے اشارہ میں اکھڑ جاتی ہیں، یعنی کافر کے اعمال نیک بالکل بے حیثیت ہیں نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔

الْمُتَرِّ تَنْظُرُ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِي شَكَرَهَا كُفْرًا هُمْ كَفَارٌ قَرِيشٍ وَأَحْلُوا أَنْزَلُوا قَوْمَهُمْ  
بِاضْلَالِهِمْ إِيَاهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ الْهَلَاكُ جَهَنَّمَ عَطْفٌ بِيَانٍ يَصْلَوْنَهَا يَدْخُلُونَهَا وَيُبْسُ الْقَرَارُ ۖ الْمَقْرَهِي  
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا شُرَكَاءَ لِيُضِلُّوا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيلِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ قُلْ لَهُمْ تَمَتُّعُوا  
إِي بَدَنِيَا كَمْ قَلِيلًا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ مَرْجِعَكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ إِي فِدَاءٍ فِيهِ وَلَا خِلَ ۖ مَخَالَةَ إِي صَدَاقَةٍ تَنْفَعُ هُوَ يَوْمُ  
الْقِيَمَةِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ  
السَّفْنَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِالرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ بِأَمْرٍ بَازِنِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْآنْهَرَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ  
جَارِيَيْنِ فِي فَلَكِهِمَا لَا يَفْتَرَانِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ ۖ لِتَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَا لَتَمُوهُ ۖ عَلَى حَسَبِ مَصَالِحِكُمْ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ بِمَعْنَى أَنْعَامِهِ لَا تَحْصُوهَا لَا تَطِيقُوا  
عَدَّهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۖ كَثِيرَ الظُّلْمِ لِنَفْسِهِ بِالْمَعْصِيَةِ وَالْكَفْرِ لِنِعْمَةِ رَبِّهِ.

**ترجمہ:** کیا آپ نے ان پر نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں یعنی ان کے شکر کو ناشکری سے بدل دیا اور وہ کفار قریش ہیں، اور اپنی قوم کو گمراہ کر کے ہلاکت کے گھر میں لا اتارا یعنی جہنم میں یہ عطف بیان ہے جس میں یہ سب داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانا ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ دین اسلام سے بہکائیں یا بے فتنہ اور ضمہ کے ساتھ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دنیا میں (چند دن) مزے اڑالو، تمہاری جائے بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے (اے نبی) میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ نماز کی پابندی کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں



سے ظاہر اور پوشیدہ طور پر خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی (نہ ان کے پاس کچھ ہوگا کہ جس کو وہ فدیہ میں دے سکیں) اور وہ دن قیامت کا ہوگا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بادلوں سے پانی برسایا اس پانی کے ذریعہ تمہارے رزق کے لئے پھل پیدا کئے اور کشتیوں کو تابع کر دیا کہ دریا میں سوار یوں اور بوجھ کو اللہ کی اجازت سے لے کر چلتی ہیں اور اسی نے دریا تمہارے اختیار میں کر دیئے اور سورج و چاند کو تمہارے لئے مسخر کر دیا (یعنی تمہارے کام میں لگا دیا) کہ اپنی منزلوں میں رواں دواں ہیں (ذرا برابر) سستی نہیں کرتے اور رات کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو بھی تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرو اور جو چیز تم نے اس سے طلب کی اس میں سے تمہاری مصلحت کے مطابق عطا کی، اگر تم اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یعنی تمہارے اندر ان کو شمار کرنے کی طاقت نہیں یقیناً کافر انسان بڑا ہی نا انصاف اور ناشکر ہے یعنی اپنی رب کی نعمتوں کی ناشکری اور معصیت کر کے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** اِی شکرھا، یہ اضافہ ایک سوال کا جواب ہے۔  
**سُؤَالٌ:** یہ ہے کہ بدلوا نعمة الله كفرا کے معنی ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل لیا، حالانکہ نعمت عین ہے اور کفر وصف ہے اور تبدیل عین بالوصف کے کوئی معنی نہیں ہیں۔  
**جَوَابٌ:** مضاف محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ نعمت کے شکر کو ناشکری سے بدل دیا، یعنی شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی۔  
**قَوْلُهُ:** لیضلوا۔

**سُؤَالٌ:** جعلوا لله اندادا، کی غرض اضلال اور ضلال کو قرار دیا ہے حالانکہ شریک قرار دینے سے مشرکین کی غرض اضلال اور ضلال نہیں تھی۔

**جَوَابٌ:** جواب کا حاصل یہ ہے کہ اضلال اور ضلال اگرچہ انداد کی غرض نہیں ہے مگر نتیجہ ضرور ہے لہذا نتیجہ کو غرض قرار دیا ہے۔  
**قَوْلُهُ:** قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلوة الخ۔

**سُؤَالٌ:** یقیموا الصلوة الخ کا مقولہ واقع ہونا درست نہیں ہے اسلئے کہ اقامت صلوٰۃ مخاطب کا عمل ہے نہ کہ قائل کا مقولہ، حالانکہ مقولہ کے لئے قائل کا ہی مقولہ ہونا ضروری ہے۔

**جَوَابٌ:** قل کا مقولہ محذوف ہے اور جواب امر جو کہ یقیموا الصلوة ہے حذف پر دل ہے، تقدیر عبارت یہ ہے قل لعبادی الذین آمنوا أقیموا وأنفقوا، لیقیموا الصلوة وینفقوا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ امر مقولہ ہے تقدیر عبارت یہ ہے قل لهم لیقیموا الخ قُل کی دلالت کی وجہ سے لام کو حذف کر دیا گیا ہے یقیموا ہو گیا اور اگر ابتداء حذف کے

ساتھ یقیموا کو مقولہ قرار دیدیا جائے تو درست نہ ہوگا۔

**قَوْلًا**: سرا و علانیۃ دونوں أنفقوا امر کی ضمیر سے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، ای ینفقون مسرین و معلنین۔

**قَوْلًا**: السفن، اسد کے وزن پر جمع ہے لہذا تجری فعل کا مؤنث لانا درست ہے۔

**قَوْلًا**: دائبین، ایک دستور پر چلنے والے یہ دائب کا تشبیہ ہے، بمعنی حال، عادت، رسم، دستور، (ف) دأب یدأب، دأبا لگاتار کسی کام میں لگنا۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

المتر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، یہ ذکر سرداران کفر اور پیشوایان ضلالت کا ہو رہا ہے، اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے رسالت محمدیہ کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کر دیا اگرچہ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے مگر اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین اور لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، سو جس نے اس نعمت کی قدر کی اسے قبول کیا تو اس نے اس کا شکر ادا کیا اور وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے اسے رد کر دیا اور کفر اختیار کئے رکھا وہ مستحق دوزخ ہوا۔

نعمة کا لفظ اگرچہ مفرد استعمال ہوا ہے مگر مراد اس سے جنس کے طور پر عام ہے اس سے دنیا کی تمام نعمتیں جو محسوس و مشاہد ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے ہے مراد ہو سکتی ہیں اور معنوی و روحانی نعمتیں بھی جن کا تعلق انسان کے رشد و ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور آسمانی کتابوں اور نشانیوں کی شکل میں نازل ہوتی ہیں مراد ہو سکتی ہیں، اور دونوں بھی۔

دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچانتا اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا اس کی فرمانبرداری اختیار کرتا مگر کفار و مشرکین نے نعمتوں کا مقابلہ شکر کے بجائے کفران نعمت سے اور اس کے احسانات کا مقابلہ سرکشی اور نافرمانی سے کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کے مقام میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہوئے۔

قل تمتعوا، تمتعوا کے معنی کسی چیز سے چند روزہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں، اس آیت میں مشرکین کو بتلادیا گیا ہے کہ چند روز دنیا میں عیش کر لو اور دنیا کی نعمتوں سے چند روز فائدہ اٹھا لو مگر انجام کار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔

قل لعبادی، سابقہ آیت میں نافرمان بندوں، کفار و مشرکین کی مذمت اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اپنے فرمانبردار اور شکر گزار مومن بندوں کا ذکر ہے اور ان کو ادائے شکر کے طریقوں کی ہدایت ہے جس میں سب سے پہلی ہدایت اقامت صلوٰۃ کی ہے اقامت صلوٰۃ کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے مالی فرائض ادا کئے جائیں۔

لا بیع فیہ ولا خلال لفظ خلال خلة کی جمع ہے جس کے معنی بے غرض مخلصانہ دوستی کے ہیں، نیز اس لفظ کو باب مفاعلہ





والا بنادے اور بلاشبہ اللہ نے ان کی دعاء قبول فرمائی اور اس کو محترم بنادیا، کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جاتا ہے اور نہ وہاں کسی پر ظلم کیا جاتا ہے اور نہ اس کے جانور کا شکار کیا جاتا ہے اور نہ اس کی ہری گھاس اکھاڑی جاتی ہے، اور تو (اے میرے پروردگار) مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بت پرستی کریں دور رکھ، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو ان کے ان کی بندگی کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیا، پس جس نے توحید کے معاملے میں میری اتباع کی تو وہ میرا یعنی میرے اہل ملت میں ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بہت ہی معاف کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی) یہ دعاء اس علم سے پہلے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہ فرمائیں گے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد کو کہ وہ اسماعیل ہیں مع اس کی والدہ ہاجرہ کے بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس کہ وہ طوفان (نوح) سے پہلے گھر تھا بسا دیا ہے، اے ہمارے پروردگار یہ اس لئے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو (اس گھر کی طرف) مائل و مشتاق کر دے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام افئدة الناس کہتے تو اس کی طرف فارس اور روم اور تمام لوگ مائل ہو جاتے، اور تو انھیں پھلوں (ہر قسم کی پیداوار) کی روزی عطا فرماتا کہ وہ تیرا شکر ادا کریں اور خطہ طائف کو منتقل کر کے یہ دعاء قبول کر لی گئی، اے ہمارے پروردگار تو بخوبی جانتا ہے جسے ہم چھپائیں یا ظاہر کریں اور اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں من زائدہ ہے، مذکورہ کلام میں احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہو، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس بڑھاپے میں اسماعیل بیٹا عطا کیا اسماعیل کی پیدائش اس وقت ہوئی جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۹ سال تھی، اور اسحق عطا کیا (اسحق) کی پیدائش اس وقت ہوئی جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۱۱۲ سال تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب دعاء کا سننے والا ہے اے میرے پروردگار تو مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما کہ جو نماز قائم کریں، اور لفظ من استعمال فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلادیا کہ ان میں کچھ کافر بھی ہوں گے، اے ہمارے پروردگار تو مذکورہ دعاء کو قبول فرما، اے ہمارے پروردگار تو مجھے اور میرے والدین کو بخشدے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے اور والدین کے لئے یہ دعاء اللہ سے ان کی عداوت ظاہر ہونے سے پہلے کی تھی اور کہا گیا ہے کہ ان کی والدہ ایمان لے آئی تھیں اور ایک قراءت میں والدی اور ولدی افراد کے ساتھ ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

سؤال: سورہ بقرہ میں بلدا نکرہ استعمال ہوا ہے اور یہاں البلد معارفہ اس میں کیا حکمت ہے؟  
 جواب: سورہ بقرہ میں تعمیر بلد سے پہلے دعاء فرمائی کہ یا اللہ تو یہاں ایک شہر تعمیر فرما دے اور یہاں جو دعاء ہے وہ تعمیر بلد کے بعد اس کے مامون ہونے کی ہے۔



قَوْلًا: ذَا اَمْنٍ.

سُؤَال: اَمْنَا کی تفسیر ذَا اَمْنٍ سے کرنے میں کیا مصلحت ہے؟

جَوَاب: یہ ہے کہ اَمْنِ نسبت کا صیغہ ہے نہ کہ اسم فاعل کا، جیسا کہ تاسمیر ترجمہ نے والا، اَمْن کے معنی ہیں اَمْن والا، نہ کہ اَمْن دینے والا، اسلئے کہ اَمْن اسم فاعل بمعنی اَمْن دینے والا درست نہیں ہے اس لئے کہ بلد غیر ذی روح اور غیر ذوی العقول میں سے ہے لہذا اس میں اَمْن دینے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ اَمْن کی نسبت بلد کی طرف مناسب اس لئے کہ اَمْن دینا درحقیقت اللہ کا کام ہے۔

قَوْلًا: یُخْتَلٰی، یہ اختلاء (افتعال) سے سے معنی سبز گھاس وغیرہ اکھاڑنا۔

قَوْلًا: اِجْنَبْنِی (ن) امر واحد مذکر حاضر اصل میں اجنب ہے اس میں نون وقایہ یا متکلم کی ہے تو مجھے بچا، تو مجھ کو دور رکھ۔  
قَوْلًا: عَنْ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ، لفظ عَنْ کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ اَنْ نَعْبُدَ میں اَنْ مصدر یہ ہے نہ کہ تفسیر یہ اسلئے کہ اَنْ تفسیر کے لئے ماقبل میں لفظ قول یا اس کے ہم معنی ہونا ضروری ہے جو یہاں نہیں ہے۔

قَوْلًا: اَضَلُّنْ کَثِیْرًا، اضلال کی اسناد بتوں کی طرف مجازی ہے یہ اسناد الشیء الی سببہ کے قبیل سے ہے چونکہ یہ بت لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب ہیں اسلئے اضلال کی نسبت انہی کی طرف کر دی۔

قَوْلًا: الَّذِیْ کَانَ قَبْلَ الطُّوفَانِ، یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحْرَمِ فرمانا کیسے درست ہے جبکہ وادی غیر ذی ذرع میں کوئی بیت تھا ہی نہیں۔

جَوَاب: جواب کا حاصل یہ ہے بیت کہنایا تو ماکان کے اعتبار سے ہے یا ما یکون کے اعتبار سے، یعنی طوفان نوح ﷺ سے پہلے وہاں بیت تھا اور آئندہ بھی موجود ہوگا۔

قَوْلًا: تَحَنُّنًا، اِی تَشْتَاقُ وَتَمِیْلُ.

قَوْلًا: اَفْنَدَةُ النَّاسِ یعنی اگر بغیر من تبعیضیہ کے کہتے تو ہر انسان کی رغبت ہوتی۔

قَوْلًا: اِسْمَعِیْلَ، اِسْحٰقَ، اِسْمَعِیْلَ کا نام اسماعیل اس لئے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لئے دعاء فرماتے تھے تو فرماتے تھے، اِسْمَعِیْلَ یا اِیْلَ، اِسْمَعِیْلَ بمعنی سن اور اِیْلَ عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، اب اسماعیل کا ترجمہ ہوا اے خدا تو سن! اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء سن لی اور فرزند عطا کر دیا تو اس کا نام اسماعیل رکھ دیا، اور اسحق کو عبرانی میں اِیْلَ کہتے ہیں۔

قَوْلًا: اِجْعَلْ، اس میں اشارہ ہے کہ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ کا عطف اِجْعَلْنِی کی ضمیر منصوب پر ہے۔

قَوْلًا: مِنْ یَقِیْمُهَا یہ اشارہ ہے کہ اِجْعَلْنِی کا مفعول ثانی محذوف ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

## رابط آیات:

واذ قال ابراهيم الخ، گذشتہ آیات میں عقیدہ توحید کی معقولیت اور اہمیت کا اور شرک و جہالت کی مذمت کا بیان تھا، اب یہاں اسی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اس قصہ کے ضمن میں اہل مکہ کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اے اہل مکہ! تمہارا دعویٰ ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو اور تمہارا رشتہ نسب حضرت خلیل اللہ سے ملتا ہے، مگر ذرا غور تو کرو کہ تمہارے جد امجد کا عقیدہ اور عمل کیا تھا؟ توحید کے معاملہ میں زمرہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ کامیاب جہاد حضرت خلیل اللہ کا جہاد تھا، اسی لئے ملت ابراہیمی کو دین حنیف کا نام دیا جاتا ہے تاکہ اہل مکہ تقلید آبائی کے خوگر شاید اپنے جد امجد کے عقیدہ و عمل پر نظر کر کے کفر و شرک سے باز آجائیں، اسی مصلحت سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے۔

## دعاء ابراہیمی کی تاثیر:

وارد قہم من الثمرات لعلہم یشکرون، دعاء ابراہیمی کی تاثیر کس قدر عیاں ہے کہ مکہ جیسی بے آب و گیاہ سرزمین میں جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور حج کے موقع پر بھی جبکہ لاکھوں افراد کا اضافی اجتماع ہوتا ہے پھلوں کی فراوانی میں کمی نہیں آتی، نہ صرف پھل بلکہ دنیا بھر کی مصنوعات مکہ میں باسانی دستیاب ہوتی ہیں۔

رب اجعلنی مقیم الصلوۃ ومن ذریعتی، اس دعاء میں اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی شریک فرمایا اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لئے بھی نماز کی پابندی کی دعاء کی، اور اپنی مغفرت اور اپنے والدین کے لئے بھی مغفرت کی دعاء فرمائی حالانکہ والد یعنی آذر کا کافر ہونا قرآن میں مذکور ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ممانعت سے پہلے کی دعاء ہو، اور جب آذر کا عدو اللہ ہونا معلوم ہو گیا تو دعاء ترک کر دی۔

قال تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ الْكَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ۖ إِنََّّمَا يُوَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ لَهَوْلَ النَّاسِ ۚ يَقَالُ يَا أَيُّهَا الَّذِي فَتَحَ فَلَمَّ يَغْمُضُهُ مُهْطِعِينَ ۚ مُسْرِعِينَ حَالٍ مُّقْنِعِي رَافِعِي رُءُوسِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ بَصُرْهُمْ



وَأَفِدتَهُمْ قُلُوبُهُمْ هَوَاءً ۖ خَالِيَةً مِنَ الْعَقْلِ لَفَزَعَهُمْ وَأَنْذِرْ خَوْفَ يَا مُحَمَّدُ النَّاسَ الْكَفَّارَ  
يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَفَرُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا بِأَنْ تَرُدَّنَا إِلَى الدُّنْيَا  
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَنَشِيعَ الرُّسُلِ فَيَقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ حَلْفَتُمْ مِّنْ قَبْلُ  
فِي الدُّنْيَا مَا لَكُمْ مِّنْ زَائِدَةٍ زَوَالٍ ۚ عَنْهَا إِلَى الْآخِرَةِ وَسَكَنْتُمْ فِيهَا فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْكَفْرِ مِنْ  
الْأَسْمِ السَّابِقَةِ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ مِنَ الْعَقُوبَةِ فَلَمْ تَنْزَجِرُوا وَضَرَبْنَا بَيْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۚ فِي الْقُرْآنِ فَلَمْ  
تَعْتَبِرُوا وَقَدْ مَكَرُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْرَهُمْ حَيْثُ ارَادُوا قَتْلَهُ أَوْ تَقْيِيدَهُ أَوْ اخْرَاجَهُ  
وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ أَيْ عِلْمُهُ أَوْ جَزَاؤُهُ وَإِنْ مَا كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ عَظُمَ لِنَزُولٍ مِنْهُ الْجَبَالُ ۚ الْمَعْنَى لَا يَعْبَأُ بِهِ وَلَا  
يُضِرُّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَالْمُرَادُ بِالْجَبَالِ هُنَا قِلَ حَقِيقَتُهَا وَقِلَ شُرَائِعُ الْإِسْلَامِ الْمَشْبَهَةُ بِهَا فِي الْقَرَارِ وَالثَبَاتِ  
وَفِي قِرَاءَةِ بَفَتْحِ لَامٍ لِنَزُولٍ وَرَفْعِ الْفِعْلِ فَانْ مَخْفَفَةٌ وَالْمُرَادُ تَعْظِيمُ مَكْرِهِمْ وَقِلَ الْمُرَادُ بِالْمَكْرِ كَفَرُهُمْ  
وَيُنَاسِبُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ تَكَادُ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا وَعَلَى الْأُولَى مَا قَرَأَ  
وَمَا كَانَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ ۚ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَالِبٌ لَا يَعْجُزُهُ شَيْءٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ مِمَّنْ عَصَاهُ  
أَذْكَرُ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ فَيَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ تَقِيَّةٍ كَمَا فِي  
حَدِيثِ الصَّحِيحِينَ وَرَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثَ بَنِي إِسْرَءِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى  
الصُّرَاطِ وَبَرَزُوا خَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَى يَا مُحَمَّدُ تَبْصُرُ الْمُجْرِمِينَ الْكَافِرِينَ يَوْمَئِذٍ  
مُقَرَّنِينَ مَشْدُودِينَ مَعَ شَيَاطِينِهِمْ فِي الْأَصْفَادِ ۚ الْقِيُودِ أَوْ الْأَغْلَالِ سَرَابِيْلُهُمْ قَمَصُهُمْ مِّنْ قِطْرَانٍ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ  
لِاشْتِعَالِ النَّارِ وَتَغْشَى تَعْلُوا وَجُوهَهُمُ النَّارُ ۚ لِيَجْزَىٰ مَتَّعَلِقُ بَبْرَزُوا اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ  
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ يَحَاسِبُ جَمِيعَ الْخَلْقِ فِي قَدَرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيثِ ذَلِكَ هَذَا الْقُرْآنُ  
بَلَّغَ النَّاسِ أَيْ أَنْزَلَ لِتَبْلِيغِهِمْ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا بِمَا فِيهِ مِنَ الْحُجَجِ أَيْ اللَّهُ الْوَاحِدُ وَلِيَذْكُرَ  
بَادِغَامِ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ يَتَعَطَّى أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ أَصْحَابُ الْعُقُولِ.

**تَرْجُمَةٌ:** مکہ کے کافر جو کچھ کرتے ہیں اس سے تم خدا کو ہرگز غافل نہ سمجھو، وہ تو ان کو عذاب سے اس دن تک کے

لئے مہلت دیئے ہوئے ہے کہ جس دن منظر کی ہولناکی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہا جاتا ہے شخص  
بصر فلان، یعنی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جس کو وہ بند نہ کر سکا، حال یہ کہ وہ آسمان کی طرف اپنے سروں کو اٹھائے  
ہوئے (داعی کی آواز کی طرف) تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے (ایک لمحہ کے لئے بھی) ان کی پلک نہ جھپکے گی اور ان  
کے قلوب ان کے خوف کی وجہ سے عقل سے خالی ہوں گے اور اے محمد ﷺ آپ کافر لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان پر

عذاب آویگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ظالم کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں تھوڑے وقت کی مہلت دے بایں صورت کہ تو ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم تیری توحیدی دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں تو ان سے جھڑکی کے طور پر کہا جائیگا، کیا تم اس سے پہلے دنیا میں قسم کھا کر نہیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے لئے تو دنیا سے آخرت کی طرف ملنا ہی نہیں ہے حالانکہ تم دنیا میں ان کی بستیوں میں رہ چکے ہو کہ جنہوں نے امم سابقہ میں سے کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا اور تمہارے لئے ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ عذاب کا کیسا معاملہ کیا تھا؟ پھر بھی تم باز نہیں آئے، اور ہم نے تمہارے (سمجھانے) کے لئے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کیں مگر تم نے عبرت حاصل نہ کی، اور یہ لوگ نبی ﷺ کے ساتھ اپنی چالیں چل رہے ہیں اس طریقہ پر کہ ان لوگوں نے آپ کے قتل کا یا قید کرنے کا یا وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور اللہ کو ان کے مکر کا علم ہے یا اللہ کے پاس ان کی سزا ہے، اور ان کی چالیں اگرچہ کتنی ہی عظیم ہوں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکیں، معنی یہ ہیں کہ ان کی چالیں قابل توجہ نہ تھیں اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور پہاڑوں سے مراد حقیقتہ پہاڑ ہی ہیں، یا اسلامی احکام ہیں جن کو ثبات و قرار میں پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی اور ایک قراءت میں (لتزول) کے لام کے فتح اور فعل کو رفع کے ساتھ ہے اور ان مخففہ ہے اور مقصد ان کے مکر کے عظیم ہونے کو بیان کرنا ہے اور کہا گیا ہے کہ مکر سے مراد ان کا کفر ہے اور تکاد السموات يتفطرن (الآیۃ) ثانی قراءت کے مناسب ہے، اور پہلی قراءت کے مناسب وہی ہے جو پڑھا گیا ہے، (یعنی) وما کان مکرمہم الخ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے نصرت کے بارے میں وعدہ خلافی کرے گا اللہ تعالیٰ غالب ہے اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور اپنے نافرمانی کرنے والے سے بدلہ لینے والا ہے (اور) اس دن کو یاد کرو کہ موجودہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور وہ قیامت کا دن ہوگا، تو لوگوں کو ایک صاف ستھری سفید زمین پر جمع کیا جائیگا، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے، اور روایت کی مسلم نے ایک حدیث جس میں سوال کیا گیا رسول ﷺ سے کہ (تبدیلی ارض) کے دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر، اور (سب لوگ) قبروں سے نکل کر خدائے واحد غالب کے روبرو حاضر ہوں گے اور اے محمد آپ اس دن مجرموں کافروں کو بیڑیوں میں یا طوقوں میں شیاطین کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھو گے حال یہ ہے کہ ان کا لباس گندھک (یا تارکول) کا ہوگا، اسلئے کہ گندھک آگ بھڑکانے والی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چھائی ہوئی ہوگی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال نیک و بد کا بدلہ دے، لیجزی، برزوا کے متعلق ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں لے لیگا اس مضمون کی حدیث کی وجہ سے یہ قرآن تمام لوگوں کے لئے اطلاع نامہ ہے یعنی لوگوں کی تبلیغ کے لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ان کو آگاہ کر دیا جائے اور تاکہ لوگ ان دلائل کو جان لیں جو قرآن میں ہیں کہ اللہ ایک اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل (و بصیرت) اس سے نصیحت حاصل کریں، (لیذکر) اصل میں یا ذال میں ادغام کے ساتھ ہے۔



## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْہِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلٌ:** تشخص (ف) مضارع واحد مؤنث غائب، مصدر شخوص، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، آنکھوں کا کھلا رہ جانا، آنکھوں کا چڑھ جانا۔

**قَوْلٌ:** مهطعين یہ مهطع اسم فاعل کی جمع ہے (افعال) اھطاع سر جھکانا تیزی سے دوڑنا مهطعين، اصحاب مضاف محذوف سے حال ہے تقدیر عبارت یہ ہے، اصحاب الابصار مهطعين۔

**قَوْلٌ:** مقنعی، اقناع سے اسم فاعل اٹھائے ہوئے، (افعال) اصل میں مقنعین تھا، نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا، مادہ قنع ہے۔

**قَوْلٌ:** افندتھم، افندۃ، فواد کی جمع ہے بمعنی دل۔

**قَوْلٌ:** هواء یہ اسم ہے بمعنی خالی، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے دل کا خالی ہونا ہر بھلائی سے خالی، هواء اس فضاء کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، محاورہ میں ڈر پوک دل کی صفت واقع ہوتی ہے۔

**قَوْلٌ:** نجب یہ اخرنا امر کا جواب ہے۔

**قَوْلٌ:** يقال لهم، ما قبل سے ربط پیدا کرنے کے لئے اس کے محذوف ماننے کی ضرورت پیش آئی۔

**قَوْلٌ:** تبين، اس کا فاعل دلالت کلام کی وجہ سے مضمّر ہے اور وہ حال ہے، تقدیر عبارت یہ ہے تبين لکم كيف فعلنا بهم؟

**قَوْلٌ:** ان ما، اس میں اشارہ ہے کہ ان نافیہ ہے اور لتزول میں لام تاکیدی کے لئے ہے، وفی قراءت بفتح لام الاولى و رفع الاخيرة ای لتزول، اس صورت میں ان مخففہ عن الثقيله ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ان کا مکر اتنا شدید تھا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے، (لتزول) کالام، مخففہ اور نافیہ کے درمیان فارقہ ہے۔

**خُلَاصَتُہُمْ:** ثانی قراءت یعنی ان مخففہ کی صورت میں (لتزول) سے کفار کے مکر کو عظیم اور شدید ہونے کو بیان کرنا مقصود ہے، اور پہلی قراءت یعنی ان نافیہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ (لتزول) سے ان کے مکر کے ضعف کو بیان کرنا مقصود ہے یعنی ان کا مکر خدائی تدبیر کے مقابلہ میں اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ وہ قابل توجہ بھی نہیں ہے اور نہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، دوسری قراءت کے اللہ تعالیٰ کا قول تکاد السموات يتفطرن الخ مناسب ہے اور پہلی قراءت کے اللہ تعالیٰ کا قول: ما کان مکرهم لتزول منه الجبال مناسب ہے۔

**قَوْلٌ:** قطران، قطران ایک سیال سیاہ غلیظ مادہ ہوتا ہے جس میں خدت ہوتی ہے، اگر اس کی خارش اونٹوں کے مالش کر دی جائے تو خارش ختم ہو جاتی ہے یہ مادہ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ گندھک

اور بعض نے تارکول کیا ہے۔

قَوْلًا: متعلق بَبَرَزُوا، یعنی لیجزی، برزوا کے متعلق ہے اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔

قَوْلًا: انزل لتبليغهم، هذا بلاغ میں چونکہ وصف کا حمل ذات پر لازم آ رہا ہے اس لئے شارح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے مذکورہ عبارت مقدر مانی تاکہ حمل درست ہو جائے، یعنی یہ ہذا کی خبر نہیں ہے بلکہ خبر محذوف ہے خبر کی علت کے قائم مقام کر دیا ہے۔

## تَفْسِيرٌ وَتَشْرِيحٌ

سورۃ ابراہیم علیہ السلام کے اس آخری رکوع میں، خلاصہ کے طور پر انہی اہل مکہ کو پچھلی قوموں کی سرگذشت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے اور اب بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے  
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظلمون، پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ اور ہر مظلوم کو تسلی اور ظالم کے لئے سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کی خبر نہیں اس لئے کوئی عذاب اور مصیبت ان پر نہ آئے گا، بلکہ اللہ کی نظر سے ان کا کوئی عمل مخفی نہیں مگر اس نے اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رکھی ہے۔

تشخص فيه الابصار، یعنی قیامت کا ہولناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا اور ٹٹکلی لگائے اسے دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کہ ان کے دیدے پتھر اگئے ہیں نہ پلک جھپکے گی اور نہ نظر ہٹے گی۔

اولم تکنوا اقسمتم من قبل مالکم من زوال، یعنی دنیا میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ نہ کوئی حساب کتاب ہے اور نہ دوزخ و جنت اور نہ کسی کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان کی عبرت کے لئے گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات بیان کر دیئے جن کے گھروں میں اب تم چل پھر رہے ہو اور ان کے کھنڈر بھی تمہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں، اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی، پھر تم بھی اس انجام کے لئے تیار رہو، حالانکہ تم دیکھ چکے تھے کہ تمہاری پیش رو قوموں نے قوانین الہی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لئے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے، مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چال بازیاں کرنے سے باز نہ آئے، اور یہی سمجھتے رہے کہ ہماری چالیں ضرور کامیاب ہوں گی۔

وقدمکروا مکرهم الخ اس آیت میں مخالفانہ تدبیروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں نے دین حق کو مٹانے اور مسلمانوں کو ستانے کے لئے بھرپور تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مخفی اور ظاہر تدبیروں سے واقف ہے اللہ ان کے ناکام بنادینے پر قادر ہے اگرچہ ان کی تدابیر اتنی عظیم و شدید تھیں کہ ان کے مقابلہ پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے ساری تدبیریں گرد و غبار کی طرح ہباء منثورا ہو گئیں، یہ مطلب ان مخففہ عن المشقلہ کی صورت میں ہوگا اور



ان کو نافیہ قرار دے کر یہ معنی ہوں گے، اگرچہ انہوں نے بہت سی تدبیریں اور چالیں چلیں، لیکن ان کی تدبیروں اور چالوں سے یہ ممکن نہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور پہاڑ سے مراد آپ ﷺ کا عزم و استقلال ہے۔

فلا تحسبن اللہ مخلف وعده، اگرچہ اس میں روئے سخن آپ ﷺ کی طرف ہے مگر مراد مخالفین ہیں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے جو وعدے فتح و نصرت اور کامیابی کے کیے ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا اللہ بڑا زبردست ہے وہ ضرور دشمنوں سے انتقام لے گا اور اپنے پیغمبروں سے جو وعدے کئے ہیں ان کو ضرور پورا کرے گا۔

یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات (الآیۃ) اس آیت میں موجودہ زمین و آسمان کی تبدیلی کا ذکر ہے یہ تبدیلی ذات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی اور دونوں طریقوں سے بھی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ارض و سماء کی تبدیلی کے وقت مخلوق پل صراط پر ہوگی، غرضیکہ موجودہ نظام طبعی درہم برہم کر دیا جائیگا اور نفع اولیٰ اور ثانیہ کی مدت کے درمیان زمین و آسمان کی موجودہ ہیئت بدل ڈالی جائیگی، اور ایک دوسرا نظام طبیعت دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنادیا جائیگا پھر نفع ثانیہ کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے از سر نو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کئے جائیں گے اسی کا نام حشر ہے، قرآنی اشارات اور حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر ہوگا یہیں عدالت قائم ہوگی یہیں میزان عدل قائم کی جائیگی، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کئے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ تَسْعُ وَتَسْعُونَ آيَةً كُتِبَتْ

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ تَسْعُ وَتَسْعُونَ آيَةً.

سورہ حجر مکی ہے ۹۹ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الرَّقِۡمُ ۝ اللَّهُ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ تِلْكَ هَذِهِ آيَاتُ آيَاتِ  
الْكِتَابِ الْقُرْآنِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى ۱) مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة رُبَّمَا  
بالتشديد والتخفيف يُوَدُّ يَتَمَنَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِذَا عَايَنُوا حَالَهُمْ وَحَالَ الْمُسْلِمِينَ  
لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۲) وَرَبُّكَ يَتَمَنَّى أَنْ يَكْثُرَ مِنْهُمْ تَمَنَّى ذَلِكَ وَقِيلَ لِلتَّقْلِيلِ فَإِنَّ الْإِهْوَالَ تَدَهَشَهُمْ فَلَا  
يَفْقَهُونَ حَتَّى يَتَمَنَّوْا ذَلِكَ الْإِفَى أَحْيَانًا قَلِيلَةً ذَرُّهُمْ أَتَرَكَ الْكُفَارَ يَا مُحَمَّدُ يَا كَلُوا وَتَمَتَّعُوا بِدُنْيَاهُمْ  
وَيُلْهِمُهُمْ يَشْغَلُهُمُ الْأَمَلُ بِطُولِ الْعُمُرِ وَغَيْرِهِ عَنِ الْإِيمَانِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۳) عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ  
بِالْقِتَالِ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَرِيدَ أَهْلُهَا إِلَّا لَهَا كِتَابٌ أَجَلٌ مَعْلُومٌ ۴) مَحْدُودٌ لَهَا كَمَا مَا تَسْبِقُ مِنْ  
زَائِدَةٍ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۵) يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ وَقَالُوا أَيُّ كُفَارٍ مَكَّةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ الْقُرْآنُ فِي زَعْمِهِ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۶) لَوْ مَا هَلَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
الصَّادِقِينَ ۷) فِي قَوْلِكَ إِنَّكَ نَبِيٌّ وَإِنْ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى مَا نُنَزِّلُ فِيهِ حَذْفٌ أَحَدٍ  
التَّائِينَ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ بِالْعَذَابِ وَمَا كَانُوا إِذَا أَيُّ حِينَ نَزُولِ الْمَلَائِكَةِ بِالْعَذَابِ مُنْظَرِينَ ۸) مُؤَخَّرِينَ  
إِنَّا نَحْنُ تَاكِيدٌ لِاسْمِ أَنْ أَوْفَصَلْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۹) مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَ الزِيَادَةِ  
وَالنَّقْصِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فِي شَيْعِ فِرْعَوْنَ الْأَوَّلِينَ ۱۰) وَمَا كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا  
بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۱۱) اسْتَهْزَأَ قَوْمُكَ بِكَ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ أَيُّ مَثَلٍ  
ادْخَلْنَا التَّكْذِيبَ فِي قُلُوبِ الْأَوَّلِينَ ۱۲) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۱۳) أَيُّ كُفَارٍ مَكَّةَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ بِالنَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۱۴) أَيُّ سُنَّةِ اللَّهِ فِيهِمْ مِنْ تَعْذِيبِهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ أَنْبِيَائِهِمْ



وَهُؤُلَاءِ مِثْلُهُمْ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ فِي الْبَابِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۴﴾ يَصْعَدُونَ لِقَالُوٓا۟ إِنَّمَا سَكَّرَتْ سِدَّتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿۱۵﴾ يَخِيلُ الْبَيْنَا ذَلِكَ.

**ترجمہ:** اَلرَّاءِ اس سے اپنی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ آیات قرآن کی آیتیں ہیں، اور اضافت بمعنی من ہے اور قرآن مبین کی (آیتیں ہیں) جو حق کو باطل سے ممتاز کرنے والا ہے یہ زیادتی صفت کے ساتھ عطف ہے بعید نہیں کہ کافر لوگ قیامت کے دن جب اپنے حال کو اور مسلمانوں کے حال کو دیکھیں تو تمنا کریں کاش ہم سر تسلیم خم کر دیتے (ربما) تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے، رُب تکثیر کے لئے ہے بایں صورت کہ ان کی جانب سے اس کی کثرت سے تمنا ہو اور کہا گیا ہے کہ (رُب) تقلیل کے لئے ہے امر واقعہ یہ ہے کہ (قیامت کی) ہولناکیاں ان کو مدہوش کئے ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو ہوش ہی نہ ہوگا کہ وہ اس کی تمنا کریں، الا یہ کہ بہت قلیل وقت کے لئے اے محمد ﷺ ان کافروں کو چھوڑو کہ اپنی دنیا میں کھائیں (پئیں) اور مزے کریں اور درازی عمر کی امید ان کو ایمان وغیرہ سے غفلت میں ڈالے رہے، اپنے عمل کا انجام انھیں عنقریب معلوم ہو جائیگا اور یہ حکم قتال سے پہلے کا ہے، اور ہم نے کسی بستی کو یعنی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لئے مقررہ نوشتہ تھا (یعنی) اس کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا من زائدہ، اور قریہ سے اہل قریہ مراد ہیں، کوئی (متنفس) اپنی موت کے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، من زائدہ ہے کفار مکہ نبی ﷺ سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جس پر بزم خود ذکر (یعنی) قرآن نازل کیا گیا ہے بلاشبہ تو دیوانہ ہے اگر تو اپنے اس دعوے میں کہ تو نبی ہے اور یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا اور ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں (یعنی) عذاب کے ساتھ اور جب فرشتے عذاب لے کر اترتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے (نحن) ان کے اسم کی تاکید ہے یا ضمیر فصل ہے اور ہم ہی تبدیل و تحریف اور زیادتی و نقصان سے حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ قوموں میں (بھی برابر) رسول بھیجے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کے پاس رسول آیا ہو اور اس نے تیری قوم کے تیرا مذاق اڑانے کے مانند مذاق نہ اڑایا ہو اور یہ نبی ﷺ کو تسلی ہے اور اسی طرح یعنی ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب (استہزاء) ڈالنے کے مانند مجرموں یعنی کفار مکہ کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں (جس کی وجہ سے) یہ لوگ نبی ﷺ کی (رسالت) کی تصدیق نہیں کرتے اور یہ دستور پہلے ہی سے چلا آتا ہے یعنی ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کو سزا دینے کا اللہ کا دستور پہلے ہی سے چلا آتا ہے، اور یہ بھی (تکذیب میں) ان جیسے ہیں اور اگر ہم ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ اس دروازہ سے چڑھ بھی جائیں تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کردی گئی بلکہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا یعنی یہ (آسمان پر چڑھنا) ہمارے خیال میں ڈال دیا گیا۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: هذه الايات.

سُؤَالٌ: تلك کی تفسیر ہذہ سے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جَوَابٌ: قرب حسی کو بیان کرنا مقصود ہے۔

سُؤَالٌ: تو پھر ہذہ ہی کیوں نہ استعمال کیا گیا۔

جَوَابٌ: تلك سے علور تبی کو بیان کرنا مقصود ہے، تلك کو ہذہ کے معنی میں لینے سے دونوں فائدے حاصل ہو گئے علور تبی اور قرب حسی اگر تلك کی جگہ ہذہ استعمال ہوتا تو صرف قرب حسی ہی کا فائدہ حاصل ہوتا۔

قَوْلًا: اضافت بمعنی من ای آیات من الكتاب.

قَوْلًا: مظهر الحق.

سُؤَالٌ: مفسر علام عام طور پر مبین کی تفسیر مبین سے کرتے ہیں اور یہ قرین قیاس بھی ہے اسلئے کہ متعدی بمعنی لازم لینا مقصود ہوتا ہے مگر یہاں مبین سے متعدی معنی ہی مراد ہیں نہ کہ لازم اسی لئے مفسر علام نے مبین کی تفسیر مظهر سے کی ہے۔

قَوْلًا: عطف بزيادة الصفة.

سُؤَالٌ: اس اضافہ کا کیا فائدہ ہے؟

جَوَابٌ: یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: یہ ہے کہ قرآن کا عطف کتاب پر ہو رہا ہے اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہے لہذا یہ عطف الشئ علی نفسہ کے قبیل سے ہو گیا حالانکہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے۔

جَوَابٌ: کتاب جو کہ معطوف علیہ ہے مطلق ہے اور قرآن صفت مبین کے ساتھ مقید ہے لہذا یہ عطف مقید علی المطلق کے قبیل سے ہے اور دونوں میں مغایرت ظاہر ہے لہذا کوئی اعتراض نہیں، مفسر علام نے عطف بزيادة الصفة سے اسی سوال کا جواب دیا ہے۔

قَوْلًا: يتاخرون عنه یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: ہے کہ يستاخرون باب استفعال ہے جو طلب پر لالت کرتا ہے حالانکہ یہاں طلب کے معنی مقصود نہیں ہیں؟

جَوَابٌ: استفعال بمعنی تفعل ہے۔

قَوْلًا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون یہ مشرکین کے رد و انکار کا جواب ہے جو مشرکین نے بھی ”انک لمجنون“ کہہ کر نزول ذکر کا تاکید کے ساتھ انکار کیا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے نزول ذکر کا اثبات بھی تاکید کے ساتھ انا نحن نزلنا الذكر الخ کہہ کر فرمایا۔



**قَوْلًا:** تاکید او فصل یعنی نحن اسم ناکی تاکید ہے یا یہ کہ فصل ہے نحن کو فصل قرار دینے کی صورت میں یہ سوال ہوگا کہ فصل دو اسموں کے درمیان ہوتا ہے نہ کہ اسم اور فعل کے درمیان جیسا کہ یہاں ہے اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ فصل ضمیر غائب سے ہوتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ سے البتہ جر جانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی نے اسم اور فعل کے درمیان بھی فصل کو جائز کہا ہے غالباً مفسر علام نے جر جانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی کے مسلک پر عمل کیا ہے۔

**قَوْلًا:** کان، کان کا اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ ماحالیہ اس مضارع پر داخل ہوتا ہے جو حال کے معنی میں ہو یا اس ماضی پر داخل ہوتا ہے جو قریب الی الحال ہو مفسر علام نے کان مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ ماحالیہ ماضی قریب الی الحال پر داخل ہے۔

**قَوْلًا:** ندخله، ای الاستهزاء، ہ ضمیر کا مرجع استهزاء ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

### سورت کا نام:

اس سورت کا نام حجر ہے جو کہ آیت ۸۰ کے فقرہ کذب اصحاب الحجر المرسلین سے ماخوذ ہے۔

### مقام حجر کا مختصر تعارف:

حجر یہ قوم ثمود کا مرکز تھا اس کے کھنڈر مدینہ سے شمال مغرب میں موجودہ شہر العلا سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ہیں، مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ شہر شاہ راہ عام پر پڑتا ہے اور قافلے اس وادی سے ہو کر گزرتے ہیں ۹ھ میں آنحضرت ﷺ تبوک جاتے ہوئے اس علاقہ سے گزرے تھے مگر آپ نے اس معذب بستی سے جلدی سے گزرنے کا حکم فرمایا تھا دولت عثمانیہ کے زمانہ میں یہ حجاز ریلوے کا اسٹیشن تھا۔

آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا، وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم ثمود کی تراشی ہوئی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسا آج یہ بنائے گئے ہوں، ان مکانات میں اب گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔

الذی اس کی حقیقی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب کی، کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے قرآن کی تنوین تخم کے لیے ہے یعنی یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت و شان والا ہے۔

ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار و مشرکین یہ آرزو کس وقت کریں گے؟ موت کے وقت جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، جہنم میں داخل ہونے کے بعد، یا سید ان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر مسلمانوں کو جنت میں اور کافروں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھیں گے، اس وقت کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے ”ربما“ اکثر

تو تکثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر کبھی قلت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے رب بغیر ما کے فعل پر داخل نہیں ہوتا۔

ذرہم یا کلو او يتمتعو (الایۃ) یہ کافروں کے لئے تہدید و توبیخ ہے یعنی اگر یہ کافر کفر و شرک سے باز نہیں آئے تو انھیں اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے، یہ دنیوی لذتوں سے محظوظ ہوں اور خوب داد عیش دیں، عنقریب انھیں اپنے کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائیگا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو مقصد اصلی اور مشغلہ بنالینا اور دنیوی عیش و عشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہو کر طویل منصوبہ سازی کرتے رہنا کفار ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے جن کا آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا پر ایمان نہیں، مومن بھی کھاتا پیتا ہے، اور معاش کا بقدر ضرورت سامان بھی کرتا ہے اور آئندہ کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے مگر موت اور فکر آخرت سے خالی ہو کر یہ کام نہیں کرتا۔

ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، جس بستی کو بھی ہم نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں، تو فوراً ہلاک نہیں کر دیتے، بلکہ ہم ایک وقت مقرر کئے ہوئے ہیں اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آجاتا ہے تو انھیں ہلاک کر دیا جاتا ہے پھر وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔

## قرآن اور حفاظت قرآن:

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، اس آیت میں پیشین گوئی کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم قیامت تک اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹانے یا اس میں تحریف و ترمیم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، ہم نے مقدمہ میں حفاظت قرآن کے زیر عنوان گفتگو کی ہے وہاں آپ نے غالباً پڑھ لیا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو عملی طور پر کس طرح سچا کر کے دکھایا، اور ہر دور میں اس کی کس طرح حفاظت کی، چنانچہ آج یہ بات پورے وثوق اور دعوے کے ساتھ بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں آنحضرت ﷺ نے اسکی تعلیم دی تھی، اور اس میں آج تک کسی ایک نقطہ یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکا، معاندین اسلام نے ماضی میں بھی قرآن میں تحریف و ترمیم کی کوششیں کی ہیں اور آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں مگر مایوسی اور ناکامی کے علاوہ ان کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔

## حفاظت قرآن غیروں کی نظر میں:

قرآن محفوظ ہونے کا عقیدہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور اس سے انکار کی جرات نہیں کی، لیکن جب نگاہوں پر تعصب کا پردہ پڑ جائے تو ایک شفاف چشمہ بھی گدلا نظر آنے لگتا ہے حفاظت قرآن کا وعدہ الہی جس حیرت انگیز طریقہ پر پورا ہو کر ہمارے دیکھ کر بڑے بڑے متعصب و مغرور مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے ”میور“ کہتا ہے۔



”جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں کہ جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔“

ایک اور یورپین لکھتا ہے۔

”ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ محمد ﷺ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔“

## حفاظت قرآن کے سلسلہ میں مامون رشید کے دربار کا ایک واقعہ:

قرطبی نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المومنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون گا ہے بگا ہے علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتا تھا، ایسے ہی ایک مباحثہ میں ایک یہودی بھی ایک مرتبہ آگیا، جب مجلس ختم ہوگئی تو مامون نے بلا کر دریافت کیا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں، مامون نے امتحان کیا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔

اس نے جواب دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر اسی شخص نے ایک سال بعد مسلمان ہو کر دربار میں مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کیں، مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گذشتہ آئے تھے اس نے کہا ہاں وہی ہوں، مامون نے دریافت کیا اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر اب مسلمان ہو نیکا سبب کیا ہوا؟

اس نے جواب دیا کہ سال گذشتہ جب یہاں سے واپس گیا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں، میں نے آزمائش اور امتحان کے طور پر تورات کے تین نسخے کتابت کئے جن میں میں نے بہت سی جگہ اپنی طرف سے حذف و اضافہ کر دیا اور میں وہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا، یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا، پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخے حذف و اضافہ کے ساتھ کتابت کئے اور نصاریٰ کے پاس لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لئے، پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے عمدہ کتابت کئے جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی پھر ان کو لے کر میں فروخت کے لئے نکلا تو جس مسلمان کے پاس لے کر گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہیں یا نہیں جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے وہ نسخے واپس کر دیئے۔

اس واقعہ سے میں نے سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔

واقعات بتلاتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی رہی ہے کہ جس نے قرآن کریم کے علوم اور مطالب کی حفاظت کی ہے، کاتبوں نے رسم الخط کی، قاریوں نے طرز ادا اور تلفظ کی، حافظوں نے اس کے الفاظ اور عبارت کی وہ حفاظت کی کہ نزول کے وقت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت نہیں بتلائی جاسکتی کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ قرآن کی موجود نہ رہی ہو آٹھ دس سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں دو تین جز کا رسالہ یاد کرنا دشوار ہے وہ ایک اجنبی زبان کی اتنی ضخیم کتاب کس طرح فر فر سنا دیتا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اِثْنِي عَشَرَ الْحَمَلُ وَالشُّوْرَ وَالْجُوزَاءُ وَالسَّرَطَانَ وَالْاَسَدَ وَالسِّنْبِلَةَ وَالْمِيزَانَ وَالْعَقْرَبَ وَالْقُوسَ وَالْجَدَى وَالْاِدْلُوَ وَالْحُوتَ وَهِيَ مَنَازِلُ الْكُوكَبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ الْمَرِيخَ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزَّهْرَةَ وَلَهَا الثُّورُ وَالْمِيزَانُ وَعِطَافُ دَوْلَةِ الْجُوزَاءِ وَالسِّنْبِلَةُ وَالْقَمَرُ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسُ وَلَهَا الْاَسَدُ وَالْمَشْتَرَى وَلَهُ الْقُوسُ وَالْحُوتُ وَزَجَلُ وَلَهُ الْجَدَى وَالْاِدْلُوَ وَزَيِّنَهَا بِالْكَوَاكِبِ لِلنَّظَرِ ۝<sup>۱۶</sup> وَحَفِظْنَاهَا بِالشَّهَبِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝<sup>۱۷</sup> مَرْجُومٌ اِلَّا لَمَنْ مِّنْ اَسْتَرَقَ السَّمْعَ خُطْفَهُ فَاتَّبَعَهُ لِحَقِّهِ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۝<sup>۱۸</sup> كُوكَبٌ مُضَى يَحْرِقُهُ اَوْ يَتَقَبَّهِ اَوْ يَخْبِلُهُ وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا بِسَطْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَاسِيَ جِبَالٍ ثَوَابِتٍ لِّئَلَّا تَتَحَرَّكَ بَاهِلَهَا وَاَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝<sup>۱۹</sup> مَعْلُومٌ مَّقْدَرٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ بِالْيَاءِ مِنَ الثَّمَارِ وَالْحَبُوبِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزَقَيْنِ ۝<sup>۲۰</sup> مِنَ الْعَبِيدِ وَالْاَدْوَابِ وَالْاَنْعَامِ فَاَنْمَ يَرْزُقُهُمُ اللّٰهُ وَلَٰنَ مَا مِّنْ زَائِدَةٍ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَ نَاخِرَاتِنَا مَفَاتِيحُ خَزَائِنِهِ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝<sup>۲۱</sup> عَلٰى حَسَبِ الْمَصَالِحِ وَاَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ تَلْقَحُ السَّحَابَ فَيَمْتَلِئُ مَاءً فَاَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ السَّحَابَ مَاءً مَّطْرًا فَاَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَزَنِيْنَ ۝<sup>۲۲</sup> اٰى لَيْسَتْ خَزَائِنُهُ بَاَيْدِيكُمْ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيْ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُوْنَ ۝<sup>۲۳</sup> الْبَاقُونَ نَرِثُ جَمِيعَ الْخَلْقِ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ اٰى مِّنْ تَقْدِمِ مِّنَ الْخَلْقِ مِّنْ لَّدُنْ اٰدَمَ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ۝<sup>۲۴</sup> الْمَتَاخِرِيْنَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ عَلِيْمٌ ۝<sup>۲۵</sup> بِخَلْقِهٖ.

ترجمہ: اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے بارہ برج بنائے ۱ حمل ۲ ثور ۳ جوزاء ۴ سرطان ۵ اسد ۶ سنبلہ ۷ میزان ۸ عقرب ۹ قوس ۱۰ جدی ۱۱ دلو ۱۲ حوت، یہ سات



سیاروں کی بارہ منزلیں ہیں مرتخ کے لئے حمل اور عقرب ہیں اور زہرہ کے لئے ثور اور میزان ہیں اور عطارد کے لئے جوزاء اور سنبلہ ہیں اور قمر کے لئے سرطان ہے اور شمس کے لئے اسد ہے، اور مشتری کے لئے قوس اور حوت ہیں اور ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لئے تاروں سے سجایا اور آسمانوں کو ہم نے ستاروں کے ذریعہ ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا، الا یہ کہ کوئی چوری سے سن بھاگے تو اس کے تعاقب میں ایک روشن ستارہ ہوتا ہے، (جو) اس کو جلاؤ التا ہے یا بیندھ ڈالتا ہے یا بدحواس بنا دیتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے نہ ہلنے والے پہاڑ ثبت کر دیئے تاکہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر (اضطرابی) حرکت نہ کرے اور ہم نے اس میں ہر چیز ایک مقررہ اندازہ سے اگائی، اور ہم نے تمہارے لئے معاش کے سامان پیدا کئے (معایش) یاء کے ساتھ ہے اور وہ سامان پھل اور غلے ہیں، اور تمہارے لئے وہ چیزیں بھی بنائیں جن کو تم (حقیقت میں) روزی نہیں دیتے اور وہ غلام اور چوپائے اور مویشی ہیں ان کو (درحقیقت) اللہ روزی دیتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے خزانے ہمارے پاس ہیں من زائدہ ہے یعنی ان خزانوں کے سرچشمے (ہمارے پاس ہیں) اور ہم ہر چیز کو مصلحت کے مطابق مقررہ انداز سے اتارتے ہیں اور ہم ہی بھر دینے والی ہواؤں کو چلاتے ہیں جو بادلوں کو (پانی سے) بھر دیتی ہیں جس کی وجہ سے بادل پانی سے بھر جاتے ہیں، ہم بادلوں سے پانی برساتے ہیں اور وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی اس کے خزانے تمہارے قدرت میں نہیں ہیں اور بلاشبہ ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور (بالآخر) ہم ہی وارث ہیں، باقی رہنے والے ہیں کہ تمام مخلوق کے وارث ہوں گے، اور تمہارے پیش رو ہمارے علم میں ہیں یعنی اولاد آدم میں سے جو مخلوق آگے جا چکی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اور پس ماندگان بھی ہمارے علم میں ہیں (یعنی) قیامت تک بعد میں آنے والے اور یقیناً آپ کا رب تمام انسانوں کو جمع کر دے گا یقیناً وہ اپنی صنعت میں باحکمت (اور) اپنی مخلوق کے بارے میں باخبر ہے۔

## تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: بروج، بروج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں اسی معنی میں تبرج ہے عورت کے اظہار زینت کو کہتے ہیں، یہاں آسمان کے ستاروں کو برج کہا گیا ہے اس لئے کہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سبع سیارہ کی بارہ منزلوں کا نام برج ہے علم ہیئت میں یہی مراد ہے۔

قَوْلًا: المریخ، یہ سبع سیارہ کا بیان ہے۔

قَوْلًا: المریخ وله الحمل والعقرب، حمل اور عقرب کے مرتخ کی منزل ہونے کا مطلب ہے کہ مرتخ ان دونوں منزلوں میں داخل ہوتا ہے اور کتب تفاسیر اور حکمت میں جو یہ درج ہے کہ بارہ برج شمس کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شمس ان کی محاذات میں واقع ہوتا ہے نہ یہ کہ شمس ان میں داخل ہوتا ہے دیگر سیاروں کا بھی یہی حال ہے لہذا دونوں نظریوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

قَوْلًا: مرجوم، اس میں اشارہ ہے کہ فعلیل بمعنی مفعول ہے۔

قَوْلًا: لکن، الا کی تفسیر لکن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ استثناء منقطع ہے اسلئے کہ استراق جنس حفظ سے نہیں ہے۔


قَوْلًا: خطفہ، استرق کی تفسیر خطفہ سے کر کے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے، اعتراض یہ ہے کہ سمع ایک صفت ہے جو سامع کے ساتھ قائم ہے لہذا اس کا انتقال ممکن نہیں ہے، لہذا استرق السمع کا کیا مطلب ہے؟

جَوَابٌ: استرق بمعنی الاختلاس سرا یعنی چپکے سے اچک لینا اور یہ بطور تشبیہ کے ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔





## نقشہ تسع سیارات



قَوْلًا: لحقه، اتبعه کی تفسیر لحقه سے کر کے اشارہ کر دیا کہ افعال بمعنی مجرد لازم ہے لہذا معنی درست ہیں۔

قَوْلًا: یخبلہ یہ خبل سے ہے اس کے معنی ہیں بدحواس کرنا، باؤلا بنانا، شیطان شہاب کی مارے سے بدحواس ہو کر غول یعنی جنگلی بھوت ہو جاتا ہے جو لوگوں کو جنگل میں ڈراتا ہے اور بہکاتا ہے۔

قَوْلًا: وجعلناکم، اس میں اشارہ ہے کہ من لستم کا عطف معایش پر ہے لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ من لستم کا عطف لکم کی ضمیر مجرور پر ہے اور ضمیر مجرور پر عطف بغیر اعادہ جار درست نہیں ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

”برج“ عربی زبان میں قلعے، قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں، قدیم علم ہیئت میں برج کا لفظ اصطلاحاً ان بارہ منزلوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا ہے اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ بھی انہی برجوں کی طرف ہے بعض دیگر مفسرین نے اس سے سیارے مراد لئے ہیں، وجعلنا فی السماء بروجا، یہاں آسمان کے تاروں کو برج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لئے مقرر ہیں، سیارے سات ہیں اور ان کی منزلیں بارہ ہیں تقسیم اس طرح ہے شمس و قمر کے لئے ایک ایک منزل ہے اور باقی پانچ کے لئے دو دو منزلیں ہیں اس طرح سات سیاروں پر بارہ منزلیں تقسیم ہیں۔

حفظنا ہامن کل شیطان رجیم، رجیم، مرجوم کے معنی ہیں بے رحم کے معنی سنگسار کرنے کے ہیں شیطان کو رجیم اسلئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمانی شہاب ثاقب ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، رجیم ملعون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب:

یہاں ایک قوی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضائے آسمانی میں شہابوں کا وجود اور ان کا ٹوٹنا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو مارنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں جو کہ عہد نبوی کی خصوصیت ہے، فلاسفہ کا خیال ہے کہ آفتاب کی گرمی سے جو دھنی اجزاء زمین سے اٹھتے ہیں ان میں آتش گیر مادہ بھی ہوتا ہے اوپر جا کر جب ان کو مزید گرمی ملتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ستارہ ٹوٹا۔

جواب: جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی بعید نہیں کہ کسی تارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے بعثت نبوی سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص



کام نہیں لیا جاتا تھا، آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لیا گیا کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہیں ان کو شعلوں سے مارا جائے۔ (علامہ آلوسی نے بھی یہی توجیہ فرمائی ہے)۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباس خود آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ایک شب آپ ﷺ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، یا تو کوئی بڑا شخص پیدا ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ لغو خیال ہے اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ، اس سے مراد نوکر چاکر، غلام اور جانور ہیں، یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا جن پر تم سواری بھی کرتے ہو اور بار برداری بھی اور بعض کو ان میں سے ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، یہ اگرچہ تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارہ خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے تم نہیں ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ آدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِينٍ يَابِلِسَ تَسْمَعُ لَهُ صَلْصَلَةُ أَى صَوْتِ إِذَا تَقَرَّ مِنْ حَمِيطِ طِينٍ اسود مَسْنُونٍ<sup>(۱۶)</sup> متغیر وَالْجَانَّ ابَا الْجَنِّ وَهُوَ ابْلِسَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَى قَبْلُ خَلْقِ آدَمَ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ<sup>(۱۷)</sup> ہی نار لادخان لھا تنفذ فی المسام وَ اذْكَرَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمٍِٔ مَّسْنُونٍ<sup>(۱۸)</sup> فَاِذَا سَوَّيْتُهُ اَتَمَّمْتُهُ وَنَفَخْتُ جَرِيتَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَصَارَ حَيًّا وَاَضَافَةُ الرُّوحِ اِلَیْهِ تَشْرِیْفٌ لِّآدَمَ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰتٍ<sup>(۱۹)</sup> سجدود تحية بالانحناء فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ<sup>(۲۰)</sup> فِیْہِ تَاكِیْدَانِ اِلَّا ابْلٰسَ ابُو الْجَنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اَبٰی اَسْتَعِنَ مِنْ اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ<sup>(۲۱)</sup> قَالَ تَعَالٰی یٰۤاِبْلٰسُ مَا لَکَ مٰمْنَعُکَ اِلَّا زَائِدَةٌ تَکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ<sup>(۲۲)</sup> قَالَ لَمَّا کُنْ لِّاَسْجُدَ لَا یَنْبَغِیْ لِیْ اَنْ اَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمٍِٔ مَّسْنُونٍ<sup>(۲۳)</sup> قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا اِیْ مِنْ الْجَنَّةِ وَقِیلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ فَاِنَّکَ رَجِیْمٌ<sup>(۲۴)</sup> مَطْرُوْدٌ وَّ اِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَۃَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ<sup>(۲۵)</sup> الْجَزَاءُ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ<sup>(۲۶)</sup> اِی الْنَّاسِ قَالَ فَاِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ<sup>(۲۷)</sup> اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ<sup>(۲۸)</sup> وَ قَتِ النَّفْخَةُ الْاُولٰٓئِیْ قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوِیْتَنِیْ اِی بَاغِوَائِکَ لِیْ وَ الْبَاءُ لِلْقِسْمِ وَ جَوَابُهُ لَا نَزِیْنَنَّ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ اِی الْمَعَاصِیِ وَلَا اُغْوِیْتَهُمْ اٰجَمَعِیْنَ<sup>(۲۹)</sup> اِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ<sup>(۳۰)</sup> اِی الْمُؤْمِنِیْنَ قَالَ تَعَالٰی هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِیْمٍ<sup>(۳۱)</sup> وَهُوَ اِنَّ عِبَادِیْ اِی الْمُؤْمِنِیْنَ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ قُوَّةً اِلَّا لَکِنْ مِّنْ اَتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِیْنَ<sup>(۳۲)</sup> الْکَافِرِیْنَ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اٰجَمَعِیْنَ<sup>(۳۳)</sup> اِی مَنْ اَتَّبَعَكَ مَعَكَ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ اَطْبَاقٌ لِّکُلِّ بَابٍ مِنْهَا مِنْهُمْ جُزْءٌ نَّصِیْبٌ مَّقْسُوْمٌ<sup>(۳۴)</sup>

**تَرْجَمَہ:** بے شک ہم نے انسان (یعنی) آدم کو کالی سڑی ہوئی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا یعنی ایسی خشک مٹی سے کہ جب اس کو بجایا جائے تو اس کی آواز سنی جائے اور اس سے پہلے (یعنی) تخلیق آدم سے پہلے ہم نے جنات (یعنی) ابوالجن کو کہ وہ ابلیس ہے شعلے سے کہ جس میں دھواں نہ ہو اور وہ مسامات (یعنی بدن کے مسامات) میں نفوذ کر جائے پیدا کیا اور اس وقت کا تذکرہ کرو کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو مکمل کر چکوں اور اس میں اپنی روح ڈال چکوں اور وہ زندہ ہو جائے اور روح کی نسبت اللہ کی طرف آدم کے لئے کرامت کے طور پر ہے، تو تم سب اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، یعنی جھک کر تعظیم کرنا، چنانچہ تمام فرشتوں نے مجموعی طور سجدہ کیا مگر ابلیس نے اور وہ ابوالجن تھا جو فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے (صاف) انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو امن زائدہ ہے وہ بولا کہ میں ایسا کرنے والا نہیں (یعنی) میرے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے کالی سڑی ہوئی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا (اللہ نے) فرمایا جنت سے نکل جا اور کہا گیا ہے کہ آسمانوں سے نکل جا، بلاشبہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے روز جزاء تک، کہنے لگا مجھے اس دن تک ڈھیل دیدے کہ لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے (اللہ نے) فرمایا اچھا تو تجھے وقت مقرر تک مہلت ہے یعنی فتح اولیٰ تک، (شیطان نے) کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے یعنی تیرے مجھ کو گمراہ کرنے کی وجہ سے، اور بقاء قسمیہ ہے اور اس کا جواب لا زینندہ ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گا، اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو مومنین ہیں ارشاد ہوا یہی مجھ تک پہنچے کی سیدھی راہ ہے، میرے مخلص بندوں یعنی مومن بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا، سوائے ان گمراہ کافر لوگوں کے جو تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے یعنی اس شخص کی جو تیرے ساتھ تیری پیروی کرے، جس کے سات طبقے ہیں ہر طبقے کے لئے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔

## تحقیق و تَرْکِیْبِ تَسْہِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلٌ:** آدم، الانسان کی تفسیر، آدم، سے کر کے اشارہ کر دیا کہ الانسان میں الف لام عہد کا ہے۔

**قَوْلٌ:** حماء، کیچڑ، گارا، سیاہ مٹی۔

**قَوْلٌ:** تنفذ فی المسام، اس میں سموم کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ:** ففعوا، وقع يقع، سے امر جمع مذکر حاضر ہے، تم سب گر جاؤ۔ فاء، جواب شرط ہونے کی وجہ سے داخل ہے۔

**قَوْلٌ:** تاکید ان اول تاکید نے اطلاق الجمع علی البعض کے احتمال کو ختم کر دیا جیسا کہ ”اذ قالت الملائكة“



یا مریم“ میں جمع کا اطلاق بعض پر ہوا ہے مگر ابھی احتمال افراد باقی ہے اس کو اجمعون کہہ کر ختم کر دیا، اب آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے گویا کہ حکم موجودین کو ہوا جن میں ابلیس بھی داخل ہے۔

قَوْلٌ: باغوائک اس میں اشارہ ہے کہ بما اغویتہنی میں ما مصدر یہ ہے نہ کہ موصولہ کہ عائد کی ضرورت ہو اور باء قسمیہ ہے، یعنی قسم ہے تیرے مجھے گمراہ کرنے کی۔

قَوْلٌ: ازیٰن، یہ تزیین (تفعیل) سے مضارع واحد متکلم بانون تاکید ثقیلہ ہے میں زینت دوں گا، آراستہ کروں گا۔

قَوْلٌ: المعاصی اس میں اشارہ ہے کہ ازیٰن متعدی ہے، اور اس کا مفعول معاصی محذوف ہے۔

قَوْلٌ: مخلصین، ای اخلصتہ لعبادتک۔

قَوْلٌ: هذا ای تخلص المؤمنین من اغوائک۔

قَوْلٌ: صراط علی، ای حق علی۔

قَوْلٌ: وهو، اس میں اشارہ ہے کہ ہو کا مرجع ان عبادی الخ ہے، اور ان عبادی، صراط مستقیم کا بیان ہے۔

قَوْلٌ: اطباق یہ طبق کی جمع ہے یعنی وہ درجات جن میں حسب اتباع مراتب شیطان جہنمیوں کو داخل کیا جائیگا، اور

جہنم کے حسب ترتیب سات درجے ہیں، ① جہنم ② لظى ③ الحطمة ④ السعیر ⑤ السقر ⑥ الجحیم ⑦ الهاویہ۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

انسان کی اصل آدم عَلَیْهِ السَّلَامُ ہے نہ کہ بندر یا کوئی حیوان:

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون، یہاں قرآن اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ انسان کا پہلا فرد آدم عَلَیْهِ السَّلَامُ ہے اور آدم کی اصل مٹی ہے، ایسا نہیں کہ انسان بندر یا کسی اور حیوان سے ترقی کے منازل طے کرتا ہوا انسان بنا ہو جیسا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے اور بعض ڈارون زدہ ذہنیت کے لوگ قرآن کی صراحت کے باوجود اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا جدا مجد بندر یا کسی اور جانور کو ثابت کریں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق براہ راست ارضی مادہ سے ہوئی ہے جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے صلصال من حماء مسنون کے الفاظ سے بیان فرمائی ہے حماء عربی زبان میں ایسی سیاہ کچڑ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بو پیدا ہو گئی ہو، یا بالفاظ دیگر خمیر اٹھ آیا ہو ”مسنون“ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہیں، متغیر، مسنون اور امسلس یعنی ایسی سڑی ہوئی مٹی کہ جس میں سڑنے کی وجہ سے چکناہٹ پیدا ہو گئی ہو، اس کا مصدر سَنُّ ہے، (ن) متغیر، سڑا ہوا، علامہ سیوطی نے یہی معنی مراد لئے ہیں، دوسرے معنی ہیں مصور، یعنی سانپے میں ڈھلی ہوئی جس کو کوئی خاص شکل دیدی گئی ہو،

”صلصال“ اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں کہ جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے، ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی۔

## روح کی حقیقت کیا ہے؟

روح کوئی جسم لطیف ہے یا جو ہر مجرد؟ اس میں علماء اور حکماء کا اختلاف قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے، ہمارے محققین علماء نے روح کو جسم لطیف تسلیم کیا ہے۔

الروح جسم لطیف. (قرطبی)

الروح جسم لطیف یحیایہ الانسان. (معالم)

واجمع اهل السنة على انها جسم لطيف يخالف الاجسام بالماهية والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون او النار في الفحم، يعبر عنه بانا وانت والى ذلك ذهب امام الحرمين. (روح)

ترجمہ: جمہور اہل السنّت کا مسلک یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے ماہیت اور صفت میں اجسام کے عکس ہے بدن میں متصرف ہے، روح جسم میں اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جس طرح زیتون کا تیل زیتون میں اور آگ کوئلہ میں، اس کو میں اور تو، سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

لیکن بعض کی تحقیق جن میں امام غزالی بھی شامل ہیں یہ ہے کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے جو نہ جسم میں داخل ہے نہ خارج، نہ اس سے متصل نہ اس سے منفصل۔

مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ ”احقر کے نزدیک روح کی ماہیت و حقیقت کے باب میں زیادہ کھود کرید کچھ مناسب نہیں، مسلمان کے لئے صرف اس قدر عقیدہ کافی ہے کہ روح موہبت الہی میں سے کوئی خاص چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ براہ راست انسان کو منتقل کر دیتا ہے اور اس سے انسان، انسان بن جاتا ہے اور جوں ہی وہ اپنے اس عطیہ کو واپس لے لیتا ہے انسان مردہ بے جان ہو جاتا ہے“ (اسی حقیقت کی جانب اللہ تعالیٰ نے ”قل الروح من امر ربی“ سے اشارہ فرمایا ہے)۔

انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی ہے اور اسی لئے قرآن عزیز میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن انسان درحقیقت دس چیزوں کو جامع ہے جن سے پانچ عالم خلق کی ہیں اور پانچ عالم امر کی۔ عالم خلق کی چیزوں میں چار تو عناصر رابع آگ، پانی، مٹی، ہوا ہیں اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو روح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے اور عالم امر کی پانچ چیزیں یہ ہیں قلب، روح، سر، خفی، اخفی، اسی جامعیت کی وجہ سے انسان خلافت الہیہ کا



مستحق بنا اور نور معرفت اور نار عشق و محبت کا متحمل ہوا، جس کا نتیجہ بے کیف محبت الہیہ کا حصول ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”المرء مع من احب“۔

اور انسان تجلیات الہیہ کی قابلیت اور محبت الہیہ کا جو درجہ اس کو حاصل ہے اسی وجہ سے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا جائے ارشاد ہوا ”ففعوالہ ساجدین“۔ (معارف)

## آدم علیہ السلام کو سجدہ کے حکم میں ابلیس شامل تھا یا نہیں؟

سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، ”ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، مذکورہ آیات جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اصالتہ حکم فرشتوں کو دیا گیا مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں میں موجود تھا اسلئے تبعاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، اس لئے کہ جب فرشتوں کو جو کہ اللہ کے نزدیک بزرگ ترین مخلوق اور ابلیس سے بہر حال افضل ہیں حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق جو کمتر ہے اس کا حکم میں تبعاً داخل ہونا ظاہر تھا، اسی لئے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد ہی نہیں ہوتا۔

قال فاخرج منها فانك رجيم الخ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کا جواب سنا تو فرمایا ”اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے“ اور اب تجھ پر روز جزاء تک لعنت ہے، یعنی قیامت تک تو ملعون رہے گا اور اس کے بعد جب روز جزاء قائم ہوگا تو تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائیگی۔

قال رب بما اغويتني لازين لهم في الارض (الآية) یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لئے دنیا کو ایسا دلفریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکا کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔

اغوا اور اضلال کا یہ انتساب ذات باری تعالیٰ کی جانب جس حد تک بھی صحیح ہے صرف تکوینی حیثیت سے یا علت العلت کے معنی میں ہے، ’بما‘ میں باء سببیہ ہے ای بسبب اغوائك ایاى۔

هذا صراط علی مستقیم، اس فقرہ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ”راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا پہنچاتا ہے“ اور راستہ سے مراد اخلاص کا راستہ ہے، دوسرے معنی یہ ہیں هذا طریق حق علی ان اراعيہ ”یعنی یہ بات درست ہے میں بھی اس کا پابند رہوں گا“۔ (بیضاوی)

ان عبادی لیس لك علیہم سلطان (الآية) شیطان کا منتہائے قوت بس یہ ہے کہ شیطان دم دلا سا خوب دیتا ہے انسان کو فوری لذتوں کی چاٹ خوب چٹاتا ہے پس اس سے زیادہ اس کو کوئی اختیار نہیں، انسان گناہ کرنے پر مجبور و مضطر نہیں، جب





نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر مسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے (اخوانا) ہم ضمیر سے حال ہے (متقابلین) بھی اخوانا سے حال ہے یعنی کوئی کسی کی گدی (پشت) کو نہ دیکھے گا، اسلئے کہ ان کے تحت دائرہ کی شکل میں ہوں گے، نہ وہاں انھیں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے اے محمد میرے بندوں کو بتادو کہ میں مومنوں کے لئے درگزر کرنے والا اور ان پر بہت مہربان ہوں (اور ساتھ ہی یہ بھی بتادو کہ) نافرمانوں کے لئے میرے عذاب بڑے دردناک ہیں، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بھی سنا دو اور وہ (مہمان) بارہ یا دس یا تین فرشتے تھے ان میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا یعنی انہوں نے لفظ سلاما کہا، جب ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا اور انہوں نے نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں ایک ذی علم فرزند کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یعنی زیادہ علم والے فرزند کی، وہ فرزند اسحاق ہیں جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر کیا گیا، (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا کیا تم بڑھاپا لاحق ہونے کی حالت میں مجھے لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہو؟! (علی ان الخ) حال ہے یعنی حال یہ ہے کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے یہ خوشخبری تم کس بنا پر دے رہے ہو؟ استفہام تعجبی ہے، فرشتوں نے جواب دیا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سنارہے ہیں، لہذا آپ مایوس ہونے والوں میں نہ ہوں، (ابراہیم علیہ السلام نے) فرمایا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ کا فرلوگ ہی ناامید ہوتے ہیں (یقنط) نون کے کسرہ اور اس کے فتح کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے (خدائی) فرستادو آپ کس مہم پر تشریف لائے ہو وہ بولے ہم ایک مجرم کا فرقہ کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی قوم لوط کی جانب ان کو ہلاک کرنے کے لئے، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ہم ان سب کو ان کے ایمان کی وجہ سے بچالیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لئے (اللہ فرماتا ہے) کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل رہے گی یعنی اپنے کفر کی وجہ سے عذاب میں پھنسنے والوں میں رہے گی۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: سالمین، سلام کی تفسیر سالمین سے کرنے کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔  
سُؤَال: یہ ہے کہ سلام مصدر ہے اس کا حمل ہا، ضمیر پر درست نہیں ہے اسلئے کہ ضمیر سے مراد جنت ہے جو ذات ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا۔

جَوَاب: یہ ہے کہ مصدر بتاویل مشتق سالمین ہو کر حال ہے لہذا حمل درست ہے۔

قَوْلًا: مع سلام اس میں اشارہ ہے کہ بسلام میں باء بمعنی مع ہے نہ کہ سیہ۔

قَوْلًا: ای سلموا ای سلم علیکم الملائکۃ۔

قَوْلًا: ادخلوا.

سُؤَال: ادخلوا مقدر ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جَوَاب: اس میں اشارہ ہے آمین ادخلوا کی ضمیر سے حال ثانیہ ہے نہ کہ بسلام سے اسلئے کہ عمل میں اصل فعل ہے نہ کہ مصدر۔

قَوْلًا: حال من، ہم، یعنی اخوانا، ہم سے حال ہے نہ کہ صفت سے۔

سُؤَال: حال مضاف سے ہوا کرتا ہے نہ کہ مضاف الیہ سے اور یہاں اخوانا، ہم ضمیر سے حال واقع ہے جو کہ مضاف الیہ ہے۔

جَوَاب: مضاف الیہ جب مضاف کا جز ہو تو حال واقع ہونا درست ہوتا ہے یہاں چونکہ مضاف الیہ مضاف کا بعض ہے لہذا حال واقع ہونا درست ہے اور ادخلوا کی ضمیر سے حال واقع ہونا بھی درست ہے اور متقابلین، اخوانا سے بھی حال واقع ہو سکتا ہے جبکہ اخوانا متصافین یا متحابین کے معنی میں ہو اور اخوانا کی صفت بھی واقع ہو سکتا ہے۔

قَوْلًا: کما ذکر فی الہود ای فبشر نہا باسحق.

قَوْلًا: بکسر النون ای من باب ضرب، وبفتح النون ای من باب فتح.

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

ان المتقین فی جنات و عیون (الآیۃ) قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب بیان ہے کہ وہ متقابلین کو بیان کرتا ہے تاکہ دونوں کا فرق خوب واضح ہو جائے یہاں وہی اسلوب اختیار کیا ہے پچھلی آیتوں میں جہنم اور اہل جہنم کا ذکر تھا اب اس کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ جنت کی رغبت اور دوزخ سے نفرت پیدا ہو، اور متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک سے بچتے رہے اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان مراد ہیں جو ہر قسم کے معاصی سے بچتے رہے غرضیکہ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے ہوں اور انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے عبدیت کی زندگی گزاری ہو۔

متقی اور پرہیزگار لوگ ہر حزن و ملال سے بے خوف اور ہر مصیبت و آفت سے مامون اور ہر تعب و مشقت سے محفوظ سلامتی کے ساتھ آپس میں مبارک بادی دیتے ہوئے اور سلامتی کی دعائیں دیتے اور لیتے ہوئے اور خود ذات خداوندی کی طرف سے دائمی سلامتی کا اعلان سنتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔

ونزعنا ما فی صدور ہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، یعنی جن لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ رنجشیں اور کدورتیں رہی ہوں گی تو جنت میں داخل ہوتے وقت وہ دور کر دی جائیں گی اور ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لئے بالکل صاف شفاف کر دیئے جائیں گے۔

اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی نے فرمایا تھا، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کر دے گا۔



حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشمے پیش کئے جائیں گے پہلے چشمے سے جب وہ پانی پیئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش و کدورت جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی اور طبعی طور پر اس کا اثر آخرت تک موجود رہا وہ سب دھل جائے گا اور سب کے دلوں میں باہمی محبت و الفت پیدا ہو جائیگی کیونکہ باہمی رنجش بھی ایک تکلیف اور عذاب ہے اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔

### کینہ کے ہوتے ہوئے جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب:

حدیث میں وارد ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کی طرف سے کینہ ہوگا وہ جنت میں نہ جائیگا، اس سے مراد وہ کینہ ہے جو دنیوی غرض سے اور اپنے قصد و اختیار سے ہو اور اس کی وجہ سے یہ شخص اس کے درپے رہے کہ جب موقع ملے اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے، طبعی انقباض جو خاصہ بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں، اسی طرح جو کسی شرعی بنیاد پر مبنی ہو، وہ بھی اس کینہ اور بغض میں داخل نہیں۔

قال انا منکم و جلون الخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈرا اس لئے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کیا ہوا کھانا نہیں کھایا، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر آنے والا مہمان میزبان کے یہاں کھانا نہ کھائے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں کہ وہ سمجھ جاتے کہ انسانی شکل میں آنے والے فرشتے ہیں اور ان کے لئے کھانا تیار نہ کرائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہونے پر جو تعجب اور حیرت تھی وہ صرف اپنے بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے تھی نہ یہ کہ وہ خدا کی رحمت سے ناامید یا خدا نخواستہ ان کو خدا کی قدرت میں شک تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کچھ اور ہے چنانچہ ان سے پوچھا، فما خطبکم ایہا المرسلون؟

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ اِی لُوطًا ۱۱ قَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۱۲ لَا اَعْرِفُكُمْ قَالُوا بَلْ جُنُنْكَ بِمَا كَانُوا اِی قَوْمِكَ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۱۳ يَشْكُونَ وَهُوَ الْعَذَابُ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُونَ ۱۴ فِی قَوْلِنَا فَاسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ اَمْشِ خَلْفَهُمْ وَلَا یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ لِّئَلَّا یَرِیَ عَظِیْمًا یَنْزِلُ بِهِمْ وَامْضُوا حِیثُ تُؤْمَرُونَ ۱۵ وَهُوَ الشَّامُ وَقَضٰیْنَا اَوْحِنًا اِلَیْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرُ وَهُوَ اَنْ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِیْنَ ۱۶ حَالِ اِی یتیم استیصالہم فی الصّباح وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِیْنَةِ مَدِیْنَةُ سَدُومَ وَهُمْ قَوْمٌ لُّوطٌ لَّمَّا اَخْبَرُوْا اَنْ فِیْ بَیْتِ لُّوطٍ مَّرْدًا

حسانا و ہم الملائكة يَسْتَبْشِرُونَ<sup>(۱۷)</sup> حال طمعاً فی فعل الفاحشة بهم قَالَ لوط إِنَّ هَؤُلَاءِ ضِيفِي فَلَا تَفْضَحُونِ<sup>(۱۸)</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ<sup>(۱۹)</sup> بقصد کم ایاہم بفعل الفاحشة بهم قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ<sup>(۲۰)</sup> عن اضافتہم قَالَ هَؤُلَاءِ ابْنَتِي إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ<sup>(۲۱)</sup> ساتریدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن قال تعالى لَعَمْرُكَ خُطَابُ لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِی و حیاتک اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ<sup>(۲۲)</sup> یترددون فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ صيحة جبرئیل مُشْرِقِينَ<sup>(۲۳)</sup> وقت شروق الشمس فَجَعَلْنَا عَلَیْهَا اِی قراہم سَافِلَهَا بان رفعها جبریل الی السماء واسقطها مقلوبة الی الارض وَامْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ<sup>(۲۴)</sup> طین طبخ بالنار اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُورَ لَاٰیٰتٍ دَلٰلٰتٍ عَلٰی وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰی لِّلْمُتَوَسِّمِينَ<sup>(۲۵)</sup> للناظرین المعبرین وَاِنَّهَا اِی قری قوم لوط لِّسَبِيلٍ مُّقِيمٍ<sup>(۲۶)</sup> طریق قریش الی الشام لم یندرس افلا یعتبرون بهم اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّعِبْرَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ<sup>(۲۷)</sup> وَاِنَّ مَخْفَفَةَ اِی انه كَانَ اَصْحَابُ الْاٰیَةِ هِی غِیْضَةٌ شَجَرٌ بِقَرْبِ مَدِیْنٍ وَهَم قَوْمٌ شَعِیْبٌ لِّظَلَمِیْنٍ<sup>(۲۸)</sup> بتکذیبہم شعیبا فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بان اهلکناہم بشدة الحر وَاِنَّهُمَا اِی قری قوم لوط والایکة لِّیَامَامٍ طَرِیْقٍ مُّبِیْنٍ<sup>(۲۹)</sup> واضح افلا یعتبرہم اهل مكة.

**ترجمہ:** پھر جب یہ فرستادے آل لوط یعنی لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو، میں تم کو نہیں پہچانتا، فرشتوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس (کے آنے) میں تمہاری قوم شک کر رہی تھی اور وہ عذاب ہے، اور ہم تمہارے پاس صریح حق لے کر آئے ہیں اور ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں، اب تم رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل کو لے کر نکل جانا، اور تم ان کے پیچھے رہنا، یعنی ان کے پیچھے (پیچھے) چلنا، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تاکہ اس عظیم ہولناک (عذاب) کو نہ دیکھے جو ان پر نازل ہو رہا ہو، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور وہ شام ہے (سیدھے) چلے جاؤ اور ہم نے انہیں اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا اور وہ یہ کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی (مصبحین) حال ہے، یعنی صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی، اور شہر والے (یعنی) سدوم کے باشندے اور وہ لوط (علیہ السلام) کی قوم کے لوگ تھے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت امرد (بے ریش) لڑکے ہیں حالانکہ وہ فرشتے تھے (یستبشرون) حال ہے، ان کے ساتھ بد فعلی کی خواہش کرتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے آئے، لوط علیہ السلام نے کہا (بھائیو) یہ میرے مہمان ہیں تم مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بد فعلی کا ارادہ کر کے میری فضیحت نہ کرو وہ کہنے لگے کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کی ٹھکیداری یعنی ان کی مہمان نوازی کرنے سے منع نہیں کیا لوط (علیہ السلام) نے کہا اگر تمہیں قضاء شہوت کرنی ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ان سے نکاح کرلو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری عمر کی قسم یہ آپ ﷺ کو خطاب ہے یعنی تیری زندگی کی قسم، وہ تو اپنی بد مستی میں بھٹک رہے تھے



آخر صبح ہوتے ہوتے ان کو ایک چیخ نے (یعنی) جبرائیل علیہ السلام کی چیخ نے پکڑ لیا یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت بالآخر ہم نے اس شہر کو تہ وبالا کر دیا اس طریقہ پر کہ ان بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف اٹھایا اور زمین پر پلٹ کر پھینک دیا اور ان لوگوں پر کنکر لیے پتھر برسائے یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی کے پتھر بلاشبہ ان مذکورہ (واقعات) میں اہل بصیرت عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں اور قوم لوط کی یہ بستیاں قریش کے شام جانے والی شاہ راہ پر واقع تھیں اور (ابھی تک) ان کے نشانات مٹے نہیں تھے تو کیا یہ لوگ ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے بے شک اس (مذکور) میں مومنین کے لئے عبرت ہے اور ان مخففہ ہے یعنی انہ کان اور اصحاب ایکہ کہ وہ (ایکہ) مدین کے قریب کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ایک جھاڑی تھی یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے بڑے ظالم تھے جن سے ہم نے انتقام لے ہی لیا کہ ہم نے ان کو سخت گرمی کے ذریعہ ہلاک کر دیا اور یہ دونوں یعنی قوم لوط کی بستیاں اور ایکہ شاہ راہ پر واقع تھیں کیا یہ اہل مکہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: ای لوطا، اس میں اشارہ ہے کہ آل لوط سے صرف لوط علیہ السلام مراد ہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ”ولقد جاءت رسلنا لوطا“ سے بھی یہی مفہوم ہے۔

قَوْلًا: لا اعرفکم، تم انجان ہو اسلئے کہ نہ تو تم مقامی ہو ورنہ میں تم کو ضرور پہچانتا، اور نہ تم مسافر معلوم ہوتے ہو اسلئے کہ تمہارے اوپر سفر کی کوئی علامت نہیں ہے۔

قَوْلًا: او حینا، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ قضینا کا صلہ الی نہیں آتا حالانکہ یہاں صلہ، الی استعمال ہوا ہے جواب یہ ہے کہ قضینا، او حینا کے معنی کو متضمن ہے اور او حینا کا صلہ الی آتا ہے۔

قَوْلًا: ذلک الامر یہ مبہم ہے، اس کی تفصیل، اُن دابر ہو لاء مقطوع مصبحین سے کی ہے۔

قَوْلًا: حال یعنی ہو لاء سے حال ہے اور بعض حضرات نے مقطوع کی ضمیر سے حال قرار دیا ہے اور مقطوع معنی میں مقطوعین کے ہوگا۔

قَوْلًا: مردا یہ امر کی جمع ہے، بے ریش نوجوان کو کہتے ہیں۔

قَوْلًا: حال یعنی یستبشرون، اہل المدینہ سے حال ہے نہ کہ صفت اسلئے کہ جملہ نکرہ ہونے کی وجہ سے معرفہ کی صفت واقع نہیں ہو سکتا۔

قَوْلًا: عن اضافتہم، ای ضیافتہم، میزبانی کرنا۔

قَوْلًا: یترددون ای یتحیرون فکیف یسمعون نصیحتک۔

قَوْلًا: وقت شروق الشمس عذاب کی ابتداء طلوع فجر کے وقت ہوئی اور تکمیل حضرت جبرائیل کی چیخ کے ذریعہ طلوع شمس کے وقت ہوئی لہذا کوئی منافات نہیں ہے۔

قَوْلًا: تندرِس، اندراس، خراب شدن، مٹنا۔

قَوْلًا: طریق، اس میں اشارہ ہے کہ امام سے یہاں معروف معنی مراد نہیں ہیں ای مایؤتمربہ بلکہ یہاں راستہ مراد ہے اسلئے کہ راستہ کی بھی مسافر اقتداء کرتا ہے راستہ جدھر جاتا ہے مسافر بھی اسی طرف جاتا ہے۔

قَوْلًا: متوسمین، متوسم اسم فاعل کی جمع ہے (تفعّل) تو سم مصدر ہے، اہل فراست، گہرائی سے دیکھنے والے وسم مادہ ہے، علامت۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

فلما جاء آل لوط بن المرسلون، یہاں بات بہت مختصر بیان ہوئی ہے سورہ ہود میں اس واقعہ کو مفصل بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان فرستادوں کی آمد سے حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے آج بڑا سخت دن آیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے نہایت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدکرداری سے واقف تھے، مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور انھیں بد معاشوں سے بچانا بھی مشکل تھا۔

وجاء اهل المدينة يستبشرون، ادھر تو لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر چند خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو وہ اپنی امرد پرستی کی وجہ سے بہت خوش ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور ان نوجوان کو سپرد کرنے کا مطالبہ کیا۔

حضرت لوط علیہ السلام نے انھیں بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی رسوائی اور بے عزتی کے حوالہ سے بہت کچھ کہا مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اسلئے کہ وہ اپنی بدمستی اور شہوت پرستی کے جوش میں شراب کے نشے کی مانند دھت تھے۔

وانها لبسبیل مقیم، سبیل مقیم سے شاہ راہ مراد ہے یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینہ سے شام جاتے ہوئے راستہ میں پڑتی تھیں ہر آنے جانے والا ان بستیوں سے گذرتا تھا، کہتے ہیں کہ یہ پانچ بستیاں تھیں ان کا مرکزی مقام سدوم تھا۔

وان اصحاب الايكة للظلمين، ایک گھنے درخت کو کہتے ہیں چونکہ یہ لوگ زراعت پیشہ تھے اور جانور بھی بکثرت رکھتے



تھے اسلئے یہ لوگ اس آب و گیاہ والے مقام پر رہتے تھے، کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قوم شعیب ہے ان کا زمانہ لوط علیہ السلام کے بعد ہے ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ وادیین المدینة والشام وهم ثمود المرسلین<sup>۸۵</sup> بتكذیبهم صالحا لانه تكذیب  
لباقی الرسل لا شراکهم فی المعجی بالتوحید وَاَتَيْنَهُمُ آيَاتُنَا فِی النَّاقَةِ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ<sup>۸۶</sup>  
لا یتفكرون فیها وَكَانُوا یَنْجِحُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ<sup>۸۷</sup> فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ<sup>۸۸</sup> وقت  
الصباح فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ<sup>۸۹</sup> من بناء الحصون وجمع الاموال  
وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ<sup>۹۰</sup> لا محالة فیجازی كل احد بعمله  
فَاصْفَحْ یا محمد عن قومك الصَّفْحُ الْجَمِيلُ<sup>۹۱</sup> اعرض عنهم اعراضا لا جزع فيه وهذا منسوخ بآية السیف  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ لِكُلِّ شَيْءٍ الْعَلِيمُ<sup>۹۲</sup> بكل شئ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ قَالَ صلی اللہ علیہ  
وسلم هی الفاتحة رواه الشيخان لانها تشنی فی كل ركعة وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ<sup>۹۳</sup> لَا تَمُدَّنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا  
مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا اصْنَفَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ إِنْ جَانَبَكَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>۹۴</sup> وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الْمُبِينُ<sup>۹۵</sup> البین الانذار كَمَا أَنْزَلْنَا  
الْعَذَابَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ<sup>۹۶</sup> اليهود والنصارى الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ إِي كَتَبَهُمُ الْمَنْزِلَةَ عَلَيْهِمْ عِصِينَ<sup>۹۷</sup>  
اجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن  
الاسلام وقال بعضهم فی القرآن سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ<sup>۹۸</sup>  
سؤال توبیخ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>۹۹</sup> فَاصْدَعْ<sup>۱۰۰</sup> یا محمد بِمَا تُؤْمَرُ إِي أَجْهَرُ بِهِ وَامْضِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ<sup>۱۰۱</sup>  
هذا قبل الامر بالجهاد إِنْ أَكْفَيْكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ<sup>۱۰۲</sup> بك بان اهلكنا كلامهم بآفة وهم الوليد بن المغيرة  
والعاص بن وائل وعدي بن قيس والاسود بن المطلب والاسود بن عبد يغوث الَّذِينَ  
يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ صفة وقيل مبتدأ ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء فی خبره وهو  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ<sup>۱۰۳</sup> عاقبة امرهم وَلَقَدْ لَتَحْقِيقُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ<sup>۱۰۴</sup> من الاستهزاء  
والتكذيب فَسَبِّحْ مَتَلَبِّسًا بِحَمْدِ رَبِّكَ إِي قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ<sup>۱۰۵</sup> المصلين  
وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ<sup>۱۰۶</sup> الموت.

تَرْجُمَةُ: اور حجر والوں نے حجر، مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے اور وہ ثمود تھے صالح (علیہ السلام) کی

تکذیب کر کے (سب) رسولوں کی تکذیب کی، اسلئے کہ صالح عَلَيْهِ السَّلَام کی تکذیب باقی رسولوں کی بھی تکذیب ہے اسلئے کہ توحید کے لانے میں سب مشترک ہیں اور ہم نے ان کو ناقہ کی شکل میں اپنی نشانیاں بھی دیں مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے یعنی انہوں نے ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کیا، اور لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے آخر انھیں بھی صبح ہوتے ایک زوردار آواز نے آپکڑا پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے ان کو عذاب دفع کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیا یعنی ان کے قلعوں نے اور مال جمع کرنے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ (یعنی بامقصد) پیدا کیا ہے اور قیامت ضرور بالضرور آنے والی ہے ہر شخص کو اس کے عمل کی جزاء دی جائے گی اے محمد تم اپنی قوم سے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرو، یعنی ان سے آپ صرف نظر کر لیں اس طور پر کہ اس میں جزع فزع نہ ہو اور یہ حکم آیت سیف سے منسوخ ہے، یقیناً تیرا رب ہر شئی کا پیدا کرنے والا (اور) ہر شئی کا جاننے والا ہے اور یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں (یعنی) سبع مثانی آپ ﷺ نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے (رواہ الشیخان) اسلئے کہ اس کو ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے اور آپ ہر گز اپنی نظریں ان چیزوں کی طرف نہ اٹھائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ ان پر غم نہ کریں اور مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں (یعنی) ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں یہ کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والے یہود و نصاریٰ پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو یعنی ان کتابوں کو جو ان پر نازل کی گئی تھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس طور پر کہ بعض (حصہ) پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا اور کہا گیا ہے کہ مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کے راستوں کو (آنیوالے) لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے تقسیم کر لیا تھا اور بعض نے قرآن کے بارے میں سحر کہا اور بعض نے کہانت کہا اور بعض نے شعر کہا، قسم ہے تیرے رب کی ہم ان سب سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کریں گے اور یہ سوال تو بیخ کے لئے ہوگا، پس اے محمد اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور نافذ کر دیجئے اور مشرکین سے صرف نظر کر لیجئے یہ حکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے آپ سے جو لوگ استہزاء کرتے ہیں ہم ان کے لئے آپ کی طرف سے کافی ہیں اس طریقہ پر کہ ہم ان سب کو کسی آفت کے ذریعہ ہلاک کر دیں گے، اور وہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور عدی بن قیس، اور اسود بن المطلب اور اسود بن عبد یغوث ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انھیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کہا گیا ہے کہ صفت ہے اور کہا گیا ہے کہ مبتدا متضمن بمعنی شرط ہے اور اسی وجہ سے اس کی خبر پر فاداخل ہے اور وہ (خبر فسوف تعلمون ہے) اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ باتیں استہزاء اور تکذیب ہیں، آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں اور سجدہ کرنے (نماز پڑھنے) والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا یقینی (موت کا) وقت آجائے۔



## تحقیق و ترمیم تفسیری فوائد

**قَوْلًا:** فی الناقة، مفسر علام نے فی الناقة کہہ کر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آیتنا جمع ہے اور اس کی تفسیر الناقة مفرد سے کی ہے جو کہ درست نہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ ناقة کئی آیات کو مشتمل تھی اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا، آکر فوراً بچہ دینا، اور اپنی باری میں تمام پانی پی جانا اور زیادہ مقدار میں دودھ دینا، لہذا آیتنا کی تفسیر ناقة سے درست ہے۔

**قَوْلًا:** اصنافا، از واجا کی تفسیر اصنافا سے کر کے اشارہ کر دیا کہ از واجا کے معروف معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اصناف واقسام مراد ہیں مثلاً کافر یہود، نصاری، مجوس، بت پرست وغیرہ۔

**قَوْلًا:** کتبہم قرآن کی تفسیر کتبہم سے کر کے اشارہ کر دیا کہ قرآن سے یہاں معروف قرآن مراد نہیں ہے۔

**قَوْلًا:** اجزاء، یہ عضین کے لغوی معنی کو بیان کرنے کے لئے اضافہ کیا ہے عضین، عضۃ کی جمع ہے اس کی اصل عُضْوَة بروزن فُعْلَة تھی یہ عضی الشاة سے ماخوذ ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

**قَوْلًا:** صفة یعنی الذین، مستہزئین کی صفت ہے لہذا فصل بالا جنبی نہیں ہے۔

## تفسیر و تشریح

ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، حجر قوم شمود کا مرکزی شہر تھا اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر العلاء سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ہیں مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ شہر شاہ راہ عام پر پڑتا ہے، قافلوں کی آمد و رفت اسی وادی سے ہوتی ہے ۹ھ میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ ﷺ اسی بستی سے گذرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گذرو (ابن کثیر، بخاری و مسلم) آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں سے گذرا تھا، وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم شمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں، ان کے نقش نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج ہی بنائے گئے ہوں۔

ولقد آتینک سبعا من المثنی والقرآن العظیم سبع مثنی سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے رائج قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ (مثنی کے معنی بار بار دہرانے کے ہیں)۔

لا تمدن عینیک (الآیۃ) یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن جیسی عظیم نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں اس لئے دنیا اور اس کی زینت اور دنیا داروں اور سرمایہ داروں کی طرف آپ طلب و حسرت کی نظر نہ اٹھائیں یہ سب عارضی اور فانی چیزیں ہیں، اور آپ اپنی تکذیب پر غم نہ کریں اسلئے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، اور مومنین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔

کما انزلنا علی المقتسمین ، بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کا مفعول العذاب محذوف ہے معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں مثل اس عذاب کے جو مقتسمین پر نازل ہوا، مقتسمین سے کیا مراد ہے؟ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس سے وہ مراد ہیں جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، بعض نے کہا کہ اس سے قریشی قوم مراد ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، بعض کہتے ہیں مقتسمین سے اہل کتاب اور قرآن سے تورات اور انجیل مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد مراد ہیں جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے اور بعض نے کہا ہے جن میں علامہ سیوطی بھی شامل ہیں کہ مکہ کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے مکہ کی طرف آنے والے راستے تقسیم کر لئے تھے اور ہر شخص اپنے متعین راستہ پر حج کے موسم میں جا کر بیٹھ جاتا تھا کہ آنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکے۔

www.ahelahq.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ آيَةً عَشْرًا

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ إِلَّا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلَى آخِرِهَا مِائَةً

وِثْمَانًا وَعِشْرُونَ آيَةً.

سورہ نحل مکی ہے، سوائے وان عاقبتم سے آخر تک ۱۲۸ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ لَمَّا اسْتَبْطَأَ الْمُشْرِكُونَ الْعَذَابَ نَزَلَ آتَى أَمْرَ اللَّهِ إِلَى السَّاعَةِ وَآتَى بِصِغَةِ الْمَاضِي لِتَحَقُّقِ وَقُوعِهِ إِلَى قَرَبٍ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ تَطْلُبُوهُ قَبْلَ حِينِهِ فَانْهَ وَاقِعٌ لَامِحَالَةٍ سُبْحَنَهُ تَنْزِيلُهَا لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝<sup>١</sup> بِهِ غِيَرُهُ يُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَى جِبْرِئِيلَ بِالرُّوحِ بِالْوَحْيِ مِنْ أَمْرِهِ بِأَرَادَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ أَنْ مَفْسَرَةً أَنْذَرُوا خَوْفُوا الْكَافِرِينَ بِالْعَذَابِ وَأَعْلَمُوهُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝<sup>٢</sup> خَافُونَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ آيٌ مُحَقَّقَةٌ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝<sup>٣</sup> بِهِ مِنْ الْأَصْنَامِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مَنَى إِلَى أَنْ صَيَّرَهُ قَوِيًّا شَدِيدًا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ شَدِيدُ الْخُصُومَةِ مُبِينٌ ۝<sup>٤</sup> بَيَّنَّهَا فِي نَفْسِ الْبَعْثِ قَائِلًا مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَسِيمٌ وَالْأَنْعَامَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَنَصَبَهُ بِفَعْلٍ يُفَسِّرُهُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِي جَمَلَةِ النَّاسِ فِيهِادِفٌ ۖ مَا تَسْتَدْفُونَ بِهِ مِنَ الْإِكْسِيَّةِ وَالْأَرْدِيَّةِ مِنْ أَشْعَارِهَا وَأَصْوَابِهَا وَمَنَافِعٍ مِنَ النَّسْلِ وَالْأَدْرِ وَالرَّكُوبِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝<sup>٥</sup> قُدِّمَ الظَّرْفُ لِلْفَاصِلَةِ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ زِينَةٌ حِينَ تُرْجُونَ تَرُدُّونَهَا إِلَى مَرَاجِحِهَا بِالْعِشِيِّ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝<sup>٦</sup> تُخْرِجُونَهَا إِلَى الْمَرْعَى بِالْغَدَاةِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَحْمَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلَغِيَّهِ وَأَصْلِينَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ الْإِبِلِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ بِجَهْدِهَا إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝<sup>٧</sup> بَكُمْ حَيْثُ خَلَقَهَا لَكُمْ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ مَفْعُولٌ لَهُ وَالتَّعْلِيلُ بِهِمَا لِتَعْرِيفِ النِّعَمِ لَا يُنَافِي خَلْقَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْأَكْلِ فِي الْخَيْلِ الثَّابِتِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحِينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝<sup>٨</sup> مِنْ الْأَشْيَاءِ الْعَجِيبَةِ

الْغَرِیْبَةِ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اِی بیان الطریقِ الْمُسْتَقِیْمِ وَمِنْهَا اِی السَّبِيلِ جَاوِزٌ حَائِذٌ عَنِ  
الْاِسْتِقَامَةِ وَلَوْ شَاءَ هِدَايَتُكُمْ لَهَدٰكُمْ اِلَى قَصْدِ السَّبِيلِ اَجْمَعِیْنَ ۝ فَتَهْتَدُوْنَ اِلَیْهِ بِاِخْتِارٍ مِّنْكُمْ

**ترجمہ:** شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جب مشرکوں نے عذاب آنے میں تاخیر دیکھی (تو عذاب کا مطالبہ کیا) اس وقت (آئندہ آیت) نازل ہوئی، اللہ کا حکم آگیا یعنی قیامت اور قیامت کے یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے (اُتی) ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اُتی بمعنی قَرَب، ہے یعنی قیامت کا وقت قریب آگیا، تو تم اس کے وقت سے پہلے طلب میں جلدی مت مچاؤ وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، اللہ پاک ہے، اور جس غیر اللہ کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ اس سے بالا و برتر ہے (اللہ) فرشتوں (یعنی) جبریل کو وحی دیکر اپنے حکم اور ارادہ سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا یہ نازل کرتا ہے اور وہ انبیاء ہیں، یہ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو اُن مفسرہ ہے، کافروں کو عذاب سے ڈراؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا مجھ ہی سے ڈرو، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی با مقصد پیدا کیا وہ ان بتوں سے وراء الوراء ہے جس کو یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، انسان کو نطفہ منی سے پیدا کیا یہاں تک کہ اس کو قوی اور مضبوط کر دیا، تو وہ بعث (بعد الموت) کا انکار کر کے (صریح) جھگڑا لو بن گیا یہ کہتے ہوئے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو (بھلا) کون زندہ کر سکتا ہے؟ اور تمہارے لئے جانوروں کو (مثلاً) اونٹ اور گائے (بیل) اور بکریاں پیدا کیں اور (انعام) کا نصب اس فعل مقدر کی وجہ سے، ہے جس کی تفسیر خلقھا لکم کر رہا ہے، منجملہ دیگر لوگوں کے تمہارے لئے وہ مویشی پیدا کئے کہ ان کی اون اور بالوں سے بنی ہوئی (گرم) چادروں اور لباسوں میں سردی سے حفاظت ہے (اس کے علاوہ) نسل، دودھ، اور سواری کے منافع (بھی) ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے (بھی) ہو اور ظرف (منہا) کو فو اصل کر رعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے، اور تمہارے لئے وہ باعث زینت بھی ہوتے ہیں جب کہ تم ان کو شام کے وقت ان کے باڑوں کی طرف واپس لاتے ہو اور اس وقت بھی (باعث زینت ہوتے ہیں) کہ جب تم انہیں صبح کے وقت ان کی چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے سامان کا بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لیجاتے ہیں کہ تم وہاں اونٹوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے مگر سخت جانفشانی کے بعد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق و مہربان ہے، اس لئے کہ اس نے تمہارے لئے ان جانوروں کو پیدا کیا، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کئے تمہاری سواری کے لئے اور زینت کے لئے دونوں مفعول لہ ہیں، اور (رکوب و زینت) کو علت قرار دینا نعمتوں کے تعارف کے لئے ہے، لہذا اس کے علاوہ کیلئے تخلیق کے منافی نہیں، جیسا کہ گھوڑا کھانے کے لئے (بھی) جو کہ صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے اور وہ بہت سی عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں، اور سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ تمہاری ہدایت چاہتا تو سب کو ہدایت دیدتا تو تمہارے اختیار سے اس تک رسائی ہو جاتی۔



## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ** : اِی قَرُبَ، اِی قَرُبَ وَقَوْعُهُ، تَطْلُبُوهُ، اِی تَطْلُبُوا وَقَوْعَهُ.  
**قَوْلٌ** : سَبْحَانَهُ، یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اِی سَبَّحَ سَبْحَانَهُ.  
**قَوْلٌ** : بِہ اس میں اشارہ ہے کہ عَمَّا میں ما موصولہ ہے جس کے صلہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ما مصدریہ ہو تو عائد کی ضرورت نہ ہوگی۔

**قَوْلٌ** : عَمَّا میں سَبْحَانَهُ اور تعالیٰ دونوں فعل تنازع کر رہے ہیں ہر ایک عَمَّا میں ما کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے یہ بات تنازعِ فعلان سے ہے، بصریہ کے نزدیک ثانی فعل کو اور کو فیہ کے نزدیک اول فعل کو عمل دیں گے۔  
**قَوْلٌ** : اِی جَبْرئیل۔

**سُؤَالٌ** : الْمَلَائِكَةُ صِغَةُ جَمْعٍ بُولُ كِرْوَادٍ مَرَادُ لِيَا هِيَ اِيْسَا كِيُوں؟  
**جَوَابٌ** : اِيْسَا مَجَازٌ اَكِيَا هِيَ جِيْسَا كِه اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيْمُ مِيْل مَلَائِكَه سَے مَرَادُ جَبْرئیل اِيْن هِي هِيْن، وَاحِدِي نَے كِهَا هَے كِه جَبْ فَرْدُ جَمَاعَتِ كَارِيْسِ هُو تُو اِس پَر جَمْعِ كَا اِطْلَاقُ دَرَسْتُ هَے، جَبْرئیل چُونَكِه مَلَائِكَه كَے سَرْدَارِ هِيْن لِہٰذَا اِن پَر جَمْعِ كَا اِطْلَاقُ صَحِيْحُ هَے۔

**قَوْلٌ** : بَارَادَتُهُ اِس میں اشارہ ہے کہ مِنْ اَمْرِهِ مِيْل مِنْ بَعْنِي بَاْعُ هَے لِہٰذَا يَہْ اِعْتِرَاضُ خَتْمِ هُو كِيَا كِه مِنْ اَمْرِهِ مِيْل مِنْ نَہْ بِيَانِيہِ هُو سَكْتَا هَے اَوْر نَہْ تَبْعِيْضِيہِ اَوْر نَہْ اِبْتِدَاِيہِ۔  
**قَوْلٌ** : اَنْ مَفْسَرُهُ۔

**سُؤَالٌ** : اَنْ مَفْسَرُهُ قَالِ يَا قَالِ كَے مُشْتَقَاتِ يَا قَالِ كَے هَمْ مَعْنِي كَے بَعْدُ وَاَقْعُ هُو تَا هَے اَوْر يِہَا اِيْسَا نَہِيْسِ هَے۔  
**جَوَابٌ** : يِہَا رُوْحُ چُونَكِه وَحِي كَے مَعْنِي مِيْل هَے اَوْر وَحِي قَالِ كَے مَعْنِي مِيْل هَے لِہٰذَا اَنْ مَفْسَرُهُ هُو نَادِرَسْتُ هَے۔  
**قَوْلٌ** : وَاعْلَمُوْهُمْ، يَہْ اِضَافَہُ اِيْكِ سَوَالِ مُقَدَّرِ كَا جَوَابُ هَے۔

**سُؤَالٌ** : اِنْدَارِ مُتَعَدِي بِيْكِ مَفْعُولِ هَے اَوْر وَہْ مَحْذُوفُ هَے اِی اِنْدَرُوا الْمُشْرِكِيْنَ، لِہٰذَا اَنَّہُ لَا اِلٰهَ مِيْل اَنَّ كَے فَتْحَ كِي كِيَا وَجَہِ هَے؟ قِيَاسُ كَا تَقَاْضَا هَے كِه اِنَّ بَكْسَرِ الْهَمْزِہِ هُو۔

**جَوَابٌ** : يَہْ كِه يِہَا اَعْلَمُوا مُقَدَّرُ هَے اَوْر اَنَّہُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا، مَفْعُولُ ثَانِي هَے، اِی وَجَہِ سَے اَنَّہُ لَا يَا كِيَا هَے۔  
**قَوْلٌ** : مُحَقَّقًا، اِس میں اشارہ ہے کہ بِالْحَقِّ حَالِ هُونِے كِي وَجَہِ سَے مَنْصُوبُ هَے۔  
**قَوْلٌ** : شَدِيدُ الْخَصُومَةِ اِس میں اشارہ ہے کہ خَصِيْمُ (فَعِيْلُ) مَبَالِغَہِ كَے لَئِے هَے۔

**قَوْلٌ** : نَصْبُهُ بِفَعْلٍ يَفْسَرُهُ خَلَقَهَا، اِيْعْنِي يَہْ مَا اَضْمَرُ عَامِلَہُ كَے قَبِيْلِ سَے هَے، تَقْدِيرُ عِبَارَتِ يَہْ هَے خَلَقَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ۔  
**قَوْلٌ** : دَفْءُ جَاڑِے كِي پُوشَاك، گَرْمِ كِپڑا، گَرْمِي حَاصِلِ كَرْنِے كَا سَاْمَان، اُونٹُوں كِي پِيْدَاوار اَوْر اِن سَے جَوْ نَفْعِ حَاصِلِ هُو، (س

(ک) دَفَاً، دُفُوًۡا، دَفَاًۢةً، گرم ہونا گرمی محسوس کرنا، استدفاء، گرم کپڑا پہننا۔

قَوْلٌ: مَنْ اشْعَارَهَا وَاَصْوَافَهَا يَهْمَا تَسْتَدْفِنُوْنَ، میں ما کا بیان ہے، دَفَاً کی تفسیر ما تَسْتَدْفِنُوْنَ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ دَفَاً مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے، اس طرح دَفَاً کا حمل بھی درست ہو گیا۔

قَوْلٌ: قَدَّمَ الظَّرْفَ لِلْفَاصِلَةِ یعنی وَمِنْهَا تَاكُلُوْنَ اَصْل میں تَاكُلُوْنَ مِنْهَا تَهَا، فَوَاصِل کے رعایت کی وجہ سے ظَرْف کو مقدم کر دیا۔

قَوْلٌ: مُرَاحَ بَضْمِ الْمِمْ، آرام کی جگہ، ٹھکانہ، جانوروں کا باڑا۔

قَوْلٌ: وَخَلَقَ، خَلَقَ مَقْدَرَمَانِ كَرِاْشَارَه كَرِاْشَارَه الخَیْل کا عطف الانعام پر ہے، اِی خَلَقَ الْاَنْعَامَ وَخَلَقَ الْخَیْل الخ۔

قَوْلٌ: مَفْعُوْلٌ لَهٗ، زَیْنَةٌ مَفْعُوْلٌ لَهٗ ہے، اور لَتر کبوا کے محل پر عطف ہے یعنی تَر کبوا اور زَیْنَةٌ دُونُوں خَلَقَ کے مفعول لہ ہیں۔

سُئَالٌ: دُونُوں مَفْعُوْلٌ لہ ہیں مگر دُونُوں کو ایک طرز پر نہیں لایا گیا۔

جَوَابٌ: دُونُوں میں فرق ہے کہ رُكُوبِ مَخَاطِبِیْن کا فَعْل ہے اور زَیْنَةُ خَالِقِ کا فَعْل ہے۔

قَوْلٌ: وَالتَّعْلِیْلُ بَهْمَا لَتَعْرِیْفِ النِّعَمِ الخ، یہ احناف کے استدلال کا جواب ہے، احناف کا استدلال اس آیت سے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کی تخلیق کی علت زینت بیان فرمائی ہے اور ان تینوں کی تخلیق کو کھانے کی علت قرار نہیں دیا جیسا کہ انعام میں تخلیق کی علت اکل بیان فرمائی ہے حالانکہ منفعت اکل دیگر منفعتوں سے اعلیٰ ہے اور آیت بیان نعمت ہی کے لئے لائی گئی ہے اور یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ احسان جتانے کے موقع پر ادنیٰ نعمت کا ذکر کیا جائے اور اعلیٰ کو چھوڑ دیا جائے۔

قَوْلٌ: قَصْدُ السَّبِيلِ، یہ اضافت صفت الی الموصوف ہے، اِی السَّبِيلُ الْقَصْدُ، اور قَصْدُ بمعنی قاصد ہے تاکہ حمل درست ہو جائے قَصْدُ سَیْدُ ھے راسۃ کو کہتے ہیں، یقال سَبِيلٌ قَصْدٌ وَسَبِيلٌ قَاصِدٌ سَیْدُ ھاراسۃ۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

### سورت کا نام:

اس سورت کا نام سورۃ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صفت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ نَعْمٌ بھی ہے (قرطبی) نَعْمٌ نعمت کی جمع ہے، اس لئے کہ اس سورت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔



## موضوع اور مرکزی مضمون:

مرکزی مضمون شرک کا بطلان اور توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ اور فہمائش، اور حق کی ممانعت و مزاحمت پر زجر و توبیخ ہے۔

اس سورت کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا ہے جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد ﷺ ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو مغلوب کرنے اور سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”آپہنچا حکم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو“ (معارف) یعنی عنقریب پہنچے والا ہے جس کو تم خود عنقریب پچشم سردیکھ لو گے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے اس کے آپہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع دنیا کی گذشتہ مدت کے اعتبار سے قریب ہے۔

مذکورہ آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعہ توحید کی دعوت دینا ہے، دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء ﷺ تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا، ہے اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کے اسباب سے کوئی اطلاع بھی نہ تھی، غور کرو کہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات عقلاء جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوں اور وہ سب کے سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطرۃ انسان یہی سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، ایمان لانے کیلئے تنہا یہی دلیل کافی ہے، لفظ روح سے مراد اس آیت میں بقول ابن عباس وحی اور بقول بعض دیگر مفسرین ہدایت ہے۔

## عقیدہ توحید کا عقلی طور پر اثبات:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (الآیۃ) ان آیتوں میں تخلیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے حق تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا اس کے بعد تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلدوم کائنات بنایا، انسان کی ابتداء ایک حقیر نطفہ سے ہونا بیان کر کے فرمایا، فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مَّبِيْنٌ یعنی جب اس ضعیف الخلق کو طاقت اور قوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑنے لگا۔

انسانی تخلیق کے بعد ان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لئے خصوصی طور پر بنائی گئی ہیں، اور قرآن کے سب سے اول مخاطب چونکہ عرب تھے اور عرب کی معیشت کا بڑا دار و مدار پالتو جانوروں میں سے اونٹ، گائے، بکری پر تھا اس لئے پہلے ان کا ذکر فرمایا، ”وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا“ پھر جانوروں سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دو فوائد خاص طور سے بیان کر دیئے۔

**فَائِدہ: ۱** ایک لکم فیہا دفء یعنی ان جانوروں کی اون سے انسان اپنے گرم کپڑے اور کھال سے پوسٹین وغیرہ تیار کر کے سردی کے موسم میں گرمائش حاصل کرتا ہے۔

**فَائِدہ: ۲** ومنہا تا کلون، یعنی انسان جانوروں میں سے بعض کو ذبح کر کے اپنی خوراک بھی بنا سکتا ہے، غرضیکہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے دو یعنی خوراک اور پوشاک کی ضرورت جانوروں سے پوری ہو سکتی ہیں، اور ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا تیار کر سکتا ہے اور باقی عام فوائد کے لئے فرمایا ”ومنافع للناس“ اور بے شمار فوائد انسان کے جانوروں کے گوشت چمڑے، ہڈی، اور بالوں سے وابستہ ہیں، اس ابہام و اجمال میں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دواء استعمالی اشیاء کے لئے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔ (معارف)

ولکم فیہا جمالٌ حین تریحون، اس میں ایک فائدہ عرب کے ذوق کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے لئے جمال اور زینت کا ذریعہ ہیں خصوصاً جب وہ شام کو چراگا ہوں سے اپنی آرام گاہوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو جب وہ آرام گاہوں سے نکل کر چراگا ہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مویشیوں سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، آخر میں ان جانوروں کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانور تمہارے بوجھل سامان دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمہاری اور تمہارے سامان کی رسائی جان جوکھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہ تھی، آج ریل گاڑیوں اور ٹرکوں اور ہوائی جہازوں کے زمانہ میں بھی انسان ان جانوروں سے مستغنی نہیں۔

کھائے جانے والے حلال جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد اب ان جانوروں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوا جن کی تخلیق ہی سواری اور بار برداری کے لئے ہے ان کے دودھ یا گوشت سے انسان کا فائدہ متعلق نہیں کیونکہ از روئے شرع وہ اخلاقی بیماریوں کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں، فرمایا، ”والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینة“، یعنی ہم نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہارے لئے باعث زینت بھی ہوں۔

**مسئلہ: ۱** قرآن کریم نے اول انعام یعنی اونٹ، گائے، بکری، کا ذکر فرمایا، اور ان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا، پھر اس سے الگ کر کے فرمایا، والخیل والبغال والحمیر ان کے فوائد میں ان سے سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا ذکر ہے مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، گدھے اور خچر کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا صراحت بھی ذکر ہے مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آئی ہیں ایک سے حلت اور دوسری سے حرمت معلوم ہوتی ہے اسی لئے فقہاء امت کے اقوال اس میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قرار دیا اور بعض نے حرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی تعارض دلائل کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام نہیں کہا مگر مکروہ قرار دیا۔



مَسْئَلَةٌ: اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے، اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں فرق یہ ہے کہ جمال وزینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ (معارف)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یہ آیت درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ قدیمہ کی بنا پر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ لوگوں کے لئے وہ صراط مستقیم واضح کر دے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔

لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے بھی اختیار کر رکھے ہیں وہ ان تمام واضح آیات اور دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں، پھر ارشاد فرمایا کہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، دونوں راستے سامنے کر دیئے جائیں چلنے والا جس راستہ پر چلنا چاہے چلا جائے، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ اور جنت تک پہنچائیگا اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچائیں گے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ تَشْرَبُونَهُ وَمِنْهُ شَجَرٌ يَنْبُتُ بِسَبَبِهِ فِيهِ تَسِيمُونَ ① تَرْعُونَ دَوَابَّكُمْ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَذْكَورٍ لَآيَةً دَالَّةً عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ② فِي صُنْعِهِ فَيُؤْمِنُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ بِالنَّصَبِ عَطْفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَالرَّفْعَ مَبْدَأً وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ بِالْوَجْهِينَ مُسَخَّرَاتٍ بِالنَّصَبِ حَالٌ وَالرَّفْعَ خَبَرٌ بِأَمْرِهِ بَارَادَتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ③ يَتَذَكَّرُونَ ④ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا ذَرَأَ خَلْقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُتَحَلِّفًا لَوْلَانَهُ ⑤ كَا حَمْرٍ وَخَضِرٍ وَاصْفَرٍ وَغَيْرِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ⑥ يَتَعَذَّبُونَ ⑦ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ذَلَّةً لِرُكُوبِهِ وَالْغَوْصَ فِيهِ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا هُوَ السَّمَكُ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا هِيَ اللُّلُؤُ وَالْمَرْجَانُ وَتَرَى تُبْصِرُ الْفُلُكَ السَّفْنَ مَوَاجِرَ فِيهِ تَمْخَرُ الْمَاءُ أَيْ تَشْقَى بِجَرِيهَا فِيهِ مَقْبَلَةٌ وَمَدْبَرَةٌ بِرِيحٍ وَاحِدَةٍ وَلِتَبْتَغُوا عَطْفًا عَلَى لِيَأْكُلُوا تَطْلُبُوا مِنْ فَضْلِهِ تَعَالَى بِالتَّجَارَةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑧ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالًا ثَوَابِتًا لَ أَنْ لَا تَمِيدَ تَتَحَرَّكَ بِكُمْ وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا كَالنَّيْلِ وَسُبُلًا طُرُقًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑨ إِلَى مَقَاصِدِكُمْ وَعَلَامَاتٍ تَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى الطَّرِيقِ كَالْجِبَالِ بِالنَّهَارِ وَبِالنَّجْمِ بِمَعْنَى النُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ ⑩ إِلَى الطَّرِيقِ وَالْقَبْلَةِ بِاللَّيْلِ أَفَمَنْ يَخْلُقُ وَهُوَ اللَّهُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ وَهُوَ الْأَصْنَامُ حَيْثُ تُشْرِكُونَ مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ لَا أَفَلَا تَذْكُرُونَ ⑪ بِذَا فَتُؤْمِنُونَ ⑫ وَلَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَهَا تَضْبِطُوهَا فَضْلًا أَنْ تُطِيقُوا شُكْرَهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ⑬ حَيْثُ يَنْعَمُ عَلَيْكُمْ مَعَ تَقْصِيرِكُمْ وَعِصْيَانِكُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ<sup>(۱۹)</sup> وَالَّذِينَ يَدْعُونَ<sup>(۲۰)</sup> بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَصْنَامُ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ<sup>(۲۱)</sup> يُصَوِّرُونَ مِنَ الْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا أَمْوَاتٌ لَا رُوحَ فِيهِمْ خَيْرٌ ثَانٍ غَيْرُ أَحْيَاءٍ تَاكِدٌ وَمَا يَشْعُرُونَ<sup>(۲۲)</sup> أَيِ الْأَصْنَامِ أَيَّانَ وَقْتُ يُبْعَثُونَ<sup>(۲۳)</sup> أَيِ الْخَلْقِ فَكَيْفَ يُعْبَدُونَ إِذْ لَا يَكُونُ إِلَهًا إِلَّا الْخَالِقُ الْحَيُّ الْعَالِمُ بِالْغَيْبِ.

**ترجمہ:** (اللہ) وہی ہے جس نے تمہارے فائدہ کے لئے آسمان بادلوں سے پانی برسایا اسی کو تم پیتے ہو اور اسی سے نباتات اگتی ہیں جس کو چرنے کے لئے تم اپنے جانوروں کو چھوڑتے ہو، اسی (پانی) سے تمہارے لئے کھیتی زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتی ہے بے شک ان تمام مذکورہ چیزوں میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لئے جو اس کی صنعت میں غور و فکر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور اسی نے رات اور دن کو اور شمس و قمر کو اور ستاروں کو (اپنی قدرت سے) تمہارے کام میں لگا رکھا ہے (الشمس) پر نصب کے ساتھ اس کے ماقبل پر عطف کرتے ہوئے، اور رفع کے ساتھ مبتدا ہونے کی وجہ سے اور (القمر اور النجوم) میں بھی مذکورہ دونوں اعراب ہیں، (مسخرات) نصب کے ساتھ ہے، حال ہونے کی وجہ سے اور رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے بلاشبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں (یعنی) غور و فکر کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو اس نے زمین میں تمہارے لئے پیدا کیا جن کے رنگ روپ مختلف قسم کے ہیں جیسا کہ سرخ، سبز اور زرد وغیرہ، وہ حیوان اور نبات وغیرہ ہیں یقیناً ان (مذکورہ) چیزوں میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے بہت سی نصیحتیں ہیں اور دریا بھی اس نے تمہاری سواری کے لئے اور اس میں غوطہ زنی کے لئے بس میں کر دیئے ہیں تاکہ تم اس میں سے نکال کر تازہ گوشت کھاؤ وہ مچھلی ہے، اور اس میں سے زیور نکالو کہ جن کو تم پہنو اور وہ موتی اور مونگے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی ایک ہی ہوا سے آتے جاتے دریا میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم تجارت کے ذریعہ اللہ کا فضل (روزی) طلب کرو (لتبتغوا) کا عطف لتاکلوا پر ہے، اور تاکہ اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس نے زمین میں نہ ہلنے والے پہاڑ ثبت کر دیئے تاکہ تم کو لے کر نہ ہلے (یعنی اضطرابی) حرکت نہ کرے اور زمین میں نیل کے، مانند نہریں بنائیں اور راستے بنائے تاکہ تم اپنے مقاصد تک رسائی حاصل کر سکو اور بہت سی ایسی نشانیاں بنائیں جن سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو جیسا کہ پہاڑوں سے دن میں اور ستاروں کے ذریعہ اور نجم بمعنی نجوم ہے راستہ کی اور قبلے کی، رات میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں کیا وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہے جو (کچھ) پیدا نہیں کرتا اور وہ بت ہیں، کہ جن کو تم عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، نہیں (یعنی برابر نہیں ہو سکے) کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایمان لے آؤ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، چہ جائیکہ تم ان کا شکر ادا کر سکو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے اسلئے کہ وہ تمہاری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے باوجود تمہیں اپنی نعمتوں



سے نوازتا ہے اور جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (بندگی) کرتے ہیں اور وہ بت ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ تو خود مخلوق ہیں، یعنی پتھر وغیرہ سے تراشے ہوئے ہیں، بے جان ہیں یہ خبر ثانی ہے ان میں جان نہیں یہ تاکید ہے، اور ان بتوں کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ مخلوق کو کب اٹھایا جائیگا؟ تو پھر ان کی کیوں بندگی کی جائے؟ اسلئے کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، زندہ ہو، عالم الغیب ہو۔

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلٌ: بِالنَّصْبِ حَالٌ (مَسَخَّرَات) الشَّمْسُ پَر نَصْب کی صورت میں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور ماقبل میں مذکور سب سے حال ہوگا اور عامل سَخَّر کی ضمیر ہوگی، اور الشَّمْسُ پَر رَفْع کی صورت میں مَسَخَّرَات مبتداء کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔

قَوْلٌ: مَا ذَرَأَ اس کا عطف اللیل پر ہے مفسر علام نے سَخَّر محذوف نکال کر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلٌ: مَوَاحِرَ یہ مَاحِر کی جمع ہے (ف) مَخْرًا، مَخُورًا، پانی کو چیرنا۔

قَوْلٌ: عَطْفٌ عَلَى لَنَا کُلُوا (یعنی) تَبْتَغُوا اس کا عطف لَنَا کُلُوا پر ہے، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔

قَوْلٌ: وَجَعَلَ فِيهَا، اس کا عطف رَوَاسِی پر ہے اسلئے کہ الْقَى کے اندر جعل کے معنی ہیں۔

قَوْلٌ: خَبْرٌ ثَانٍ، یعنی اَمَوَاتٌ، الذین یدعون کی خبر ثانی ہے اور اول خبر مَن دُونَ اللّٰہ ہے۔

قَوْلٌ: تَاكِيدٌ، یعنی غَیْر اَحْيَاء، اَمَوَات کی تاکید ہے، لہذا عدم حاجت کا اعتراض ختم ہو گیا۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

مَنْه شَجَرٌ فِیْہِ تَسِیْمُوْنَ، شَجَر کا لفظ اکثر تنے دار درخت کے لئے بولا جاتا ہے، اور کبھی زمین سے اگنے والی ہر چیز کیلئے بھی بولا جاتا ہے، جیسا گھاس، بلیں وغیرہ اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں اسلئے کہ آگے جانوروں کے چرانے کا ذکر ہے اس کا تعلق زیادہ تر گھاس ہی سے ہے۔

تَسِیْمُوْنَ، اسامت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں جانوروں کو چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑنا۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ، ان تمام آیات میں نعماء الہیہ اور عجیب و غریب حکمت کے ساتھ تخلیق کائنات کا ذکر ہے جس میں غور و فکر کرنے والوں کو ایسے دلائل و شواہد ملتے ہیں کہ ان سے حق تعالیٰ کی توحید کا گویا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اسی لئے ان آیتوں میں ذکر کرتے کرتے بار بار درمیان میں فرمایا کہ اس میں سوچنے والوں کے لئے دلیل ہے، کیونکہ کھیتی اور درخت اور

ان کے پھل پھول وغیرہ کا تعلق اللہ جل شانہ کی صنعت و حکمت کے ساتھ غور و فکر چاہتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ دانہ یا گٹھلی زمین کے اندر ڈالنے سے اور پانی دینے سے تو خود بہ خود یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ایک عظیم الشان درخت نکل آئے اور اس پر رنگارنگ پھول لگنے لگیں یہ سب قادر مطلق کی صنعت و حکمت ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ الخ خدائی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے چلے آنا بھی ہے، تاکہ لوگوں کا کاروبار چلے اور ان کو سکون و راحت بھی ملے، اسی طرح چاند اور سورج بھی ایک معینہ نظام کے ساتھ نکلتے اور چھپتے ہیں رات اور دن کی آمد و رفت اور شمس و قمر کے طلوع و غروب کے ساتھ انسانوں کے بے شمار فوائد وابستہ ہیں بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ان کے بغیر انسانی زندگی محال ہے خدا تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے چاند سورج اور تمام ستاروں کو ایک ادنیٰ خادم کی طرح ہمارے کاموں میں لگا رکھا ہے، مجال نہیں کہ ذرا بھی سستی یا سرتابی کر سکیں۔

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَآكُلُوا، آسمان اور زمین کی مخلوقات اور ان میں انسان کے فوائد و منافع بیان کرنے کے بعد سمندروں کے اندر حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے انسان کے لئے کیا کیا فوائد ہیں ان کا بیان ہے کہ اس سے تم کو مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، اور دریا کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لئے زینت کا سامان نکال لیتا ہے، مراد موتی مونگے اور جواہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں اگرچہ زیورات کے پہننے کی نسبت مردوں کی طرف کی گئی ہے مگر مراد عورتیں ہیں، اس لئے کہ دراصل عورتوں کی زیب و زینت مردوں ہی کے لئے ہے، اس کے علاوہ انگوٹھی وغیرہ کی صورت میں مرد بھی استعمال کرتا ہے۔

وَتَرَى الْفَلَكَ مُوَآخِرَ فِيهِ الخ دریاؤں کا یہ تیسرا فائدہ بتایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو بلاد بعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے دور و دراز ملکوں کے سفر کا سب سے آسان طریقہ دریا کے راستہ سفر کرنا تھا اور تجارتی مال کی درآمد و برآمد کا آسان وسیلہ بھی۔

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، رَوَاسِيَ کی جمع ہے بھاری پہاڑ کو کہتے ہیں، تمید، مید سے مشتق ہے جس کے معنی ڈگمگانے اور اضطرابی حرکت کرنے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ کرۂ ارض کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی بہت سی حکمتوں کے تحت ٹھوس اور متوازن اجزاء سے نہیں بنایا اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری اور کسی جانب سے ہلکی واقع ہوئی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زمین کو عام فلاسفوں کی طرح ساکن مانا جائے یا حرکت مستدیرہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے اور دونوں صورتوں میں زمین میں ایک اضطرابی حرکت ہوتی اس اضطرابی حرکت کو روکنے کے لئے اجزاء زمین کو متوازن کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے باقی رہا سوال حرکت مستدیرہ کا تو دیگر سیارات جیسے حرکت کرتے ہیں زمین بھی ویسی ہی حرکت کرتی ہے اور قدیم فلاسفہ میں سے فیثاغورث کی بھی یہی تحقیق ہے اور جدید فلاسفہ سب اس پر متفق ہیں اور نئے تجربات نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے، تو قرآن کریم میں نہ اس کا اثبات ہے



اور نہ اس کی کہیں نفی بلکہ یہ اضطراری حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس کی حرکت مستدیرہ کے لئے اور زیادہ معین ہوگی جو دیگر سیارات کی طرح زمین کے لئے ثابت ہے۔ (معارف)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور تخلیق کائنات کا مفصل ذکر کرنے کے بعد اس بات پر تنبیہ فرمائی جس کے لئے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ ہے حق تعالیٰ کی توحید کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسلئے فرمایا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے تنہا زمین و آسمان بنائے کوہ و دریا بنائے، نباتات اور حیوانات بنائے، درخت اور ان کے پھل پھول بنائے کیا وہ ذات کہ جو ان سب چیزوں کی خالق و مالک ہے ان بتوں کی مانند ہو جائے گی جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟؟؟

إِلَهُكُمْ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ جاحدة للوحدانية وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ<sup>(۱۶)</sup> مُتَكَبِّرُونَ عَنِ الْإِيمَانِ بِهَا لَاجِرَمَ حَقًّا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَيُجَازِيهِمْ بِذَلِكَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ<sup>(۱۷)</sup> بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ وَنَزَلَ فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا اسْتَفْهَمِيَّةٌ ذَا مَوْصُولَةٍ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالُوا هُوَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ<sup>(۱۸)</sup> إِضْلَالًا لِلنَّاسِ لِيَجْمَلُوا فِي عَاقِبَةِ الْأَمْرِ أَوْ زَارَهُمْ ذُنُوبُهُمْ كَامِلَةً لَمْ يُكْفَرْ مِنْهَا شَيْءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ بَعْضِ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَانَّهُمْ دَعَوْهُمْ إِلَى الضَّلَالِ فَاتَّبَعُوهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِي الْأَثْمِ الْأَسَاءِ بِشَيْءٍ مَا يَزِرُونَ<sup>(۱۹)</sup> يَحْمِلُونَهُ جَمْلَهُمْ بِهَذَا.

**ترجمہ:** تمہاری عبادت کا مستحق تو صرف ایک معبود ہے، ذات و صفات میں اس کی کوئی نظیر نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے قلوب وحدانیت کے منکر ہیں اور وہ وحدانیت پر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے ہیں یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، لہذا وہ اس کی جزاء ان کو دے گا، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بایں معنی کہ ان کو سزا دے گا، اور نضر بن الحارث کے بارے میں (آئندہ) آیت نازل ہوئی، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے محمد ﷺ پر کیا نازل کیا؟ (ما) استفہامیہ اور (ذا) موصولہ ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جواب دیا، پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انجام کار یہ لوگ اپنے تمام گناہوں کے ساتھ کہ جن میں سے کچھ بھی کم نہ کیا گیا ہوگا قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی کچھ حصہ جن کو ان لوگوں نے ان کی لاعلمی کی وجہ سے گمراہ کیا ہوگا اس لئے کہ ان لوگوں نے ان کو گمراہی کی طرف بلایا تو انہوں نے ان کی اتباع کی جس کی وجہ سے گناہ میں دونوں شریک ہو گئے، دیکھو تو کیسا برا بوجھ ہے؟ جس کو یہ اٹھا رہے ہیں، یعنی ان کا یہ اٹھانا نہایت برا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ:** متکبرون، مستکبرون کی تفسیر متکبرون سے کر کے اشارہ کر دیا کہ استفعال تفعّل کے معنی میں ہے لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ یہاں طلب کے معنی درست نہیں ہے۔

**قَوْلٌ:** بمعنی اِنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ حب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا درست نہیں ہے اسلئے کہ حُب کا تعلق قلب سے ہے اور قلب مجسم ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔

**جَوَابٌ:** عدم حب کے لازم معنی مراد ہیں یعنی سزا، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

**قَوْلٌ:** ہو۔

**سُؤَالٌ:** (هو) مقدر ماننے کی کیا وجہ ہے؟

**جَوَابٌ:** اساطیر الاولین چونکہ قال کا مقولہ ہے اور مقولہ کے لئے جملہ ہونا ضروری ہے حالانکہ اساطیر الاولین مفرد ہے یعنی جملہ تام نہیں ہے، مفسر علام نے ہو محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ اساطیر الاولین مبتداء محذوف کی خبر ہو کر جملہ تام ہے۔

**قَوْلٌ:** فی عاقبة الامر اس میں اشارہ ہے کہ لیحملوا میں لام عاقبت کا ہے۔

**قَوْلٌ:** حملہم هذا یہ مخصوص بالذم ہے۔

## تفسیر و تشریح

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ (الآیة) یعنی ایک الہ کا تسلیم کرنا منکرین و مشرکین کے لئے بہت مشکل ہے وہ کہتے ہیں ”أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ“ اس نے تمام معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سورہ زمر میں فرمایا گیا ”وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ“ جب ایک اللہ کا ذکر کر کیا جاتا ہے تو منکرین کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ أَلَمْ يَأْتِ الْبُرْجَانِ فِي الْبُرْجَانِ (الآیہ) گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی گمراہی اور اپنے انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا اب مشرکین کے دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذکر ہے، نبی ﷺ کی دعوت کا چرچا جب اطراف و اکناف میں پھیلا تو مکے کے لوگ جہاں کہیں جاتے تھے ان سے جب پوچھا جاتا کہ تمہارے یہاں جو صاحب نبی بنکر اٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کے مضامین کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے سوالات کا جواب کفار مکہ ہمیشہ ایسے الفاظ میں



دیتے تھے کہ جن سے سائل کے دل میں نبی ﷺ اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے یا کم از کم اس کو آپ سے اور آپ کی دعوت سے کوئی دلچسپی نہ رہے، جو بات مشرکین سوالوں کے جواب میں کہا کرتے تھے ان میں سے ان کا ایک جملہ یہ بھی تھا ”قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِیْنَ“ گذشتہ لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں قرآن کریم نے اس پر یہ وعید سنائی کہ یہ ظالم قرآن کو کہانیاں بتلا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا، روز قیامت ان کے گناہوں کا پورا بوجھ تو ان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی وبال ان پر پڑے گا، اور پھر فرمایا کہ گناہوں کے جس بوجھ کو یہ لوگ اپنے اوپر لا رہے ہیں وہ بہت بُرا بوجھ ہے۔

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهِيَ نَمْرُودُ بَنَى صَرْحًا طَوِيلًا لِيُضَعَدَ مِنْهُ اِلَى السَّمَاءِ لِيُقَاتِلَ اِبْلَاهَا فَاتَى اللّٰهُ قَصْدًا بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْاَسَاسِ فَاَرْسَلَ عَلَيْهِ الرِّيحَ وَالزَّلْزَلَةَ فَهَدَمْتَهَا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ اِی وَهْمِ تَحْتَهُ وَاتَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ<sup>(۱۶)</sup> مَنْ جِهَةٌ لَا يَخْطُرُ بِاَلِهِمْ وَقِيلَ بِهَذَا تَمْثِیْلٌ لِاَفْکَادِ مَا اَبْرَمُوهُ مِنَ الْمَكْرِ بِالرُّسُلِ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ يُذَلِّهِمْ وَيَقُولُ لِهِمُ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ الْمَلَائِكَةِ تَوْبِیْحًا اَیْنِ شُرَكَاءِیْ بَزَعْمِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ تُخَالِفُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِمْ فِی شَانِهِمْ قَالَ اِی يَقُولُ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكٰفِرِیْنَ<sup>(۱۷)</sup> يَقُولُوْنَهُ شِمَاتَةً بِهِمُ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ بِالْتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلِكَةُ ظَالِمِیْ اَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ فَاَلْقُوا السَّلَمَ اِنْقَادُوا وَاسْتَسَلَّمُوا عِنْدَ الْمَوْتِ قَائِلِیْنَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ شَرِكٌ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَلٰی اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>(۱۸)</sup> فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ وَيُقَالُ لَهُمْ فَادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِيْهَا فَلَيْسَ مَثْوٰی اِی مَآوٰی الْمُتَكَبِّرِیْنَ<sup>(۱۹)</sup> وَقِيلَ لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوا بِالْاِيْمَانِ فِیْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ حَیَاةٌ طَيِّبَةٌ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ اِی الْجَنَّةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا قَالَ تَعَالٰی فِيْهَا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِیْنَ<sup>(۲۰)</sup> هِیْ جَنَّتُ عَدْنٍ اِقَامَةٌ مَبْدَأُ خَبْرُهُ يَدْخُلُوْنَهَا تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ الْجَزَاءُ يَجْزِی اللّٰهُ الْمُتَّقِیْنَ<sup>(۲۱)</sup> الَّذِينَ لَهُمْ نَعْتُ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلِكَةُ طَيِّبِیْنَ طَابِرِیْنَ مِنَ الْكَفْرِ يَقُولُوْنَ لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ سَلَمٌ عَلَیْكُمْ وَيُقَالُ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>(۲۲)</sup> هَلْ مَا يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُ الْكَفَّارُ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ بِالْتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلِكَةُ لِقَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ يَاتِیْ اَمْرُ رَبِّكَ الْعَذَابُ اَوِ الْقِيَامَةُ الْمَشْتَمَلَةُ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ كَمَا فَعَلَ بِهٗؤَلٰٓءِ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْاُسَمِ كَذَّبُوْا رُسُلَهُمْ فَاُتٰیكُمُ اللّٰهُ بِاٰیٰتٍ بَیِّنَاتٍ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ<sup>(۲۳)</sup> بِالْكَفْرِ فَاصَابَهُمْ سَيِّاَتُ مَا عَمِلُوْا اِی جَزَاؤُهَا وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ<sup>(۲۴)</sup> اِی الْعَذَابُ.

## تَرْجُمَہ:

ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، اور وہ نمرود تھا جس نے ایک بہت اونچا منارہ بنایا تھا تا کہ اس پر چڑھ کر آسمان والوں سے قتال کرے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ ان پر آندھی اور زلزلہ بھیج کر ان کو منہدم کر دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیاں اوپر سے آپڑیں جس وقت وہ ان کے نیچے تھے اور ان پر عذاب وہاں سے آگیا جہاں کا انھیں وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی ایسی جہت سے کہ ان کے خیال و خواب میں بھی نہ تھا، اور کہا گیا ہے کہ یہ تمثیل ہے ان منصوبوں کو ناکام کرنے کی جن کو انہوں نے رسول کے خلاف استوار کیا تھا، پھر روز قیامت بھی اللہ انھیں رسوا کرے گا اور فرشتوں کے ذریعہ اللہ ان سے توبیخا کہے گا بزعم شما میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تم مومنین سے جھگڑتے تھے یعنی مومنین سے اختلاف کرتے تھے، اور جن کو علم عطا کیا گیا یعنی انبیاء اور مومنین کہیں گے یقیناً آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لئے ہے، اور یہ بات ان کی مصیبت پر اظہار مسرت کے طور پر کہیں گے جن کافروں کی جان فرشتے حالت کفر پر قبض کرتے ہیں (آخر وقت تک) کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اس وقت یہ لوگ ہتھیرا ڈال دیتے ہیں اور موت کے وقت تسلیم و رضا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے، تو فرشتے کہیں گے ہاں کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، وہ تم کو اس کی سزا دے گا اور ان سے کہا جائیگا پس تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، اور جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے (فرشتے) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں خیر ہی خیر (نازل کی) یعنی جن لوگوں نے ایمان کے ذریعہ اس دنیا میں نیکی کی ان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے یعنی پاکیزہ زندگی ہے اور دار آخرت یعنی جنت بہت ہی بہتر ہے دنیا اور مافیہا سے اللہ تعالیٰ نے دار آخرت کے بارے میں فرمایا، جنت متقیوں کے لئے کیا ہی خوب گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں (جنت عدن) مبتداء ہے یدخلونہا، اس کی خبر ہے جن میں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جو کچھ یہ لوگ اس میں طلب کریں گے وہ ان کو ملے گا پر ہیزگاروں کو اللہ اسی طرح جزاء عطا فرماتا ہے وہ پرہیزگار کہ جن کی روئیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر سے پاک صاف ہوتے ہیں (فرشتے) ان سے موت کے وقت کہتے ہیں تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے، اور آخرت میں ان سے کہا جائیگا اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ انھیں صرف اسی بات کا انتظار ہے کہ فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لئے آجائیں (یا تہیہم) یاء اور تاء کے ساتھ، یا تیرے رب کا حکم یعنی عذاب یا قیامت کا دن جو عذاب پر مشتمل ہوگا آجائے، اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا ان سے پہلی امتوں نے بھی کیا (یعنی) اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیئے گئے، ان کو بغیر جرم کے ہلاک کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ کفر کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انھیں مل گئے یعنی ان کے اعمال کی سزا ان کو مل گئی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔



## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلًا:** قَصَدَ، اتیان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لئے چونکہ محال ہے اسلئے اتیان کی تفسیر مجازاً قَصَدَ سے کی ہے۔

**قَوْلًا:** بُنْيَانَهُمْ اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، ای قَصَدَ استیصال بُنْيَانَهُمْ۔

**قَوْلًا:** لِإِفْسَادِ مَا أَبْرَمُوهُ، یعنی تمثیل مراد لینے کی صورت میں ان کے منصوبوں کو جن کو وہ استوار کر چکے تھے ناکام بنانا مراد ہو گا نہ کہ نمرود کی تعمیر کردہ عمارت کو منہدم کرنا۔

**قَوْلًا:** ای یَقُولُ اس میں اشارہ ہے کہ ماضی بمعنی مضارع ہے تحقق وقوع کی وجہ سے مضارع کو ماضی سے تعبیر کر دیا ہے۔

**قَوْلًا:** قَائِلِينَ، قائلین کا اضافہ کلام کو مربوط و مسلسل بنانے کے لئے کیا ہے، اس کے بغیر ماقبل و مابعد میں ربط نہیں رہتا۔

**قَوْلًا:** نَعْتٌ یعنی المتقین موصوف ہے اور تتوفَّوْهُمْ اس کی صفت ہے اور طیبین، تتوفَّوْهُمْ کی ضمیر سے حال ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے جنہوں نے بلند و بالا محل یا منارے بنا کر آسمانوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ ہماری آسمانی مخلوق سے جنگ ہوئی جس میں ہمیں فتح اور ان کی شکست ہوئی لہذا اب ہمارا کوئی سہیم و شریک نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و ناکام کر دیا اور ان کا تعبیر کردہ محل چشم زدن میں زمین بوس ہو گیا، اور یہ واقعہ عراق کے شہر بابل کا بتایا جاتا ہے۔

مگر بعض دیگر مفسرین نے فرمایا کہ یہ محض ایک تمثیل ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ چھت کے بل گر پڑے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس تمثیل سے مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ ہے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور ان کے خلاف منصوبہ سازیاں کیں بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے، مثلاً قوم عاد اور قوم لوط و ثمود وغیرہ۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوْهُمْ الْمَلَائِكَةُ (الآیۃ) یہ مشرک ظالموں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جب فرشتے ان کی رو حیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ہر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور طاعت و عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی (شرک) نہیں کرتے تھے، مشرکین میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو

جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ”وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ“۔

فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری عمر برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے تمام اعمال کا کارڈ موجود ہے تمہارے اس انکار سے کچھ نہیں ہوگا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد فوراً ان کی روہیں جہنم میں پہنچ جاتی ہیں اور جسم قبر میں رہتے ہیں۔

## دفع تعارض:

سورہ اعراف کی آیت ۴۳ کے تحت یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیگا، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، دراصل ان میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے اعمال صالحہ ضروری ہیں گویا کہ عمل صالح اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہیں اس لئے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، نہ اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل سکتی ہے۔

وَاصَابُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا (الآیۃ) یعنی جب رسول اللہ ﷺ ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آجائیگا تو وہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ جا اپنے اللہ سے جا کر کہہ کہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے، چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر ان کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَنْ أَهْلُ مَكَّةَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عِبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَابِ فَاشْرَاكُنَا وَتَحْرِيمُنَا بِمَشِيئِهِ فَهُوَ رَاضٍ بِهِ قَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اِی كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ فَمَا جَاؤَا بِهِ فَهَلْ فَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ<sup>(۳۵)</sup> الْاِبْلَٰغُ الْبَيِّنُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هِدَايَةٌ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا كَمَا بَعَثْنَاكَ فِيْ بُلُوْءٍ اِنْ اِیْ بَانَ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَخَدُوْهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ الْاَوْثَانَ اِنْ تَعْبُدُوْهَا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدٰی اللّٰهُ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ رَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلٰةُ فِیْ عِلْمِ اللّٰهِ فَلَمْ یُؤْمِنُوْا فِیْیَرُوْا یَا کُفَّارَ مَكَّةَ فِی الْاَرْضِ فَاَنْظُرُوْا کَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِیْنَ<sup>(۳۶)</sup> رُسُلَهُمْ مِنْ الْهَلَاكِ اِنْ تَحْرِصْ یَا مُحَمَّدٌ عَلٰی هُدٰیهِمْ وَقَدْ اَضَلَّہُمُ اللّٰهُ لَا تَقْدِرُ عَلٰی ذٰلِكَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ مَنْ یُّضِلُّ مَنْ یُرِیْدُ اِضْلَالَهٗ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصْرِیْنَ<sup>(۳۷)</sup> مَا نَعِیْنُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ اِیْ غَايَةَ اجْتِهَادِهِمْ فِیْهَا لَا یُبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ یَّمُوْتُ قَالَ تَعَالٰی بَلٰی یَبْعَثُهُمْ وَعَدًّا عَلَیْهِ حَقًّا مَّصْدَرَانِ مُؤَكَّدَانِ مَنصُوبَانِ بِفَعْلِهِمَا الْمَقْدَرُ اِیْ وَعْدُ ذٰلِكَ وَعَدًّا وَحَقًّا حَقًّا



وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَيْ اہل مکہ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ ذَلِكَ لِیُبَيِّنَ مَتَعَلِّقٌ بَبَعْثِهِمُ الْمَقْدَرِ لَهُمُ الَّذِي یَخْتَلِفُونَ  
 مع المؤمنین فِیْهِ مِنْ أَمْرِ الدِّینِ بِتَعْذِیْبِهِمْ وَاثَابَةِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِیْنَ ﴿۳۹﴾ فِی  
 انْكَارِ الْبَعْثِ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَيْ أَرَدْنَا اِیْجَادَهُ وَقَوْلُنَا مُبْتَدَأٌ، خَبْرُهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فِیَكُونُ ﴿۴۰﴾ اِی  
 فَهُوَ یَكُونُ وَفِی قِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰی نَقُولِ وَالْآیَةُ لِتَقْرِیرِ الْقُدْرَةِ عَلٰی الْبَعْثِ.

**ترجمہ:** اور مکہ کے مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ بحائر اور سوائب میں سے کسی کو اس کی مرضی کے بغیر حرام ٹھہراتے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا شرک کرنا اور حرام ٹھہرانا اسی کی مشیت سے ہے اور وہ اس سے راضی ہے، اور اسی طرح (کی حرکت) ان سے پہلے لوگوں نے کی، یعنی رسول جو حکم لیکر آئے تھے اس میں انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری ہے؟ (یعنی) واضح طور پر پہنچانے کی، اور ان پر ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے جس طرح ہم نے ان میں آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اے (لوگو) صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اس کی توحید کا عقیدہ رکھو، اور بتوں سے بچو (یعنی) ان کی بندگی سے بچو تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دیدی تو وہ ایمان لے آئے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جن پر اللہ کے علم میں گمراہی ثابت ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، لہذا اے مکہ کے کافرو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اپنے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا ہلاکت کے ذریعہ کیسا کچھ انجام ہوا؟! اے محمد آپ ان کی ہدایت کے خواہ کتنے ہی خواہشمند ہوں اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا تو آپ ان کی ہدایت پر قادر نہیں، اس لئے کہ اللہ جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر اس کو ہدایت نہیں دیا کرتے، (یہودی) مجھول اور معروف (دونوں قراءتیں ہیں) اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے والا، وہ لوگ بڑی زوردار قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں یعنی انتہائی مؤکد قسمیں کہ اللہ ہر گز مردوں کو زندہ نہ کریگا، کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق وعدہ ہے (وعدہ اور حقاً) دونوں مصدر تاکید ہیں جو اپنے فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہیں، تقدیر عبارت یہ ہے وَعَدَ ذَلِكَ وَعْدًا وَحَقُّهُ حَقًّا لِّیْکُنْ اَکْثَرُ لَوْگِ یعنی اہل مکہ اس کو جانتے نہیں ہیں، ایسا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے کہ جس دین کی بات میں یہ مومنوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ان کو عذاب دے کر اور مومنین کو ثواب دے کر، اور اسلئے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہ بعث بعد الموت سے انکار کے بارے میں غلطی پر ہیں، (لِیُبَيِّنَ) یَبْعَثُهُمُ مَقْدَرِ کے متعلق ہے جب ہم کسی شیء کے ایجاد کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، قولنا مبتداء ہے ان نقول له الخ اس کی خبر ہے اور ایک قراءت میں (یکون) کے نصب کے ساتھ ہے نقول پر عطف کی وجہ سے، اور آیت مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قدرت کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔

## تحقیق و تشریح تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** فَهُوَ رَاضٍ یہ اضافہ اس شبہ کا جواب ہے کہ کفار و مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا شریک کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا اللہ کی مشیت اور اس کے ارادہ سے ہے یہ بات تو بالکل درست ہے اسلئے کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا پھر اس پر نکیر کرنے اور اس کو رد کرنے کا کیا مقصد ہے؟

**جواب:** فَهُوَ رَاضٍ بہ سے اسی شبہ کا جواب ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ان کا مقصد اللہ کی رضا مندی اور پسندیدگی ہے، حالانکہ مشیت اور ارادہ کے لئے رضا ضروری نہیں ہے۔

**قَوْلُهُ:** الْاِبْلَاحُ الْمُبِينُ، الْاِبْلَاحُ الْمُبِينُ کی تفسیر الْاِبْلَاحُ الْمُبِينُ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ دونوں معنی میں متعدی کے ہیں۔

**قَوْلُهُ:** اَنْ تَعْبُدُوْهَا اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ نفس او ثنان سے اجتناب کا کوئی مقصد نہیں ہے۔

**قَوْلُهُ:** اَمِنْ اس میں اشارہ ہے کہ ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ اللہ کی ہدایت و رہنمائی تو عام ہے تو پھر تخصیص کا کیا مطلب ہے؟

**قَوْلُهُ:** لَا تَقْدِرُ اس میں اشارہ ہے کہ ان تحرص کی جزاء محذوف ہے اور وہ لَا تَقْدِرُ عَلٰی ذٰلِكَ ہے۔

**قَوْلُهُ:** بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اس کی وجہ یہ ہے کہ مَنْ يُضِلُّ، مبتداء ہے اور لَا يَهْدِي اس کی خبر ہے، معنی یہ ہیں مَنْ يَضِلُّ اللّٰهُ لَا يَهْدِيْ اِلَيْهِ لَعَدَمِ تَغْيِيْرِ فَعْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔

**قَوْلُهُ:** مَنْ يَرِيْدُ اضْلَالَهُ الْخَ یعنی اِذَا مَنْ يُضِلُّ سے حقیقۃ ضلالہ مراد ہے تو پھر ہدایت کی نفی کی ضرورت نہیں ہے۔

**قَوْلُهُ:** لِيُبَيِّنَ مَتَعَلِّقٌ بِيَبْعَثُهُمُ الْمَقْدَرِ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ (لِيُبَيِّنَ) کا تعلق يَبْعَثُهُمْ سے ہے نہ کہ لَا يَعْلَمُونَ سے لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ وَلِيُبَيِّنَ کا، لَا يَعْلَمُونَ کی علت بننا صحیح نہیں ہے، اب تقدیر عبارت یہ ہوگی اَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ۔

**قَوْلُهُ:** اِیْ فَهُوَ يَكُوْنُ اس میں اشارہ ہے کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے اور جملہ ہو کر محل میں نصب کے ہے اور جن حضرات نے یكون کو جواب امر قرار دیکر منصوب قرار دیا ہے درست نہیں ہے اسلئے کہ دونوں مصدر متحد ہیں حالانکہ جواب امر میں یہ شرط ہے کہ اول ثانی کے لئے سبب ہو اور یہ تغایر کو چاہتا ہے، نصب کی صورت بھی صحیح ہے اگر نقول پر عطف ہونہ کہ جواب امر ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو ایک موجود (مکون) کے لئے (دو وجودوں) یعنی دو کونوں کا ہونا لازم آئے گا کہ ان میں ایک دوسرے کا سبب ہوگا۔

**قَوْلُهُ:** وَالْآیَةُ لِتَقْرِیرِ الْقُدْرَةِ عَلٰی الْبَعْثِ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد اس اعتراض کو دفع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا



قول ”کُنْ“ یا تو موجود سے ہوگا اس صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گا یا یہ معدوم سے خطاب ہوگا تو معدوم کو خطاب لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ جواب کا حاصل یہ کہ (کن) کا مقصد قدرت علی البعث کا اثبات ہے اور سرعت فی الایجاد ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا (الآیۃ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطہ کو دور فرمایا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں زبردستی روک کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ نہ چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے، جب وہ نہیں روکتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے راضی ہے اور وہ کام اس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

مشرکین کے مذکورہ مغالطہ کا یہ کہہ کر ازالہ فرمادیا، کہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ۱۰۱۱ مشرکانہ امور سے بڑی سختی اور تاکید کے ساتھ روکا ہے اسی لئے اس نے ہر قوم میں رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں اور ہر بڑے کرسب سے پہلے شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہاتھ پکڑ کر ان کاموں سے روک کیوں نہیں دیتا، اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے۔

اس شبہ بلکہ حماقت اور عناد کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا نظام ہی اس بنیاد پر قائم فرمایا ہے کہ انسان کو بالکل مجبور نہیں رکھا بلکہ انسان کو ایک گونہ اختیار دیا گیا ہے، اب وہ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے تو اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے اور اگر نافرمانی میں استعمال کرے تو جزا و تنبیخ و عید اور عذاب کا مستحق قرار پائے، اسی کے پس منظر میں قیامت اور حشر و نشر کے سارے ہنگامے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دے کس کی مجال کہ اطاعت و فرمانبرداری سے سر مو انحراف کر سکے، مگر بتقاضائے حکمت مجبور کر دینا درست نہ تھا اس لئے انسان کو اختیار دیدیا گیا، تو اب کافروں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ کو ہمارا طریقہ پسند نہ ہوتا تو ترک کرنے پر ہمیں مجبور کیوں نہیں کر دیتا ایک احمقانہ اور معاندانہ سوال ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی تم اپنے شرک اور اپنی خود مختارانہ تحلیل و تحریم کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے سند جواز بنا سکتے ہو جبکہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لئے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا اب ہماری مشیت کی آڑ لیکر اپنی گمراہیوں کو جائز ٹھہرانا کسی طرح بھی معقولیت نہیں رکھتا۔

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ (الآیۃ) اب پھر خطاب نبی ﷺ کو ہے آپ کی افراط شفقت علی الخلق کی بنا پر آپ کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ خود اپنی ہدایت کی پرواہ نہیں رکھتے ان کے لئے قانون تکوینی بدلا نہیں جائیگا وہ

یوں ہی بدستور گمراہی میں پڑے رہیں گے اور اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے جہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

اُن نقول لہ کن فیکون، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حق تعالیٰ اس کلمہ ”کن“ کا (جو خود ایک دو حرفی حادث لفظ ہے) تلفظ بھی کرتے ہوں، مراد صرف اس قدر ہے کہ چھوٹی بڑی کوئی بھی شئی ہو اس کی تکوین کے لئے اس کے وجود میں آجانے کے لئے حق تعالیٰ کا محض ارادہ کافی ہے، ادھر ارادۃ الہی اس سے متعلق ہوا اور ادھر وہ شئی معاً عدم سے وجود میں آگئی، شئی کا اطلاق موجود فی الخارج ہونے سے پہلے وجود ذہنی پر بھی درست ہے اسلئے کہ علم الہی میں شئی کے وجود سے پہلے اس کا علم ہوتا ہی ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ لَا قَامَةَ دِينِهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا بِالْآذَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَبِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ نُزُلًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا دَارًا حَسَنَةً بِهِيَ الْمَدِينَةُ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ إِلَّا الْجَنَّةُ أَكْبَرُ اعْظَمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ<sup>(۴۱)</sup> ای الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما لهم هاجرين من الكرامة لَوْ أَفْقُوهُمْ، بِهِمُ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْهَجْرَةَ لِأَظْهَارِ الدِّينِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ<sup>(۴۲)</sup> فَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ لَمَلَائِكَةً فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ الْعُلَمَاءَ بِالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>(۴۳)</sup> ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَهُ وَأَنْتُمْ إِلَيَّ تَصْدِيقُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيِّنَاتِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ أَرْسَلْنَا بِهِمُ الْحُجَجَ الْوَاضِحَةَ وَالزُّبُرَ الْكُتُبَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْقُرْآنَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ<sup>(۴۴)</sup> فِي ذَلِكَ فَيَعْتَبِرُونَ أَفَإِنَّ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ النَّدْوَةِ مِنْ تَقْيِيدِهِ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ اخْرَاجِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْإِنْفَالِ أَنْ يُخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ كَقَارُونَ أَوْيَاتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ<sup>(۴۵)</sup> أَيْ مِنْ جِهَةٍ لَا تَخْطُرُ بِهِمُ وَقَدْ أَبْلَكُوا بِدِرِّ وَلَمْ يَكُونُوا يَقْدِرُ وَأَذَلِكَ أَوْيَاخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فِي أَسْفَارِهِمْ لِلتَّجَارَةِ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ<sup>(۴۶)</sup> بِفَاتَيْنِ الْعَذَابِ أَوْيَاخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ تَنْقُصُ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَهْلِكَ الْجَمِيعُ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ<sup>(۴۷)</sup> حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ يَرْوُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَهُ ظِلٌّ كَشَجَرٍ وَجَبَلٍ يَتَفَيَّؤُا يَمِيلُ ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ جَمْعُ شَمَالٍ أَيْ عَنْ جَانِبَيْهَا أَوَّلُ النَّهَارِ وَالْآخِرَةُ سُبْحًا لِلَّهِ حَالٌ أَيْ خَاضِعِينَ بِمَا يُرَادُ مِنْهُمْ وَهُمْ أَيْ الظَّلَالُ دُخْرُونَ<sup>(۴۸)</sup> صَاغِرُونَ نُزِلُوا مِنْزِلَةَ الْعُقُلَاءِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ أَيْ نَسَمَةٍ تَدْبُ عَلَيْهَا أَيْ يَخْضَعُ لَهُ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَغُلِبَ فِي الْإِتْيَانِ بِمَا، مَا لَا يَعْقِلُ لِكثْرَتِهِ وَالْمَلِكَةُ خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ تَفْضِيلًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ<sup>(۴۹)</sup> يَتَكَبَّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ يَخَافُونَ أَيْ الْمَلَائِكَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ يَسْتَكْبِرُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ حَالٌ مِنْهُمْ أَيْ عَالِيًا عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>(۵۰)</sup> بِهِ



**ترجمہ:** اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے اہل مکہ کی اذیتوں کے ظلم سہنے کے بعد ترک وطن

کیا، اور وہ نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب ہیں، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے وہ ٹھکانہ مدینہ ہے، اور آخرت کا اجر یعنی جنت بہت ہی بڑا ہے کاش کافر یا ہجرت نہ کرنے والے اس بات کو جان لیتے کہ مہاجرین کے لئے کس قدر اعزاز ہے تو ضرور مہاجرین کی (ہجرت میں) موافقت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرکوں کی اذیتوں اور اظہار دین کے لئے ہجرت پر صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں تو وہ ان کو ایسے طریقہ سے رزق دیتا ہے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور آپ سے پہلے بھی ہم مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں، کہ جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے نہ کہ فرشتوں کو، سو تم اہل علم یعنی تورات اور انجیل کے عالموں سے معلوم کر لو اگر تم اس بارے میں نہیں جانتے، اس لئے کہ وہ اس بارے میں جانتے ہیں، اور تم ان کی تصدیق کے قریب تر ہو بہ نسبت رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے والوں کی تصدیق کے (اور ہم نے ان کو) دلائل کے ساتھ بھیجا (بالبینات) محذوف کے متعلق ہے، یعنی ہم نے ان کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور کتابوں کے ساتھ اور ہم نے آپ پر ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ احکام واضح طور پر بیان کر دیں جو ان کے لئے اس قرآن میں حلال و حرام کے احکام نازل کئے گئے ہیں اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کریں، کیا وہ لوگ جو نبی کے ساتھ دارالندوہ میں آپ ﷺ کو قید کرنے یا قتل کرنے یا ان کو وطن سے نکالنے کے بارے میں بدترین چالیں چل رہے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں ذکر کیا گیا ہے، اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں قارون کے مانند زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آجائے کہ انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یعنی ایسی جہت سے کہ اس کا ان کے دل میں کبھی خطرہ بھی نہ گذرا ہو، اور ان کو بدر میں ہلاک کر دیا گیا، اور انہوں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا یا انھیں ان کے تجارتی سفر کے دوران چلتے پھرتے پکڑ لے، اور وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے یعنی اس کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل سکتے، یا ان کی بتدریج گرفت کرے یہاں تک کہ سب کو ہلاک کر دے (علی تخوف) فاعل یا مفعول سے حال ہے یقیناً تمہارا پروردگار، اعلیٰ شفقت والا اور بڑا مہربان ہے اس لئے کہ ان کی فوری گرفت نہیں کرتا کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سایہ دار پیدا کیا ہے جیسا کہ درخت اور پہاڑ کہ ان کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، شمائل، شمال کی جمع ہے یعنی شی اپنی دائیں بائیں دن کے اول حصے اور آخر حصے میں (سُجَّدًا) ظلالہ کی ضمیر سے حال ہے، یعنی جو ان سے مطلوب ہے اس کے لئے سر تسلیم خم کئے رہتے ہیں، اور وہ یعنی سائے اظہار عاجزی کرتے ہیں اور سایوں کو ذوی العقول کے درجہ میں اتار لیا، اور آسمانوں اور زمین کا ہر جاندار جو زمین پر چلتا پھرتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے یعنی جو اس سے مطلوب ہے اس کے لئے سر تسلیم خم کرتا ہے اور 'ما' لانے میں غیر ذوی العقول کو ان کی کثرت کی وجہ سے (ذوی العقول پر) غلبہ دیا گیا ہے اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کی فضیلت کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور فرشتے حال یہ ہے کہ

اپنے رب سے جو غلبہ کے ساتھ ان کے اوپر ہے لرزہ بر اندام رہتے ہیں اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ** : لِإِقَامَةِ دِينِهِ، اس اضافہ میں اس سوال کا جواب ہے کہ فی اللہ میں، اللہ، مہاجر کا ظرف واقع ہو رہا ہے حالانکہ اللہ کے ظرف ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ فی بمعنی لام ہے اور مضاف محذوف ہے فی اللہ، ای لدین اللہ۔

**قَوْلٌ** : لَنُبَوِّئُكُمْ (تفعیل) سے مضارع جمع متکلم لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ہم ان کو ضرور اتاریں گے، ضرور ٹھکانہ دیں گے مادہ بَوَّءَ ہے، ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے۔

**قَوْلٌ** : دَارًا، اس اضافہ میں حسنة کی تانیث کی علت کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ** : اِی الْکُفَّارِ اَوِ الْمُتَخَلِّفُونَ عَنِ الْهَجْرَةِ، اس میں یعلمون کی ضمیر میں دو احتمالات کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ** : مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، یہ یعلمون کا مفعول ہے۔

**قَوْلٌ** : لَوْ اَفْقَوْهُمْ اس میں اشارہ ہے کہ لو کا جواب محذوف ہے۔

**قَوْلٌ** : فَانْهَم لِيَعْلَمُوْهُ، یہ ان شرطیہ کا جواب ہے جو کہ محذوف ہے۔

**قَوْلٌ** : مُتَعَلِّقٌ بِمُحْذَوِّفٍ، یعنی بالبینت، اَرْسَلْنَا مُحْذَوِّفٍ کے متعلق ہے نہ کہ مَا اَرْسَلْنَا مَذْکُور کے اور نہ نوحی کے اور نہ یعلمون کے اس لئے کہ پہلی دو صورتوں میں متعلق اور متعلق کے درمیان فصل بالاجنبی لازم آتا ہے اور وہ فاسئلوا اهل الذکر ہے اور تیسری صورت میں شرط تکلیف اور الزام کے لئے ہے اسلئے کہ ان کے عالم ہونے کی نفی متحقق ہے۔

**قَوْلٌ** : الْمَكْرَاتِ یہ السیئات کی وجہ تانیث کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ** : يَتَفَقَّيْوْا، مضارع واحد مذکر غائب مصدر تَفَقَّيْ (تفعّل) مادہ فَي جھک جاتے ہیں۔

**قَوْلٌ** : تَنْقُصُ، تَخَوُّفُ کی تفسیر تنقص سے بیان معنی کے لئے ہے، اسلئے کہ تَخَوُّفُ کے معنی خوف اور ڈر کے بھی آتے ہیں اور بتدریج کم کرنے کے بھی، کمی خواہ نفس میں ہو یا اموال میں مفسر علام نے یہی معنی مراد لئے ہیں، یَقَالُ تَخَوُّفُ الشَّيْءِ اِی تَنْقِصُهُ۔

**قَوْلٌ** : حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ یعنی عَلَى تَخَوُّفٍ یا تَوَّابِخًا، کی ضمیر فاعل سے حال ہے، یا ہم ضمیر سے۔

**قَوْلٌ** : جَمْعُ شِمَالٍ یہ انسان کے یمن و شمال سے کنایہ ہے اور غالباً یمن کو مفرد لانے میں 'ما' کے لفظ کی اور شمائل کو جمع لانے میں 'ما' کے معنی کی رعایت کی ہے جیسا کہ ظلالہ میں 'ما' کے لفظ کی رعایت ہے اور سُجَّدًا میں 'ما' کے معنی کی۔

**قَوْلٌ** : نَزَّلُوا مَنْزِلَةَ الْعُقُلَاءِ اس میں اس شبہ کا جواب ہے کہ وَاَوْنُون کے ساتھ جمع ذوی العقول کی لائی جاتی ہے اور ظلال ذوی العقول سے نہیں ہے، حالانکہ اس کی جمع داخرون، وَاَوْنُون کے ساتھ لائی گئی ہے۔





ہوئے وعدے مکمل اور احسن طریقہ پر پورے فرمادیئے۔

ہجرت کے فضائل اور فوائد ان ہی مہاجرین کے لئے ہیں جنہوں نے مطلوبہ شرائط پوری کر دی ہوں ان شرائط میں پہلی شرط ”فی اللہ“ ہے یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اس میں دنیوی منافع تجارت، ملازمت وغیرہ نفسانی فوائد پیش نظر نہ ہوں دوسری شرط مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے جیسا کہ من بعد ما ظلموا سے معلوم ہوتا ہے، تیسری شرط ابتدائی تکلیف و مصائب پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا ہے، جس کی طرف ”الَّذِیْنَ صَبَرُوا“ سے اشارہ ہے چوتھی شرط تمام مادی تدبیروں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا، و علی ربہم یتوکلون سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مشکلات و تکالیف تو ہر کام میں ہوا ہی کرتی ہیں ان کو عبور کرنے کے بعد بھی اگر کسی مہاجر کو اچھا ٹھکانا اور اچھے حالات نہ ملے تو قرآن کے وعدہ میں کوئی شبہ کرنے کی بجائے اپنی نیت اخلاص اور اس کے حسن عمل کا جائزہ لینا چاہئے جس پر یہ وعدے کئے گئے ہیں تو اس کو معلوم ہوگا کہ قصور اپنا ہی تھا، کہیں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے اور کہیں صبر و ثبات و توکل میں کمی ہوتی ہے۔ (معارف)

## ترک وطن کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام:

امام قرطبی نے بحوالہ ابن عربی لکھا ہے کہ وطن سے نکلنا اور سفر کرنا کبھی تو کسی چیز سے بچنے کے لئے ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کی طلب کے لئے پہلی قسم کے سفر کو جو کسی چیز سے بچنے کے لئے ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں اور اسکی چھ قسمیں ہیں۔

۱ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا، یہ سفر ہجرت بشرط استطاعت فرض ہے (جبکہ دار الکفر میں اپنے جان و مال اور آبرو کا امن نہ ہو یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو) ایسی صورت میں دار الکفر میں مقیم رہنے سے گنہگار ہوگا۔

۲ دار البدعت سے سفر کرنا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام پر قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو، ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ تم خود وہاں سے زائل ہو جاؤ۔

۳ تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے۔

۴ چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کیلئے سفر، یہ سفر جائز ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تاکہ اس خطرہ سے نجات حاصل ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے شام کا سفر کیا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی قسم کا سفر مصر سے مدین کا کیا تھا، ”فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ“۔

۵ پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور وبائی امراض کے خطرہ سے بچنے کے لئے سفر کرنا ہے، شریعت اسلام نے اس کی اجازت دی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل عرینہ کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کی اجازت دی تھی، اسی طرح



حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ دار الخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی مرتفع سطح پر لے جائیں جہاں کی آب و ہوا خراب نہ ہو۔

## وبائی امراض کے مقام پر جانے یا وہاں سے آنے کا حکم:

جہاں وبا پھیلی ہو اس کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہاں سے نہ بھاگیں اور جو باہر ہیں وہ وہاں نہ جائیں، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر شام کے وقت پیش آیا تھا، کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا صحابہ کرام سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

اِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَاِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا.

(رواہ الترمذی)

جب کسی خطہ میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو۔

اس وقت فاروق اعظم نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلہ کو لے کر واپسی کا اعلان کر دیا، بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی وبا پھیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں وبائی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے، وہ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو جس میں وہ وبائی مادہ سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے گا نہیں اور جہاں یہ جائیگا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اسلئے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔

۶ چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لئے ہے جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔

سفر کی یہ چھ قسمیں تو کسی چیز سے بچنے اور بھاگنے کی ہیں، اور جو سفر کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے کیا جائے اس کی نو قسمیں ہیں۔  
۱ سفر عبرت یعنی دنیا کی سیاحت اس لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ کا اور اقوام سابقہ کے آثار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے قرآن کریم نے ایسے سفر کی ترغیب دی ہے فرمایا ”اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔“

۲ سفر حج اس کا چند شرائط کے ساتھ فرض اسلامی ہونا سب کو معلوم ہے۔

۳ سفر جہاد، اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا سب کو معلوم ہے۔

۴ سفر معاش، جب کسی کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہاں سے سفر

کر کے دوسری جگہ تلاش روزگار کرے۔

۵ سفر تجارت یعنی قدر ضرورت سے زائد حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا یہ بھی شرعاً جائز ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ”لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربکم“ ابتغاء فضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے۔

۶ طلب علم کے لئے سفر، علم دین کا بقدر ضرورت فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے لہذا اس کی طلب بھی اسی درجہ میں ہے۔

۷ کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کے لئے سفر کرنا، یہ بجز تین مسجدوں کے درست نہیں مسجد حرام (مکہ مکرمہ) مسجد نبوی (مدینہ طیبہ) مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے دوسرے اکابر علماء سلف و خلف نے عام مقامات متبرکہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ (معارف)

۸ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے سفر، جس کو رباط کہا جاتا ہے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

۹ عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لئے سفر، حدیث میں اس کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں اقرباء و احباب کی ملاقات کے لئے سفر کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعاء کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ اس وقت ہے جب اس ملاقات سے اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی مادی غرض نہ ہو۔ (واللہ اعلم)۔ (قرطبی، ملخصاً)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا (الآیۃ) روح المعانی میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے اپنے قاصد مدینہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجے کہ کیا یہ بات واقعی ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جنس بشر سے ہوتے آئے ہیں۔

اس آیت میں ”اہل ذکر“ سے مراد اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہیں:

ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہدین پر واجب ہے؟

آیت مذکورہ کا یہ جملہ ”فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہیں، اس لئے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقلی بھی ہے اور نقلی بھی کہ جو لوگ احکام نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں اسی کا نام تقلید ہے یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی ان ہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت تو ہوتی نہیں، اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے، یہ



تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں البتہ وہ علماء کہ جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں، اور علماء و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و حدیث میں صراحتہ مذکور نہیں یا جن میں آیات قرآن اور روایات حدیث میں اختلاف پیش آیا ہے یہ احکام و مسائل محل اجتہاد ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں ”مجتہد فیہ“ کہا جاتا ہے ان کا حکم یہ ہے کہ جس عالم کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام مجتہد کی تقلید ضروری ہے، محض اپنی ذاتی رائے کے بھروسہ پر ایک آیت یا روایت کو ترجیح دیکر اختیار کرنا اور دوسری آیت یا روایت کو مرجوح قرار دے کر چھوڑ دینا اس کے لئے جائز نہیں۔

اسی طرح جو احکام قرآن و سنت میں صراحتہ مذکور نہیں ان کو قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول سے نکالنا اور ان کا حکم شرعی متعین کرنا یہ بھی ان ہی مجتہدین امت کا کام ہے جن کو عربی زبان عربی لغت اور محاورات اور طریق استعمال کا نیز قرآن و سنت سے متعلقہ تمام علوم کا معیاری علم اور ورع و تقویٰ کا اونچا مقام حاصل ہو، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یا اوزاعی، فقیہ ابواللیث رحمہ اللہ وغیرہ جن میں حق تعالیٰ نے قرب زمانہ نبوت اور صحبت صحابہ اور تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول و مقاصد سمجھنے کا خاص ذوق اور منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا، ایسے مجتہد فیہ مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء، محدثین و فقہاء، امام غزالی، رازی، ترمذی، طحاوی، مزنی، ابن ہمام، ابن قدامہ رحمہ اللہ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف و خلف باوجود علوم عربیت اور علوم شریعت کی اعلیٰ مہارت حاصل ہونے کے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کے پابند رہے ہیں ان سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دینا جائز نہیں۔

البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو قرآن و سنت کے دلائل سے جانچتے پرکھتے تھے پھر ائمہ مجتہدین کے مسلک سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ جانتے تھے، تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے۔

اس کے بعد علم کا معیار دن بدن گھٹتا گیا اور تقویٰ اور خدا ترسی کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگیں ایسی حالت میں اگر یہ آزادی دیدی جائے کہ جس مسئلہ میں چاہیں کسی ایک امام کا قول اختیار کر لیں اور جس میں چاہیں کسی دوسرے امام کا قول لے لیں، تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کر اتباع ہویٰ میں مبتلا ہو جائیں، کہ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو اختیار کر لیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا کوئی

دین و شریعت کا اتباع نہیں ہوگا بلکہ اپنی اغراض و ہویٰ کا اتباع ہوگا جو باجماع امت حرام ہے، علامہ شاطبی نے موافقات میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اور ابن تیمیہ نے بھی عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع کو اپنے فتاویٰ میں باجماع امت حرام کہا ہے، اس لئے متاخرین فقہاء نے یہ ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتہد کی تقلید کا پابند کرنا چاہئے یہیں سے تقلید شخصی کا آغاز ہوا جو درحقیقت ایک انتظامی حکم ہے جس سے دین کا انتظام قائم رہے، اور لوگ دین کی آڑ میں اتباع ہویٰ کا شکار نہ ہو جائیں، اس کی مثال بعینہ وہ ہے جو حضرت عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے باجماع صحابہ قرآن کے سبعة احرف (یعنی سات لغات) میں سے صرف ایک لغت کو مخصوص کر دینے میں کیا، اگرچہ ساتوں لغات قرآن ہی کے لغات تھے، جبریل امین کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر جب قرآن کریم عجم میں پھیلا اور مختلف لغات میں پڑھنے سے تحریف قرآن کا خطرہ محسوس کیا گیا تو باجماع صحابہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی لغت میں قرآن کریم کو لکھا اور پڑھا جائے، حضرت عثمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسی ایک لغت کے مطابق تمام مصاحف کو لکھوا کر اطراف عالم میں بھجوا دیا، اور آج تک پوری امت اسی کی پابند ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے لغات حق نہیں تھے بلکہ انتظام دین اور حفاظت قرآن از تحریف کی بنا پر صرف ایک لغت کو اختیار کر لیا گیا اسی طرح ائمہ مجتہدین سب برحق ہیں ان میں سے کسی ایک کو تقلید کے لئے معین کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جس امام معین کی تقلید کسی نے اختیار کی ہے اس کے نزدیک دوسرے ائمہ قابل تقلید نہیں، بلکہ اپنی صواب دید اور اپنی سہولت جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کر لیا اور دوسرے ائمہ کو بھی اسی طرح قابل احترام سمجھا۔

اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا بیمار آدمی کو شہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی، اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال و شقاق کر کے گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے اور نہ کبھی اہل بصیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا، بعض علماء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا اور بعد میں طعن و طنز تک نوبت آگئی پھر جاہلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا۔

تنبیہ: مسئلہ تقلید و اجتہاد پر جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ اس مسئلہ کا بہت مختصر خلاصہ ہے مزید تحقیقات و تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں خصوصاً کتاب ”الموافقات“ علامہ شاطبی جلد رابع باب الاجتہاد اور علامہ سیف الدین آمدی کی کتاب ”الاحکام“ جلد ثالث القاعدة الثالثة فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتابیں، حجة اللہ البالغہ اور رسالہ عقد الجید اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد اس مسئلہ میں خاص



طور سے قابل دید ہیں اہل علم ان کی طرف رجوع فرمائیں۔

## قرآن فہمی کے لئے حدیث رسول ضروری ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس آیت میں ذکر سے مراد بالاتفاق قرآن ہے اور رسول اللہ ﷺ کو اس آیت میں مامور فرمایا گیا ہے کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں یہ آیت بھی متعدد دیگر آیتوں کی طرح اس باب میں نص ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حیثیت محض حامل وحی یا پیغام رساں کی نہیں بلکہ شارح اور بیان کرنے والے کی بھی ہے قرآن مجید کے حقائق و اسرار کے حل کرنے کا حق سب سے زیادہ آپ ﷺ ہی کو حاصل ہے اور رسول کا فرض جس طرح تبلیغ وحی ہے تبیین وحی بھی اس کے فرائض میں داخل ہے اور جو لوگ سنت و حدیث رسول سے بے نیازی برتتے ہیں وہ فہم قرآن سے اپنے کو محروم رکھ رہے ہیں، اگر ہر انسان صرف عربی زبان و ادب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسب منشاء خداوندی سمجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کو بیان و توضیح کی خدمت سپرد کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ الْخ اس سے پہلی آیت میں کفار کو عذاب آخرت سے ڈرایا گیا تھا، ان آیات میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ، جیسے غزوہ بدر میں ایک ہزار بہادر مسلح نوجوانوں کو چند بے سروسامان مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایسی سزا ملی جس کا ان کو کبھی وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے کسی عذاب الہی میں پکڑے جاؤ کہ کوئی بیماری جان لیوا آکھڑی ہو اور عذاب کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دفعۃً عذاب نہ آئے مگر مال، صحت اور تندرستی اور اسباب راحت و سکون گھٹتے چلے جائیں اسی طرح گھٹاتے گھٹاتے اس قوم کا خاتمہ ہو جائے۔

لفظ تسخوف آیت میں بظاہر خوف سے مشتق ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اسی معنی کے اعتبار سے یہ تفسیر کی ہے کہ ایک جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے تاکہ دوسری جماعت ڈر جائے اسی طرح دوسری کو اور پھر تیسری جماعت کو پکڑا جائے یوں ڈراتے ڈراتے سب کا خاتمہ ہو جائے۔

مگر مفسر قرآن حضرت ابن عباس اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے یہاں لفظ تسخوف کو تَنْقُص کے معنی میں لیا ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ گھٹاتے گھٹاتے کیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا تو آپ نے برسر منبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ تخوف کے آپ لوگ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ تمام مجمع خاموش رہا مگر قبیلہ ہذیل کے ایک شخص نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ ہمارے قبیلہ کا خاص لفظ ہے ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بتدریج کم کرنا، اس پر حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس نے عرض کیا کہ ہاں اور اپنے قبیلہ کے شاعر ابو کبیر ہذلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنی میں استعمال کیا گیا تھا۔

تَخَوُّفُ الرَّحْلِ مِنْهَا تَامِكًا قَرْدًا كَمَا تَخَوُّفُ عَوْدِ النَّبْعَةِ السَّفْنُ

تَزَجَّجَتْ: کجاوہ نے اونٹنی کے فربہ کو ہان کو بتدریج کم کر دیا جیسا کہ نبعہ کی لکڑی کو رندہ بتدریج کم کر دیتا ہے۔

اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا، لوگو تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو کیونکہ تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی کا فیصلہ اسی سے ہوتا ہے۔

## قرآن فہمی کے لئے معمولی عربی دانی کافی نہیں:

اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ معمولی طور پر عربی زبان بولنے، لکھنے کی قابلیت قرآن فہمی کے لئے کافی نہیں بلکہ اس میں اتنی مہارت اور واقفیت ضروری ہے جس سے قدیم عرب جاہلیت کے کلام کو پورا سمجھا جاسکے کیونکہ قرآن کریم اسی زبان اور انہی کے محاورات میں نازل ہوا ہے اس درجہ کا عربی ادب مسلمان پر سیکھنا لازم ہے۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، يسجد یہاں اپنے اصلی لغوی معنی میں ہے یعنی فرمانبردار جیسا کہ ہر مخلوق کو اپنے خالق اور حکیم کے روبرو ہونا چاہئے، مطلب یہ ہے کہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی عالم ارواح میں ہو یا عالم اجساد میں جہاں کہیں بھی ہو سب کے سب عظمت الہی کے آگے سرنگوں ہیں۔

وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، دابة کے معنی یہاں جاندار کے بھی کہئے گئے ہیں اور متحرک کے بھی اور پھر انقیاد کے بھی ایک سرے پر دابہ اور دوسرے سرے پر ملائکہ کو لا کر گویا یہ بتا دیا ہے کہ ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ تک ہر ذی حیات زنجیر انقیاد میں یکساں جکڑا ہوا ہے۔

نیز مَنْ دَابَّةٍ كَاتِلِقٍ جِسْرٍ اَرْضٍ سے ہے اسی طرح سموات (اجرام فلکی) سے بھی ہے اسلئے بالکل جائز ہے کہ فرشتوں کے علاوہ متحرک و جاندار مخلوق انسان کی طرح سیاروں یا آسمانوں پر بھی ہو۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، یہاں فوق سے فوقیت معنوی مراد ہے یا غلبہ ورنہ جہت فوق سے تو خوف پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں، اور نہ خدا کے شایان شان۔

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا الْاِلٰهِيْنَ اَنْثٰنًا ۚ اِنَّمَا هُوَ الْوٰحِدُ ۚ اَتٰى بِهٖ لَآثِبَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ فَاَيَايَ فَلَا هُبُوْنَ ﴿٥١﴾  
خافون دُونَ غَيْرِيْ وَفِيهِ التَّفَاتُ عَنْ الْغَيْبَةِ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَلَكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وَلَهُ الدِّينُ الطَّاعَةُ وَاصْبًا ۚ دَائِمًا حَالُ مِنَ الدِّينِ وَالْعَامِلِ فِيهِ مَعْنَى الظَّرْفِ اَفْغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَهُوَ اِلَّا لَهُ الْحَقُّ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهُ  
وَالِاسْتَفْهَامُ لِلانْكَارِ اَوِ التَّوْبِيْخِ وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنْ اللّٰهِ اَي لَا يَأْتِيْ بِهَا غَيْرُهُ وَمَا شَرْطِيَّةٌ اَوْ مَوْصُوْلَةٌ  
ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ الْفَقْرُ وَالْمَرَضُ فَلْيَلِيْهِ تَجْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ تَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَكُمْ بِالِاسْتِغَاثَةِ وَالِدَعَاءِ وَلَا



تَدْعُونَ غَيْرَهُ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝۵۱ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ مِّنَ النِّعْمَةِ فَتَمَتَّعُوا  
بِاجْتِمَاعِكُمْ عَلَىٰ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ أَمْرٌ تَهْدِيدٌ ۝۵۲ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۵۳ عَاقِبَةُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُونَ أَى الْمَشْرُكُونَ  
لِمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَبِى الْأَصْنَامِ نَصِيبًا مَّا رَزَقْنَاهُمْ ۝۵۴ مِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ بِقَوْلِهِمْ هَذَا إِلَهُ وَهَذَا  
لشُرَكَائِنَا تَاللَّهِ لَتَسْتَخْلَنَ سِوَالِ تَوْبِيخٍ وَفِيهِ التَّفَاتُ عَنْ الْغِيْبَةِ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝۵۵ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَ كُمْ  
بِذَلِكَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ بِقَوْلِهِمُ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ سُبْحَنَهُ ۝۵۶ تَنْزِيهًا لَهُ عَمَّا زَعَمُوا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝۵۷ أَى  
الْبَنُونَ وَالْجَمْلَةُ فِى مَحَلِّ رَفْعٍ أَوْ نَصْبٍ بِیَجْعَلُ الْمَعْنَى يَجْعَلُونَ لَهُ الْبَنَاتِ الَّتِی یُكْرَبُونَهَا وَهِيَ مُنْزَعَةٌ عَنْ  
الْوَلَدِ وَیَجْعَلُونَ لَهُمُ الْبَنَاءَ الَّذِیْنَ یَخْتَارُونَهَا فِی خِتْمَانِ لِقَوْلِهِ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ  
الْبَنُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ تُولَدُ لَهُ ظَلٌّ صَارَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا مَّتَغِيرًا تَغْيِيرَ مُغْتَمٍ وَهُوَ كَظِيمٌ ۝۵۸ مَمْتَلَىٰ غَمًّا  
فَكَيْفَ تُنْسَبُ الْبَنَاتُ إِلَيْهِ تَعَالَى یَتَوَارَى یَخْتَفِی مِنَ الْقَوْمِ أَى قَوْمِهِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ خَوْفًا مِّنَ التَّعْيِيرِ  
مُتَرَدِّدًا فِيمَا یَفْعَلُ بِهِ أَيْمُسَكُهُ یَتْرُكُهُ بِالْقَتْلِ عَلَى هَوْنٍ هَوَانٍ وَذَلِ أَمْرٌ یُدْشُهُ فِی التُّرَابِ بَانَ یُثَدُّ الْأَسَاءُ بَشَسَ  
مَا یَحْكُمُونَ ۝۵۹ حَكْمُهُمْ هَذَا حِیثُ نَسَبُوا خَالِقَهُمُ الْبَنَاتِ اللَّاتِی هُنَّ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الْمَحَلِّ  
لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَى الْكُفَّارُ مَثَلُ السُّوءِ أَى الصِّفَةُ السُّوْیُ بِمَعْنَى الْقَبِیْحَةِ وَبِى وَأَذْهِبِ الْبَنَاتِ مَعَ  
اِحْتِیَاجِهِمُ الْیَمَنِ لِلنِّكَاحِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى الطِّفَّةُ الْعُلَیَا وَهِيَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَزِیزُ فِی مُلْكِهِ  
الْحَكِیمُ ۝۶۰ فِی خَلْقِهِ.

**ترجمہ:** اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ (اثنین) الہین کی تاکید ہے معبود تو صرف وہی اکیلا ہے اس کو  
الوہیت اور وحدانیت کو ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں، پس تم سب میرا ہی خوف (ڈر) رکھو، (یعنی) مجھ ہی سے ڈرو نہ کہ کسی  
اور سے، اس میں غیبت سے تکلم کی جانب التفات ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے ملک اور مخلوق اور غلام  
ہونے کے اعتبار سے اور طاعت دائماً اسی کی لازم ہے، واصباً، دین سے حال ہے اور اس میں عامل معنی ظرف ہیں (ای ثبت  
لہ الدین) کیا پھر بھی تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ معبود برحق وہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور استفہام انکار یا تو بیخ کے  
لئے ہے اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں یعنی ان نعمتوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور  
ما شرطیہ یا موصولہ ہے، پھر اب بھی جب تمہیں کوئی فقر و مرض وغیرہ کی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو تم اسی سے نالہ و فریاد کرتے ہو،  
یعنی فریاد رسی اور دعاء کے لئے اسی کو زور زور سے پکارتے ہو اور اس کے غیر کو نہیں پکارتے ہو، اور جہاں اس نے تمہاری مصیبت  
دور کی تو تم میں کا ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کرے جو ہم نے ان کو دی  
ہیں، اچھا تو بتوں کی عبادت پر اجتماعیت کے ساتھ کچھ مزے اڑالو، اس کا انجام تمہیں معلوم ہو ہی جائیگا اور مشرک ان کے لئے

کہ جن کو نہیں جانتے کہ وہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور وہ بت ہیں ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کہ وہ کھیتی اور جانور ہیں یہ کہہ کر حصہ لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کے لئے ہے اور یہ ہمارے شرکاء (بتوں) کے لئے ہے واللہ جو تم اللہ پر یہ بہتان لگاتے ہو کہ اسی نے ہمیں (شرک کا) حکم دیا ہے تم سے ضرور باز پرس ہوگی اور اس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، اور وہ اللہ کے لئے یہ کہہ کر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹیاں ثابت کرتے ہیں یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور اپنے لئے وہ ثابت کرتے ہیں جو ان کو پسند ہیں یعنی لڑکے، جملہ (مایشتہوں) محل میں رفع کے ہے یا جعل کی وجہ سے محل میں نصب کے ہے (آیت کے) معنی یہ ہیں کہ اللہ کے لئے لڑکیاں پسند کرتے ہیں جنہیں خود (اپنے لئے) ناپسند کرتے ہیں حالانکہ وہ تو اولاد ہی سے پاک ہے، اور اپنے لئے بیٹے ثابت کرتے ہیں جنہیں اپنے لئے پسند کرتے ہیں، (یعنی) بیٹوں کو اپنے لئے مخصوص کرتے ہیں، دلیل اللہ کا قول ہے، آپ ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لئے لڑکیاں ہیں اور ان کے لئے لڑکے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو (اس کے یہاں) لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے یعنی ایسا متغیر ہو جاتا ہے جیسا کسی غم زدہ کا، اور وہ (دل ہی دل میں) گھٹنے لگتا ہے یعنی غم سے بھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لڑکیوں کی کیوں نسبت کی جاتی ہے؟ اور اس بڑی خبر کی وجہ سے مارے شرم کے اپنی قوم سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اس نومولود کے بارے میں کیا کرے؟ آیا ذلت کے ساتھ بغیر قتل کئے اس کو تھامے رہے (یعنی زندہ رہنے دے) یا اس کو مٹی میں دفن کر دے یعنی اسے زندہ درگور کر دے، آہ! یہ کیسے بُرے فیصلے کرتے ہیں! یعنی ان کا یہ حکم کہ اپنے خالق کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جو خود ان کے نزدیک (حقارت) میں اس (انتہائی) درجہ کی ہیں ان کافروں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بُری مثال ہے یعنی بری صفت ہے اور (السَّوْی) معنی میں قبیحہ کے ہے اور وہ (بری صفت) ان کا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ہے ان سے نکاح کی حاجت کے باوجود اور اللہ کی تو بہت ہی بلند صفت ہے (ای الصفة العلیا) اور وہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے ملک میں غالب ہے (اور) اپنی مخلوق کے بارے میں باحکمت ہے۔

### تحقیق و ترکیب و تسمیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: تَاكِدٌ، یعنی اِثْنَيْنِ، اِلٰهَيْنِ کی تاکید ہے، لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ کی ترکیب میں دو قول ہیں اور لفظ اِثْنَيْنِ کے بارے میں دو احتمال ہیں، ① یہ کہ اِثْنَيْنِ اِلٰهَيْنِ کی تاکید ہے اس صورت میں لَا تَتَّخِذُوا متعدی بیک مفعول ہوگا اور لَا تَتَّخِذُوا معنی میں لَا تَعْبُدُوا کے ہوگا دوسرا احتمال یہ کہ لَا تَتَّخِذُوا متعدی بدو مفعول ہے مفعول ثانی محذوف ہے ای لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اِثْنَيْنِ مَعْبُودًا، اِلٰهَيْنِ مفعول اول ہے اور اِثْنَيْنِ اس کی تاکید ہے اور مَعْبُودًا مفعول ثانی ہے جو کہ محذوف ہے۔

دوسرا قول: یہ کہ اِثْنَيْنِ، لَا تَتَّخِذُوا کا مفعول اول ہے مگر اس کو مؤخر کر دیا ہے اور اِلٰهَيْنِ مفعول ثانی ہے جو کہ لفظاً



مقدم ہے، اصل عبارت یہ ہے لا تتخذوا اثنين الهین۔

عجیب اتفاق: تقریباً تمام مفسرین نے اثنین کو الہین کی تاکید قرار دیا ہے حالانکہ اثنین نہ تاکید لفظی میں سے ہے اور نہ تاکید معنوی میں سے یہ عجیب اتفاق ہے، صحیح یہ ہے کہ اثنین الہین کی صفت ہے، ہو سکتا ہے کہ جن حضرات نے اثنین کو تاکید قرار دیا ہے معنی وصفی کی وجہ سے تاکید قرار دیا ہو اس لئے کہ صفت میں بھی تاکید کے معنی ہوتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے، لا تتخذوا اثنين الهین انما هو الہ واحد (اعراب القرآن) بعض حضرات نے اثنین کو اس تشبیہ کی تاکید قرار دیا ہے جو الہین سے مفہوم ہے (جمل) اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ تکرار مبالغہ فی التنفیر کے لئے ہے اسلئے کہ کثرت حروف کثرت معانی پر دلالت کرتے ہیں۔

قَوْلًا: الہین اثنین۔

سُؤَال: الہین، تشبیہ ہونے کی وجہ سے خود دو پر دلالت کرتا ہے اس میں معدود کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح الہ واحد میں بھی معدود کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلئے کہ الہین اور الہ عدد اور معدود دونوں پر دلالت کرتے ہیں، البتہ اثنین سے اوپر کے لئے معدود لانا ضروری ہوتا ہے مثلاً رجلٌ ایک آدمی، رجل واحد کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح رجلین دو آدمی اس میں رجلین اثنین کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بخلاف رجال ثلثة و نساء ثلث کہ ان میں معدود کے ذکر کی ضرورت ہے اسلئے کہ رجال اور نساء مبہم ہیں اس کے ابہام کو دور کرنے کے لئے معدود کی ضرورت ہوتی ہے۔

جَوَاب: اس سوال کا جواب چند طریقہ پر ہے، ① عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے تقدیر یہ ہے لا تتخذوا اثنين الہین، ② شی جب مستنکر اور قبیح ہوتی ہے اور اس کی قباحت میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو اس کو کثیر عبارت سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ کثرت حروف کثرت معانی پر دلالت کریں۔

قَوْلًا: اُتِیْ بِہ لِاثْبَاتِ الْوَحْدَانِیَّةِ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ الہ خود واحد پر دلالت کرتا ہے پھر واحد لانے کی کیا ضرورت؟

جَوَاب: صرف الہ ذکر کرنے سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید صرف الوہیت کو ثابت کرنا مقصود ہو، اس لئے واحد کا اضافہ کر دیا تاکہ الوہیت اور وحدانیت دونوں پر دلالت ہو جائے۔

لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ لفظ الہ، جنسیت اور وحدت دونوں پر دلالت کرتا ہے لہذا واحد کے ساتھ تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔

قَوْلًا: الطاعة اس میں اشارہ ہے کہ دین بمعنی طاعت ہے نہ کہ بمعنی جزاء اسلئے کہ جزاء دائماً نہیں ہے چونکہ جزاء

دار آخرت میں ہوگی۔

**قَوْلٌ**: وَاَصْبَ، یہ وُصُوْبُ (ض) سے اسم فاعل واحد مذکر غائب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔  
**قَوْلٌ**: حَالٌ، یعنی وَاَصْبَا، دین سے حال ہے نہ کہ صفت اس لئے کہ نکرہ معرفہ سے صفت واقع نہیں ہوتا اور عامل اس میں وہ فعل ہے جو جار مجرور سے مفہوم ہے ای استقر، یا ثَبَتَ، اور بعض نے ثَبَتَ یا استقر کی ضمیر مستتر سے حال قرار دیا ہے، معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہیں، تقدیر عبارت یہ ہے، استقر الدین وَثَبَتَ لَهُ حَالٌ كَوْنُهُ دَائِمًا۔  
**قَوْلٌ**: تَجَارُوْنَ تم فریاد کرتے ہو، تم آواز بلند کرتے ہو، الْجَوَار، رفع الصوت فی الدعاء مضارع جمع مذکر حاضر۔

**قَوْلٌ**: وَلَا تَدْعُونَ غَيْرَهُ، اس اضافہ کا مقصد الیہ تجارون میں ظرف کی تقدیم کے فائدہ (یعنی تخصیص) کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلٌ**: اَمْرٌ تَهْدِيْدٌ، یعنی فَتَمَتَّعُوا میں امر تہدید کے لئے ہے۔

**قَوْلٌ**: لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُا، يعلمون کی ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے، اور مَا کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے جس کو علامہ سیوطی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اَنَّهُا سے ظاہر کر دیا ہے، لہذا عدم عائد کا اعتراض ختم ہو گیا تقدیر عبارت یہ ہے لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُا وَيَعْتَقِدُوْنَ فِيْهَا اَنَّهُا تَضُرُّوْا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ۔  
**قَوْلٌ**: وَالْجُمْلَةُ فِيْ مَحَلِّ رَفْعٍ اَوْ نَصْبٍ بِيَجْعَلُ یعنی "وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ" میں دو اعراب جائز ہیں اول مَا يَشْتَهُوْنَ جملہ ہو کر محل میں رفع کے اور لَهُمْ محذوف ثابت وغیرہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اور البنات پر عطف کی وجہ سے يَجْعَلُ کا مفعول ہونے کی وجہ سے نصب ہے۔

**قَوْلٌ**: سَبْحَانَهُ، یہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے، نہ کہ فصل بالاجنبی۔

**قَوْلٌ**: يَخْتَارُوْنَهَا، نسخ متداولہ میں یہی ہے اور ظاہر یہ ہے یختارونہم، ہونا چاہئے اس لئے کہ ضمیر ابناء کی طرف راجع ہے۔

**قَوْلٌ**: الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ یہ اضافہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَالٌ**: یہ ہے کہ يَجْعَلُوْنَ کی ضمیر فاعل جو کہ کفار کی طرف راجع ہے اور مفعول کی ضمیر جو کہ لَهُمْ ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے اور وہ کفار ہیں، حالانکہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل اور مفعول کی ضمیروں کا متعدد ہونا نفس کے واسطے کے بغیر جائز نہیں ہے سوائے باب ظن اور اس کے اخوات کے یہی وجہ ہے کہ زید ضربہ جائز نہیں ہے البتہ زید ظنہ قائماً ای نفسہ کہنا درست ہے۔

**جَوَابٌ**: الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ سے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ يَجْعَلُوْنَ بمعنی يَخْتَارُوْنَ ہے اس لئے کہ اختیار



دو مفعولوں کا تقاضا نہیں کرتا اور ایک مفعول ماضی تھوٹا ہے، لہذا لام اجل کے معنی میں ہوگا۔

قَوْلًا: يَنْدُ، (ض) وَاذْ يَنْدُ، زندہ درگور کرنا۔

قَوْلًا: بِمَعْنَى الْقَبِيحَةِ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ مثل بمعنی صفت مؤنث ہے اور السَّوَاءُ مذکر ہے حالانکہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، جواب کا حاصل یہ ہے السَّوَاءُ، السَّوَاءُ، قَبِيحَةُ کے معنی میں ہے لہذا موافقت موجود ہے۔

قَوْلًا: الصِّفَةُ الْعَلِيَا یہ اضافہ بھی اسی قسم کے سوال کا جواب ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ، قرآن مجید جس طرح ہر قسم کے شرک کی نفی کرتا ہے اسی طرح ثنویت کی بھی نفی کرتا ہے جس طرح بہت سے فرقے متعدد معبودوں کے قائل ہیں اسی طرح ایک مجوسی فرقہ دو خداؤں کا قائل ہے ایک یزدان یعنی خدائے نور و خیر، دوسرا اہرمن خدائے ظلمت و شر۔ ہندوستان میں ان ہی لوگوں کو پارسی اور آتش پرست کہتے ہیں اس کا بڑا مرکز بمبئی میں ہے جہاں ان کی بڑی تعداد ہے یہ لوگ اپنی نسبت زرتشت کی جانب کرتے ہیں زرتشت ان کے عقیدہ کے مطابق پیغمبر تھے ان کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قبل کا ہے یہ لوگ خیر کا خالق یزدان کو اور شر کا خالق اہرمن کو مانتے ہیں ان کے مذہب و اخلاق کو مزدک نے بری طرح مسخ کر دیا تھا حتیٰ کہ حقیقی بہن سے بھی ان کے یہاں نکاح جائز تھا، مسلمانوں میں بھی تقریباً آٹھ سو سال پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جو باطنی فرقہ کے نام سے مشہور تھا اس کو قرامطہ بھی کہتے تھے اس فرقہ کا ایک مشہور پیشوا گذرا ہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے اس کے یہاں بھی سگی بہن سے نکاح جائز تھا۔

غرضیکہ اس آیت میں مجوس کے عقیدہ ثنویت کی تردید کی گئی ہے اس کے ضمن میں عقیدہ تثلیث اور عقیدہ تعدد کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا ”لو كان فيما الهة الا الله لفسدتا“ (سورہ انبیاء) اس لئے تعدد الہ کا عقیدہ باطل ہے، جب خالق کائنات ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیر تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے۔

وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کی اطاعت دائمی اور لازم ہے، وَاصِبُ کے معنی ہمیشگی اور دائمی کے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ (الصفات)

جب سب نعمتوں کا دینے والا اللہ ہی ہے تو پھر بندگی کسی اور کی کیوں؟ اس کے علاوہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب و وجدان کی گہرائیوں میں فطری طور پر راسخ اور توحید کی ایک صریح شہادت تمہارے نفس میں موجود ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں اور سخت مصیبت کے وقت اصل فطرت نمودار

ہونے لگتی ہے جو اللہ کے سوا کسی الہ کسی رب، اور کسی مالک ذی اختیار کو نہیں جانتی، تخلیق کی ابتداء کے متعلق عرب کے مشرکین اور ہر جگہ کا ہر مشرک جانتا ہی ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے اس کے شریکوں میں سے اس کام میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ نہایت مصیبت کے وقت جب ہر طرف سے مایوسی اور ناامیدی ہو جاتی ہے تو اس وقت صرف معبود حقیقی ہی یاد آتا ہے اور اسی سے فریاد کرتا ہے۔

ثم اذا كشف الضر عنكم الخ، لیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف و مصیبت کے دور ہوتے ہی پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔

و يجعلون لما لا يعلمون نصيباً الخ یعنی جس کو یہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں، اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے پسندیدہ افراد ہیں یا کسی دوسری فہرست میں ہیں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان ظالموں نے ان کے لئے نذر و نیاز چڑھاوا اور پرشاد کے طور پر حصہ مقرر کر لیا ہے، بلکہ اگر اللہ کا حصہ رہ جائے تو رہ جائے، ان کے حصہ میں کمی نہیں کر سکتے، جیسا کہ سورۃ النعام میں بیان کیا گیا ہے۔

و يجعلون لله البنات، عرب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ایک ظلم تو یہ کہ اللہ کی اولاد قرار دی جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں اور پھر اولاد میں مؤنث جسے وہ خود اپنے لئے بھی پسند نہیں کرتے تھے۔

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٍ یعنی لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ رنگ فق ہو جاتا ہے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور شرم کے مارے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں؟

یہاں یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلہ میں لڑکیوں کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے، نہیں، اللہ کے یہاں جنس کی بنیاد پر حقارت کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں تو صرف عربوں کی اس نا انصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا۔

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کافروں کے برے اعمال بیان کئے گئے ہیں یہ ان ہی کی بری مثال یا صفت ہے یعنی جہل و کفر کی صفت، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بیوی اور اولاد جو یہ لوگ ٹھہراتے ہیں یہ بری مثال ہے جو یہ منکرین آخرت اللہ کے لئے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ہر صفت مخلوق کے مقابلہ میں اعلیٰ و برتر ہے، مثلاً اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی جود و عطا بے نظیر ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اَي بِالْمَعَاصِي مَا تَرَكَ عَلَيْهَا اَي الْاَرْضَ مِنْ دَابَّةٍ نَّسَمَةٍ تَدْبُ عَلَيْهَا



وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ<sup>۱۱</sup> عَلَيْهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ لَانْفُسِهِمْ مِنَ الْبَنَاتِ وَالشَّرِيكَ فِي الرِّيَاسَةِ وَابْهَانَةِ الرِّسَالِ وَتَصِفُ تَقُولُ أَلَسْتُمْ مَعَ ذَلِكَ الْكُذِبِ وَهِيَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ عِنْدَ اللَّهِ أَى الْجَنَّةِ كَقَوْلِهِ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّى إِنَّ لِىَ عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ قَالَ تَعَالَىٰ لِأَجْرَمَ حَقًّا أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ<sup>۱۲</sup> مُتْرَكُونَ فِيهَا أَوْ مُقَدَّمُونَ إِلَيْهَا وَفِي قِرَاءَةِ بَكْسِرِ الرَّاءِ مُتَجَاوِزُونَ الْحَدَّ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فَرِيقًا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُ السَّيِّئَةُ فَرَأَوْهَا حَسَنَةً فَكَذَّبُوا الرِّسَالَ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ مُّتَوَلَّىٰ أُمُورِهِمُ الْيَوْمَ أَى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>۱۳</sup> مَوْلَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْيَوْمِ يَوْمُ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ حِكَايَةِ الْحَالِ الْآتِيَةِ أَى لِأَوَّلَىٰ لَهُمْ غَيْرُهُ وَهِيَ عَاجِزٌ عَنْ نَصْرِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَنْصُرُهُمْ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ إِلَّا لَتَبَيِّنَ لَهُمْ لِلنَّاسِ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ<sup>۱۴</sup> مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَهَدَىٰ عِطْفٌ عَلَىٰ لَتَبَيِّنَ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ<sup>۱۵</sup> بِهِ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا يُبَسِّسُهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَذْكَورَ لَّآيَةٍ دَالَّةٌ عَلَى الْبَعْثِ لِقَوْمٍ لَّيْسَمَعُونَ<sup>۱۶</sup> سَمَاعٌ تَدْبِيرٌ.

**ترجمہ:** اگر معاصی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی گرفت کرتا تو زمین پر ایک بھی چلنے والا (جاندار) نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، سو جب ان کا وقت (مقرر) آجاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کے لئے وہ چیز ثابت کرتے ہیں جسے وہ خود اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں، اور وہ چیزیں بیٹیاں اور ریاست میں شرکت اور اہانت رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ کہ ان کے لئے اللہ کے نزدیک اچھا بدلہ ہے یعنی جنت جیسا کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میرے لئے اس کے پاس اچھا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقینی بات تو یہ ہے کہ ان کے لئے آگ ہے، اور ان کو آگ میں ڈال کر چھوڑ دیا جائیگا یا ان کو سب سے پہلے آگ (دوزخ) کی طرف بڑھایا جائیگا اور ایک قراءت میں راء کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، واللہ ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف رسول بھیجے مگر شیطان نے ان کے لئے ان کے برے اعمال کو آراستہ کر کے پیش کیا جس کی وجہ سے وہ ان اعمال کو اچھے (نیک) سمجھنے لگے تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلادیا، وہ شیطان آج بھی (یعنی) دنیا میں ان کے رفیق یعنی ان کے امور کا کارساز بنا ہوا ہے اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے کہا گیا ہے کہ ایوم سے آئندہ کی حالت کو بیان کے طور پر قیامت کا دن مراد ہے یعنی (روز قیامت) ان کا شیطان کے علاوہ کوئی رفیق نہ ہوگا حالانکہ وہ (شیطان) خود اپنی مدد سے بھی عاجز ہوگا، تو کیسے ان کی مدد کرے گا؟ اور اے محمد ہم نے اس کتاب قرآن کو آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے امر دین کی ہر اس چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور وہ (قرآن) رہنم ہے اس کا لتبیین پر عطف ہے اور ان لوگوں کے لئے رحمت ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور

اس پانی سے نباتات اگا کر زمین کو زندہ کر دیا اس کے مردہ (یعنی) خشک ہونے کے بعد یقیناً ان مذکورہ چیزوں میں ایسے لوگوں کے لئے جو غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں بعث بعد الموت پر دلالت کرنے والی نشانی ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: الارض.

سُؤَالٌ: عَلَیْهَا کی ضمیر کا مرجع الارض کو قرار دیا ہے حالانکہ ماقبل میں الارض مذکور نہیں ہے اس میں اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے۔

جَوَابٌ: چونکہ ناس اور دابة الارض پر دلالت کرتے ہیں لہذا الارض اگرچہ صراحتہ مذکور نہیں ہے مگر دلالتہ مذکور ہے لہذا اضمار قبل الذکر کا اعتراض وارد نہیں ہوگا۔

قَوْلُهُ: نسمة، شخص، روح، (جمع) نسم و نسمات.

قَوْلُهُ: تقول، تصف کی تفسیر تقول سے کرنے کا مقصد اس سوال کا جواب ہے کہ تصف کا لفظ موصوف اور صفت کا تقاضا کرتا ہے حالانکہ یہاں نہ موصوف ہے اور نہ صفت۔

جَوَابٌ: یہاں تصف بمعنی تقول ہے لہذا موصوف اور صفت کی حاجت نہ ہوگی۔

قَوْلُهُ: هو اس کی تقدیر میں اشارہ ہے کہ اَنَّ مع اپنے مدخول کے جملہ ہو کر ہو مبتداء محذوف کی خبر ہے، نہ کہ تصف کا مفعول اسلئے کہ تصف کا مفعول الکذب موجود ہے۔

قَوْلُهُ: مُقَدَّمُونَ آگے کئے ہوئے یہ افرطہ فی طلب الماء سے ماخوذ ہے، ای قَدَّمْتَهُ لَهُ میں نے اس کو پانی کے لئے آگے بھیجا۔

## تفسیر و تشریح

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ (الآية) یہ اللہ کا حکم اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ نعمتیں سلب نہیں کرتا، اور نہ فوری مواخذہ کرتا ہے، اگر وہ ارتکاب معصیت پر گرفت کرنا شروع کر دے تو ظلم و معصیت اور کفر و شرک اتنا عام ہو گیا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ذی روح باقی نہ رہے، اس لئے کہ جب برائی عام ہوتی ہے تو اس کا عذاب بھی عام ہوتا ہے اس عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیئے جاتے ہیں گو وہ آخرت میں سرخ رور ہیں گے۔

اليوم سے یا تو زمانہ دنیا مراد ہے تب تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یوم سے مراد یوم فریب و تزیین ہے تو اس وقت حکایت حال ماضیہ کی تاویل کرنی ہوگی اور اگر یوم سے یوم آخرت مراد ہے تو حکایت حال آتیہ کی تاویل کرنی ہوگی جیسا کہ





سکر (بطور مبالغہ) مصدر کے ساتھ رکھا گیا ہے اور یہ (امتنان) شراب کو حرام کرنے سے پہلے کی بات ہے، اور کھانے کی عمدہ چیزیں بناتے ہو مثلاً چھوڑے اور کشمش اور سرکہ اور شیرہ، جو لوگ عقل (سلیم) رکھتے ہیں (یعنی) غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے ان مذکورہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں وحی الہامی کے ذریعہ یہ بات ڈال دی (أن) مفسرہ یا مصدر یہ ہے، کہ پہاڑوں میں گھر (چھتے) بنائے تاکہ اس میں پناہ لے سکے اور درختوں پر بھی گھر (چھتے) بنائے اور ان ٹہنیوں میں بھی جن کو لوگ تیرے لئے ٹھکانے بناتے ہیں ورنہ تو تو اس میں پناہ نہیں لے سکتی تھی، اور ہر طرح پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی آسان راہوں میں اپنی غذا کی جستجو کے لئے داخل ہو کر چلتی پھرتی رہ ڈُلاً، ذلول کی جمع ہے اور (ذُلاً) سُبُل سے حال ہے (یعنی) حال یہ ہے کہ تیرے لئے (راستوں کو) آسان کر دیا جس کی وجہ سے تیرے لئے کوئی دشواری نہیں ہوتی اگرچہ وہ راہیں (دوسروں کیلئے) کتنی ہی دشوار گزار کیوں نہ ہوں، اور تو راستہ بھٹکتی نہیں ہے اگرچہ وہ راہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اور کہا گیا ہے کہ (ذُلاً) اُسُلکی کی ضمیر سے حال ہے، یعنی اس کے (حکم) کے تابع فرمان ہو کر داخل ہو جو تجھ سے مطلوب ہے، اور اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے اور وہ شہد ہے، اس میں لوگوں کی بیماریوں کے لئے شفاء ہے کہا گیا ہے کہ بعض بیماریوں کے لئے شفاء ہے جیسا کہ (لفظ) شفاء کی تنکیر اس پر دلالت کرتی ہے یا تمام بیماریوں کے لئے شفاء ہے دیگر دواؤں کے ساتھ مل کر میں کہتا ہوں بغیر ملائے بھی (ہر مرض کی شفاء ہے) بشرطیکہ نیت خالص ہو، اور آپ ﷺ نے شہد کے استعمال کا اس شخص کو حکم فرمایا جس کا پیٹ چل رہا تھا (یعنی دست آرہے تھے) رواہ الشیخان اور اللہ کی صنعت میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ نے تم کو پیدا فرمایا حالانکہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اور تمہاری (مدت عمر) پوری ہونے کے بعد تم کو موت دے گا، تم میں کے بعض وہ ہیں جن کو نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، بعض گھٹیا ترین عمر کو اور وہ بڑھاپے اور سٹھیا جانے کی عمر ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، (حضرت) عکرمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا مشغلہ رکھتا ہے اس کی ایسی حالت نہیں ہوتی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تدبیر سے واقف ہے اور جو چاہے اس پر قادر ہے۔

## تَحْقِيقُ تَرْكِيْبِ تَسْمِيْلٍ وَ تَفْسِيْرِي فَوَائِدِ

قَوْلًا: مِمَّا فِي بَطُونِهِ، مِنْ تَبْعِيْضِيْهِ، اِبْتِدَآئِيْهِ۔

قَوْلًا: مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ، لَبْنًا سَعَالٍ مَقْدَمٌ هِيَ يَامَا سَعَالٍ هِيَ جَوَّاسٌ مَقْدَمٌ هِيَ۔

سُؤَالٌ: بَطُونُهُ كِي ضَمِيْرٍ اِنْعَامٍ كِي طَرَفٍ رَاجِعٌ هِيَ اَوْرَ اِنْعَامٍ جَمْعٌ هُوْنِ كِي وَجْهٌ سَعَالٍ مَوْثٌ هِيَ اَوْرَ اس كِي طَرَفٍ لَوْثُنِ وَالِي ضَمِيْرٍ مَذْكُرٌ هِيَ دَوْنُوں مِيں مَطَابَقَتٌ نَہِيں هِيَ۔

جَوَابٌ: لَفْظُ اِنْعَامٍ كِي رَعَايَتٍ سَعَالٍ مَذْكُرٌ كِي لَآئِ هِيَ اَوْرَ سُوْرَةِ الْمُؤْمِنُوْنِ مِيں مَعْنٰی كِي رَعَايَتٍ سَعَالٍ مَوْثٌ لَآئِ هِيَ سَبُوْبِيْہ



نے کہا ہے کہ انعام بروزن افعال مفرد ہے۔

قَوْلٌ: وهو بینہما، یہ لبناً سے حال ہے۔

قَوْلٌ: من ثمرات النخیل، یہ نسقیکم، محذوف کے متعلق ہے اور اس کا عطف وان لکم فی الانعام الخ پر ہے۔

قَوْلٌ: سُمیت للمصدر، یعنی سَکَرًا اگرچہ مصدر ہے مگر معنی میں خمرًا کے ہے ای تتخذون منه خمرًا، اب حمل کے بارے میں کوئی اشکال نہیں اور خمر کا نام سَکَر مبالغۃً و مجازاً رکھا ہے۔

قَوْلٌ: هذا قبل تحریمہا، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تتخذون منه سَکَرًا (احسان) جتانے کے طور پر بیان ہوا ہے حالانکہ شراب حرام ہے اور حرام چیز کے ساتھ احسان جتنا درست نہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ امتنان حرمت نازل ہونے سے پہلے ہے آیت مکی ہے اور شراب کی حرمت مدینہ میں نازل ہوئی۔

قَوْلٌ: مما یعرشون ای ما بین الناس بیوتا للنحل التي تتعسل فیہا، یعنی یعرشون سے مراد وہ ٹٹیاں ہیں جو لوگ شہد کی مکھیاں پالنے کے لئے چھتے بناتے ہیں۔

قَوْلٌ: جمع ذلول، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ سُبُل جمع ہے جو کہ ذوالحال ہے اور ذُللاً مفرد ہے اور وہ حال ہے لہذا حال و ذوالحال میں مطابقت نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ذُللاً مفرد نہیں ہے بلکہ ذلول کی جمع ہے لہذا عدم مطابقت کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قَوْلٌ: وان توغرّت، ألوعر، ضد السهل، دشوار۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً (الآية) انعام چوپائے سے اونٹ، گائے بکری اور بھیڑ دنبہ وغیرہ مراد ہوتے ہیں چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے، خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتے ہیں اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر و پیشاب کی بدبو، سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جہاں سے گوبر اور خون وغیرہ گندی چیزیں اور فضلے پیدا ہوتے ہیں وہیں سے اللہ تعالیٰ دودھ جیسی نفیس اور پاکیزہ خوشگوار اور مفید نعمت انسان کے لئے تیار کر دیتا ہے جس کے آگے بڑے بڑے کیمیادان دنگ رہ جائیں یہ دلیل ایک صنّاع اعظم کے وجود کی نہیں تو اور کیا ہے؟

بطونہ، کی ضمیر واحد مذکر غائب انعام کی طرف مذکور کے معنی میں لوٹ رہی ہے کسائی اور مبرد نے یہی کہا ہے، نیز لفظ کی رعایت سے بھی مذکر کی ضمیر لانا جائز ہے، اگر معنی جمع کی رعایت ہو تو ضمیر مؤنث کی ہوگی جیسا کہ سورہ مومنوں میں ہے۔

أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کے یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں وہ یہ کہ مخاطب کو کوئی

خاص بات مخفی طور پر اس طرح سمجھا دے کہ دوسرا شخص اس کو نہ سمجھ سکے۔

النحل شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے۔

## شہد کی مکھی کی فہم و فراست:

شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے، تمام نظم ایک بڑی مکھی جس کو یعسوب (رانی) کہتے ہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران اور ملکہ ہوتی ہے اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سمت میں چلتا رہتا ہے، اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، خود یہ ملکہ تین ہفتوں میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے ملکہ (رانی) اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے ان میں سے بعض درباری کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور کسی نامعلوم خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں بعض معماری اور انجینئر کے فرائض انجام دیتی ہیں، ان کے تیار کردہ چھتوں کے خانے بیس ہزار تک ہوتے ہیں، بعض موم جمع کر کے معماری کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جس سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتی ہیں، یہ مختلف پارٹیاں اور جماعتیں اپنے اپنے مفوضہ امور کو نہایت سرگرمی سے انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل سے قبول کرتی ہیں ان کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا نظام بھی بڑی استواری کے ساتھ چلتا ہے، نظافت و پاکیزگی کا اس قدر اہتمام کرتی ہیں کہ اگر کوئی مکھی کسی گندی یا مضر چیز پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اس کو باہر ہی روک لیتے ہیں اور تفتیش و تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا لایا ہوا مادہ مضر و نقصان دہ ہے تو ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، ماہرین حیوانات نے شہد کی مکھی کے نظام حیات اور طریق کار اور ضابطہ حکمرانی کے متعلق مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں اور ایسے ایسے بڑے عجیب و غریب انکشافات کئے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

## شہد کے منافع و فضائل:

شہد کے منافع طب یونانی اور طب ہندی (ویدک) طب افریقی (ڈاکٹری) سب کو مسلم ہیں اس کے فوائد شروع سے مسلم چلے آتے ہیں طب یونانی اور طب ہندی کی کتابوں میں ہزار ہا سال سے برابر درج ہیں، ادھر چند سالوں سے یورپ بھی ادھر زیادہ متوجہ ہوا ہے، اور جرمن، سویٹزر لینڈ، فرانس اور روس کے ڈاکٹروں نے بالخصوص اس کے معالجاتی تجربے کئے ہیں ان سے ثابت ہوا ہے کہ امراض دوران خون، امراض تنفس، امراض جگر، امراض صدر، امراض شریانیں، امراض امعاء، امراض چشم، امراض جلد وغیرہ میں نہایت درجہ مفید ہے، اور ڈاکٹر زکی علی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہد ایک قدرتی نعمت



ہے جو بہت سی ایسی ضرورتوں میں کام آتا ہے جسے پوری طرح بیان نہیں کیا جاسکتا۔

أَنْ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا تقریباً ہر جاندار اپنے رہنے سہنے کے لئے ٹھکانہ بناتا ہے مگر شہد کی مکھی کو خاص طور پر اپنے گھر بنانے کی نہ صرف ہدایت دی ہے بلکہ بنانے کا طریقہ اور جائے وقوع کی نشان دہی بھی فرمادی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ مکھی کے چھتے پر بیت کا اطلاق فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کر دیا کہ مکھیوں کو جو شہد تیار کرنا ہے اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنالیں اور دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ساخت اور بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی چنانچہ ان کے گھر دیگر جانوروں کے گھر سے ممتاز ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران و ششدر رہ جاتی ہے، ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں پرکار اور مسطر سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں نکلتا مسدس شکل کے علاوہ دوسری کسی شکل مثلاً مربع، مخمس وغیرہ کو اس لئے اختیار نہیں کرتی کہ ان کے بعض گوشے بے کار رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف گھر بنانے ہی کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتلادیا کہ وہ کسی بلندی پر ہونا چاہئے کیونکہ ایسی جگہ پر شہد گندگی اور آلودگی سے محفوظ رہتا ہے اور صاف اور تازہ ہوا ملتی ہے جس کی وجہ سے شہد صاف اور شفاف رہتا ہے، نیز توڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے، چنانچہ فرمایا ”مَنْ الْجِبَالِ وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ“ یعنی ان کے گھروں کی تعمیر پہاڑوں درختوں اور بلند عمارتوں پر ہونی چاہئے تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقہ پر تیار ہو سکے۔

ثم کلی من کل الثمرات، یہ دوسری ہدایت ہے جس میں مکھی کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق پھلوں، پھولوں سے رس چوسے من کل الثمرات دنیا بھر کے پھل پھول مراد نہیں ہیں بلکہ وہ پھل پھول مراد ہیں جن تک باسانی رسائی ہو سکے، معلوم ہوا کہ کل سے کل استغراقی مراد نہیں ہے بلکہ ان کی تمام ضروریات و مناسبات مراد ہیں۔ یہ لکھیاں پھلوں اور پھولوں کے ایسے قیمتی اور مفید اجزاء چوستی ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جو ہر نکالا نہیں جاسکتا۔

فاسلکی سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، شہد کی مکھی کو یہ تیسری ہدایت ہے کہ اپنے رب کے ہموار کئے ہوئے راستوں پر چلے، شہد کی مکھی جب اپنے گھر سے دور دراز مقامات پر پھلوں اور پھولوں کا رس چوسنے کے لئے کہیں جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر واپس آنا مشکل ہونا چاہئے تھا لیکن اللہ نے اس کے لئے راہوں کو آسان بنا دیا ہے، چنانچہ وہ میلوں دور نکل جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضا میں اس کے لئے راستے بنا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حقیر و ناتواں مکھی کے لئے فضا کو مسخر کر دیا ہے تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آجاسکے۔

فیہ شفاء للناس، اس کی کچھ تشریح سابق میں گذر چکی ہے شہد خالص قوت بخش غذا ہے اور امراض کے لئے نسخہ شفاء بھی، بلغمی امراض میں تو بلا واسطہ اور دیگر امراض میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے، اطباء معجونوں میں خاص طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور

دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصہ تک حفاظت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے اطباء اس کو الکحل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں۔

## شہد کے متعلق ایک صحابی کا واقعہ:

اخرج البخاری ومسلم وغیرہما من حدیث ابی سعید، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَخَى اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ، فَقَالَ "اسْقِهِ عَسَلًا" فَسَقَاهُ عَسَلًا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَمَا زَادَ إِلَّا اسْتَطْلَاقًا، قَالَ أَذْهَبَ فَاسْقِهِ عَسَلًا فَذَهَبَ فَسَقَاهُ فَقَالَ مَا زَادَهُ إِلَّا اسْتَطْلَاقًا فَقَالَ، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، أَذْهَبَ فَاسْقِهِ عَسَلًا فَذَهَبَ فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبُرِّئَ.

## شہد مسہل ہے اور پیٹ سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مفید ہے:

رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک صحابی نے اپنے بھائی کے استطلاق بطن، یعنی دستوں کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے شہد پلانے کا مشورہ دیا دوسرے دن اس نے آکر بتلایا بیماری بدستور ہے آپ نے پھر شہد پلانے کا مشورہ دیا تیسرے دن جب اس نے کہا اب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے فرمایا "صدق اللہ وکذب بطن اخیک" یعنی اللہ کا قول بلا ریب سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، مطلب یہ ہے کہ دواء کا قصور نہیں ہے بلکہ مریض کے مزاج خاص کی وجہ سے جلدی اثر نہیں ہوایا یہ کہ فاسد مادہ زیادہ مقدار میں تھا جب تمام فاسد مادہ نکل گیا تو فائدہ ہو گیا۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْكُمْ غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ وَمَالِكٌ وَمَمْلُوكٌ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا أَى الْمَوَالِئِ يَرَادَى رِزْقُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَى بِجَاعِلِى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا شَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَمَالِيكِهِمْ فَهُمْ أَى الْمَمَالِيكُ وَالْمَوَالِئِ فِيهِ سَوَاءٌ شُرَكَاءُ الْمَعْنَى لَيْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فِى أَمْوَالِهِمْ فَكَيْفَ يَجْعَلُونَ بَعْضُ مَمَالِيكِ اللَّهِ شُرَكَاءَ لَهُ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ<sup>vi</sup> يَكْفُرُونَ حَيْثُ يَجْعَلُونَ لَهُ شُرَكَاءَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا فَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ضَلَعِ آدَمَ وَسَائِرَ النَّاسِ مِنْ نُطْفٍ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنْ أَنْوَاعِ الثَّمَرِ وَالْحَبُوبِ وَالْحَيَوَانِ أَفَبِالْبَاطِلِ الصَّنَمِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>vii</sup> بِأَشْرَاقِهِمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَى غَيْرِهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ بِالمَطَرِ وَالْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ شَيْئًا بَدَلٌ مِنْ رِزْقٍ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ<sup>viii</sup> يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَهِيَ الْأَصْنَامُ فَلَا تَضُرُّوهُ بِالْأَمْثَالِ لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَشْبَاهًا تُشْرِكُونَهُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا مِثْلَ لَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>ix</sup> ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَيُبَدِّلُ مِنْهُ عَبْدًا أَمْلُوكًا صِفَةً تَمِيزُهُ مِنَ الْخَرِ



فانه عبد الله تعالى لا يقدر على شيء لعدم ملكه وَمَنْ نَكَرَهُ مَوْصُوفَةً اى حُرًّا رَزَقْنَاهُ مَنَازِلًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا اى يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَالْاَوَّلُ مَثَلُ الْاَصْنَامِ وَالثَّانِی مَثَلُهُ تَعَالَى هَلْ يَسْتَوْنَ اى الْعَبِيدُ الْعَجْزَةُ وَالْحُرُّ الْمُتَصَرِّفُ لَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ اى اَهْلُ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُونَ<sup>٧٥</sup> مَا يَصِيرُونَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَيُبَدِّلُ مِنْهُ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُكُمْ وَلَدٌ آخَرَسٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَانَهُ لَا يَفْهَمُ وَهُوَ كَلٌّ ثَقِيلٌ عَلَى مَوْلَاهُ وَلِیْ أَمْرِهِ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ يُصْرِفُهُ لَايَاتٍ مِنْهُ بِخَيْرٍ بُنْجَحٍ وَبِهَذَا مَثَلُ الْكَافِرِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ اى الْاَبْنُ الْمَذْكُورُ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اى وَمَنْ يَبُو نَاطِقٌ نَافِعٌ لِلنَّاسِ حَيْثُ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحْثُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ<sup>٧٦</sup> وَهُوَ الثَّانِی الْمُؤْمِنُ لَا وَقِيلَ بِهَذَا مَثَلُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْاَبْنُ لِلْاَصْنَامِ وَالَّذِی قَبْلَهُ فِی الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ.

**تَرْجُمہ:** اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تو تم میں مالدار اور غریب اور مالک و مملوک (دونوں قسم کے لوگ) ہیں، یعنی جو مال وغیرہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں اپنے اور اپنے غلاموں کے درمیان شرکت کرنے والے نہیں ہیں اس طریقہ پر کہ آقا و غلام اس میں برابر کے شریک ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ ان کے غلاموں میں سے کوئی غلام ان کے مالوں میں شریک نہیں ہے تو پھر خدا کے غلاموں میں سے بعض کو اس کا کس طرح شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں اس طریقہ پر کہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ہی جنس کی تم کو بیویاں عطا فرمائیں چنانچہ ءِکُوَادِمَ عَلَیْکُمْ وَالسَّلَامَ کی پسلی سے پیدا فرمایا اور تمام انسانوں کو مردوں اور عورتوں کے نطفہ سے پیدا فرمایا اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے عطا کئے، یا اولاد کی اولاد عطا فرمائی اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں یعنی قسم قسم کے پھل اور غلے اور جانور رزق کے طور پر عطا فرمائے کیا پھر بھی یہ لوگ باطل بت پر ایمان لائیں گے اور کیا وہ لوگ خدا کا شریک ٹھہرا کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کریں گے، اور وہ بارش کے ذریعہ آسمان سے اور نباتات کے ذریعہ زمین سے رزق دینے کے کچھ بھی مختار نہیں ہیں (شیئاً) رزقاً سے بدل ہے، اور نہ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ بت ہیں، تو تم اللہ کے لئے مثالیں مت گھڑو (یعنی) اللہ کی کسی کو شبیہ قرار نہ دو کہ ان کو تم اس کا شریک ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اور تم اس کو نہیں جانتے اللہ نے عبد مملوک کی ایک مثال بیان فرمائی (عبدًا مملوکًا) مثلاً سے بدل ہے (مملوکًا) عبدًا کی صفت ہے جس کی وجہ سے غلام آزاد سے ممتاز ہو گیا، اسلئے کہ آزاد (بھی) اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے معقول (خوب) روزی دے رکھی ہے (مَنْ) نکرہ موصوفہ ہے (ای عبدًا حرًّا) اور وہ پوشیدہ طور پر اور ظاہر طور پر اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی جس طرح چاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں، پہلی بتوں کی مثال ہے اور دوسری اللہ کی مثال

ہے، تو کیا عبد عاجز اور آزاد خود مختار (ومتصرف) برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، سب تعریفیں اللہ وحدہ کے لئے ہیں بلکہ ان میں کے اکثر یعنی اہل مکہ اس عذاب کو نہیں جانتے کہ جس کی طرف وہ چلے جا رہے ہیں (اسی عدم واقفیت) کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان فرماتا (رجلین) مثلاً سے بدل ہے ایک ان میں سے پیدائشی گونگا ہے وہ کسی کرت کا نہیں اسلئے کہ وہ نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے (بلکہ) وہ تو اپنے صاحب پر بوجھ ہے جہاں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی ٹھیک کام کر کے نہیں لاتا، یعنی کامیابی حاصل نہیں کرتا، یہ کافر کی مثال ہے کیا ایسا یعنی مذکورہ گونگا شخص اور وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے یعنی وہ شخص جو بول سکتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے اس طریقہ پر کہ وہ عدل کا حکم دیتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے برابر ہو سکتے ہیں حال یہ کہ وہ خود راہ مستقیم پر ہے اور یہ دوسرا مومن ہے برابر نہیں ہو سکتے اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہے اور گونگا بتوں کی مثال ہے اور اس سے پہلی مثال کافر اور مومن کی ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: بِرَادِي، بَاء جَارِہ ہے، رَادِي اصل میں رَادِي تھ، پھر دینے والے، لوٹا دینے والے، دینے والے، مادہ رَدُّ ہے نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا۔

قَوْلٌ: بِجَاعِلِي یہ جَعَلَ سے اسم فاعل جمع مذکر غائب بحالت جر ہے، نون جمع اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔  
قَوْلٌ: الْمَعْنَى لَيْسَ لَهُمْ شَرَكَا یہ جملہ جواب نفی کے مقام میں واقع ہے اور یہ رد ہے مشرکین پر کہ وہ اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں مساوی طریقہ پر شریک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور خدا کے بعض غلاموں کو اس کی الوہیت میں شریک کرتے ہیں۔  
قَوْلٌ: يَكْفُرُونَ، يَجْحَدُونَ کی تفسیر یکفرون سے کر کے اشارہ کر دیا کہ يَجْحَدُونَ، يَكْفُرُونَ کے معنی کو متضمن ہے لہذا اس کا متعدی بالباء ہونا درست ہے ورنہ تو يَجْحَدُونَ متعدی بنفسہ ہے۔

قَوْلٌ: بَدَلٌ مِنْ رِزْقًا بہتر ہوتا کہ مفسر علام شیعنا کو رِزْقًا سے بدل قرار دینے کے بجائے مفعول بہ قرار دیتے رِزْقًا کو خواہ مصدر مانیں یا اسم مصدر، اسلئے کہ بدل دو معنی میں سے ایک معنی کے لئے آتا ہے یا تو بیان کے لئے یا تاکید کے لئے اور یہاں یہ دونوں درست نہیں ہیں۔

قَوْلٌ: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے اور مَا لَا يَمْلِكُ میں واحد کا حالانکہ مرجع دونوں کی ضمیروں کا ایک ہے اور وہ ہیں شرکاء۔

جَوَابٌ: يَمْلِكُ میں ما کے لفظ کی رعایت ہے اور يَسْتَطِيعُونَ میں ما کے معنی کی۔

قَوْلٌ: يُصَرِّفُهُ اِیْ يُصْرِفُهُ۔



قَوْلًا: نُجَحِّ بِضَمِّ النُّونِ اِی الظَّفَرِ بِالشَّيْءِ.

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

### رَبط آیات:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کے اہم مظاہر کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں، جن کو دیکھ کر ادنیٰ سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات اور قدرت میں شریک نہیں مان سکتا، اس آیت میں اسی مضمون کو ایک باہمی معاملہ کی مثال سے واضح کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو ایسا غنی بنا دیا کہ جو بہت سے ساز و سامان کا مالک ہے بہت سے خدمتگار اور نوکر چا کر رکھتا ہے وہ خود بھی اپنی منشاء کے مطابق خرچ کرتا ہے اور خدمتگاروں اور نوکروں کو بھی اپنے ہاتھ سے رزق پہنچاتا ہے اور کسی کو اس کے برعکس غلام اور خدمتگار بنا دیا کہ وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرتا خود اپنے خرچ میں بھی دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنا دیا نہ اتنا غنی کہ دوسروں پر خرچ کر سکے نہ اتنا فقیر محتاج کہ اپنی ضروریات میں بھی دوسروں کا دست نگر ہو۔

اس قدر ترقی تقسیم کا یہ اثر تو سب کے مشاہدہ میں ہے کہ جس کو رزق میں فضیلت دی گئی اور غنی بنا دیا گیا وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں اور خدمتگاروں میں اس طرح تقسیم کر دے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہو جائیں، اس مثال سے یہ بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بت اور دوسری مخلوقات جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں تو وہ یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق و مملوک اپنے خالق و مالک کے برابر ہو جائیں، یہی مضمون سورہ روم کی اس آیت میں ارشاد ہوا ہے ”ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اِيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فَيَمَّا رَزَقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ“ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک و غلاموں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لئے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق و مملوک اس کے برابر ہو جائیں۔

مذکورہ آیت سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ مال و دولت میں عدم مساوات فطری اور طبعی ہے اور تقسیم دولت میں کامل مساوات کا دعویٰ بجائے خود خلاف فطرت ہے۔

### اشتراکیوں کا اصل مغالطہ:

اشتراکین کے استدلال میں اصل مغالطہ یہ ہے کہ خود افراد کو جن کے درمیان دولت تقسیم ہوتی ہے باہم مساوی سمجھ لیا گیا ہے اور یہ مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے، قوم کے افراد آپس میں یکساں اور مساوی ہیں کہاں؟ نہ عمر، صحت، جثہ اور جسمانی قوی

کے لحاظ سے اور نہ عقل و فہم، ہنرمندی اور دماغی صلاحیتوں کے لحاظ سے غرضیکہ کسی بھی معیار سے باہم مساوی نہیں ہیں، اور یہ فرق فطری اور قدرتی ہے مصنوعی نہیں پھر آخر تقسیم دولت میں مساوات کا مطالبہ خود عقلی حیثیت سے کیا معنی رکھتا ہے۔

قرآن مجید جہاں ایک طرف نظام سرمایہ داری کا حامی نہیں اور ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کچھ لوگ تو انتہا درجہ کے امیر و کبیر ہوں اور ملک کی بڑی آبادی اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہو، دوسری طرف تقسیم دولت میں مساوات کا ملہ کا بھی حامی نہیں جیسا کہ سوشلزم کا نظریہ ہے۔

## اسلام کا معاشی نظام عادلانہ ہے:

افراط اور تفریط سے بچکر اس کا اپنا ایک مستقل معاشی نظام ہے جو توازن و اعتدال پر مبنی ہے جس میں امیر و غریب کی درجہ بندی قائم رہے گی لیکن ایک طرف ظلم و تمکنت، بیجا عیش پرستی، اور دوسری طرف تنگدستی اور مذلت کا وجود بھی باقی نہ رہیگا۔

اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ دولت کے خزانوں اور کسبِ معاش کے مرکروں پر چند افراد یا کوئی خاص جماعت قبضہ کر لے اور دوسرے اہل صلاحیت کے کام کا میدان ہی باقی نہ رہے اس کے لئے قرآن مجید نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا ”کَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ“ یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لئے بنایا ہے کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں محصور ہو کر نہ رہ جائے۔

آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو افراط فہمی پھیلی ہوئی ہے وہ اس ربانی قانون حکمت کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں دولت کے مرکروں پر سود اور قمار کے راستوں سے چند افراد یا جماعتیں قابض ہو کر باقی ساری مخلوق کو اپنا معاشی غلام بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔

سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے رد عمل کے طور پر ایک متضاد نظام اشتراکیت کمونزم یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے جس کا قدرے تعارف اور خلاف فطرت و عقل ہونا اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

قرآن حکیم نے ظالمانہ سرمداری اور احمقانہ اشتراکیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراط و تفریط سے پاک ایک نظام متعارف کرایا ہے کہ رزق و دولت میں فطری تفاوت کے باوجود کوئی فرد یا جماعت کسی کو غلام نہ بنا سکے۔

غیر فطری مساوات کا نعرہ لگانے والے بھی چند قدم چلنے کے بعد اس مساوات کے دعوے کو چھوڑنے اور معیشت میں تفاوت کرنے پر مجبور ہو گئے روس میں حال ہی میں اشتراکی نظام ساٹھ (۶۰) ستر (۷۰) سال اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ناکام ہو گیا۔

## روس کے سابق صدر خروشیف کا اعلان ناکامی:

خروشیف نے ۵ مئی ۱۹۶۰ء کو سپریم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا ”ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے سختی سے مخالف ہیں“ ہم اجرتوں میں مساوات قائم کرنے اور ان کے ایک سطح پر لانے کے کھلے بندوں مخالف ہیں۔ (معارف)





بَحِثُ يُمَكِّنُهَا الطَّيْرَانُ وَخَلَقَ الْجَوَابِحِثَ يُمْكِنُ الطَّيْرَانُ فِيهِ وَامْسَاكُهَا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا مَّوْضِعًا تَسْكُنُونَ فِيهِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا كَالْخِيَامِ وَالْقَبَابِ تَسْتَخِفُّونَهَا لِلْحَمْلِ يَوْمَ طَعْنِكُمْ سَفَرِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا أَيْ الْغَنَمِ وَأَوْبَارُهَا أَيْ الْإِبِلِ وَأَشْعَارُهَا أَيْ الْمَعَزِ أَثَانًا مَتَاعًا لِّبُيُوتِكُمْ كَبُسْطٍ وَكَسِيَّةٍ وَمَتَاعًا تَتَمَتَّعُونَ بِهِ إِلَى حِينٍ ۝۸۰ أَيْ تَبْلَى فِيهِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ مِنَ الْبُيُوتِ وَالشَّجَرِ وَالْغَمَامِ ظِلًّا جَمَعَ ظِلَّ تَقِيكُمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا جَمَعَ كِنَ وَهُوَ مَا يَسْتَكِنُ فِيهِ كَالْغَارِ وَالسَّرْدَابِ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِلَ قُمْصَا تَقِيكُمْ الْحَرَّ أَيْ الْبَرْدَ وَسَرَائِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ حَرْبِكُمْ أَيْ الطَّعْنَ وَالضَّرْبَ فِيهَا كَالدَّرُوعِ وَالْجَوَاشِنِ كَذَلِكَ كَمَا خَلَقَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ بِخَلْقِ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ تَسْلِمُونَ ۝۸۱ تُوَحِّدُونَهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَعْرَضُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝۸۲ الْإِبْلَاغُ الْبَيِّنُ وَبِهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ أَيْ يُقَرِّوْنَ بِأَنَّهَا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا بِإِشْرَاكِهِمْ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝۸۳

**ترجمہ:** آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے یعنی ان دونوں میں مخفی چیزوں کا علم، قیامت کا معاملہ تو بس ایسا ہوگا جیسا کہ پلک کی ایک جھپک یا اس سے بھی جلدی، اسلئے کہ وہ لفظ کن سے ہوگا، تو وہ ہو جائے گی، یقیناً اللہ ہر شئی پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے (لا تعلمون شیئاً) کم ضمیر سے حال ہے، اور اس نے تمہیں کان دیئے سمع، اسماع کے معنی میں ہے اور آنکھیں دیں اور دل دیئے تاکہ تم ان کا شکر یہ ادا کرو، اور ایمان لے آؤ، کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کہ وہ پرواز کے لئے آسمان کی فضاء میں مسخر ہو رہے ہیں یعنی آسمان اور زمین کی درمیانی فضاء میں، ان کے بازوؤں کو بند کرنے اور کھولنے کی حالت میں اللہ ہی کی قدرت ہے جو ان کو گرنے سے تھامے ہوئے ہے ایمان والوں کے لئے اس میں (قدرت) کی چند نشانیاں ہیں یعنی اس نے ان کو ایسا بنایا کہ ان کے لئے پرواز ممکن ہو اور فضا کو ایسا بنایا کہ اس میں پرواز اور ٹھہرنا ممکن ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے جائے سکون بنایا یعنی ایسی جگہ کہ جس میں تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے لئے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جیسا کہ خیمے اور قبے، کہ سفر کے وقت تم ان کو اٹھانے میں ہلکا پھلکا پاتے ہو اور قیام کے دوران (بھی) اور (بھیڑ) بکری کی اون اور اونٹ کے رؤوں اور بکری کے بالوں سے اپنے گھروں کا سامان بناتے ہو جیسا کہ بچھونے اور چادریں، اور ایسا سامان کہ جس سے تم ایک مدت تک کہ جس میں وہ بوسیدہ ہوں فائدہ حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے جیسا کہ گھر اور درخت اور بادل تمہارے لئے سائے بنائے ظلال، ظل کی جمع ہے جو تم کو دھوپ کی گرمی سے بچاتے ہیں اور تمہارے لئے



پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں (اکنان) کِن کی جمع ہے اور وہ وہ ہے کہ جس میں چھپایا جاسکے مثلاً غار اور تہہ خانے اور تمہارے لئے ایسا لباس بنایا کہ جو تم کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے اور ایسا لباس (زرہ) بنایا کہ تم کو تمہاری آپس کی لڑائی میں نیزہ اور تلوار کی زد سے بچائے، جیسا کہ زرہ اور سینہ بند، اسی طرح جس طرح کہ اس نے یہ چیزیں پیدا فرمائیں، وہ دنیا میں بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا فرما کر تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل فرماتا ہے تاکہ تم اے اہل مکہ فرمانبردار ہو جاؤ یعنی اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اگر یہ لوگ اسلام سے اعراض کریں تو اے محمد ﷺ آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے یعنی واضح طور پر بیان کر دینا، اور یہ حکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے (یہ لوگ) خدا کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں پھر بھی شرک کر کے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور زیادہ تر ان میں ناشکرے ہیں۔

## تَحْقِیْقُ وَتَرْکِیْبُ تِسْمِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدُ

- قَوْلٌ: علم ما غاب، ای ما غاب عن العباد.
- قَوْلٌ: کلمح البصر، ای کر جمع الطرف من اعلی الحدقة الی اسفلها.
- قَوْلٌ: او هو اقرب اول للتخییر او بمعنی هل.
- قَوْلٌ: الجملة حال لا تعلمون جملہ ہو کر کُم ضمیر سے حال ہے اور شیئاً مفعول بہ ہے۔
- قَوْلٌ: جعل لکم اس کا عطف اخر جکم پر ہے اس کا فاعل اس میں مستتر ہے۔
- قَوْلٌ: بُسْطٌ، بستر، فرش، بچھونا (واحد) بساط.
- قَوْلٌ: اکسیة، (واحد) کساء، چادر۔
- قَوْلٌ: ظعنکم، ظعن، سفر، کوچ (ف) ظعنًا کوچ کرنا، سفر کرنا۔
- قَوْلٌ: قباب، یہ قُبَّة کی جمع ہے بمعنی قبہ، گنبد۔
- قَوْلٌ: سرا بیل کرتے قمیص، یہ سر بال کی جمع ہے، مطلقاً لباس کے معنی میں بھی مجازاً مستعمل ہے۔
- قَوْلٌ: الجواشن یہ جوشن کی جمع ہے، زرہ، بکتر، سر بال عام ہے لوہے کی ہو یا کسی اور چیز کی، یا یہاں خود مراد ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

لا تعلمون شیئاً اس میں اشارہ ہے کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں ہے، بچہ پیدائش کے وقت کوئی علم و ہنر نہیں رکھتا، پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کو کچھ کچھ علم سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو رونا سکھایا جاتا ہے اس کی یہی صفت اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے، اگر بچہ پیدائش کے وقت روئے نہیں تو والدین فکر مند ہو جاتے ہیں، بچہ اپنی تمام ضرورتوں سے والدین

کو رو کر ہی آگاہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ الہامی طور پر بچہ کو ماں کی پستانوں سے دودھ چوسنا سکھاتا ہے اس سکھانے میں نہ ماں باپ کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ کسی معلم، کا یہ فطری تعلیم ہے جو بلا واسطہ ہوتی ہے، کسی معلم کی کیا مجال تھی کہ وہ نو مولود بچہ کو منہ چلانا اور مسوڑوں سے پستانوں کو دبا کر دودھ چوسنا سکھا دیتا۔

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے عطا کی ہیں کہ انسان اعضاء و جوارح کو اس طرح استعمال کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ادا کرے، حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں علاوہ ازیں وہ نوافل کے ذریعہ بھی میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ (صحیح بخاری)

اس حدیث کا غلط مفہوم لے کر بعض لوگ اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں، حالانکہ حدیث کا واضح اور صحیح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی عبادت اور اطاعت اللہ کے لئے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے، اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے، وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔

من جلود الانعام وقوله من اصوافها واوربارھا، سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی کھال اور بال اور اون سب کا استعمال انسان کے لئے جائز ہے اس میں یہ بھی قید نہیں کہ جانور مذبوح ہو یا مردار اور نہ یہ قید ہے کہ اس کا گوشت حلال ہو یا حرام، ان سب قسم کے جانوروں کی کھال دباغت دیکر استعمال کرنا جائز ہے اور بال اور اون پر تو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا وہ تو بغیر کسی خاص صنعت و تبدیلی کے جائز ہے، امام ابو حنیفہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا یہی مذہب ہے البتہ خنزیر کی کھال اور اس کے تمام اجزاء ہر حال میں نجس اور ناقابل انتفاع ہیں۔

سر ایل تَقِیْکُمُ الْحَرَّ، یہاں کرتے کی غرض گرمی سے بچانا قرار دیا ہے حالانکہ کرتہ انسان کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتا ہے، اس کا ایک جواب تو قرطبی اور دیگر مفسرین نے یہ دیا ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس کے اولین مخاطب عرب ہیں اس میں عرب کی عادات اور ضروریات کا لحاظ رکھ کر کلام کیا گیا ہے عرب ایک گرم ملک ہے وہاں برف باری اور شدید سردی کا تصور ہی مشکل ہے اسلئے گرمی سے بچانے کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا۔ (معارف)



وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَبَعَثْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا هُوَ نَبِيُّهَا يَشْهَدُ لَهَا وَ عَلَيْهَا وَ هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْاَعْتِدَارِ ۝ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ لَا تُطْلَبُ مِنْهُمْ الْعُتْبَىٰ اِی الرَّجُوعُ اِلٰی مَا يَرْضٰی اللّٰهُ  
 وَ اِذَا رَاَ الَّذِينَ ظَلَمُوا كُفْرًا الْعَذَابَ النَّارَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ يُمَهِّلُونَ عَنْهُ اِذَا رَاَوْهُ  
 وَ اِذَا رَاَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَ غَيْرِهَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو  
 نَعْبُدُهُمْ مِنْ دُونِكَ فَالْقُوا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِی قَالُوا لَهُمْ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ فِی قَوْلِكُمْ اِنَّكُمْ  
 عِبَدْتُمُونَا فِي اٰیَةٍ اُخْرٰی مَا كَانُوا اِیَّانَا يَعْبُدُونَ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ اَلْقُوا اِلٰی اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ اِی  
 اسْتَسْلِمُوا لِحُكْمِهِ وَ ضَلَّ غَايَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ مَنْ اَنَّ اَلِهَتِهِمْ تَشْفَعُ لَهُمْ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ دِينِهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ الَّذِی اسْتَحَقُّوْهُ بِكُفْرِهِمْ قَالَ  
 ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَقَارُبُ اَنْبِيَائِهَا كَالنَّحْلِ الطَّوَالَ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝ بِصَدَبِهِمُ النَّاسَ  
 عَنْ الْاِيْمَانِ وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَبَعَثْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ هُوَ نَبِيُّهُمْ وَ جِئْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ  
 شَهِيدًا عَلٰی هَؤُلَاءِ اِی قَوْلِكَ وَ نَزَّلْنَا عَلَیكَ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ یَّحْتَاجُ النَّاسُ اِلَيْهِ مِنْ اَمْرِ  
 الشَّرِیْعَةِ وَ هُدًی مِنَ الضَّلَالَةِ وَ رَحْمَةً وَ بُشْرٰی بِالْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِیْنَ ۝ الْمُوَحِّدِیْنَ .

تَبْيَانُ

۱۲  
۱۸

**ترجمہ:** اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن میں ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور وہ اس امت کا نبی ہوگا، وہ  
 ان کے ایمان و کفر کی شہادت دے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، پھر کافروں کو نہ عذر خواہی کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے  
 خوشنودی طلب کرنے کے لئے کہا جائیگا یعنی نہ ان سے اس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لئے کہا جائیگا جس سے اللہ راضی ہو  
 جائے، اور جب کافر عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے (عذاب میں) تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو اس عذاب سے مہلت  
 (ڈھیل) دی جائیگی جب وہ اس کو دیکھ لیں گے، اور جب مشرکین شیاطین وغیرہ سے اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے  
 ہمارے پروردگار یہی ہیں ہمارے شرکاء جن کی ہم تیرے علاوہ بندگی کیا کرتے تھے تو وہ انھیں جواب دیں گے تم اپنے اس قول  
 میں کہ تم ہماری بندگی کیا کرتے تھے بالکل ہی جھوٹے ہو جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ”ما کانوا اِیَّانَا یَعْبُدُونَ“ وہ ہماری  
 بندگی نہیں کیا کرتے تھے (یعنی) عنقریب (روز قیامت) ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، اور اس دن اللہ کے حکم کے  
 سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے اور ان کا یہ جھوٹ کہ ان کے معبودان کی شفاعت کریں گے گم ہو جائیگا (رفو چکر ہو جائیگا) اور جنہوں  
 نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا ہم ان کے اس عذاب پر کہ جس کے وہ اپنے کفر کی وجہ سے مستحق ہیں عذاب پر عذاب  
 بڑھاتے جائیں گے، (حضرت) عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا کہ، ایسے بچھو ہوں گے کہ ان کے دانت لمبائی میں کھجور

کے درخت کے برابر ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے روک کر فساد برپا کرتے تھے اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ہر امت میں ان ہی میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے وہ ان کا نبی ہوگا، اور اے محمد ہم آپ کو ان پر یعنی آپ کو قوم پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی جس میں ضروریات شرعیہ میں سے ہر ضرورت کا شافی بیان ہے جن کی لوگوں کو حاجت ہوتی ہے اور گمراہی سے ہدایت ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کو حید پرستوں کے لئے جنت کی خوشخبری ہے۔

## تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلُهُ:** يُسْتَعْتَبُونَ، اِسْتَعْتَابَ (استفعال) سے مضارع جمع مذکر غائب خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کہنا، رضا مند کرنے کی خواہش کرنا، بعض مفسرین نے لَا يُسْتَعْتَبُونَ کا ترجمہ کیا ہے نہ ان کے عذر قبول کئے جائیں گے، علامہ محلی نے اس لفظ کی تشریح میں لکھا ہے لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ اَنْ يَرْضَوْا رَبَّهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالطَّاعَةِ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ يَوْمَئِذٍ، ان سے اس بات کی طلب نہیں کی جائے گی کہ توبہ اور طاعت کے ذریعہ اپنے رب کو رضا مند کر لیں کیونکہ اس روز یہ چیزیں مفید نہ ہوں گی۔

**قَوْلُهُ:** الَّذِينَ كَفَرُوا الْخِ مَبْتَدَأٌ ہے اور زِدْنَاهُمْ اس کی خبر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الَّذِينَ كَفَرُوا، الْخِ يَفْتَرُونَ کا فاعل ہو، اور زِدْنَاهُمْ جملہ مستأنف ہو۔

**قَوْلُهُ:** بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ بَاءٌ سَبَبِيَّةٌ ہے اور ما مصدریہ ہے ای بسبب کونہم مفسدین۔

**قَوْلُهُ:** اِی قَوْمُكَ، یہ ایک تفسیر ہے یعنی ہر نبی اپنی اپنی امت کے متعلق شہادت دے گا آپ ﷺ بھی اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں گے، بیضاوی نے ایسا ہی کہا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ هٰؤلَاءِ سے مراد انبیاء ہیں یعنی آپ انبیاء کے بارے میں شہادت دیں گے، اسلئے کہ ہر نبی کا اپنی امت کے بارے میں شہادت دینا جن میں آپ ﷺ بھی شامل ہیں یَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ سے مفہوم ہے اس بات کو آپ کے بارے میں دوبارہ ذکر کرنا تکرار بلا فائدہ ہے، لہذا شَهِيدًا عَلَى هٰؤلَاءِ سے شہادت علی الانبیاء ہی مراد ہوگی، اور ابو سعود کی عبارت یہ ہے، عَلَى هٰؤلَاءِ الْأُمَمِ وَشَهِدَائِهِمْ۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہر امت کا شاہد اس کا نبی ہوگا اور نبی کے گزر جانے کے بعد نائبین انبیاء شاہد ہوں گے جنہوں نے خالص توحید اور خدا پرستی کی دعوت دی ہوگی، یہ گواہان اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام حق ان تک پہنچا دیا، اور امة سے مراد ظاہر ہے کہ امت دعوت ہے یعنی وہ قوم جو نبی کے پیغام کی مخاطب رہی ہو امت اجابت مراد نہیں ہے۔ (ماجدی)

فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمْ اَنْكُمْ لَكَاذِبُونَ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ پرستش کا انکار کر دیں گے، بلکہ وہ دراصل اس واقعہ





بالامر والنہی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ تَعِظُونَ وفيه ادغام التاء في الاصل في الذال وفي المُستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذه اجمع آية في القرآن للخير والشر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ مِنْ الْبَيْعَةِ وَالْإِيمَانِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا تَوْثِيقُهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا بِالْوَفَاءِ حَيْثُ حَلَفْتُمْ بِهِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۹۱﴾ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ أَفْسَدَتْ غَزْلَهَا مَا غَزَلْتَهُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَحْكَامٌ لَهُ وَبَرٌّ أَنْكَائًا حَالٌ جَمْعُ نَكَتٍ وَهُوَ مَا يُنْكَتُ أَيْ يُحْلُ أَحْكَامُهُ وَهِيَ امْرَأَةٌ حَمَقَاءُ مِنْ مَكَّةَ كَانَتْ تَغْزُلُ طَوْلَ يَوْمِهَا ثُمَّ تَنْقُضُهُ تَتَّخِذُونَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ تَكُونُوا أَيْ لَا تَكُونُوا مِثْلَهَا فِي اتِّخَاذِكُمْ إِيْمَانَكُمْ دَخَلًا هُوَ مَا يُدْخَلُ فِي الشَّيْءِ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ فَسَادًا أَوْ خَدِيعَةً بَيْنَكُمْ بَانَ تَنْقُضُوهَا أَنْ أَيْ لَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ جَمَاعَةٌ هِيَ أَرْبَى أَكْثَرُ مِنْ أُمَّةٍ وَكَانُوا يُحَالِفُونَ الْحَلْفَاءَ فَإِذَا وَجَدُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاعَزَّ تَقْضُوا حَلْفَ أَوْلَئِكَ وَحَالِفُوهُمْ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ يَخْتَبِرُكُمْ اللَّهُ بِهِ أَيْ بِمَا أَمَرَهُ مِنَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لِيَنْظُرَ الْمَطِيعَ مِنْكُمْ وَالْعَاصِيَ أَوْ تَكُونَ أُمَّةٌ أَرْبَى لِيَنْظُرَ أَتْفُونَ أَمْ لَا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَمْرِ الْعَهْدِ وَغَيْرِهِ بَانَ يُعَذِّبُ النَّاكِتَ وَيُثِيبُ الْوَافِيَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً أَهْلَ دِينٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَوَالٌ تَبْكِيَّتٍ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ لِيَجْازُوا عَلَيْهِ وَلَا تَتَّخِذُوا إِيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا فَتَزِلَّ قَدَمٌ أَيْ أَقْدَامُكُمْ عَنْ مَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ ثَبُوتِهَا اسْتِقَامَتِهَا عَلَيْهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ الْعَذَابَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ بَصَدَكُمْ عَنْ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ أَوْ بَصَدَكُمْ غَيْرَكُمْ عَنْهُ لَاحِظٌ بِكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾ فِي الْآخِرَةِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا بَانَ تَنْقُضُوهُ لِأَجَلِهِ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُضُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا يَنْفَدُ يَفْنَى وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ دَائِمٌ وَلَنَجْزِيَنَّ بِالْيَأْسِ وَالنُّونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ أَيْ أَحْسَنُ بِمَعْنَى حَسَنِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً قِيلَ هِيَ حَيَاةُ الْجَنَّةِ وَقِيلَ فِي الدُّنْيَا بِالقَنَاعَةِ وَالرِّزْقِ الْحَلَالِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَيْ أَرَدْتَ قِرَاءَتَهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ أَيْ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ تَسْلُطُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ بَطَاعَتَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ أَيْ اللَّهُ تَعَالَى مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ عدل (یعنی) توحید یا انصاف اور احسان (یعنی) اداء فرائض کا یا (اس طرح) عبادت



کرنے کا گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے خاص طور پر قرابتداروں کا ذکر کیا ہے حالانکہ احسان کے عموم میں وہ بھی داخل ہیں حکم دیتا ہے اور (اللہ) فحش یعنی زنا اور شرعاً منکرات سے مثلاً کفر و معاصی، اور لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے (ممانعت ظلم کو اہتمام کی وجہ سے خاص طور پر ذکر کیا ہے ورنہ تو نہی عن الفحش میں ظلم بھی داخل ہے) امر و نہی کی تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، (تذکرون) میں تاء کو دراصل ذال میں ادغام کر دیا ہے اور مستدرک میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ قرآن کی آیات میں سے یہ آیت (بیان) خیر و شر کے لئے جامع ترین آیت ہے اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو خواہ بیعت کے طور پر ہو خواہ ایمان وغیرہ کے طور پر ہو، جبکہ تم آپس میں معاہدہ کرو اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو حالانکہ اللہ کو تم نے اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے عہد پورا کرنے پر، اسلئے کہ تم نے اس کی قسم کھائی ہے، اور (وقد جعلتم) جملہ حال ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو یہ ان کے لئے ڈھمکی ہے، اور تم اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جس نے سوت کو مضبوط اور ڈہرا کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھیڑ ڈالا (انکاثا) حال ہے (اور) نکث کی جمع ہے ادھیڑ کر جس کی مضبوطی کو ختم کر دیا گیا ہو، (یہ واقعہ) مکہ کی ایک پاگل عورت کا ہے جو دن بھر سوت کا تا کرتی تھی، اور پھر (شام) کو توڑ کر (خراب کر دیتی تھی) تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو، (تتخذون) تکیونوا کی ضمیر سے حال ہے دخللاً اجنبی چیز کو کہتے ہیں جو اس جنس سے نہ ہو یعنی تم اپنی قسموں کو فساد اور دھوکا نہ بناؤ، بایں صورت کہ ان کو توڑ دو، تاکہ تم میں کی ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے اور وہ لوگ اپنے حلیفوں سے معاہدہ کرتے تھے اور جب ان سے بڑی جماعت یا زیادہ باعزت پاتے تو پہلے حلیفوں کا حلف ختم کر دیتے اور دوسروں کے حلیف ہو جاتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آزمایا رہا ہے یعنی وفاء عہد کا حکم دے کر تم کو جانچ رہا ہے تاکہ تم میں سے فرمانبردار اور نافرمان کو ظاہر کرے یا ایک جماعت بڑی ہوتا کہ اللہ دیکھے آیا تم وفاء عہد کرتے ہو یا نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے جس عہد وغیرہ کے معاملہ میں تم دنیا میں اختلاف کر رہے تھے کھول کھول کر بیان کر دے گا، یہ کہ عہد شکن کو سزا دے گا اور وفا کرنے والے کو جزا دے گا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت (یعنی) ملت والا بنا دیتا، لیکن (اللہ) جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں یقیناً قیامت کے دن لا جواب کرنے کے لئے تم سے سوال کیا جائیگا اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بناؤ، تاکید کے لئے مکرر لایا گیا ہے پھر تمہارے قدم شاہراہ اسلام سے اس پر جم جانے کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم بدترین عذاب کا مزا چکھو گے تمہارے اللہ کے راستہ سے روکنے کی وجہ سے یعنی تمہارے وفاء عہد سے باز رہنے کی وجہ سے یا وفاء عہد سے دوسرے کو باز رکھنے کی وجہ سے اس لئے کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلا، اور تم کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا اور تم اللہ کے عہد کو دنیا کی قلیل پونجی کے لئے نہ بیچد یا کرو بایں طور کہ اس کے لئے نقض عہد کرو بلاشبہ اللہ کے پاس اس کا اجر تمہارے لئے بہتر ہے اس سے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو تم نقض عہد نہ کرو اور دنیا کی جو متاع تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ دائمی

ہے اور ہم (لیجزین) یاء اور نون کے ساتھ ہے، یقیناً وفاء عہد پر صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، احسن بمعنی حسن ہے اور جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ با ایمان بھی ہو تو ہم اس کو ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے کہا گیا ہے کہ وہ جنت کی زندگی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا ہی میں قناعت اور رزق حلال ہے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہم ضرور بالضرور دیں گے اور جب آپ قرآن پڑھو (یعنی) پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے پناہ طلب کرو (یعنی) اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم کہہ لیا کرو، یقینی بات ہے کہ ایمان والوں پر اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا مطلقاً زور نہیں چلتا ہاں اس کا زور ان پر ضرور چلتا ہے جو شیطان کو اس کی اطاعت میں اپنا سر پرست بناتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: القربى، اسم مصدر ہے رشتہ داری۔

قَوْلٌ: تخصیص بعد التعمیم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، احسان میں داخل ہے مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر دوبارہ خاص طور پر ذکر فرمایا۔

قَوْلٌ: كما بدأ بالفحشاء لذلك یعنی اہتمام ہی کی وجہ سے سب سے پہلے فحشاء یعنی زنا کو بیان فرمایا اسلئے کہ زنا کی وجہ سے نسب محفوظ نہیں رہتا اور اللہ کے غضب کا بھی موجب ہے۔

قَوْلٌ: من البيعة، ای بیعة الرسول علی الاسلام، اس سے بیعت رضوان مراد نہیں ہے اسلئے کہ یہ سورت مکی ہے اور بیعت رضوان ہجرت کے بعد ہوئی۔

قَوْلٌ: كفيلاً، ای شاہداً۔

قَوْلٌ: والجملة حالٌ یعنی (وقد جعلتم) جملہ ہو کر تنقضوا کی ضمیر سے حال ہے نہ کہ معطوف، ورنہ تو عطف خبر علی الانشاء لازم آئے گا۔

قَوْلٌ: تهدید لہم یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) معطوف علیہ لا تنقضوا، اور معطوف لا تکنوا کے درمیان فصل بالاجنبی ہے، جواب کا حاصل یہ ہے (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) جملہ تہدید یہ ہے جو کہ اجنبی نہیں ہے۔

قَوْلٌ: ما غزلتہ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ غزل مصدر ہے اس کی جانب نقض (توڑنے) کی نسبت درست نہیں ہے مفسر علام نے غزل کی تفسیر ما غزلتہ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ مصدر بمعنی مفعول ہے یعنی جس کو اس نے کاٹا اس کو توڑ دیا۔

قَوْلٌ: بعد قوة بعض حضرات نے بعد قوة کے معنی، مضبوط کرنے کے بعد کے لئے ہیں مفسر علام نے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں اور بعض دیگر مفسرین نے بعد قوة، کے معنی محنت سے کاٹنے کے بعد، کے لئے ہیں۔



**قَوْلًا:** غَزَلَهَا، یہ (ض) سے مصدر ہے جو کہ، ہاضمیر کی طرف مضاف ہے، اس کے معنی سوت کا تنا اس جگہ بمعنی اسم مفعول ہے یعنی کا تا ہوا سوت، مکہ میں ایک بے وقوف عورت تھی جو صبح سے شام تک اپنی باندیوں کے ساتھ سوت کا تی تھی اور شام کو کا تا ہوا تمام سوت توڑ کر ضائع کر دیتی تھی اس عورت کا نام رَیْطَةُ بِنْتُ عُمَرَ تھا یہ اسد بن عبد العزیٰ کی ماں اور سعد کی بیٹی تھی (بلاذری) بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام رَیْطَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ الْقُرَشِیَّةِ ہے مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے جو معاہدہ کر رکھا ہے اس کو نہ توڑو ورنہ تمہاری کری کرائی محنت بیکار ہو جائے گی۔

**قَوْلًا:** بَرَمَ اسْتَوَارَ کرنا سوت کو ڈھرا کا تا (صراح)۔

**قَوْلًا:** حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ تَكُونُوا، یعنی تَتَخَذُونَ، تَكُونُوا کی ضمیر سے حال ہے نہ کہ مفعول ثانی اسلئے کہ تَكُونُ متعدی بدو مفعول نہیں ہوتا الا یہ کہ تصحیر وغیرہ کے معنی کو متضمن ہو جائے۔

**قَوْلًا:** انْكَاثًا یہ نکت کی جمع ہے، پرانی روئی وغیرہ کو دوہرا کا تنے کے لئے توڑ ڈالنا۔

**قَوْلًا:** وَهُوَ مَا يَنْكُثُ اس میں اشارہ ہے کہ نکت بمعنی منکوٹ (منقوض) ہے۔

**قَوْلًا:** دَخَلًا یہ لا تَكُونُوا کی ضمیر سے حال ہے ای لا تَكُونُوا مشابہین بامرأة شَانِهَا هَذَا۔

**قَوْلًا:** دَخَلًا، بہانہ، فریب، دغا، فساد، دراندازی، اجنبی۔

**قَوْلًا:** اَرْبٰی، چڑھا ہوا، بڑھا ہوا، (ن) یہ رَبًّا سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔

**قَوْلًا:** اَتْفُونَ، ہمزہ، استفہام کا ہے، تَفُونَ یہ وَفٰی سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم وفا کرتے ہو۔

**قَوْلًا:** اِیْ اَقْدَامٍ، قدم کی تفسیر اقدام سے کر کے اشارہ کر دیا کہ جب ایک قدم کا پھسلنا باعث ننگ و عار اور موجب عقاب ہے تو اگر دونوں قدم پھسل جائیں تو کیا حال ہوگا؟

**قَوْلًا:** مَحْجَةً درمیانی راستہ، شاہراہ۔

**قَوْلًا:** یَصْدُکُمْ عَنِ الْوَفَاءِ اس میں اشارہ ہے کہ صَدُّ لازم ہے۔

**قَوْلًا:** بِصَدِّکُمْ غَیْرُکُمْ اس میں اشارہ ہے کہ صَدُّ مَنع کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔

**قَوْلًا:** فَلَا تَنْقُضُوا یہ اِنْ شَرَطِیْہ کا جواب ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

### عدل کے معنی شریعت کی نظر میں:

اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَّاءِ ذِی الْقُرْبٰی (الایۃ) یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمودیا گیا ہے، اسلئے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک دستور چلا آ رہا ہے کہ جمعہ

اور عیدین کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ ہے اِنَّ اللّٰهَ يامر بِالْعَدْلِ (الایۃ)۔ (ابن کثیر)

اس آیت میں تین ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی معاشرہ کی درستی کا انحصار ہے، پہلی چیز عدل ہے جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو دوسرے یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقہ پر دیا جائے، ”عدل“ کے مشہور معنی انصاف کے ہیں یعنی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں، ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں یعنی کسی معاملہ میں افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

## ”احسان“ کسے کہتے ہیں:

آیت میں مذکور دوسری چیز احسان ہے جس سے مراد نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا، یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے، جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے، عدل اگر معاشرہ کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے، عدل معاشرہ کو ناگوار یوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواری اور حلاوت پیدا کرتا ہے، کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کو دیکھتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے؟ اور اسے وصول کر کے چھوڑے اور دوسرے کا کتنا حق ہے اسے بس اتنا ہی دیدے، ایک ٹھنڈے اور کھرے معاشرہ میں کشمکش تو نہ ہوگی مگر محبت اور شکرگزاری اور عالی ظرفی اور ایثار و اخلاص و خیر خواہی کی قدروں سے محروم رہے گا جو دراصل زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرتے ہیں۔

احسان کے ایک معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت کے ہیں جس کو حدیث میں اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (عبادت تم اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تیسری چیز جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ صلہ رحمی ہے، جو رشتہ داروں کے معاملہ میں احسان کی ایک خاص قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں کہ انسان صرف اپنے رشتہ داروں ہی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا معاملہ کرے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر صاحب استطاعت اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے، شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا نہ بھجھو، نہ چھوڑیں، خدا کی نظر میں ایک معاشرہ کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ خاندان کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کے محتاج ہوں۔



ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے اس کے بعد دوسروں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے اسی کو احادیث میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے حسن سلوک کے اولین حقدار اس کے والدین، اس کی بیوی بچے اور اس کے بھائی بہن ہیں پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں علیٰ ہذا القیاس، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشرہ کا ہر واحدہ (Unit) اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھال لے اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی اور بلندی پیدا ہو جائے گی۔

## تین ایجابی حکموں کے مقابلہ میں تین سلبی احکام:

تینوں منکرات میں فحشاء کو اس کے اہم ہونے کی وجہ سے پہلے بیان کیا ہے یہاں ”فحشاء“ سے بے حیائی کے کام مراد ہیں آجکل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی، آرٹ، فن لطیف قرار پا گیا ہے تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے، مگر خوشنالیبل لگا دینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، فحشاء کا اطلاق بیہودہ کام اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت قبیح ہو فحش ہے، مثلاً زنا اور اس کے مقدمات، عریانیت، عمل قوم لوط، محرمات سے نکاح، چوری، رقص و سرود، فیشن پرستی، اور مردوزن کا بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت، شراب نوشی، پیشے کے طور پر بھیک مانگنا، گالی گلوچ کرنا، علی الاعلان برے کام کرنا، اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحشاء میں شامل ہے مثلاً جھوٹا پروپیگنڈہ، الزام تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے، اور فلمی عریاں تصاویر، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا اور اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا تھرکنا و مثکنا، اور دیگر اسی قسم کی خرافات کو شریعت نے بے حیائی ہی قرار دیا ہے خواہ ان کا کتنا ہی اچھا نام کیوں نہ رکھ لیا جائے، مغرب سے درآمد شدہ ان خباثتوں کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

دوسری چیز ”منکر“ میں تمام گناہ، ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں۔

تیسری چیز ”نہی“ ہے، اس کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا خواہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے، اس میں ظلم و زیادتی، قطع رحمی سب داخل ہیں، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی اور نہی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (آخرت کے علاوہ) دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ (الآیۃ) یہاں تین قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر کے ان کے پابندی کا حکم دیا گیا ہے ① ایک وہ عہد جو انسان نے خدا کے ساتھ باندھا ہو، اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے، ② دوسرا وہ عہد جو ایک انسان نے دوسرے انسان سے یا ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کیا ہو اور اس پر اللہ کی قسم کھائی ہو، یا کسی نہ کسی طرح اللہ کا نام لے کر اپنے قول کی پختگی کا یقین دلایا ہو، یہ عہد دوسرے درجہ کی اہمیت رکھتا ہے، ③ تیسرا وہ عہد و پیمان ہے کہ اللہ کا نام درمیان میں لائے بغیر کیا گیا ہو یہ تیسرے درجہ کا عہد ہے اور اس کی اہمیت پہلے دو کے بعد ہے، لیکن پابندی ان سب کی ضروری ہے، خلاف ورزی ان میں سے کسی کی بھی روا نہیں۔

## عہد شکنی حرام ہے:

لفظ ”عہد“ ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جس کا زبان سے یا تحریر سے التزام کیا جائے خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے۔ یہ آیات درحقیقت آیت سابقہ کی تشریح و تکمیل ہیں آیت سابقہ میں عدل کا حکم تھا لفظ کے مفہوم میں ایفاء عہد بھی داخل ہے۔ (قرطبی)

کسی سے معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں بلکہ آخرت کا مواخذہ ہے، حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔

لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقِضُوا عَهْدَهُمْ (الآیۃ) اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ عہد شکنی کی اس بدترین قسم پر ملامت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھکر موجب فساد ہوتی ہے اور جسے بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی کارِ ثواب سمجھ کر کرتے اور اپنی قوم سے داد لیتے ہیں قوموں اور گروہوں کی سیاسی، معاشی اور مذہبی کشمکش میں یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں محض اپنے قومی مفاد کی خاطر یا تو اسے علانیہ توڑ دیتا ہے یا درپردہ اس کی خلاف ورزی کر کے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یہ حرکتیں ایسے لوگ بھی کر گزرتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے راست باز ہوتے ہیں اور اس قسم کی چال بازیوں کو ڈپلومیسی (سیاست) کا کمال سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرماتا ہے ہر معاہدہ دراصل معاہدہ کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق و دیانت کی آزمائش ہے اور جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مواخذہ سے بچ نہ سکیں گے۔

## کسی کو دھوکا دینے کے لئے قسم کھانے میں سلبِ ایمان کا خطرہ ہے:

لا تَتَّخِذُوا اِيْمَانَكُمْ دَخَلًا، اس آیت میں ایک اور عظیم گناہ سے بچانے کی ہدایت ہے وہ یہ کہ قسم کھاتے وقت ہی سے اس قسم کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو اور صرف مخاطب کو فریب دینے کے لئے قسم کھائی جائے، یہ قسم عام قسموں سے زیادہ خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجے میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہو جائے فتزل قدم بعد ثبوتها، کا یہی مطلب ہے (معارف)

## رشوت لینا سخت حرام اور اللہ سے عہد شکنی ہے:

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، یعنی اللہ کے عہد کو قلیل قیمت کے لئے نہ توڑو یہاں قلیل قیمت سے مراد دنیا اور دنیوی منافع ہیں یہ مقدار میں خواہ کتنے ہی بڑے ہوں آخرت کے منافع کے مقابلہ میں پوری دنیا اور اس کی تمام دولتیں بھی قلیل



ہیں، جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے نہایت خسارے کا سودا کیا، اسلئے کہ دائمی نعمت و دولت کو بہت جلد فنا ہونے والی گھٹیا چیز کے عوض بیچ ڈالا، اور یہ کام کوئی سمجھدار شخص نہیں کر سکتا۔

ابن عطیہ نے لکھا ہے کہ جس کام کا پورا کرنا کسی شخص کے ذمہ واجب ہو اللہ کا عہد اس کے ذمہ ہے اس کے پورا کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا اور بغیر لئے نہ کرنا اللہ کا عہد توڑنا ہے، اسی طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمہ واجب ہو اس پر کسی سے معاوضہ لے کر اس کو کرنا یہ بھی اللہ کا عہد توڑنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ قسمیں سب حرام ہیں، جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تو تنخواہ حکومت سے پاتا ہے تو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ تنخواہ لے کر مفوضہ خدمت پوری کروں گا، اب اگر وہ اس کام کے کرنے پر معاوضہ طلب کرے اور بغیر معاوضہ اس کام کو نہ کرے یا معمول سے تاخیر کرے تو یہ اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، اسی طرح جس کام کا اس کو محکمہ کی طرف سے اختیار نہیں اس کو رشوت لے کر کر ڈالنا بھی اللہ سے عہد شکنی ہے۔

## رشوت کی جامع تعریف:

اخذ الاموال علی فعل ما یجب علی الاخذ فعله او فعل ما یجب علیہ ترکہ۔  
یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا اور جس کام کا نہ کرنا واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے۔  
(تفسیر بحر محیط ص ۵۲۳ ج ۵)

فلنحییہ حیوة طیبہ، حیات طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے اسلئے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک مومن با کردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جولذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک گونہ قلق و اضطراب کا شکار رہتا ہے، (ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا) جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہے۔

فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم۔

## رابط آیات:

سابقہ آیت میں اول ایفاء عہد کی تاکید تھی اب مطلقاً اعمال صالحہ کی تاکید و ترغیب کا بیان ہے انسان کی احکام میں غفلت اغواء شیطانی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے آیت میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی ضرورت ہی نیک عمل میں ہے یہاں اگرچہ خاص طور پر قراءت قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس تخصیص کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے

جس سے خود شیطان بھاگتا ہے، اور بعض خاص آیات اور سورتیں بالخاصہ شیطان کے اثرات زائل کرنے کے لئے مجرب ہیں جن کا موثر و مفید ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے۔  
(بیان القرآن)

مَسْئَلَةٌ: نماز میں تعوذ امام ابوحنیفہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے، امام شافعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔

مَسْئَلَةٌ: تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے مگر شروع میں ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے، البتہ تلاوت کے درمیان اگر تلاوت موقوف کر کے کسی اور کام میں لگ گیا اور پھر تلاوت شروع کی تو اس وقت اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنی چاہئے۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ بَنَسَخْنَاهَا وَأَنزَلْنَا غَيْرَهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا أَيْ الْكُفَّارِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ كَذَابٌ تَقُولُهُ مِنْ عِنْدِكَ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ حَقِيقَةُ الْقُرْآنِ وَفَائِدَةُ النِّسْخِ قُلْ لَهُمْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ بمتعلق بنزل لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا بِإِيمَانِهِمْ بِهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ لِمُتَحَقِّقٍ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنُ بُشْرًا وَهُوَ قَيْنٌ نَصْرَانِيٌّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى لِسَانُ لُغَةِ الَّذِي يُدْحِدُونَ يَمِيلُونَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا الْقُرْآنُ لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ ذَوِيانِ وَفَصَاحَةٌ فَكَيْفَ يُعَلِّمُهُ أَعْجَمِيٌّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ مَوْلَاهُمْ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِمْ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْبَشَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ ۱۵ ۝ وَالتَّكْيِيدُ بِالتَّكْرَارِ وَإِنْ وَغَيْرِهَا رَدُّ لِقَوْلِهِمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ عَلَى التَّلْفُظِ بِالْكَفْرِ فَتَلَفُظَ بِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَمَنْ مَبْتَدَأَ أَوْ شَرَطِيَّةً وَالْخَبْرُ أَوَ الْجَوَابُ لَهُمْ وَعَيْدٌ شَدِيدٌ دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا لَهُ أَيْ فَتَحَهُ وَوَسَّعَهُ بِمَعْنَى طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۶ ۝ ذَلِكَ الْوَعْدُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اخْتَارُوا بِهَا عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ ۱۷ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ ۱۸ ۝ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ لِأَجْرَمَ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝ ۱۹ ۝ لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوا عُذِّبُوا وَتَلَفَّظُوا بِالْكَفْرِ وَفِي قِرَاءَةِ الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ كَفَرُوا أَوْ فَتَنُوا النَّاسَ عَنِ الْإِيْمَانِ ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ۚ عَلَى الطَّاعَةِ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا أَيْ الْفِتْنَةِ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۲۰ ۝ بِهِمْ وَخَبَرُ أَنَّ الْأَوَّلَى دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الثَّانِيَةِ.



**تَرْجُمَہ:** اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت بندوں کی مصلحت کیلئے نازل کرتے

ہیں اور جو کچھ اللہ نازل کرتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو کفار نبی ﷺ سے کہتے ہیں تم تو افتر پرداز ہو جھوٹے ہو، قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہو، (ایسا نہیں ہے) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قرآن کی حقیقت اور نسخ کے فائدہ سے واقف نہیں ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کو جبریل آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں (بالحق) نَزَّلَ کے متعلق ہے تاکہ اہل ایمان کو اس کے ذریعہ ایمان پر ثابت رکھے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہو، ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر کہتے ہیں اسے تو قرآن ایک شخص سکھاتا ہے (لقد) تحقیق کے لئے ہے اور وہ ایک نصرانی لوہار ہے، نبی ﷺ اس کے پاس جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کی زبان کہ جس کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں ان کو سکھاتا ہے، سچی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے جو بلیغ و فصیح ہے تو (بھلا) اس کو ایک عجمی (غیر عربی) کیسے سکھا سکتا ہے؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں (قرآن) پر ایمان نہیں رکھتے ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ یہ تو انسانی کلام ہے، درحقیقت جھوٹے یہی لوگ ہیں، اور تکرار اور ان کے ذریعہ تاکید ان کے قول ”انما انت مفتبر“ کو رد کرنے کے لئے ہے اور جو شخص ایمان کے بعد اللہ کا منکر ہوا، تو ان کے لئے شدید وعید ہے البتہ وہ شخص اس سے مستثنیٰ ہے کہ جس کو کفر یہ کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے زبان سے کفر یہ کلمہ کہہ بھی دیا حال یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور مَنْ مبتداء یا شرطیہ ہے اور خبر یا جواب، لَہُمْ وَعِیدٌ شَدِیدٌ ہے، جس کے (حذف پر) یہ آیت علیہم غضب من اللہ الخ دلالت کر رہی ہے لیکن جو لوگ شرح صدر کے ساتھ کفر کے مرتکب ہوں (یعنی) کھلے دل اور وسعت قلبی کے ساتھ کفر اختیار کریں، یعنی کفر سے ان کا دل خوش ہو تو ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کے لئے اللہ کا بڑا عذاب ہے ان کے لئے عذاب کی یہ وعید اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کیا ہے، یعنی اس کو اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں فرماتا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور جو ان سے مقصود ہے اس سے یہی لوگ غافل ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ یہی لوگ آخرت میں دائمی آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے خسارہ میں ہیں، پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بعد اس کے کہ وہ ستائے گئے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے کے بعد، اور ایک قراءت میں (فَتَنُوا) صیغہ معروف کے ساتھ ہے یعنی مشرکین نے کفر کرنے اور لوگوں کو ایمان سے روکنے کے بعد پھر انہوں نے جہاد کیا اور طاعت پر صبر کیا بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کو معاف کرنے والا ان پر رحم کرنے والا ہے اور پہلے ان کی خبر (مخدوف) ہے جس پر ان کی خبر دلالت کر رہی ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: اِذَا، شرطیہ ہے، قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ، جواب شرط ہے۔

قَوْلٌ: وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ، شرط و جزاء کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

قَوْلٌ: رُوحُ الْقُدُسِ یہ اضافت موصوف الی الصفت ہے ای الروح المقدس، القدس کے دال پر ضمہ اور سکون دونوں جائز ہیں۔

قَوْلٌ: مُتَعَلِّقٌ بِنَزْلِ یعنی متلبساً سے متعلق ہو کر نزلہ کی ضمیر مفعولی سے حال ہے، ای نزلہ متلبساً بالحق۔

قَوْلٌ: هُدًى وَبَشْرًى۔

سُئِلَ: اِنْ كَا عَطْفٌ لِّیَثْبَتَ پَر ہے، حالانكہ یہ عطف درست نہیں ہے اسلئے كہ یہ دونوں معطوف علیہ كے ساتھ نہ اعراب میں متحد ہیں اور نہ علت میں حالانكہ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔

جَوَابٌ: هُدًى اور بشرى كے عطف لیسبت كے محل پر ہے، لیسبت میں لام تعلیلیہ ہے جس كے بعد اُن مصدر یہ مقدر ہے جس كی وجہ سے مضارع مصدر كے معنی میں ہے یثبت كے اندر ہو ضمیر فاعل ہے جس كا مرجع قرآن ہے، اور لیسبت مفعول لاجلہ ہونے كی وجہ سے محلاً منصوب ہے، اور هُدًى اور بشرى دونوں مصدر ہیں جن كا عطف لیسبت كے محل پر ہے ای تشبیہاً و ہدایۃ و بشارۃ لہذا اب عدم مطابقت كا اعتراض نہیں۔

قَوْلٌ: لِّلْتَحْقِیْقِ، یہ اس سوال كا جواب ہے كہ قَدْ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو عموماً تقلیل كے لئے ہوتا ہے حالانكہ یہاں تقلیل كے معنی نہ تولنعلم سے میل كھاتے ہیں اور نہ شان باری كے مناسب ہیں، جواب كا حاصل یہ ہے كہ قَدْ یہاں تحقیق كے لئے ہے، لَقَدْ میں لام قسمیہ ہے۔

قَوْلٌ: قَيْنٌ، آہنگر، نوہار، (جمع) قُیُونٌ واقیان۔

قَوْلٌ: يَمِيلُونَ اِلَيْهِ اِی یشیرون الیہ۔

قَوْلٌ: اَعْجَمِیٌّ، جو فصیح اللسان نہ ہو اگر چہ عربی ہو، اور عجمی، منسوب الی العجم، جو لغت عرب سے واقف نہ ہو اگر چہ فصیح ہو۔

قَوْلٌ: وَالتَّكْرَارُ وَاِنَّ وَغیرہما چونكہ كفار مكہ نے متعدد تأكیدات كے ساتھ، اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ، كہتے ہوئے نزول قرآن كا انكار كیا تھا، ان كا جواب بھی متعدد تأكیدات كے ساتھ دیا گیا ہے، اول تكرار سے مراد اِنَّ الذین لَا یؤمنون كا تكرار ہے اور اِنَّ كا تكرار ہے اور غیرہما سے مراد ضمیر فصل ہے اور تعریف مسند اور جملہ كا اسمیہ ہونا ہے، لہذا ظاہر نظر میں تكذیب كا حصر جو قریش میں معلوم ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔

قَوْلٌ: مَنْ مَبْتَدَأُ او شرطیۃ، مَنْ كُفِرَ بِاللّٰهِ كے مَنْ میں دو احتمال ہیں ایک یہ كہ مَنْ موصولہ مبتدا ہونہ كے الذین لَا



یؤمنون بآیات اللہ سے بدل، اس لئے کہ بدل اور مبدل منہ کے درمیان فصل بالاجنبی جائز نہیں ہے اور یہاں ”اولئک ہم الکافرون“ کا فصل موجود ہے، مَنْ کو موصولہ مبتداء ماننے کی صورت میں کفر اس کا صلہ ہوگا اور موصول صلہ سے مل کر مبتداء ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی اور وہ لَہُمْ وَعَیْدٌ شَدِیْدٌ ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مَنْ شرطیہ ہو اور جزاء مقدر ہو اور وہ لَہُمْ وَعَیْدٌ شَدِیْدٌ ہے، جیسا کہ علامہ سیوطی نے ظاہر کر دیا ہے، اور دال بر حذف آئندہ جملہ، فَعَلِیْہِم غَضَبٌ مِنَ اللّٰہِ، یَا وَلَہُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ، ہے۔

قَوْلٌ: صَدْرًا لَّہُ، لَہُ کا اضافہ اس شبہ کا جواب ہے کہ شَرَح کا صلہ باء نہیں آتا حالانکہ یہاں بالكفر میں باء صلہ واقع ہو رہا ہے، جواب یہ ہے کہ باء بمعنی لام ہے۔

قَوْلٌ: بِمَعْنٰی طَابَتْ یہ اس شبہ کا جواب ہے یہاں فتحہ کے کوئی معنی نہیں ہیں، جواب یہ ہے کہ فتحہ بمعنی طاب ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ صَدْرًا، مفعول سے منقول ہو کر تمیز واقع ہے۔

قَوْلٌ: اخْتَارُوہَا، یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ استحبوا کا صلہ علی نہیں آتا حالانکہ یہاں علی صلہ واقع ہو رہا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ استحبوا، اختاروا کے معنی میں ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلٌ: وَفِی قِرَاءَةِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، یعنی فتنوا میں دو قراءتیں ہیں مجھول اور معروف، مجھول ہونے کی صورت میں مہاجرین نائب فاعل ہوں گے اور کفروا کے فاعل بھی اور معروف کی صورت دونوں فعلوں کے فاعل کفار ہوں گے، یعنی مشرکین نے کفر کیا اور لوگوں کو ایمان سے روکا۔

قَوْلٌ: خَبَرَ اِنَّ الْاُولٰی الْاٰخِرَ یعنی پہلے اِنَّ کی خبر کو حذف کر دیا گیا ہے اس لئے اِنَّ ثانیہ کی خبر حذف خبر پر دال ہے۔

## تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

### رَبط آیات:

سابقہ آیت میں بوقت تلاوت اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم تھا اس لئے کہ تلاوت قرآن کے وقت شیطان مختلف قسم کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، اس آیت میں شیطان کے مختلف وسوسوں کا ذکر اور ان کا جواب ہے۔

### نبوت پر کفار کے شبہات کا جواب مع تہدید:

ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھیجنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک آیت کے لفظ یا معنی منسوخ کر کے دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں حالانکہ جو حکم اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بھیجتا ہے اس کی مصلحت اور حکمت وہی

خوب جانتا ہے کہ جن کو یہ حکم دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مصلحت کچھ تھی پھر حالات بدل جانے سے مصلحت اور حکمت دوسری ہو گئی تو یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ آپ افترا کرتے ہیں کہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ورنہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی کیا اللہ کو پہلے حالات بدلنے کا علم نہ تھا یا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ایسا حکم بھیجے جو ہر حال میں اور ہر زمان میں قابل عمل ہو، یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات تمام حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے اور دوسری حالت پیش آنے کا اگرچہ اس کو علم ہوتا ہے مگر بتقاضائے مصلحت اس دوسری حالت کا حکم اس وقت بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ جب وہ حالت پیش آ جاتی ہے اس وقت بیان کیا جاتا ہے جیسے طبیب یا ڈاکٹر ایک وقت ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے استعمال سے حالت بدلے گی اور اس وقت دوسری دوا دی جائے گی، مگر مریض کو ابتداءً سب تفصیل نہیں بتاتا، یہی حقیقت نسخ احکام کی ہے جو قرآن و سنت میں ہوتا ہے جو حقیقت سے واقف نہیں وہ باغواء شیطانی نسخ کا انکار کرنے لگتے ہیں، اسی لئے اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ مفتری نہیں ہے بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں کہ نسخ کو بلا دلیل کلام الہی ہونے کے خلاف سمجھتے ہیں۔

البتہ جو لوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں علاوہ ازیں نسخ کے مصالح جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثبات قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی سی ہے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خار و خس کے سوا کچھ نہیں اگتا، مومن کا دل طاہر اور شفاف ہوتا ہے جو قرآن کی برکت اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور کافروں کا دل زمین شور کی طرح ہوتا ہے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے جہاں قرآن کی ضیا پاشیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ محمد ﷺ کو فلاں شخص سکھاتا ہے اور محمد اس کلام کو خدا کی طرف منسوب کر کے خدائی کلام کہتے ہیں ایک روایت میں اس کا نام جبر بیان کیا گیا ہے جو عامر بن الحضرمی کا ایک رومی غلام تھا دوسری روایت میں حویطب بن عبد العزیٰ کے ایک غلام کا نام آیا ہے جسے عائشہ یا عیشہ کہتے تھے، ایک اور روایت میں یسار کا نام لیا گیا ہے جس کی کنیت ابو فکیہہ تھی جو مکہ کی ایک عورت کا یہودی غلام تھا، اور ایک روایت میں بلعان یا بلعام نامی ایک رومی غلام کا ذکر ہے، بہر حال ان میں سے جو بھی ہو، کفار مکہ نے محض یہ دیکھ کر کہ ایک شخص توراۃ و انجیل پڑھتا ہے اور محمد ﷺ کی اس سے ملاقات اور دید شنید ہے بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو دراصل وہ تصنیف کر رہا ہے اور محمد ﷺ اسے اپنی طرف سے خدا کا نام لے کر پیش کر رہے ہیں، اس سے نہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مخالفین آپ کے خلاف افتراء پردازیاں کرنے میں کس قدر بے باک تھے، بلکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے ہم عصروں کی قدر و قیمت پہچاننے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔

ان کے لوگوں کے سامنے تاریخ انسانی کی ایک عظیم شخصیت تھی جس کی نظیر نہ اس وقت دنیا بھر میں کہیں تھی اور نہ آج تک پائی



گئی، مگر ان عقل کے اندھوں کو اس کے مقابلہ میں ایک عجبی غلام، جو کچھ توراۃ، انجیل پڑھ لیتا تھا بہت قابل نظر آ رہا تھا۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ (الآیۃ) اس آیت میں ان مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک نہ ایک دست ستم سے زخم خوردہ ہو کر نہ آتا ہو، اور انھیں ناقابل برداشت اذیتیں دے کر کفر پر مجبور نہ کیا جاتا ہو، انھیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کیلئے کلمہ کفر زبان سے ادا کرو اور تمہارا دل عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائیگا، لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچالو، خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہہ دینا چاہئے، بلکہ صرف رخصت ہے البتہ مقام عزیمت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم تکابوٹی کر ڈالا جائے مگر وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے دونوں قسم کی نظیریں آپ ﷺ کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہیں، ایک طرف خباب بن ارت ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے، دوسرے بلال حبشی ہیں جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھیٹا جاتا تھا مگر وہ ”احد احد“ ہی کہتے رہتے تھے، ان ہی مظلوم و مجبور لوگوں میں حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لیں مگر وہ ہر مرتبہ اس کے دعوائے رسالت کی تصدیق سے انکار کرتے تھے یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے جان دیدی اور دوسری طرف عمار بن یاسر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے کر شہید کر دیا گیا پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت تکلیفیں دی گئیں کہ آخر کار انہوں نے جان بچانے کے لئے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے پھر وہ روتے ہوئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ما تُرِکْتُ حَتّٰی سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ اِلٰهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، یا رسول مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا ”کیف تجد قلبک“ اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو عرض کیا ”مطمئنًا بالایمان“ ایمان پر پوری طرح مطمئن اس پر حضور نے فرمایا ”ان عادوا فعد“ اگر وہ پھر اس طرح ظلم کریں تو پھر وہی باتیں کہہ دینا۔

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِیْنَ هَاجَرُوْا (الآیۃ) یہ مکہ کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے بالآخر ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تو اپنے خویش و اقارب، وطن مالوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے، پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی ہوئی تو مردانہ وار جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور اس کی راہ کی شدتوں اور تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لئے غفور رحیم ہے۔

سُؤَال: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ نحل مکی ہے پھر اس میں ہجرت و جہاد کا ذکر کیسا، اس کا کیا مطلب ہے؟

جَوَاب: اول تو ابن عطیہ کی روایت کے مطابق یہ آیت مدنی ہے لہذا کوئی اعتراض نہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہجرت سے مراد

ہجرت حبشہ ہے اس صورت میں بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، تیسرا جواب یہ ہے کہ صیغہ ماضی کے ذریعہ اخبار مستقبل کی مثالیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔

اَذْكُرْ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ تُحَاجُّ عَنْ نَفْسِهَا لَا يَهْمُهَا غَيْرُهَا وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَتُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِجَزَاءِ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ شَيْئًا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَيُبَدِّلُ مِنْهُ قَرْيَةً هِيَ مَكَّةُ وَالْمَرَادُ اِهْلُهَا كَانَتْ اَمْنَةً مِنَ الْغَارَاتِ لَا تَهَاجُ مُطْمَئِنَّةً لَا تَحْتَاجُ اِلَى الْاَنْتِقَالِ عَنْهَا لِضَيْقِ اَوْخُوفٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا وَاِسْعًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعَمِ اللّٰهِ بِتَكْذِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْقَهَا اللّٰهُ لِبَاسِ الْجُوعِ فَقُحِطُوا سَبْعَ سِنِينَ وَالْخَوْفِ بِسَرَايَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ الْعَذَابُ الْجُوعُ وَالْخَوْفُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ فَكُلُوا مِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۳۴﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اَهْلٌ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۵﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنَتُكُمْ اِى لَوْصِفِ السِّنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِمَالِمْ يُحِلُّهُ اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ بِنَسْبَتِهِ ذَلِكَ اِلَيْهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۳۶﴾ لَهُمْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿۱۳۷﴾ وَمُؤْمِنٌ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا اِى الْيَهُودُ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ فِى اِيَةِ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفْرِ اِلَى اٰخِرِهَا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۳۸﴾ بَارْتِكَابِ الْمَعَاصِى الْمُوجِبَةِ لِذَلِكَ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشُّوْءَ الشَّرَّ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا رَجَعُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا عَمَلَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا اِى الْجَهَالَةِ اَوْ التَّوْبَةِ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ بِهِمْ

**تَرْجُمہ:** اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے ہی لئے دلیل و حجت کرتا ہوا آئیگا، اسے کسی دوسرے کا کچھ غم نہ ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائیگا اور ان پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائیگا اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں قریۃً، مثلاً سے بدل ہے (اور) وہ بستی مکہ ہے اور مراد مکہ کے رہنے والے ہیں، کہ وہ تاخت و تاراج سے مامون و مطمئن تھے، کسی تنگی یا خوف کی وجہ سے ان کو وہاں سے منتقل ہونے کی ضرورت نہیں تھی اس بستی والوں کا رزق با فراغت ہر جگہ سے چلا آرہا تھا پھر انہوں نے آپ ﷺ کی تکذیب کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا محیط عذاب کہ سات سال تک قحط میں مبتلا کئے گئے اور آپ ﷺ کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب کچھ ان کے



کرتو توں کی وجہ سے ہوا، ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول محمد ﷺ پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا تو انھیں بھوک اور خوف کے عذاب نے آدبوچا، اور وہ تھے ہی ظالم اے ایمان والو اللہ نے جو تمہیں حلال طیب روزی دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کیا گیا ہے پھر جو شخص (فاقہ کی وجہ سے) بالکل ہی بے قرار ہو جائے بشرطیکہ طالب لذت نہ ہو اور نہ (حد) ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو (تو ان کے اس کھانے کو) اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور کسی چیز کو جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے جھوٹ موٹ نہ کہد یا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اسلئے کہ اللہ نے نہ اس کو حلال کیا ہے اور نہ اس کو حرام کہ اس (حلت و حرمت) کی نسبت اس کی طرف کر کے اللہ پر بہتان بازی کرو، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے ان کے لئے دنیا میں چند روزہ عیش ہے اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم آپ سے اس سے پہلے کر چکے ہیں ”وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ“ (الی آخر الآیۃ) میں یعنی ہم نے یہودیوں پر ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا تھا، ان چیزوں کو حرام کر کے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان معاصی کا ارتکاب کر کے جو اس سزا کی موجب تھیں خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے نادانی کی وجہ سے شرک کیا پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو آپ کا رب (ان کی) جہالت یا توبہ کے بعد بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

## تَحْقِيقُ تَرْكِيْبِ تَسْبِيْلٍ وَ تَفْسِيْرِ فَوَائِدِ

**قَوْلُهُ: تَحَاجٌّ**، تَجَادُل کا صلہ چونکہ عن نہیں آتا اسلئے مفسر علام نے اشارہ کر دیا کہ تَجَادُلُ، تَحَاجُّ کے معنی میں ہے۔  
**قَوْلُهُ: لَا يَهْمُهَا غَيْرُهَا**، یعنی کسی کو کسی کا کوئی غم نہ ہوگا، بلکہ ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔  
**قَوْلُهُ: جَزَاءُ** اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ توفی عمل کے کوئی معنی نہیں ہیں چونکہ اعراض کا انتقال نہیں ہوا کرتا۔

**قَوْلُهُ: لَا تَهَاجُ**، یہ اَهَاجُ الغبار سے ماخوذ ہے یعنی غبار اڑایا، (اور فارسی میں) بمعنی تاراج شد۔

**قَوْلُهُ: لِبَاسِ الْجُوعِ**، بھوک اور خوف کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دونوں میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح بھوک اور خوف جسم انسانی کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس لئے کہ ان دونوں کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے اسی طرح لباس بھی پورے جسم کو گھیر لیتا ہے اسی وجہ سے بھوک اور خوف کے اثر کو لباس سے تشبیہ دی ہے، اور ادراک کو چکھنے سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ چکھنے سے بھی بعض چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔

قَوْلًا: لو صف السنتکم اس میں اشارہ ہے کہ لما تصف میں ما، مصدر یہ ہے۔

قَوْلًا: الکذب، لا تقولوا کی وجہ سے منصوب ہے۔

قَوْلًا: هذا حلال وهذا حرام یہ الکذب سے بدل ہے۔

قَوْلًا: لَهُمْ، متاع، متاعٌ قليل مبتداء مؤخر اور لَهُمْ خبر مقدم ہے۔

سُؤَال: یوم تاتى کل نفس تجادل عن نفسها، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عن نفسها میں نفس کی اضافت نفس کی جانب ہو رہی ہے حالانکہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تغایر ضروری ہے ورنہ تو اضافه الشیء الی نفسہ لازم آئے گی۔

جَوَاب: اول نفس سے پورا جسم انسانی مراد ہے اور ثانی نفس سے ذات عبارت ہے کل انسان يجادل عن ذاته ولا يهم غیرها، مجادلة کے معنی عذر خواہی کے ہیں۔

## تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

یوم تاتى کل نفس تجادل عن نفسها، یعنی ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا اس وقت نہ کوئی کسی کی حمایت کرے گا اور نہ سفارش بلکہ آپس میں تعارف اور جان پہچان اور نسبی و صہری رشتہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے، بیٹے ماں باپ سے، شوہر بیوی سے بھاگے گا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ ہر شخص کو اس دن اپنی پڑی ہوگی، وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْیَةً الْخِ اکثر مفسرین اس قریہ سے مراد مکہ لیا ہے یعنی اس میں اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لئے یہ بددعا فرمائی اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلٰی مُضَرَ واجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، (بخاری شریف) اے اللہ مضر قبیلہ پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قحط سالی مسلط فرما جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر میں ہوئی تھی، چنانچہ اللہ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں، درختوں کے پتے کھانے پڑے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں کا یہ حال ہوگا وہ جہاں بھی ہوں، نزول کا سبب اگر خاص بھی ہو تب بھی جمہور مفسرین کو عموم سے انکار نہیں، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔

انما حرّم علیکم المیتة والدّم ولحم الخنزیر وما اھلّ لغير اللّٰہ بہ الخ یہ آیت اس سے پہلے تین مرتبہ گذر چکی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں، یہ چوتھا مقام ہے اس میں لفظ انما حصر کے لئے ہے لیکن یہ



حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کے مطابق حصر لایا گیا ہے ورنہ دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں، البتہ ان آیات سے واضح ہے کہ ان میں جن چار محرّمات کا ذکر ہے ان سے مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔

وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو جانور غیر اللہ کے نام زد کر دیا جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لئے اسے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے جس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود تو غیر اللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذبح اللہ کے نام پر ہی کیا جائے جیسا کہ بعض جاہل، جانور کو بزرگوں کے لئے نام زد کرتے ہیں مثلاً یہ کہ یہ فلاں پیر کا بکرا ہے یہ بکرا گیارہویں شریف کا ہے وغیرہ وغیرہ اور ان کو وہ بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں، اس لئے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن یہ دوسری صورت حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، حالانکہ فقہاء نے اس صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لئے کہ یہ ”مَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ میں داخل ہے چنانچہ حاشیہ بیضاوی میں ہے، ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے اگرچہ ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو، اس لئے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائیگا، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا درمختار میں ہے کسی حاکم یا کسی بڑے کی آمد پر (حسن خلق یا شرعی ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضا مندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہوگا، اس لئے وہ ”مَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ میں داخل ہے اگرچہ بوقت ذبح اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو، اور علامہ شامی نے اس کی تائید کی ہے (کتاب الذبائح)، البتہ بعض فقہاء اس دوسری صورت کو ”وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ کا مدلول نہیں مانتے اور اشتراک علت (تقرب بغیر اللہ) کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہیں گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں صرف استدلال کے طریقہ میں اختلاف ہے باقی تفصیل سورہ مائدہ میں ”وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً جَامِعًا لِّخَصَالِ الْخَيْرِ قَانِتًا سَطِيعًا لِلَّهِ حَنِيفًا سَائِلًا إِلَى الدِّينِ الْقِيمِ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ إِجْتَبَاهُ اصْطَفَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ فِيهِ الْتِفَافٌ عَنِ الْغَيْبَةِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ بِسَى الثَّنَاءِ الْحَسَنُ فِي كُلِّ أَهْلِ الْإِدْيَانِ ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۚ الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ دِينِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ كُرِّرَ رَدًّا عَلَى زَعَمِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنَّهُمْ عَلَى دِينِهِ ۖ إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ فُرْصَ تَعْظِيمِهِ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى نَبِيِّهِمْ وَهُمْ الْيَهُودُ أَمَرُوا أَنْ يَتَفَرَّغُوا لِلْعِبَادَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالُوا لَا نُرِيدُهِ وَاخْتَارُوا وَالسَّبْتَ فَشَدَّ عَلَيْهِمْ

فیه **وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ** (۱۶۲) من امرہ بآن یُثِيبُ الطَّائِعَ وَيُعَذِّبُ الْعَاصِيَ بَانْتِهَالِ حَرَمَتِهِ **أَدْعُ النَّاسَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ** دینہ **بِالْحِكْمَةِ** بالقران **وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** مواعظہ او القول الرفیق **وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي** ای بالمجادلۃ الَّتِي **هِيَ أَحْسَنُ** کالدعاء الی اللہ بآیاتہ والدعاء الی حُجَجِهِ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ** ای عَالِمٌ **بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** (۱۶۵) فَيُجَازِيهِمْ وَبِذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ وَنَزَلَ لِمَا قُتِلَ حَمْزَةُ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْرَاهُ لَامُثْلُنَ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ** عن الانتقام **لَهُوَ** ای الصبر **خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ** (۱۶۶) فَكَفَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ رَوَاهُ الْبَزَّازُ **وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ** بتوفيقہ **وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ** ای الْكَفَّارِ **إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْحَرِيصِ عَلَى إِيْمَانِهِمْ** **وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ** (۱۶۷) ای لَا تَهْتَمُّ بِمَكْرِهُمْ فَإِنَّا نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** (۱۶۸) بِالطَّاعَةِ وَالصَّبْرِ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ.

## ترجمہ:

بے شک ابراہیم علیہ السلام امام، پیشوا تھے کہ جو تمام اچھی خصلتوں کے جامع تھے اللہ کے فرمانبردار دین قیم کی طرف رخ کرنے والے تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا تھا اور انھیں راہ راست سمجھا دی تھی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور ہر مذہب (ملت) کے لوگوں میں ان کا ذکر جمیل ہے، اس میں غیبت سے (تکلم) کی جانب التفات ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے ایسے لوگوں میں کہ ان کے لئے بلند درجات ہوں گے پھر اے محمد ﷺ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے اس آیت کو یہود و نصاریٰ کے اس دعوے کو رد کرنے کے لئے مکرر لایا گیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں ہفتہ کے دن کی عظمت ان ہی لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اپنے نبی سے اختلاف کیا تھا اور وہ یہود ہیں، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کے لئے جمعہ کے دن فارغ رہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کا ارادہ نہیں رکھتے (یعنی ہم اس کو پسند نہیں کرتے) اور انہوں نے ہفتہ کے دن کو پسند کر لیا، تو اللہ نے ہفتہ کے دن میں سختی فرمائی، اور یقیناً آپ کا رب جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے روز اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا اس طریقہ پر کہ فرمانبردار کو ثواب دے گا، اور یوم السبت کی بے حرمتی کر کے نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دیگا اے محمد ﷺ آپ لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف حکمت (یعنی) قرآن کے ذریعہ اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ دعوت دیجئے یا نرم گفتاری کے ساتھ دعوت دیجئے، اور ان سے بہتر طریقہ سے بحث کیجئے مثلاً اللہ کی آیات کے ذریعہ اللہ کی



طرف بلانا اور اس کے دلائل کی طرف دعوت دینا، یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی بخوبی واقف ہے لہذا وہ ان کو سزا دے گا، اور یہ حکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور (آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی جب حضرت حمزہ قتل کر دیئے گئے اور ان کو مسخ کر دیا گیا، تو آپ ﷺ نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ میں ان کے بدلے میں ان کے ستر آدمیوں کو ضرور مثلہ (مسخ) کروں گا، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا تمہیں صدمہ پہنچا ہے اور اگر تم انتقام سے صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے چنانچہ آپ ﷺ اپنے ارادہ سے رک گئے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا (رواہ البزار) آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور آپ کے ان کے ایمان کے بارے میں شدید حریص ہونے کی وجہ سے اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ غم زدہ نہ ہوں اور ان کے مکر سے آپ تنگدل نہ ہوں یعنی ان کے مکر سے رنجیدہ نہ ہوں اسلئے کہ ہم یقیناً ان کے مقابلہ میں آپ کے مددگار ہیں بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کفر و معاصی سے بچتے ہیں اور مدد و نصرت کے ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو طاعت و صبر کے ذریعہ نیکو کار ہیں۔

## تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْ تَسْہِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: اُمَّة، لفظ اُمَّة کے بارے میں مفسرین سے متعدد اقوال منقول ہیں، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اُمَّة کا اطلاق کیا گیا ہے، یا تو اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا صفات کمالیہ کے جامع ہونے کے اعتبار سے ایک امت کے قائم مقام تھے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

لیس من اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد

دوسری وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے زمانہ میں تنہا مومن تھے باقی سب کفار تھے اسی وجہ سے آپ کو امت کہا گیا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اُمَّة بمعنی مأموم یعنی مقتداء و امام جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“ مذکورہ تینوں وجوہوں کی روشنی میں یہ اعتراف ختم ہو گیا کہ اُمَّة کا اطلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درست نہیں ہے اسلئے کہ حضرت ابراہیم واحد تھے اور امت کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔

قَوْلًا: اجتباہ، ای للنبوة.

قَوْلًا: فَرِضَ، اس میں اشارہ ہے کہ جُعِلَ بمعنی فَرِضَ ہے۔

قَوْلًا: تعظیمہ، اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے، اسلئے کہ فرض کا تعلق فعل سے ہوتا ہے نہ کہ اشیاء اور ازمان سے

اور سبت زمان ہے۔

قَوْلًا: القول الرفیق، رفیق، رفیق سے ماخوذ ہے اس کے معنی نرمی اور سہولت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ دین کی دعوت نرم گفتاری، شیریں بیانی سے دیجئے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

### رَبط آیات:

سابقہ آیات میں اصول شرک و کفر یعنی انکار تو حید و رسالت پر رد اور حلت و حرمت کے بعض فروعی احکام کا ذکر تھا، مشرکین مکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے اپنے کفر و بت پرستی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملتِ ابراہیمی کے پابند ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کی تعلیمات ہیں، اس لئے ان مذکورہ چار آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے۔

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً، یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک امت تھا، جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام کا علمبردار تھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علمبردار تھی اس اکیلے بندہ خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ پوری ایک امت تھا۔

حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کے مقتداء ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذاہب کے لوگ سب آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ کی اتباع کو عزت اور فخر جانتے ہیں، یہود ”نصاری“ مسلمان تو ان کی تعظیم کرتے ہی ہیں مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود اس بت شکن کے معتقد اور ان کی ملت پر چلنے کو فخر سمجھتے تھے، اور حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کا قانت و مطیع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاتا ہے جن سے اللہ کے یہ خلیل گذرے ہیں، آتش نمرود، اہل و عیال کو لوق و دق میدان میں چھوڑ کر چلے آنے کا حکم، پھر بڑی آرزوؤں، اور تمناؤں اور دعاؤں سے ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آمادگی یہ سب وہ امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القاب سے معزز فرمایا۔

غرضیکہ جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کی ذات میں جمع ہو گئی تھیں، صاحب مال، صاحب اولاد، پاکیزہ رو، پسندیدہ خو، حوصلہ مند، فیاض، مہمان نواز، صابر و شاکر سب ہی کچھ آپ تھے۔

اِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس میں چند اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے ان کے لئے جمعہ کا دن عبادت کے لئے فارغ رکھنے کے لئے فرمایا تھا لیکن بنی اسرائیل نے ان سے اختلاف کیا اور ہفتہ کا دن اپنے اس اجتہاد سے کہ ہفتہ کے دن اللہ نے بھی چھٹی رکھی تھی اس لئے ہمیں بھی یہی



دن رکھنا چاہئے، حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام سے فرمایا اے موسیٰ انہوں نے جو دن پسند کیا ہے وہی دن رہنے دو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن میں مچھلی کا شکار کرنے سے ممانعت فرما کر ان کی آزمائش فرمائی اور مچھلیاں دیگر دنوں کی بہ نسبت ہفتہ کے دن زیادہ نمودار ہوتی تھیں، اور نصاریٰ نے یہود کی ضد میں اتوار کا دن عبادت کے لئے فارغ کیا اور دلیل یہ دی کہ کائنات کی تخلیق کی ابتداء چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے فرمائی تھی اسلئے ہمیں اس روز چھٹی رکھنی چاہئے اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن مقرر کر دیا۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ (الآیۃ) اس آیت میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کئے گئے ہیں جو حکمت، موعظہ حسنہ اور رفیق و ملائمت پر مبنی ہیں، جدال بالاحسن، درستی و تلخی سے بچتے ہوئے نرم و مشفقانہ لب و لہجہ اختیار کرنا ہے، یعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے، ہدایت کے راستہ پر چلا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں؟

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو ورنہ یہ خود ظالم ہو جائیگا، تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ اِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَاثْنَا عَشَرَ كُوْنًا

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ اِلَّا وَاِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُوْكَ اٰلَايَاتِ الشَّمَانِ،  
مائه وَعَشْرُ آيَاتٍ اَوْ اِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً.

سورہ اسراء مکی ہے سوائے وَاِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُوْكَ آٹھ آیتوں کے،  
۱۰ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سُبْحَنَ تَنْزِيهِ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ لَيْلًا نَصَبَ  
على الظرف والاسراء سير الليل وفائدة ذكره الاشارة بتكبره الى تقليل مدته من المسجد الحرام  
اى مكة الى المسجد الاقصا بيت المقدس لبُعْدِهِ مِنْهُ الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ بِالشَّمَارِ وَالْاَنْهَارِ لِلْبَرِيَّةِ مِنْ اَيْتِنَا  
عجائب قدرتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ اى العالم باقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ فانعم علیہ  
بالاسراء المشتمل على اجتماعه بالانبياء وغروجه الى السماء ورؤيته عجائب الملكوت ومناجاته  
تعالى فانه صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق وهو دابة ابيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره  
عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى اتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها  
الانبياء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء نبي جبرئيل عليه السلام باناء من خمر واناء  
من لبن فاخترت اللبن قال جبرئيل اصببت الفطرة قال ثم عرج بي الى السماء الدنيا فاستفتح جبريل  
قيل له من انت فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا  
فاذا انا بادم فرحب بي ودعالي بخير ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من انت فقال  
جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا  
فاذا انا بابائى الخالة يخينى وعيسى فرحبا بى ودعوالى بخير ثم عرج بنا الى السماء الثالثة فاستفتح



جبریلُ فقیلُ مَنْ اَنْتَ قَالَ جبریلُ فقیلُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فقیلُ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَیْهِ قَالَ قَدْ اُرْسِلَ اِلَیْهِ فَفَتَحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِیُوسُفَ وَاِذَا هُوَ قَدْ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِیْ وَدَعَا لِیْ بِخَیْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جبریلُ فقیلُ مَنْ اَنْتَ قَالَ جبریلُ فقیلُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فقیلُ وَقَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ فَفَتَحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِادْرِیْسَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِیْ وَدَعَا لِیْ بِخَیْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جبریلُ فقیلُ مَنْ اَنْتَ قَالَ جبریلُ فقیلُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فقیلُ وَقَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ فَفَتَحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِهَارُونَ فَرَحَّبَ بِیْ وَدَعَا لِیْ بِخَیْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جبریلُ فقیلُ مَنْ اَنْتَ قَالَ جبریلُ فقیلُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فقیلُ وَقَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ فَفَتَحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِمُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِیْ وَدَعَا لِیْ بِخَیْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جبریلُ فقیلُ مَنْ اَنْتَ قَالَ جبریلُ فقیلُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فقیلُ وَقَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَیْهِ فَفَتَحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِابْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَاِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌّ اِلَى الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ وَاِذَا هُوَ یَدْخُلُهُ كُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا یُعَوِّدُونَ اِلَیْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِیْ اِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی فَاِذَا وَرَقُهَا کَاِذَا النُّجُومِ وَاِذَا ثَمَرُهَا کَالْقَلَالِ فَلَمَّا غَشَّهَا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ مَا غَشَّهَا تَغَیَّرَتْ فَمَا اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ یَسْتَطِیْعُ اَنْ یَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا قَالَ فَاَوْحٰی اِلَیَّ مَا اَوْحٰی وَفَرَضَ عَلَیَّ فِیْ كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ خَمْسِیْنَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتّٰی اَنْتَهٰیْتُ اِلَى مُوسٰی فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَیَّ اَمَّتِکَ قُلْتُ خَمْسِیْنَ صَلَاةً كُلَّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّکَ فَسَلِّهُ التَّخْفِیْفَ فَاِنَّ اَمَّتِکَ لَا تُطِیْقُ ذٰلِكَ وَاِنِّیْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ وَخَبَّرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلَى رَبِّیْ فَقُلْتُ اِی رَبِّ خَفِّفْ عَنْ اَمَّتِیْ فَحَطَّ عَنِّیْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ اِلَى مُوسٰی قَالَ مَا فَعَلْتَ قُلْتُ قَدْ حَطَّ عَنِّیْ خَمْسًا قَالَ اِنَّ اَمَّتِکَ لَا تُطِیْقُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ اِلَى رَبِّکَ فَسَلِّهُ التَّخْفِیْفَ لَا مَتِکَ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اَرْجِعْ بَیْنَ رَبِّیْ وَبَیْنَ مُوسٰی وَیَحِطُّ عَنِّیْ خَمْسًا خَمْسًا حَتّٰی قَالَ یَا مُحَمَّدُ (صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم) هٰی خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِیْ كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ بِکُلِّ صَلَوةٍ عَشْرُ فَتَلَّکَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمِنْ هَیْمٍ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً فَانْ عَمِلَهَا کَتَبْتُ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَیْمٌ بِسَیِّئَةٍ وَلَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ تَكْتُبْ فَانْ عَمِلَهَا کَتَبْتُ سَیِّئَةً وَاحِدَةً فَنَزَلْتُ حَتّٰی اَنْتَهٰیْتُ اِلَى مُوسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِیْفَ لَا مَتِکَ فَاِنَّ اَمَّتِکَ لَا تُطِیْقُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اِلَى رَبِّیْ حَتّٰی اسْتَحِیْتُ، رَوَاهُ الشَّیْخَانُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَرَوٰی الْحَاکِمُ فِی الْمُسْتَدْرَکِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ رَآیْتُ رَبِّیْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَعَالٰی وَاتَّيْنَا مُوسٰی الْکُتُبَ التَّوْرَةَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًی لِّبَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ لَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَکِیْلًا ۝ یُفَوِّضُوْنَ اِلَیْهِ اَمْرَهُمْ وَفِیْ قِرَآءَةِ تَتَّخِذُوْا بِالْفَوْقَانِیَّةِ التَّفَاتَا فَانْ زَائِدَةٌ وَالْقَوْلُ مُضْمَرٌ یَا ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

فِي السَّفِينَةِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝ كَثِيرَ الشُّكْرِ لِنَاحِيْدَا فِي جَمِيعِ اَحْوَالِهِ وَقَضَيْنَا اَوْحَيْنَا  
 اِلَىٰ بَنِي اِسْرَءٰىلَ فِي الْكِتَابِ التَّوْرَةَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ اَرْضَ الشَّامِ بِالْمَعَاصِي مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَبْغُونَ  
 بَغْيًا عَظِيمًا فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهِمَا اُولٰٓئِ مَرَّتِي الْفَسَادِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا اَوَّلٰى بَاسٍ شَدِيْدٍ اَصْحَابَ قُوَّةٍ فِي  
 الْحَرْبِ وَالْبَطْشِ فَجَاسُوا تَرَدُّدًا اَوَّلٰى الطَّلَبِ خَلَّ الدِّيَارُ وَطَرَسَ دِيَارُكُمْ لِيَقْتُلُوْكُمْ وَيَسْبُوْكُمْ  
 وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝ وَقَدْ اَفْسَدُوا الْاَوَّلٰى بِقَتْلِ زَكَرِيَّا فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ جَالُوْتَ وَجُنُوْدَهُ فَقَتَلُوْهُمْ وَسَبَوْا  
 اَوْلَادَهُمْ وَخَرَّبُوْا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ الدَّوْلَةَ وَالْغَلْبَةَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ بِقَتْلِ جَالُوْتَ  
 وَامَدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَيْنٍ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَنَفِيْرًا ۝ عَشِيْرَةً وَقُلْنَا اِنْ اَحْسَنْتُمْ بِالطَّاعَةِ اَحْسَنَتُمْ لِنَفْسِكُمْ  
 لَانَ ثَوَابَهُ لَهَا وَاِنْ اَسَاْتُمْ بِالْفَسَادِ فَلَهَا اِسَاءَةُكُمْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْمَرَّةِ الْاٰخِرَةِ بَعَثْنَاهُمْ  
 لِيَسُوْءًا وَّجُوْهَكُمْ يُحْزِنُوْكُمْ بِالْقَتْلِ وَالسَّبِّ حَزَنًا يَظْهَرُ فِيْ وَجُوْهِكُمْ وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ  
 فَيُخْرِجُوْهُ كَمَا دَخَلُوْهُ وَخَرَّبُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَّبِعُوْا يَهْلِكُوْا مَا عَلَلُوْا غَلَبُوْا عَلَيْهِ تَتِيْرًا ۝ اِهْلَاكَ اَوْ قَدْ اَفْسَدُ وَاثَانِيَا  
 بِقَتْلِ يَحْيٰى فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ بُخْتِ نَصْرٍ فَقَتَلَ مِنْهُمْ الْوَفَا وَسَبٰى ذُرِّيَّتَهُمْ وَخَرَّبَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَقُلْنَا فِي  
 الْكِتَابِ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ اِنْ تُبْتَ اِلَى الْفَسَادِ عُدْنَا اِلَى الْعُقُوْبَةِ وَقَدْ  
 عَادُوْا بِتَكْذِيْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَطْنَا عَلَيْهِمْ بِقَتْلِ قَرِيْظَةَ وَنَفٰى النَّضِيْرَ وَضَرْبِ الْجَزِيَّةِ  
 عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝ مَحْبَسًا وَسَجْنًا اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ اٰى لِلطَّرِيْقَةِ هِيَ اَقْوَمُ  
 اَعْدَلُ وَاَصُوْبُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝ وَيُنْذِرُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا  
 اَعْدَدًا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ مَوْلَمَا هُوَ النَّارُ.

**ترجمہ:** شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد  
 ﷺ کو لیلاً ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے، اور اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں، اور لیل کو ذکر کرنے کا فائدہ لیل کی تنکیر سے  
 مدت سیر کی قلت کی طرف اشارہ ہے مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس تک) بیت المقدس کا نام مسجد اقصیٰ  
 اس کے مسجد حرام سے دور ہونے کی وجہ سے ہے جس کے اطراف میں ہم نے پھلوں اور نہروں کے ذریعہ برکت رکھی ہے تاکہ  
 ہم محمد ﷺ کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں بلاشبہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے یعنی وہ نبی ﷺ کے اقوال و افعال سے  
 واقف ہے، تو اللہ نے آپ پر سفر شب کا انعام فرمایا جو انبیاء کی ملاقات اور آسمان پر آپ کے تشریف لیجانے اور عالم بالا کے  
 عجائبات کو دیکھنے اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے پر مشتمل تھا، خلاصہ یہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا میرے پاس ایک سفید  
 جانور لایا گیا جو ہمارے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم اپنے منہ پر رکھتا تھا، چنانچہ میں اس پر سوار ہوا تو وہ مجھے لے کر



روانہ ہوا، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا اور میں نے اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور میں نے اس میں دو رکعت نماز پڑھی، پھر میں باہر آیا تو جبرائیل میرے پاس دو برتن لے کر آئے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پسند کیا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے فرمایا پھر مجھے آسمان دنیا (قریبی آسمان) کی طرف لے کر روانہ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب دیا میں جبرائیل ہوں (پھر) سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ فرمایا محمد ﷺ ہیں پھر معلوم کیا گیا کیا وہ مدعو ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں مدعو ہیں اس کے بعد ہمارے لئے دروازہ کھول دیا تو دفعۃً ہماری ملاقات (حضرت) آدم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت آدم نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعاء خیر دی، پھر (جبرائیل) مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے کر چلے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی آپ سے سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جبرائیل ہوں، سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ فرمایا محمد ﷺ ہیں معلوم کیا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلایا گیا ہے، چنانچہ ہمارے لئے دروازہ کھول دیا، تو میں اچانک یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو خالہ زاد بھائیوں کے پاس تھا، دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعاء خیر دی، پھر جبرائیل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر روانہ ہوئے تو جبرائیل نے دستک دی سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جبرائیل ہوں سوال ہوا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا محمد ﷺ ہیں سوال کیا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جواب دیا ہاں بلائے گئے ہیں تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو اچانک ہماری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی (دیکھا تو) معلوم ہوا کہ انھیں (مجموعی حسن کا) نصف حصہ دیا گیا ہے، تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعاء خیر دی پھر (جبرائیل) مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے کر چلے تو جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا جبرائیل ہوں سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا میرے ساتھ محمد ﷺ ہیں معلوم کیا وہ مدعو ہیں؟ جواب دیا (جی ہاں) مدعو ہیں تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا تو اچانک ہماری ملاقات اور لیس علیہ السلام سے ہو گئی تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعاء خیر دی، اس کے بعد ہم کو پانچویں آسمان کی طرف لے کر چلے تو جبرائیل نے دستک دی، سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جبرائیل ہوں پھر سوال کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد ﷺ ہیں پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا تو اچانک ہماری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہو گئی تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعاء خیر دی پھر ہم کو چھٹے آسمان کی طرف لے کر چلے (وہاں پہنچ کر) جبرائیل نے دستک دی، سوال کیا گیا تم کون ہو؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ﷺ ہیں سوال کیا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا، تو اچانک ہماری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے دعاء خیر دی، پھر ہم کو ساتویں آسمان کی طرف لے کر چلے (دروازہ پر) جبرائیل نے دستک دی سوال ہوا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں، سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون

ہیں؟ کہا محمد ﷺ ہیں سوال ہوا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا (ہاں) بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے دروازہ کھولا، تو اچانک (حضرت) ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا، پھر مجھے سدرۃ المنتہی کے پاس لے گئے (تو دیکھا) کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور اس کے پھل ٹھیلوں کے برابر ہیں، جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپ لیا جس چیز (نور) نے ڈھانپ لیا تو اس درخت کی حالت ایسی بدل گئی کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے میری جانب جو چاہی وحی بھیجی اور میرے اوپر پچاس وقت کی نماز فرض فرمائی، چنانچہ جب میں نیچے اتر اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا یومیہ پچاس نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ اور اللہ سے تخفیف کا سوال کرو اسلئے کہ آپ کی امت اس کی متحمل نہ ہوگی اور میں بنی اسرائیل کو خوب جانچ پرکھ چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہ میں اپنے پروردگار کے پاس واپس گیا تو عرض کیا اے میرے پروردگار میری امت کے لئے تخفیف فرمادے تو مجھ سے پانچ نمازیں کم کر دیں اس کے بعد پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے دریافت فرمایا آپ نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے پانچ نمازیں کم کر دی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت اس کی بھی متحمل نہ ہوگی اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کرو، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مسلسل چکر لگاتا رہا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر بار پانچ پانچ نمازیں کم کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ﷺ رات اور دن میں یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کے عوض دس نمازوں (کا ثواب) ہے اس طرح یہ کل پچاس نمازیں ہوئیں اور جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور ہنوز عمل نہیں کیا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور اگر اس نے عمل کر لیا تو میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرتا ہے اور ہنوز اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا تو میں اس کو نہیں لکھتا، اور اگر وہ اسے کر لیتا ہے تو میں ایک بدی لکھتا ہوں، اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو صورت حال کی اطلاع دی تو (پھر) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کرو، اسلئے کہ آپ کی امت اس کی (بھی) متحمل نہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا میں بار بار اپنے رب کے حضور حاضر ہوا یہاں تک کہ مجھے شرم آنے لگی، (رواہ الشیخان، اور الفاظ مسلم کے ہیں) اور حاکم نے مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے رہنما بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا کہ اس کو اپنے معاملات سوئپ دو، اور ایک قراءت میں (تتخذوا) بطور التفات تاء فوقانیہ کے ساتھ ہے، اُن زائدہ اور (لفظ) قول مضمَر ہے اے ان لوگوں کی اولاد کو کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں



سوار کیا تھا وہ ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا یعنی ہمارا بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور ہر حال میں تعریف کرنے والا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے وحی کے ذریعہ تورات میں صاف کہہ دیا تھا کہ تم ملک شام میں معاصی کے ذریعہ دو مرتبہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے یعنی بڑا ظلم کرو گے، اور جب ان دونوں موقعوں میں سے یعنی فساد کے دو موقعوں میں سے پہلا موقع آیا تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لئے اپنے ایسے بندے بھیج دیئے جو بڑی شدید قوت والے تھے (یعنی) حرب واخذ میں بڑے زور آور تھے تو وہ تمہاری تلاش میں (تمہارے) گھروں میں کھس گئے تاکہ وہ تم کو قتل و قید کریں، اور (اللہ کا یہ) وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور ان لوگوں نے پہلا فساد (حضرت) زکریا علیہ السلام کو قتل کر کے برپا کیا تو اللہ نے ان کے اوپر جالوت اور اس کے لشکر کو بھیج دیا (جس نے) ان کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قیدی بنالیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، پھر ہم نے تمہارا جالوت کے قتل کے سو سال بعد ان پر دبدبہ اور غلبہ لوٹا دیا، یعنی (تمہارے دن پھیر دیئے) اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑے جتھے والا بنادیا اور ہم نے کہا اگر تم نے طاعت کے ذریعہ اچھے کام کئے تو اپنے فائدہ کے لئے اس لئے کہ ان کا اجر تم ہی کو ملے گا، اور اگر فساد کے ذریعہ تم نے برے اعمال کئے تو انکی سزا بھی تمہارے لئے ہوگی، اور جب (فساد کا) دوسرا موقع آیا تو (پھر) ہم نے ان کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، یعنی وہ تم کو قتل و قید کے ذریعہ اتار نچ دیں کہ جس کا اثر تمہارے چہروں پر ظاہر ہو جائے اور تاکہ وہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں اور اس کو ویران کر دیں، یا جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اور بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، اور تاکہ وہ پوری طرح تھس تھس کر دیں جس پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے اور انہوں نے (حضرت) یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے دوسری مرتبہ فساد برپا کیا تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو بھیج دیا تو اس نے ان میں سے ہزاروں کو قتل کر دیا اور ان کی اولاد کو قید کر لیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور ہم نے کتاب (توراة) میں کہا دوسری مرتبہ کے بعد (بھی) اگر تم نے توبہ کر لی تو امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا اور اگر تم نے پھر فساد برپا کیا تو ہم پھر سزا دیں گے چنانچہ محمد ﷺ کی تکذیب کر کے پھر فساد برپا کیا تو اللہ نے ان پر قریظہ کو قتل کر کے اور بنو نضیر کو جلا وطن کر کے اور ان پر جزیہ عائد کر کے محمد ﷺ کو ان پر مسلط کر دیا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لئے قید خانہ بنا دیا بلاشبہ یہ قرآن راہ راست یعنی درمیانی اور ٹھیک راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا اجر ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انھیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ آگ ہے۔

## تَحْقِیْقُ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: سُبْحَانَ، یہ فعل محذوف کا مصدر ہے اِی سَبَّحْتُ اللّٰهَ سُبْحَانًا.

قَوْلُهُ: لَیْلًا نَصَبٌ عَلَی الظَّرْفِیَّةِ، یعنی لَیْلًا، اسری کا ظرفِ زمان ہے نہ کہ مفعول اسلئے کہ اسراء اور سرا دونوں

لازم ہیں۔

سُؤَال: اسری، سیر فی اللیل کو کہتے ہیں پھر لیلاً کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

جَوَاب: یہ ہے کہ سیر فی اللیل اگرچہ اسری میں داخل ہے مگر لیلاً کو نکرہ ذکر کر کے قلیل مدت کی طرف اشارہ ہے اور لیلاً کی تنوین یہاں قلت کے لئے ہے۔

قَوْلًا: لِبُعْدِهِ مِنْهُ، یہ مسجد اقصیٰ کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان ایک ماہ کی مسافت ہے یا اس لئے کہ اس وقت مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کوئی مسجد نہیں تھی اسی وجہ سے اس کا مسجد اقصیٰ نام رکھا گیا۔

قَوْلًا: كَالْقِلَالِ، قِلَال، قُلَّة کی جمع ہے بمعنی مڑکا، ٹھلکا۔

قَوْلًا: لَا تَتَّخِذُوا، اُن مصدر یہ ہے اور لام تعلیل مقدر ہے جسے شارح رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے ظاہر کر دیا ہے لَا تَتَّخِذُوا حذف و ن کے ساتھ منصوب ہے اور لا نافیہ ہے اور یہ ترکیب یا تختانیہ کی صورت میں ہے اور تاء فوقانیہ کی صورت میں حذف و ن کے ساتھ مجزوم ہوگا اور لا، نافیہ ہوگا اور اُن زائد ہوگا۔

قَوْلًا: الْقَوْلُ مَضْمَر، ای مقولاً لہم لَا تَتَّخِذُوا، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اُن کا مفسرہ ہونا رائج ہے اسلئے کہ تَنَزَّلْنَا، قلنا کے معنی میں ہے جو کہ اُن مفسرہ کے لئے شرط ہے۔

قَوْلًا: نَفِيرًا یہ نفر کی جمع ہے، بمعنی خاندان، جمعیہ۔

قَوْلًا: وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا۔

سُؤَال: نقصان کے لئے صلہ میں علی استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہاں لام استعمال ہوا ہے جو کہ نفع کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

جَوَاب: یہ ازدواج یعنی مقابلہ کے طور پر علی کی جگہ لام استعمال ہوا ہے۔

## تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

### واقعہ اسراء و معراج کی تاریخ:

واقعہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کی بعثت کے سات سال بعد پیش آیا اسلئے کہ حضرت خدیجہ کی وفات نماز کی رضیت سے قبل ہوئی ہے اور حضرت خدیجہ کی وفات بعثت کے ساتویں سال ہے تمام روایات سے یہ تو بالاتفاق معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے پیش آیا حربی کہتے ہیں کہ واقعہ اسراء و معراج ربیع الثانی کی ستائیسویں شب میں ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے اور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ماہ رجب کی ستائیسویں شب میں پیش آیا۔



## واقعہ معراج:

یہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی اور یہیں سے پندرہواں پارہ شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت میں واقعہ اسراء کا غیر معمولی انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے، عرف عام میں اسی واقعہ کو معراج کہا جاتا ہے، معراج کا واقعہ آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، قرآن مجید میں اس کا ذکر بہت اجمال کے ساتھ آیا ہے، ہاں حدیثوں میں واقعہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، اکثر روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا، معراج کی حقیقت اور نوعیت کو یوں سمجھنا آپ حضرات کے لئے کچھ آسان ہوگا کہ جس طرح اللہ کے حکم سے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور یہاں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح ایک رات میں بلکہ رات کے بھی بہت تھوڑے سے حصے میں بس چند لمحات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے رسول اللہ ﷺ کو پہلے مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا اور اپنی قدرت کی خاص نشانیوں اور بہت سی غیبی حقیقتوں کا مشاہدہ کرایا اور یہ مشاہدہ کرانا ہی اس سفر معراج کا خاص مقصد تھا، اسی آیت میں فرمایا گیا ہے ”لَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا“ یعنی ہم نے یہ سفر اسی لئے کرایا کہ اپنے بندے محمد ﷺ کو اپنے عجائبات قدرت کا مشاہدہ اور نظارہ کرائیں۔

اس سفر کے دو حصے ہیں ایک مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے فلسطین کی مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ سفر کا ہے وہاں سے آسمانوں اور ان کے بھی اوپر سدرۃ المنتہیٰ تک، عرف عام میں اس پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اور اہل علم کی خاص اصطلاح میں پہلے حصہ کو ”اسراء“ اور دوسرے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں صرف پہلے حصہ کا ذکر ہے یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے آپ کے سفر کا ذکر ہے، اور چونکہ یہ سفر ایسا تھا کہ عام عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتیں اور باور نہیں کر سکتیں کہ رات کے ذرا سے حصہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہو گیا، اس لئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی بے انتہا قدرت کی طرف اشارہ کر کے یہ صراحت کر دی گئی کہ یہ محیر العقول سفر خود محمد ﷺ کا فعل نہیں تھا بلکہ اُس خداوند قدوس کا فعل تھا جس کی قدرت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے اور جو ”فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ“ ہے، آیت کے سب سے پہلے لفظ ”سُبْحَانَ الَّذِي“ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا۔

اگر یہ کہا جاتا کہ یہ سفر خود رسول اللہ ﷺ نے کیا جو اپنی ذات سے ایک بشر اور پیغمبر تھے تو شک و شبہ کی گنجائش تھی کہ ایک انسان اور آدم زاد کے لئے بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چند لمحوں میں حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں کے بھی اوپر سدرۃ المنتہیٰ تک جائے اور واپس آجائے، لیکن اس آیت میں اس سفر معراج کو رسول اللہ ﷺ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل بتلایا گیا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ“ (یعنی وہ خداوند قدوس ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو

اپنے خاص بندے (محمد ﷺ) کو رات کے ایک حصہ میں مکہ کی مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک لے گیا جس کے آس پاس اور ماحول کو ہم نے اپنی خاص برکتوں سے مالا مال کیا ہے) قرآن مجید نے اس آیت میں اسراء اور معراج کو اللہ تعالیٰ کا فعل بتلا کر منکرین اور مخالفین کے تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جواب دے دیا اور ہم مسلمانوں کو بھی اس مشرکانہ گمراہی سے بچا دیا جس میں عیسائی بتلا ہوئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ان کا ذاتی فعل اور ان کا تصرف سمجھا اور ان کو خدائی اور خداوندی صفات میں شریک مان لیا، اگر وہ حضرت مسیح کے ان معجزات کو خدا کا فعل اور خداوندی تصرف سمجھتے تو اس شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔

## ظاہری اور باطنی برکتوں کی سرزمین:

اس آیت میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول اور اطراف کو برکتوں سے نوازا ہے، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جس سرزمین اور جس علاقہ میں واقع ہے اُس کی سب سے بڑی برکت اور عظمت تو یہ ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے تقریباً پورے سلسلہ کا مرکز دعوت و ہدایت اور ان کا قبلہ رہا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے جلیل القدر انبیاء و رسل اس میں مدفون ہیں، اس کے علاوہ یہ علاقہ دنیوی اور مادی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہے، بہترین آب و ہوا ہے، پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے تو گویا جنت کا ایک خطہ ہے، الغرض بیت المقدس کا یہ علاقہ دینی اور دنیوی، روحانی اور مادی ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال ہے، ”بَارَكْنَا حَوْلَهُ“ میں غالباً ان ہی سب برکتوں کی طرف اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)۔

## مقصدِ سفر:

آگے اس سفرِ معراج کا مقصد اور اس کی غرض و غایت بیان فرمائی گئی ہے، ارشاد ہے ”لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا“ یعنی ہم نے اپنے اس بندے محمد ﷺ کو یہ سفر اس لئے کرایا کہ اپنی قدرت کی کچھ خاص نشانیاں اس کو دکھلا دیں اور بعض اُن حقائق کا مشاہدہ کرا دیں جو اس دُنیا کے دائرہ سے باہر پردہ غیب میں ہیں، آگے ارشاد فرمایا گیا ہے ”إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ یعنی وہ اللہ اپنی ذات سے سمیع و بصیر ہے سارا عالم غیب و شہادت ہر وقت اس کی نگاہ میں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، اور وہ عالم غیب و شہادت کی ہر آواز سنتا ہے اور یہ سننا اور دیکھنا اُس کی ذاتی صفت ہے (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) پھر یہ بھی اُس کے اختیار میں ہے کہ اپنے جس بندہ کو اور جس مخلوق کو جو چاہے دکھلا دے اور جو آواز چاہے سنوا دے، اور جس بندے اور مخلوق کو وہ اپنی قدرت سے عالم غیب و شہادت کی کچھ چیزیں دکھلا دے یا سنوا دے تو وہ ہرگز اُس کے برابر اور اُس صفت میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات سے سمیع و بصیر ہے اور یہ اس کی ذاتی اور قدیم ازلی صفت ہے ”إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“۔



یہاں تک سورت کی پہلی آیت کی تشریح ہوئی اور اسراء کا بیان اسی پر ختم ہو گیا، آگے دوسرا مضمون شروع ہے جس کا خاص تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔

### کچھ سوالات کچھ بحثیں:

اسراء اور معراج سے متعلق کچھ مشہور سوالات اور اشکالات ہیں اور کچھ بحثیں ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، ایک اہم سوال اور بحث تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کا اسراء اور معراج کا یہ سفر خواب تھا یا عالم بیداری کا واقعہ؟ اسی طرح کا دوسرا سوال اور دوسری بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر صرف آپ کی روح کو کرایا تھا یا آپ کا یہ سفر جسم عنصری کے ساتھ ہوا تھا، مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی؟

صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر اس وقت تک اُمت کی غالب اکثریت بلکہ کہنا چاہئے کہ جمہور اُمت اس کے قائل ہیں کہ معراج خواب کی بات نہیں بلکہ عالم بیداری کا واقعہ ہے اور وہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسم عنصری کے ساتھ ہوئی، حدیث کی عام روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اور خاص انداز بیان سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔

اس آیت میں اسراء اور معراج کے اس واقعہ کو ”اَسْرٰی بَعْبِدِہ“ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے خواب یا صرف روحانی سیر کی تعبیر ان الفاظ سے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ مضمون کو ”سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی“ کے الفاظ سے شروع کیا گیا ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ کسی بہت ہی غیر معمولی قسم کے اور عجیب العقول واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسے خواب تو ہم آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اور جس کو روحانی سیر کہا جاتا ہے وہ بھی خواب سے ملتی جلتی ایک کیفیت ہوتی ہے، الغرض ان دونوں میں سے کوئی بھی ایسی اہم اور غیر معمولی بات نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پاک میں غیر معمولی انداز میں اور ”سُبْحَانَ الَّذِیْ“ کے شاندار عنوان سے بیان فرمائیں، جس شخص کو عربی زبان اور محاورات سے ذرا سی بھی واقفیت ہو وہ سمجھ سکتا ہے اس انداز اور اس اہتمام سے ایسے ہی واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت غیر معمولی ہو اور لوگوں کی عقل میں آنا مشکل ہو، الغرض قرآن مجید کے خاص انداز بیان اور الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج حضور کا خواب نہیں تھا، بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اور یہ صرف روحانی سیر اور روحانی مشاہدہ نہیں تھا، ہاں یہ کہنا صحیح ہو گا کہ یہ اس طرح کا سفر بھی نہیں تھا جس طرح کے سفر ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔

ہماری اس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لئے اس کی حقیقت اور نوعیت کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، جس طرح خود نبوت اور وحی کا معاملہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان تو ہے لیکن ہم اس کی نوعیت اور حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، میرا خیال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا اور حضرت معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وغیرہ بعض صحابہ کے متعلق روایات میں جو یہ مذکور ہے کہ وہ حضرات اسراء اور معراج کو ”خواب“ کا واقعہ کہتے تھے تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہماری اس دنیا کے سفروں جیسا سفر نہیں مانتے تھے بلکہ اس کو دوسرے عالم کا ایک معاملہ سمجھتے تھے اور اس کو ”رُویا“ سے تعبیر کرتے تھے، یہ بات بالکل

سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اس کو حضور کا صرف ایک خواب سمجھتے ہوں، قرآن پاک نے اس کو جس غیر معمولی انداز میں بیان کیا ہے اُس کو پیش نظر رکھتے ہوئے عربی زبان و محاورات سے واقفیت رکھنے والا کوئی آدمی بھی اُس کو ”خواب کی بات“ نہیں کہہ سکتا، پھر صحیح روایات میں یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو ابو جہل اور دیگر کفار نے اس پر خوب مذاق اڑایا اور اس واقعہ کو معاذ اللہ حضور کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور پروپیگنڈہ کیا کہ یہ ایسی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں جو بالکل ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی ایک رات میں اتنا طویل سفر کر کے واپس آجائے، تو اگر صرف خواب کی بات ہوتی تو اس میں کسی کے لئے بھی تعجب اور اعتراض کا موقع نہ ہوتا، الغرض ابو جہل وغیرہ نے معراج کے بارے میں جو شور و غوغا مچایا اور اس سلسلہ میں حضور کے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈہ کیا وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے کہ حضور نے معراج کے واقعہ کو خواب کے طور پر یا صرف روحانی سیر کے طور پر بیان نہیں فرمایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک غیر معمولی انعام اور معجزہ کے طور پر بیان فرمایا تھا جو اُن کے نزدیک ناممکن اور خلاف عقل تھا اور معجزہ کی شان یہی ہوتی ہے، ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی صحابی یا تابعی نے اسراء اور معراج کو حضور کے دوسرے خوابوں کی طرح صرف ایک خواب قرار دیا ہو، اس لئے قریب قریب یقین کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جن بعض صحابہ یا تابعین سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے اسراء اور معراج کو ”رؤیا“ کہا اُس سے اُن کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس طرح کا سفر نہیں تھا جس طرح کے سفر ہم اپنی اس دنیا میں مختلف قسم کی سواریوں پر کرتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے عالم کا معاملہ تھا جس کی کوئی مثال اس دنیا کے ہمارے حالات اور واردات میں نہیں مل سکتی، اسی کو اُن بزرگوں نے ”رؤیا“ کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔

### مرحوم حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی رائے گرامی:

علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ جنہوں نے قدیم آسمانی کتابوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس مقصد کے لئے عبرانی اور سریانی زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کی تھی، فرماتے تھے کہ انبیاء سابقین کے صحیفوں میں انبیاء علیہ السلام کے خاص واردات و معاملات کو بکثرت ”رؤیا“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس سے مراد وہ نہیں ہوتا جس کو ہم لوگ ”خواب“ کہتے ہیں، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں چند رکوع کے بعد ”رؤیا“ کا جو لفظ آیا ہے ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارَيْنٰكُمَا اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ الْخِطُو بظاہر اس واقعہ اسراء اور معراج ہی کو اس آیت میں ”رؤیا“ کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے ”رؤیا عین اُرِیْہَا رسول اللہ ﷺ میرے نزدیک یہ بالکل وہی بات ہے جو ہمارے استاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، پس جن صحابہ یا تابعین نے معراج کو ”رؤیا“ کہا ہے اُس کا مطلب یہی سمجھنا چاہئے۔!

اسراء اور معراج کے بارے میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اب سے تقریباً ڈیڑھ ہزار برس پہلے جبکہ ہوائی جہاز اور راکٹ جیسی تیز رفتار کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی ایک رات بلکہ اس کے بھی تھوڑے سے حصہ میں اتنا طویل سفر کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ



اور اس طرح کے سارے اشکالات کا یہ جواب کافی ہے کہ قرآن پاک نے اس کو رسول اللہ ﷺ کا فعل نہیں بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کا فعل بتلایا ہے اور اس کیلئے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کے حکم اور اس کی قدرت سے فرشتے ایک آن میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر آتے اور جاتے ہیں، بس اسی قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ کو یہ سفر اس طرح کرایا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ یہ سفر ایک خاص معجزہ تھا اور معجزہ تو وہی ہوتا ہے جو اس عالم اسباب کے لحاظ سے عام عقلوں کے لئے ناقابل فہم ہو، اور ہر معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اگرچہ اس کے نبی و رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے اس آیت میں اسراء کو اللہ تعالیٰ کا فعل قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا، اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ۔

معجزہ کے بارے میں ہمارے عقائد کی کتابوں میں بھی بنیادی عقیدہ کے طور پر یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو پیغمبر کی تصدیق کے لئے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ ولی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو کسی متقی اور صالح بندہ کی عند اللہ مقبولیت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اسی لئے معجزہ اور کرامت نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب چاہیں ظاہر کریں اور دکھائیں بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے، قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے منکرین نے ان سے جب معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ معجزات ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ”اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰہِ“ بہر حال معراج کا واقعہ بھی ایک عظیم معجزہ ہی تھا اور جو کچھ ہوا براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا، اس لئے اس طرح کے سوال اور اشکال کی گنجائش ہی نہیں۔

جن امتوں اور گروہوں نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا اور معجزوں اور کرامتوں کو خود نبیوں اور ولیوں کا فعل اور تصرف سمجھا وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، عیسائیوں میں بھی شرک یہیں سے آیا، افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی اس معاملہ میں گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّکْرُ۔

## واقعہ معراج سے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت:

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں محمد بن عمرو اقدی کی سند سے بروایت محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامہ مبارک دے کر حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد آنحضرت ﷺ کے حالات کی تحقیق کرنے کے لئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے، شاہی حکم کے مطابق ابوسفیان بن حرب اور ان کے رفقاء جو ملک شام میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کئے جن

کی تفصیل بخاری و مسلم میں موجود ہے، ابوسفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر آپ ﷺ کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے توقیری ظاہر ہو، ابوسفیان کا بیان ہے کہ مجھے اس ارادہ سے کوئی چیز اس کے سوا مانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہو جائے اور میں بادشاہ کی نظروں میں گر جاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں، البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ بادشاہ کے سامنے واقعہ معراج بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود سمجھ لے گا تو میں نے کہا میں اس کا ایک واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو خود معلوم ہو جائیگا کہ وہ جھوٹ ہے ہر قل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے؟ ابوسفیان نے کہا اس مدعی نبوت کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور اسی رات میں صبح سے پہلے ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے ایلیا (بیت المقدس) کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم کے پاس موجود تھا، اس نے کہا کہ میں اس رات سے واقف ہوں، شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور معلوم کیا آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا کہ جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیئے، مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا تو میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا مگر ان سے بھی دروازہ بند نہ ہو سکا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم کسی پہاڑ کو ہلارہے ہیں میں نے عاجز ہو کر کاریگروں کو بلایا، انہوں نے دیکھ کر کہا اس دروازہ پر عمارت کا وزن پڑ گیا ہے اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی صورت نہیں، ہم صبح کو دیکھیں گے، کہ کیا کیا جائے؟ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور اس دروازہ کے دونوں کواڑ اسی طرح کھلے رہے، صبح ہوتے ہی میں اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازہ کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں سوراخ کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج اس دروازہ کو اللہ نے شاید اسی لئے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آئیوا لے تھے۔

## بنی اسرائیل کی ایک سرگزشت:

میں نے عرض کیا تھا کہ اسراء اور معراج کے معجزانہ سفر کا ذکر اس سورت کی صرف پہلی ایک آیت میں کیا گیا ہے، آگے دوسری آیت سے دوسرا مضمون شروع ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اس مضمون کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لئے کتاب ہدایت (یعنی تورات) نازل کی تھی تو جب تک انہوں نے ہماری اس ہدایت کی پیروی کی اور نیکی اور فرمانبرداری کے راستے پر چلتے رہے وہ دُنیا میں بھی عزت اور اقبال کے ساتھ رہے، اور جب انہوں نے اطاعت کے بجائے نافرمانی اور بندگی و سرافگندگی کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ان پر اُن کے بدترین دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا جنہوں نے ان کو بہت ذلیل و خوار کیا اور بالکل تباہ و برباد کر ڈالا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار ہوا اور اس کے باوجود ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کے بارے میں اسی کتاب ہدایت میں کھلی آگاہی دی تھی، آخر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی یہ سزا تو ان کو دنیا میں دی گئی، اور آخرت میں نہ ماننے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی پناہ۔



ارشاد فرمایا گیا ہے ”وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَنَحَّضُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا، یعنی ہم نے اپنے بندے اور پیغمبر موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے اپنا ہدایت نامہ قرار دیا تھا اور اس میں خاص ہدایت یہ دی گئی تھی کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ، صرف مجھ کو ہی کارساز اور مختار کل مانو اور میرے ہی ساتھ عبادت و بندگی کا وہ معاملہ کرو جو کسی کارساز ہستی کے ساتھ ہونا چاہئے، إِلَّا تَنَحَّضُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا“ کا یہی مطلب ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے ”ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا“ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سورہ ہود میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال تبلیغ کی اور اس کی کوشش کی کہ ان کی قوم کفر و شرک کا راستہ چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کر لے، لیکن قوم کے بہت بڑے حصہ نے آپ کی بات نہیں مانی، بہت تھوڑے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیا، آخری نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہلاکت خیز طوفان کی شکل میں خدا کا عذاب آیا اور وہ سب لوگ ہلاک و برباد کر دیئے گئے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی ہدایت کے مقابلہ میں انکار اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا، اور جن تھوڑے سے بندوں نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا تھا وہ خدا کے حکم سے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی پر سوار ہو کر اس عذاب سے بچ گئے، انہی میں سے کچھ لوگوں کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، تو اس آیت (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ) میں اس قدیم تاریخی واقعہ کو یاد دلایا کہ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا ہے کہ تم ہمارے ان بندوں کی نسل ہو جن کو ہم نے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اپنے پیغمبر نوح کے ساتھ جو ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے، ان کی کشتی پر اپنے حکم سے سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچالیا تھا، تو اگر اپنے ان آباء و اجداد کی طرح تم نے بھی ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کی پیروی اور ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اپنائی تو تم پر بھی ہمارا ایسا ہی فضل و کرم ہوگا، اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ اگر تم نے نہ ماننے کا اور سرکشی کا وہ رویہ اختیار کیا جو قوم نوح کی اکثریت نے اختیار کیا تھا تو تم بھی خدا کے عذاب اور اس کی مار سے نہ بچ سکو گے، خدا کا قانون بے لاگ ہے، کسی سے اس کی رشتہ داری نہیں ہے۔

آگے کی آیتوں میں انہی بنی اسرائیل کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ بڑا ہی سبق آموز بلکہ لرزہ خیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق دے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے دراصل ہماری یعنی امت محمدیہ ﷺ کی تنبیہ اور سبق آوری کے لئے بیان کیا جا رہا ہے، ارشاد ہے

”وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا.....“  
قَوْلِهِ..... وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا“ یعنی ہم نے اس کتاب یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو آگاہی دے دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے کہ تم اپنی بد اعمالیوں اور شیطانی حرکتوں سے علاقہ میں دو دفعہ فساد برپا کرو گے اور خباثت پھیلاؤ گے اور خدا کی بندگی اور فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ کر سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے، قرآن پاک میں یہاں صراحت کے ساتھ

صرف اتنی ہی آگاہی کا ذکر فرمایا گیا لیکن جو لوگ قرآن مجید کے طرزِ بیان سے کچھ آشنا ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسی میں یہ آگاہی بھی مضمر ہے کہ جب تم فساد و بد عملی اور سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے تو ہماری طرف سے تم پر عذاب کا تازیانہ پڑے گا، آگے کی آیتوں میں بنی اسرائیل کے فساد کے ساتھ ان پر خداوندی عذاب کے تازیانوں کے پڑنے کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فساد اور سرکشی کی آگاہی کے ساتھ خداوندی سزا اور عذاب کی آگاہی بھی دی گئی تھی، اور ”كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا“ (اور یہ پورا ہو کر رہنے والا وعدہ تھا) کے الفاظ سے تو یہ بات گویا صراحت ہی کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ عذاب کی آگاہی بھی ساتھ ہی ساتھ دی گئی تھی۔

### پیشین گوئی نہیں آگاہی:

یہاں ایک بات یہ بھی قابلِ ذکر اور قابلِ لحاظ ہے کہ بنی اسرائیل کو دی جانے والی جس آگاہی کا یہاں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایک ”پیشین گوئی“ نہیں تھی، بلکہ بنی اسرائیل کے لئے ایک اہم تنبیہ اور آگاہی تھی، اس کو بالکل اُسی طرح کی آگاہی سمجھنا چاہئے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام اور امت کو بہت سے فتنوں کے بارے میں حدیثوں میں آگاہی دی ہے، حدیث کی کتابوں میں ایسی پچاسوں حدیثیں ہیں جن کو محدثین نے اپنی مرتب کی ہوئی کتابوں میں ”کتاب الفتن“ میں درج کیا ہے، تو حضور ﷺ کے ان ارشادات کا مقصد نجومیوں اور کاہنوں کی طرح پیشین گوئی سنانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ امت کو باخبر کرنا تھا، تاکہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچائیں، الغرض تورات میں بنی اسرائیل کو جو آگاہی دی گئی تھی اور جس کا ذکر اس آیت میں بھی کیا گیا ہے وہ اسی طرح کی تھی۔

### پہلی آگاہی کا ظہور:

آگے کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں پہلی دفعہ فساد آیا جس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا چکی تھی اور انہوں نے ہماری ہدایت اور آگاہی کو پس پشت ڈال کر شیطنیت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جو ”أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ“ یعنی نہایت خوفناک اور بڑے جلاوتھے، وہ ان بنی اسرائیل کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں گھس گئے اور بالکل تباہ کر ڈالا، فرمایا گیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا“۔

بہت سے مفسرین نے جن کی بنی اسرائیل کی تاریخ پر اچھی نظر ہے، یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس سے بابل کے بادشاہ بُخت نصر کا حملہ مراد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال پہلے بنی اسرائیل کی بستیوں پر ہوا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو بری طرح تباہ و برباد کیا تھا، ان کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا



اور ان کی بستیاں بالکل اُجاڑ دی گئیں۔

آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ پھر ایک مدت کے بعد اللہ نے ان پر رحم فرمایا ان کی مدد فرمائی اور خدا کی اس مدد نے پانسہ پلٹ دیا، بنی اسرائیل کو غلبہ نصیب ہوا، پھر ان کے مال و اولاد میں بھی برکت ہوئی اور ان کا ایک نیا دور شروع ہوا، ارشاد ہے، ”ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا“۔

یہاں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی توبہ و انابت اور رجوع الی اللہ کا بظاہر کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا لیکن تورات میں اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے اور قرآن مجید کے خاص طرز بیان کے مطابق یہاں اس کو مضمر سمجھنا چاہئے، آیت کا مطلب یہی ہے کہ ”نُحْت نصر“ کے لشکر کے ہاتھوں پا مال اور تباہ و برباد ہونے کے بعد ان میں انابت پیدا ہوئی، جیسا کہ عام طور سے ہوا کرتی ہے۔

”جب دیارِ نبج بتوں نے تو خدا یاد آیا“۔


بابل میں جب وہ قیدیوں والی ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے تھے، ان میں انابت پیدا ہوئی، انہوں نے نافرمانی کی زندگی سے توبہ کی اور فرمانبرداری والی زندگی کا خدا سے عہد کیا تو اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا اور اس کی خاص مدد سے ان کو دشمنوں پر غلبہ بھی نصیب ہو گیا اور ان کی نسل اور دولت میں بھی خدا تعالیٰ نے خوب اضافہ کیا، اور بنی اسرائیل پھر سے ایک خوش حال اور طاقتور قوم بن گئے۔

آگے فرمایا گیا ہے ”إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا“ یعنی ہم نے ان بنی اسرائیل کے اس دوسرے دور میں پھر ان کو جتادیا تھا اور آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو آئندہ بھی یہی ہوگا کہ اگر تمہارا رویہ اچھا رہا جیسا کتاب و پیغمبر والی اُمت کا ہونا چاہئے تو تم کو ہماری طرف سے اس کا بہترین صلہ ملتا رہے گا، لیکن اگر تم نے بد عملی اور شرارت کی راہ اختیار کی تو سابق کی طرح اس کا بُرا نتیجہ بھی تمہیں بھگتنا ہوگا، جزا و سزا کا ہمارا یہ قانون اٹل ہے، ”إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا“۔



## فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین کے پورے علاقے کو فتح کر لیا مگر انہوں نے متحد ہو کر اپنی کوئی ایک منظم سلطنت قائم نہ کی۔ بلکہ اس علاقے کو مختلف اسرائیلی قبیلوں نے آپس میں بانٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں اس نقشے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ فلسطین یہ مختصر سا علاقہ کس طرح بنی اسرائیل کے قبائل بنی یہودہ، بنی شمون، بنی دان، بنی بن یمن، بنی افرائیم، بنی روبن، بنی جڈ، بنی منشی بنی اشکار، بنی زبولون، بنی نفتالی، اور بنی آشر میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس طرح ہر قبیلے کی ریاست اپنی اپنی جگہ کمزور رہی اور لوگ توراۃ کے منشا کو پورا نہ کر سکے کہ اس علاقے کی مشرک قوموں کا استیصال کر دیا جائے۔ اسرائیلی قبائل کے ان علاقوں میں جگہ جگہ مشرک کنعانی قوموں کی شہری ریاستیں بدستور قائم رہیں۔ بائبل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے عہد تک صیدا، صورا، دور مجذو، بیت شان، اجر حاریر و خلم وغیرہ مشرکوں کے قبضے میں رہے اور ان شہروں کی مشرک تہذیب کا بنی اسرائیل پر گہرا اثر پڑتا رہا۔ مزید برآں اسرائیلی قبائل کی سرحدوں، پر فلسطین، دو میوں، امواہیوں اور رنگونیوں کی طاقت اور ریاستیں بھی بدستور قائم رہیں اور انہوں نے بعد میں بے درپے حملے کر کے بہت سا علاقہ اسرائیلیوں سے چھین لیا حتیٰ کہ یہ نوبت آگئی کہ فلسطین سے بنی اسرائیل بیک بنی دو گوش نکال دیے جاتے اگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ طالوت کی قیادت میں اسرائیلیوں کو جمع نہ کر دیتا۔





## دوسری بار کی تباہی:

آگے فرمایا گیا ہے ”فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ“ الخ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کے بعد جس کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے، بنی اسرائیل نے پھر خدا کو اور اس کی ہدایت کو بھلا دیا اور نفس پرستی اور سرکشی کا وہ راستہ پھر اختیار کر لیا جس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا چکی تھی ”لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا“ تو خدا کی طرف سے ان پر ان کے دوسرے نہایت خراب اور خونخوار دشمن مسلط کر دیئے گئے، وہ خدا کا عذاب بن کر ان پر نازل ہوئے، انہوں نے ان کو ایسی ماردی کہ صورتیں تک بگاڑ دیں اور جس طرح سخت نصر کے لشکر نے ان کے دینی اور قومی مرکز اور ان کی عزت اور عظمت کے نشان بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا ان کے نئے حملہ آور دشمنوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کے علاوہ بھی جہاں تک قابو پایا سب برباد کر دیا، اور یہ خدائے ذوالجلال کے عذاب کے طور پر ہوا، خدا نے بنی اسرائیل کی شرارت اور سرکشی کی سزا دینے ہی کے لئے ان دشمنوں کو ان پر اس طرح مسلط کیا، اس کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا ”وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا“ (کہ اگر تم نے بد کرداری اختیار کی تو تم کو اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی) اکثر واقف مفسرین نے طیطوس رومی کے حملہ (۷۰ء) کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ (واللہ اعلم)۔

آگے فرمایا گیا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا“ یعنی بنی اسرائیل کی اس دوسری دفعہ کی بربادی کے بعد بھی ان کو اس کی امید دلائی گئی تھی کہ اگر اب بھی معصیت کوشی اور سرکشی کا راستہ چھوڑ کے نیکی اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لو گے تو تمہارا پروردگار پھر تم کو اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے گا اور تم کو پھر ایک نئی زندگی عطا کر دی جائے گی، اور اگر اس کے برخلاف تم نے پھر شرارت اور شیطنیت کا راستہ اختیار کیا تو ہم پھر وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا تھا، یعنی جس طرح پہلے تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے برسے تھے اسی طرح پھر برسیں گے۔ (وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا)۔

## اور پھر آخرت کی سزا:

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے ”وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا“ بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام سورت کی دوسری آیت سے شروع ہوا تھا وہ یہاں ختم ہو گیا، یہ اس سلسلہ کی آخری آیت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس بار بار کی تنبیہ اور ہمارے قہر و عذاب کے بار بار کے تجربے کے بعد بھی تم نے ہدایت کی پیروی اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار نہیں کیا اور کفر و طغیان ہی کی راہ پر چلتے رہے تو ایسے مجرموں کے لئے دنیوی عذاب کے ان تازیانوں کے علاوہ آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جہنم کا شدید عذاب ہے اور پھر جہنم کا جیل خانہ ہی اُن کا دائمی ٹھکانا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔

## ان آیتوں کا سبق:

یہاں ہمارے آپ کے لئے سوچنے سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ سرگزشت ہم کو یعنی اُمت محمدیہ ﷺ کو کیوں سنائی گئی اور اس کو قرآن مجید میں کیوں شامل کیا گیا؟ قرآن پاک نہ تو تاریخ کی کتاب ہے اور نہ قصہ کہانیوں کی، وہ تو کتاب ہدایت ہے، اس میں بنی اسرائیل کے اور دوسری قوموں اور ان کے نبیوں رسولوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں، سب ہماری ہدایت اور سبق آموزی کے لئے بیان کئے گئے ہیں، ان آیتوں کا کھلا سبق ہمیں اور آپ کو اور حضور ﷺ کی ساری اُمت کو یہ ہے کہ کسی قوم، کسی نسل اور کسی اُمت سے اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری نہیں ہے، اس کا قانون بے لاگ ہے، بنی اسرائیل حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں کی اولاد تھے، اور یہ ایسی نسل تھی جس میں اللہ کے ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسے بے لاگ ہے کہ جب تک یہ سیدھے چلیں اور ان کی زندگی ایمان اور عمل صالح والی زندگی رہی ان پر نعمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں اور ان کو عزت اور سر بلندی نصیب رہی، لیکن جب انہوں نے خدا اور اس کے پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر نفس پرستی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور پھر نہایت خبیث قسم کے کفار ان پر مسلط کر دیئے گئے جنہوں نے ان کو بری طرح تہس نہس کیا اور ان کے قبلے بیت المقدس تک کو برباد کر ڈالا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کی طرف سے ہوا۔

امت محمدیہ ﷺ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہوا ہے، جب تک اس کی عام زندگی ایمان و عمل صالح اور تقویٰ والی رہی روم و فارس جیسی عظیم الشان اور نہایت طاقتور حکومتوں کے مقابلہ میں انکو غلبہ حاصل رہا اور ”اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ کا ظہور ہوتا رہا، لیکن جب ایمان اور تقویٰ کے بجائے اُمت میں نفاق اور فسق و فجور کا غلبہ ہو گیا تو ان پر تاتاریوں جیسی وحشی اور خونخوار قوم مسلط کر دی گئی اور پھر وہی ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، ”فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا“ اس کے بعد بھی دُنیا کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کے اس بے لاگ قانون کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور ہم اور آپ خود بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس کا تجربہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سبق لینے کی توفیق دے اور ہم پر رحم فرمائے، ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا اور قرآن مجید کا پیغام یہی ہے، ”عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَرَبُّكُمْ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ (درس القرآن)

وَيَذُرُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ عَلٰی نَفْسِهٖ وَاِهْلِهٖ اِذَا ضَجِرَ دُعَاۃً اٰی كَدْعَاۡهٖ لَهٗ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ الْجَنَسُ عَجُولًا ۝۱۱۰ بِالْاِدْعَاۡ عَلٰی نَفْسِهٖ وَعَدَمِ النَّظْرِ فِی عَاقِبَتِهٖ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ اٰیَتَیْنِ دَالَّتَیْنِ عَلٰی قَدَرَتِنَا فَمَجْنُوۡا اٰیَةَ اللَّیْلِ طَمَسْنَا نُوْرَهَا بِالظَّلَامِ لِتَسْكُنُوۡا فِیْهِ وَالاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَجَعَلْنَا اٰیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً اٰی مُبْصِرًا فِیْهَا بِالضُّوۡءِ لِتَبْتَغُوۡا فِیْهِ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ بِالْكَسْبِ وَلِتَعْلَمُوۡا بِهَمَا عَدَدَ السِّنِّیْنَ وَالْحِسَابِ لِلَاوَقَاتِ وَكُلِّ شَیْءٍ یَّحْتَاجُ اِلَیْهِ فَضْلُنَهٗ تَفْصِيْلًا ۝۱۱۱ اٰی بَيِّنَاہٖ تَبَيَّنَا وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَهٗ طَرَفَهٗ عَمَلُهٗ یَحْمِلُهٗ فِی عُنُقِهٖ



خَصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الزُّوْمَ فِيهِ أَشَدُّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهِ وَرَقَةٌ مُكْتُوبٌ فِيهَا شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ وَنُخِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا مَكْتُوبًا فِيهِ عَمَلُهُ ۖ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۖ صَفْتَانِ لِكِتَابًا وَيُقَالُ لَهُ إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ اِی مُحَاسِبًا مِّنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ لَأَنَّ ثَوَابَ ابْتِدَائِهِ لَهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ لِأَنَّ اِثْمَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَزُرُ نَفْسٌ وَّابِرَةً اِثْمَهُ اِی تَحْمِلُ وَزَرَ نَفْسٍ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ أَحَدًا حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ يُبَيِّنُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا سُنْعِمِهَا بِمَعْنَى رُؤُسَائِهَا بِالطَّاعَةِ عَلَى لِسَانِ رُسُلِنَا فَفَسَقُوا فِيهَا ۚ خَرَجُوا عَنْ أَمْرِنَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ فَذَمَرْنَاهَا تَذْمِيرًا ۝ أَهْلَكْنَاهَا بِأَهْلَاكِ أَهْلِهَا وَتَخْرِيْبِهَا وَكَمْ اِی كَثِيرًا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ الْاِثْمِ مِّنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ عَالَمًا بِبُؤْسَاتِهَا وَظَوَاهِرِهَا وَبِهِ يَتَعَلَّقُ بِذُنُوبٍ مَّنْ كَانَ يَرِيدُ بِعَمَلِهِ الْعَاجِلَةِ اِی الدُّنْيَا عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيدُ ۚ التَّعْجِيلَ لَهُ بَدَلٌ مِّنْ لَهُ بِاعَادَةِ الْجَارِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا يَدْخُلُهَا مَذْمُومًا مَلُومًا مَدْحُورًا ۝ مَطْرُودًا عَنِ الرَّحْمَةِ وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا عَمِلَ عَمَلُهَا ۚ اِلَّا نَقَّ بِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۚ حَالٌ فَلَوْلِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝ عِنْدَ اللّٰهِ اِی مَقْبُولًا مُثَابًا عَلَيْهِ ۚ كَلَّا مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ نَتَمَدَّدُ نُعْطِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ بَدَلٌ مِّنْ مَّتَعَلَّقٍ بِنَمْدٍ عَطَاءُ رَبِّكَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ فِيهَا مَحْظُورًا ۝ مَمْنُوعًا عَنِ أَحَدٍ أَنْظَرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَالْجَاهِ ۚ وَالْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ اعْظُم دَرَجَتٌ وَّاكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝ مِّنَ الدُّنْيَا فَيَنْبَغِي الْاِعْتِنَاءُ بِهَا دُونَهَا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۚ لَا نَاصِرَ لَكَ ۚ

**ترجمہ:** اور انسان جب تنگ دل ہو جاتا ہے تو اپنے اہل و عیال کے لئے اسی طرح بددعاء کرتا ہے جس طرح وہ ان کے لئے دعاء خیر کرتا ہے اور ہر انسان اپنے لئے بددعاء کرنے میں جلد باز اور نا عاقبت اندیش واقع ہوا ہے اور ہم نے رات اور دن کو ہماری قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بنایا، تو ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا یعنی ہم نے اس کے نور کو ظلمت سے مٹا دیا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور (آیۃ اللیل) میں اضافت بیان یہ ہے، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، یعنی ایسی کہ اس میں روشنی کی وجہ سے نظر آ سکے، تاکہ تم کسب کے ذریعہ اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم انکے ذریعہ سالوں کی گنتی اور اوقات کا حساب کر سکو اور ہم نے ہر ضرورت کی چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے یعنی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنادیا ہے جس کو وہ اٹھائے ہوئے ہے (گلے) کو خاص طور پر ذکر کیا ہے اس لئے کہ گلے میں لزوم شدید تر ہوتا ہے اور مجاہد نے کہا ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کی گردن میں ایک نوشتہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جس میں اس کے عمل لکھے ہوں گے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا (یلقاہ اور منشور) کتاب کی صفت ہیں اور

اس سے کہا جائیگا تو اپنا نامہ عمل خود پڑھ لے آج تو خود ہی اپنا محاسب ہونے کے اعتبار سے کافی ہے جس نے ہدایت پائی وہ اپنے ہی فائدہ کے لئے ہدایت پاتا ہے اس لئے کہ اس کی ہدایت کا ثواب اسی کے لئے ہے اور جو راہ سے بھٹکا تو بھٹکنے کا نقصان اسی کے لئے ہے اس لئے کہ گمراہی کا گناہ اسی پر ہے اور کوئی گنہگار شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہ اٹھائیگا اور ہماری سنت نہیں ہے کہ ہم کسی کو، رسول بھیجنے سے پہلے کہ جو اس کے واجبات کو بتائے عذاب کرنے لگیں اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس بستی کے خوشحال لوگوں یعنی اس بستی کے سرداروں کو اپنے رسول کے ذریعہ طاعت کا حکم کرتے ہیں تو وہ اس طاعت کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں یعنی ہماری حکم عدولی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے تو ہم ان کو پوری طرح نیست و نابود کر دیتے ہیں، یعنی اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کر کے، اور اس بستی کو برباد کر کے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا اور تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے اور سب کچھ دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے یعنی ظاہر اور پوشیدہ گناہوں سے واقف ہے اور خبیر اور بصیر کے ساتھ بذنوب متعلق ہے، پیش نظر نسخہ میں ایسا ہی ہے (غالباً یہ سہو ہے، اصل عبارت یہ ہونی چاہئے، ”و بذنوب يتعلق بخبیراً و بصیراً“) اور جو شخص اپنے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے تو ہم جتنا چاہتے ہیں اور جس کو فوری دینا چاہتے ہیں تو سر دست دیدتے ہیں، لمن نرید، لہ سے اعادہ جار کے ساتھ بدل ہے پھر اس کے لئے آخرت میں جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و مردود ہو کر داخل ہوگا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور اس نے اس کے لائق عمل بھی کیا ہو حال یہ کہ وہ مومن بھی ہو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کی اللہ کے نزدیک قدر ہے یعنی مقبول اور ماجور ہیں، اور ہم دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کو ان کو بھی اور ان کو (سامان زیست) دیئے جارہے ہیں (ہؤلاء و هؤلاء) کلاً سے بدل ہے اور من، نمد کے متعلق ہے دنیا میں یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور دنیا میں تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں یعنی کسی سے (کوئی) روکنے والا نہیں، دیکھ لو ہم نے رزق اور مرتبہ میں بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے دنیا سے فضیلت میں بہت بڑی ہے لہذا آخرت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے نہ کہ دنیا کی طرف تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا اور نہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا، کہ تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: الجنس، اس میں اشارہ ہے کہ الانسان میں الف لام جنس کا ہے نہ کہ استغراق کا، لہذا اب یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا کہ سب انسان بد دعاء میں عجول نہیں ہوتے۔

قَوْلٌ: الاضافة للبيان یعنی آية اللیل میں اضافت بیانیہ ہے، یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ مضاف، مضاف الیہ کا غیر ہوا کرتا ہے حالانکہ آية اللیل میں مضاف اور مضاف الیہ ایک ہی ہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ اضافت بیانیہ ہے



اور یہ اضافتِ عدد الی المعدود کے قبیل سے ہے جیسا کہ عشر سنین میں اضافت بیان ہے، آية النهار میں بھی یہی صورت ہے۔

**قَوْلُهُ:** اِی مُبْصَرًا فِیْهَا، اس میں مجازِ عقلی ہے، اسلئے کہ دن نہیں دیکھتا بلکہ دن میں دیکھا جاتا ہے علاقہ ظرفیت کی وجہ سے دیکھنے کی اضافت نہار کی طرف کر دی گئی ہے، یعنی اسم فاعل بول کر ظرف مراد ہے۔

**قَوْلُهُ:** بِالضَّوْءِ اِی بِسَبَبِ الضَّوْءِ ہے۔

**قَوْلُهُ:** اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ، شدت لزوم کو بیان کرنے کے لئے یہ ایک عربی تعبیر ہے، عرب کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو وہ پرندہ سے شگون لیتے تھے، اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ پرندہ از خود اڑے یا اڑایا جائے اگر وہ اڑ کر دائیں جانب گیا تو اس کو نیک فالی سمجھتے تھے اور اس کام کو کرتے تھے جب عرب میں یہ رواج عام ہو گیا تو نفس خیر و شر ہی کو طائر سے تعبیر کرنے لگے اور یہ تسمیۃ الشیء باسم لازمہ کے قبیل سے شمار ہوتا۔

**قَوْلُهُ:** خَصَّ بِالذِّكْرِ الْخِ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اعمال پورے انسان کے لئے لازم ہوتے ہیں نہ کہ صرف گردن کے لئے حالانکہ یہاں اعمال کو گردن کے لئے لازم کہا گیا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح قلاوہ (گلے کا ہار) گلے کے لئے عام طور پر لازم غیر منفک ہوتا ہے اسی طرح انسان کے اعمال انسان کے لئے لازم ہوتے ہیں، اس تعبیر میں شدت لزوم اور لزوم دوام کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** وَقَالَ مُجَاهِدُ الْخِ مُجَاهِدِ کے قول کے مطابق اس میں مجازِ عقلی نہیں ہوگا۔

**قَوْلُهُ:** صَفْتَانِ لِكِتَابًا، یَلْقَاهُ جَمْلُهُ ہو کر کتاباً کی صفت اول ہے اور منشوراً صفت ثانی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ منشوراً یلقاه کی ضمیر مفعولی سے حال ہو۔

**قَوْلُهُ:** وَيُقَالُ لَهُ مَا قَبْلُ سے نظم و ربط قائم کرنے کے لئے یقال کو محذوف مانا ہے۔

**قَوْلُهُ:** نَفْسٌ یَّهْ تَزُرُّ کی وجہ تانیث کی طرف اشارہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** لَا تَحْمِلُ لَا تَزُرُّ کی تفسیر ہے۔

**قَوْلُهُ:** وَبِهِ کی ضمیر علی سبیل الانفراد خبیراً اور بصیراً کی طرف راجع ہے، بہتر ہوتا کہ عبارت اس طرح ہوتی "وَبِذُنُوبٍ يَتَعَلَّقُ بِخَبِيرًا وَبَصِيرًا"۔

**قَوْلُهُ:** بَدَلٌ مِنْ لَهُ الْخِ یعنی لمن نرید، لَهُ سے اعادۂ جار کے ساتھ بدل البعض من الكل ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَيَذُّعُ الْاِنْسَانَ الْخِ انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ واقع ہوا ہے، اس لئے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لئے اسی طرح بددعاء کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لئے اپنے رب سے دعاء کرتا ہے، یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی

بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔

وجعلنا الليل والنهار الخ یعنی رات کو تاریک بنایا تاکہ تم لوگ آرام و سکون حاصل کرو اور تمہاری دن بھر کی تکان دور ہو جائے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اس کے علاوہ رات اور دن کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس طرح ہفتوں مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو اس حساب کے بھی بے شمار فائدے ہیں اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات رہتی یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا اور اس طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ ہوتا۔

وكل انسان الزمناه طئره في عنقه (الآية) یعنی ہر انسان کی نیک بختی و بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں، اپنے اوصاف اپنی سیرت و کردار اور اپنی قوت تمیز و انتخاب کے استعمال سے ہی وہ اپنے آپ کو سعادت و شقاوت کا مستحق بناتا ہے، نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر سے لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بد بختی اور خوش بختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ خیر و شر ان کے اپنے گلے کا ہار ہے، وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو تباہی اور ہلاکت کے راستہ پر ڈالا جس کا نتیجہ اور انجام خسران اور حرمان ہوا وہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف تھے نہ کہ باہر سے آنیوالی کوئی چیز۔

وَمَنْ اهتدى فانما يهتدى لنفسه یعنی راہ راست اختیار کر کے کوئی شخص خدا یا رسول پر یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے، اور اسی طرح گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔

ولا تزد وازرة وذر اخرى (الآية) یہ ایک اہم اور اصولی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلئے کہ اسے سمجھے بغیر ان کا طرز عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک مستقل ذمہ داری ہے کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے اور اس کو جو کچھ بھی جزاء یا سزا ملے گی اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا۔

## بعثت رسل کے بغیر عذاب نہ ہونے کی تشریح:

اس آیت کی بناء پر بعض ائمہ فقہاء کے نزدیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذاب نہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی اور بعض ائمہ کے نزدیک جو اسلامی عقائد عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں مثلاً خدا کا وجود اس کی توحید وغیرہ پس جو لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی یا رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو البتہ عام معاصی اور گناہوں پر سزا غیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوگی، اور بعض حضرات نے اس جگہ رسول سے مراد عام لی ہے خواہ رسول وہی ہوں خواہ انسانی عقل کہ وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ کا رسول ہے۔



## مشرکوں کی نابالغ اولاد کو عذاب نہ ہوگا:

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین و کفار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں ان کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہ ہوں گے (مظہری) اس مسئلہ میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، بعض توقف کے قائل ہیں اور بعض جنت میں جانے کے اور بعض جہنم میں جانے کے، ابن کثیر نے کہا ہے کہ میدان حشر میں ان کا امتحان لیا جائیگا جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائیگا مگر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔

(صحیح بخاری ۳: ۲۵۱، ۱۲: ۳۴۸ مع الفتح الباری)

## رابط آیات:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً (الآیۃ) اس سے پہلی آیت میں اس کا بیان تھا کہ حق تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اللہ کی ہدایت نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس پر عذاب نہیں بھیجتے، مذکورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اللہ کی ہدایت پہنچ گئی پھر بھی انہوں نے سرکشی کی تو اس پر عذاب عام بھیج دیا جاتا ہے، اس آیت میں ایک اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ جس کی رو سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ ان کا خوشحال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں اس طرح اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پاتی ہے۔

## بدعت اور ریا کاری کا عمل کتنا ہی اچھا نظر آئے مقبول نہیں:

وَمَنْ كَانَ يَرِيدَ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ اس آیت میں سعی و عمل کے ساتھ لفظ سَعِيَّهَا بڑھا کر بتلادیا کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے اور نہ عند اللہ مقبول بلکہ عمل اور سعی وہی معتبر ہے جو مقصد یعنی آخرت کے مناسب اور مناسب اور نامناسب ہونا صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہی معلوم ہو سکتا ہے اسلئے جو نیک اعمال ریا کاری اور منگھڑت (بدعت) سے کئے جاتے ہیں جن میں بدعات کی عام رسمیں شامل ہیں وہ دیکھنے میں خواہ کتنے ہی بھلے اور مفید نظر آئیں مگر آخرت کے لئے سعی مناسب نہیں اسلئے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ آخرت میں کارآمد اور تفسیر روح المعانی میں سَعِيَّہ کی تشریح میں سنت کے مطابق ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو۔

اعمال کی قدردانی کی تین شرطیں:

اس آیت میں اللہ نے اعمال کی قدردانی اور مقبولیت کی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں، ① ارادۂ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی، ② ایسی کوشش جو آخرت کے مناسب ہو یعنی سنت کے مطابق ہو، ③ ایمان، اسلئے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔

کَلَّا نَمُدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ الْخٰی عَنِ دُنْیَا کَارِزِقٍ اُوْر اِس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں اللہ کی نعمتیں دنیا میں کسی سے روکی نہیں جاتیں۔

تاہم دنیا کی یہ نعمتیں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے، تاہم آخرت میں درجات کا تفاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔

وَقَضَىٰ أَمْرَ رَبِّكَ أَيْ بَانَ الْأَتَعَبُ وَالْإِيَّاهُ أَنْ تَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ بَانَ تَبَرُّوهُمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فاعِلٌ أَوْكِلَهُمَا وَفِي قِرَاءَةِ يَبْلُغَانِ فَاحِدُهُمَا بَدَلٌ مِنْ أَلَيْهِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ بفتح الفاءِ وَكسرها مُنُونًا وَغَيْرَ مُنُونٍ مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى تَبًا وَقُبْحًا وَلَا تَهْزُهُمَا تَزَجْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝١٣ جَمِيلًا لَيْنًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ إِلَيْنِ لهما جانِبَكَ الذَّلِيلَ مِنَ الرَّحْمَةِ أَيْ لِرِقَّتِكَ عَلَيْهِمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمَنِي حِينَ رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝١٤ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۖ مِنْ أَضْمَارِ الْبِرِّ وَالْعَقُوقِ إِنْ تَكُونُوا صٰلِحِينَ طَاعِينَ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ الرِّجَاعَ إِلَى طَاعَتِهِ غَفُورًا ۝١٥ لَمَّا صَدَرَ مِنْهُمْ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ بَادِرَةٍ وَهُمْ لَا يُضْمِرُونَ عَقُوقًا وَأَتِ اعْطِ ذَا الْقُرْبَى الْقَرَابَةَ حَقَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوا نَبْذِيرًا ۝١٦ بِالْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ أَيْ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝١٧ شَدِيدَ الْكُفْرِ لِنَعْمِهِ فَكَذَلِكَ أَخُوهُ الْمُبْذِرُ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَيْ الْمَذْكُورِينَ مِنْ ذِي الْقُرْبَى وَمَا بَعْدَهُ فَلَمْ تُعْطِهِمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا أَيْ لَطَلَبِ رِزْقٍ تَنْتَظِرُهُ يَأْتِيكَ فَتُعْطِيهِمْ مِنْهُ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝١٨ لَيْنًا سَهْلًا بَانَ تَعَدَّهُمْ بِالْإِعْطَاءِ عِنْدَ مَجْعِ الرِّزْقِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ أَيْ لَا تُمَسِّكْهَا عَنِ الْإِنْفَاقِ كُلِّ الْمَسْكِكِ وَلَا تَبْسُطْهَا فِي الْإِنْفَاقِ كُلِّ الْبَسْطِ فَقَعْدُ مَلُومًا رَاجِعٌ لِلأَوَّلِ مُحْشُورًا ۝١٩ مُنْقَطِعًا لَا شَيْءَ عِنْدَكَ رَاجِعٌ لِلثَّانِي إِنْ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوسِّعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝٢٠ عَالَمًا بِبِوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ فَرَزَقَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَصَالِحِهِمْ .



**تَرْجُمًا:** اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اُس کے کسی کی بندگی نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس طریقہ پر کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں (أَحَدُهُمَا، يَبْلُغَنَّ) کا فاعل ہے اور ایک قراءت میں يَبْلُغَانِ ہے، (اس صورت میں) أَحَدُهُمَا، يَبْلُغَانِ کے الف سے بدل ہوگا، تو تم ان سے، اُف، تک نہ کہنا، (اُف) فاء کے فتح اور کسرہ کے ساتھ یا تنوین اور بغیر تنوین مصدر ہے، معنی میں تَبًّا اور قُبْحًا کے ہے، (یعنی تیرا ناس ہو اور برا ہو) اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے احترام کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اور نرمی اور شفقت سے ان کے سامنے جھکے رہنا (یعنی) اپنی انکساری کے بازوؤں کو ان کے لئے جھکائے رکھنا تیرے ان پر شفقت کی وجہ سے، اور یوں دعاء کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کے وقت میرے اوپر شفقت فرمائی فرمانبرداری سے جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اس کو تمہارا رب خوب جانتا ہے اگر تم صالح رہو گے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہو گے تو بے شک وہ اس کی طاعت کی طرف رجوع کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، (یعنی) جلد بازی میں جو کچھ ان سے حقوق والدین کے بارے میں سرزد ہو گیا ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے، بشرطیکہ ان سے دل میں نافرمانی پوشیدہ نہ ہو، اور قرابتداروں کو حسن سلوک اور صلہ رحمی سے ان کا حق دیتے رہنا اور محتاج اور مسافروں کو (ان کا حق دیتے رہنا) اور اللہ کی نافرمانی میں مال میں فضول خرچی نہ کرنا بلاشبہ بے موقع مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی شیطانوں کے طریقہ پر ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی اس کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے، اسی طرح فضول خرچ کرنے والے اس کے بھائی ہیں، اور اگر تجھے مذکور میں سے یعنی قرابتداروں اور ان سے جو اس کے بعد مذکور ہیں اپنے رب کی اس رحمت کی امید کی طلب میں جس کی تو امید رکھتا ہے پہلو تہی کرنی پڑے یعنی اس رزق کی طلب میں کہ جس کے حاصل ہونے کا تجھے انتظار ہے تاکہ اس میں سے ان کو دے تو ان سے نرمی اور سہولت کی بات کہہ دینا، اس طریقہ پر کہ مال حاصل ہونے کی صورت میں ان کو دینے کا وعدہ کر لینا اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن ہی سے باندھ لو یعنی نہ تو ہاتھ کو خرچ کرنے سے پوری طرح بند کرو اور نہ خرچ کے لئے پوری طرح کھول دو کہ تم ملامت زدہ ہو کر یہ اول صورت کی طرف راجع ہے اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہو یعنی تمہارے پاس کچھ نہ رہے یہ دوسری صورت کی طرف راجع ہے، بے شک تیرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں فراخی کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں (کی حالت) سے بخوبی دانا و بینا ہے، یعنی ان کے باطن اور ظاہر سے بخوبی باخبر ہے، ان کی مصلحت کے مقتضی کے مطابق ان کو رزق عطا کرتا ہے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** بَانَ، اس تقدیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُن مصدر یہ ہے اس صورت میں لا نافیہ ہوگا اور تعبدون عبادۃ کے معنی میں ہے، یعنی تیرے رب نے یہ بات تاکید فرمائی ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ، اُن، مفسرہ ہوا سئلے کہ قضی، قال کے معنی میں ہے اس صورت میں ’لا‘ ناہیہ ہوگا۔

**قَوْلُهُ:** يَبْلُغَنَّ واحد کر غائب مضارع بانون ثقیلہ۔

**قَوْلُهُ:** وَأَنْ تَحْسِنُوا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَالٌ:** أَنْ تَحْسِنُوا مقدر ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

**جَوَابٌ:** بالوالدین جار مجرور ہو کر احساناً مؤخر کے متعلق نہیں ہو سکتے اس لئے کہ مصدر کا متعلق مقدم نہیں ہوا کرتا، اس لئے مجبوراً ان تحسنوا، مقدر ماننا پڑا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اُن تحسنوا، مقدر نہ مانا جائے تو بالوالدین کا عطف لا تعبدوا پر ہوگا یہ عطف جملہ اسمیہ علی جملہ فعلیہ ہوگا جو کہ درست نہیں ہے اور جب اُن تحسنوا مقدر مان لیا تو عطف جملہ فعلیہ علی الجملۃ الفعلیہ ہو گیا۔

**قَوْلُهُ:** عِنْدَكَ اِی فِی کفالتک وحرزک۔

**قَوْلُهُ:** فاعِل یعنی اَحَدُهُمَا فاعِل ہے اس اضافہ کا مقصد یہ بتانا ہے یَبْلُغَنَّ میں فاعِل کی ضمیر مستتر نہیں ہے کہ تکرار فاعِل کا اعتراض واقع ہو بلکہ اَحَدُهُمَا فاعِل ہے۔

**قَوْلُهُ:** فَاَحَدُهُمَا بَدَل مِنَ الْفِی، یہ دوسری قراءت کی ترکیب کی طرف اشارہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قراءت میں یَبْلُغَنَّ کے بجائے یَبْلُغَانَّ ہے، اس صورت میں تکرار فاعِل کا اعتراض ضرور واقع ہوگا، اس کا جواب یہ ہے کہ یَبْلُغَانَّ میں الف فاعِل کا ہے اور اَحَدُهُمَا اس سے بدل ہے نہ کہ یَبْلُغَانَّ کا فاعِل، لہذا اس قراءت کی صورت میں بھی تکرار فاعِل کا اعتراض نہ ہوگا۔

**قَوْلُهُ:** اَلْنِ لِهَمَّا جَانِبُكَ النِّح یعنی جناح سے مجازاً جانب کا ارادہ کیا ہے اور یہ ذکر خاص اور ارادۃ عام کے قبیل سے ہے۔

**قَوْلُهُ:** الدَّلِيل، اس میں اشارہ ہے کہ جناح کی اضافت، الدَّل کی جانب بیانیہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** اِی لِرَفْتِكَ اس میں اشارہ ہے کہ مِنَ الرَّحْمَةِ میں مِنْ اَجَل کے لئے ہے۔

**قَوْلُهُ:** رَحْمَانِ اس اضافہ کا مقصد تشبیہ کو درست کرنا ہے۔

**قَوْلُهُ:** وَهُمْ لَا يَضْمُرُونَ النِّح یہ جملہ حالیہ ہے۔

**قَوْلُهُ:** فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی، اس میں اشارہ ہے کہ کار خیر میں اگر افراط کے ساتھ بھی خرچ کیا جائے تو بھی فضول خرچی میں شمار نہیں ہے۔



## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیح

### والدین کے حقوق و احترام:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہے، گویا توحید اور ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ، اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے احادیث میں اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے، پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے ”ہاں“ کے بجائے ”ہوں“ تک کہنے اور ڈانٹنے جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ بڑھاپے میں والدین کمزور بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور بڑھاپے کی سرد و گرم چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے، ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تاہم اللہ کے یہاں شاد کام اور سرخ رو وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا، ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔

بڑھاپے میں خدمت کی زیادہ تاکید کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں خدمت کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ پیرانہ سالی میں ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے جس کی وجہ سے اہل خانہ بھی اکتا جاتے ہیں بڑی سعادت مند اولاد کا کام ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری سے جی نہ ہارے، قرآن نے تنبیہ کی ہے کہ جھڑکنا اور ڈانٹنا تو کجا، ان کے مقابلہ میں ہوں بھی مت کرو بلکہ بات کرتے وقت ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھو، ابن مسیب نے فرمایا، اس طرح بات کرو کہ جیسے ایک خطاوار غلام سخت مزاج آقا سے کرتا ہے، غرضیکہ والدین نے جس طرح تیری ناتوانی کے وقت تیری تربیت و نگہداشت میں خون پسینہ ایک کر دیا اور اپنی مقدور بھرتیری راحت و حفاظت کی فکر کی، ہر آفت و مصیبت سے تجھے بچانے کی کوشش کرتے رہے، آج ان کی ضعیفی کا وقت آیا ہے جو کچھ تیری قدرت میں ہے ان کی خدمت اور تعظیم کر، اس کے باوجود تو ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لئے اپنے بازو پھیلا کر پست کر دیتا ہے، تو تو بھی والدین کے ساتھ اسی طرح رحمت و شفقت کا برتاؤ کر اور ان کی اسی طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کفالت کی، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لئے دعاء مغفرت کرتا رہ، اور یہ سب کچھ اخلاص اور نیک نیتی سے ہونا چاہئے نہ کہ ریاکاری اور دکھاوے کے لئے، اگر فی الواقع تم اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف کر دے گا۔

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ الْخ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غریب رشتہ داروں، مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہئے، اسلئے کہ یہ ان پر احسان نہیں بلکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کا رکھا ہے، اگر صاحب مال یہ حق ادا نہ کرے گا تو عند اللہ مجرم ہوگا معلوم ہوا کہ یہ حق کی ادائیگی ہے نہ کہ کسی پر احسان۔

## مال میں فضول خرچی منع ہے:

مال خدا کی بڑی نعمت ہے اس سے عبادت میں دلجمعی حاصل ہوتی ہے اسی سے بہت سی اسلامی خدمات اور نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے اس کو بے جا اڑانا ناشکری ہے جو شیطان کے اغواء و تحریک سے واقع ہوتی ہے اور انسان اس طرح ناشکری کر کے شیطان کا بھائی یعنی اس کا پیروکار بن جاتا ہے۔

فضول خرچی کو قرآن مجید نے دو لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے ایک ”تبذیر“ اور دوسرے ”اسراف“ تبذیر کی ممانعت تو اس آیت میں مذکور ہے اور اسراف کی ممانعت وَلَا تَسْرِفُوا سے بیان فرمائی ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں یعنی بے موقع اور بے محل خرچ کرنے کو تبذیر و اسراف کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے یہ تفصیل کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع ہو مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں اسلئے تبذیر بہ نسبت اسراف کے شدید تر ہے اور اس کے مرتکب کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔

امام تفسیر حضرت مجاہد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا تمام مال راہ حق میں خرچ کر دے تو وہ تبذیر نہیں، اور باطل کے لئے اگر ایک مد (آدھ سیر) بھی خرچ کرے تو یہ تبذیر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔

## بدرجہ مجبوری معذرت کا طریقہ:

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ الْخ یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے جس کے دور ہونے اور کٹکٹ رزق کی تُو اپنے رب سے امید رکھتا ہے اگر تجھے غریبوں، رشتہ داروں، مسکینوں، اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے یعنی اظہار معذرت کرنی پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کر، یعنی پیار و محبت کے لہجے میں نرمی اور خوش اسلوبی سے جواب دینا چاہئے نہ کہ ترش روئی اور بداخلاقی کے ساتھ۔

## شان نزول:

مذکورہ آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ ﷺ سے مال کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ اگر ان کو دیا جائے تو فساد میں خرچ کر سگے اس لئے آپ ﷺ ان کو دینے سے انکار فرما دیا کرتے



تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (معارف، قرطبی) مسند سعید بن منصور میں بروایت صبا بن حکم مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرمادیا اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جبکہ آپ سارا کپڑا تقسیم فرما چکے تھے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

## خرچ کرنے میں راہ اعتدال کی ہدایت:

ولا تجعل يدك مغلولة الخ یعنی نہ تو اس قدر بخیلی کرے کہ لوگ ”کنجوس مکھی چوس“ کہنے لگیں اور نہ اتنا دے کہ خود محتاج اور دوسروں کا دست نگر ہو کر بیٹھ رہے غرضیکہ ہر معاملہ میں اعتدال اور تو سطر ملحوظ رکھنا چاہئے، حدیث شریف میں ہے، ”مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ“ جس نے میانہ روی اختیار کی محتاج نہیں ہوا۔

اس آیت میں مخاطب براہ راست آپ ﷺ ہیں، اور آپ کے واسطے سے پوری امت مخاطب ہے اور مقصود اقتصاد کی ایسی تعلیم ہے کہ جو دوسروں کی امداد میں حائل بھی نہ ہو اور خود اپنے لئے بھی زحمت و مصیبت نہ بنے، اس آیت کے شان نزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور بغوی نے بروایت حضرت جابر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ایک واقعہ نقل کیا ہے۔

واقعہ: واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ ﷺ کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میری والدہ نے آپ سے ایک کرتے کا سوال کیا ہے، اس وقت آپ ﷺ کے پاس اس کرتے کے علاوہ کوئی کرتہ نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا، آپ نے لڑکے سے کہا پھر کسی وقت آؤ کہ جب ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں لڑکا گیا اور واپس آیا اور کہا میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ ﷺ کے بدن مبارک پر جو کپڑا ہے وہی عنایت فرمادیں، آپ نے کرتہ اتار کر اس لڑکے کے حوالہ کر دیا آپ ننگے بدن رہ گئے، نماز کا وقت آگیا، حضرت بلال نے اذان دی مگر آپ باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی، بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ﷺ کرتہ کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہوئے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

## فائدہ جلیلہ:-

لا تجعل مع الله الها آخر سے فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً۔ تک (۲۵) احکام بیان کئے گئے جن کو بالترتیب لکھا جاتا ہے۔

❶ ولا تجعل مع الله الهاً آخر.

❷، ❸ وقضى ربك الخ اس آیت میں دو حکم ہیں۔

❶ عبادۃ اللہ، ❷ نہی عن عبادۃ الغیر.

❷ وبالوالدين احسانا.	❸ فلا تقل لهما اف.
❹ ولا تنههما.	❺ وقل لهما قولا كريما.
❻ واخفض لهما جناح الذل.	❼ وقل رب ارحمهما.
❽ وآت ذالقربي حقه.	❾ والمسكين.
❿ وابن السبيل.	⓫ ولا تبذر تبذيرا.
⓬ وقل لهما قولا كريما.	⓭ ولا تجعل يدك مغلولة.
⓮ ولا تبسطها كل البسط.	⓯ ولا تقتلوا اولادكم.
⓰ ولا تقربوا الزنى.	⓱ ولا تقتلوا النفس.
⓲ فلا يسرف في القتل.	⓳ واوفوا بالعهد.
⓴ واوفوا الكيل.	⓵ وزنوا بالقسطاس المستقيم.
⓶ ولا تقف ماليس لك به علم.	⓷ ولا تمش في الارض مرحا.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْوَادِ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ فَقَرَّحْنُ نَزَرَهُمْ وَإِيَّاكُمْ لَأَن قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَاً ثَمّاً كَبِيراً ۝ عَظِيمًا  
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ أَبْلَغُ مِنْ لَا تَأْتُوهُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۝ قَبِيحًا وَسَاءَ بئس سَبِيلًا ۝ طَرِيقًا هُوَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي  
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ لَوَارِثَهُ سُلْطَانًا تَسْلُطًا عَلَى الْقَاتِلِ فَلَا يُسْرِفُ بِتَجَاوُزِ الْحَدِّ  
فِي الْقَتْلِ بَأَن يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ بغير مَا قُتِلَ بِهِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۝ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۝ إِذَا عَاهَدْتُمْ اللَّهَ أَوْ النَّاسَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ عَنْهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۝ أَيْمُونَهُ



اِذَا كَلَّمْتُمْ وَرِثًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِیْمِ الْمِيزَانَ السَّوِیَّ ذَلِكُمْ خَیْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِیْلًا ۝ مَا لَا وَّلَاتَقْفُ تَتَّبِعُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ الْقَلْبَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْدهٗ مَسْئُوْلًا ۝ صَاحِبُهُ مَا ذَا فَعَلَ بِهِ وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا اِیْ ذَا مَرَحٍ بِالْكِبَرِ وَالخِیْلَ ۝ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ تَشَقُّهَا حَتّٰی تَبْلُغَ الْاُخْرٰی بِكَ بِرِكَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝ الْمَعْنٰی اَنَّكَ لَا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغَ فَكِیْفَ تَخْتَالُ كُلُّ ذَلِكُمْ الْمَذْكُوْرُ كَانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝ ذَلِكُمْ مِمَّا اَوْحٰی اِلَيْكَ یَا مُحَمَّدُ رَّبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْمَوْعِظَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فُتَلَقٰی فِی جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوْرًا ۝ مَطْرُوْدًا عَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَفَاَصْفٰكُمْ اَخْلَصَكُمْ یَا اِهْلَ مَكَّةَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِیْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا ۝ بِنَاتًا لِنَفْسِهِ بِزَعْمِكُمْ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ بِذَلِكَ قَوْلًا عَظِیْمًا ۝

ع

**ترجمہ:** اور تم اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے زندہ درگور کر کے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی،

اور بلاشبہ ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور زنا کے قریب بھی نہ پھکو (یہ تعبیر) تم زنا نہ کرو کی تعبیر سے زیادہ بلیغ ہے، بلاشبہ وہ بہت برا فعل ہے اور نہایت برا راستہ ہے اور قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا

تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل سے قصاص کے مطالبہ کا حق عطا کیا ہے تو اس کو قتل میں (حد شرع) سے تجاوز نہ کرنا چاہئے

بایں طور کہ غیر قاتل کو قتل کرے یا اس آلہ کے علاوہ سے قتل کرے کہ جس کے ذریعہ قتل کیا گیا ہے بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، اور مال یتیم کے پاس بھی نہ پھکو مگر ایسے طریقہ سے جو (شرعاً) احسن ہے یہاں تک کہ وہ سن شعور کو پہنچ جائے اور جب تم اللہ سے

یا لوگوں سے کوئی عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو، بلاشبہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور جب ناپے لگو تم بھر پور پیمانہ سے ناپو اور (تولو) تو ٹھیک ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً کان اور آنکھ اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی (یعنی) (کان، آنکھ اور دل) والے سے باز پرس ہوگی کہ

ان سے کیا کام لیا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو (یعنی) مغرورانہ اور متکبرانہ انداز سے نہ چلو، یہ امر واقعہ ہے کہ نہ تو تم اپنے تکبر کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو یہاں تک کہ تم اس کی تہہ تک پہنچ جاؤ اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو

مطلب یہ ہے کہ تم اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک (سخت) ناپسندیدہ ہے اور اے محمد ﷺ یہ حکمت نصیحت کی وہ باتیں ہیں تیرے رب نے تیری طرف وحی کے ذریعہ

اتاری ہیں اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا (ورنہ) ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دور کر کے جہنم میں ڈال دیا جائیگا، اے اہل مکہ، کیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لئے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اور خود اپنے لئے فرشتوں کو لڑکیاں بنالیا

(یعنی) بقول شما لڑکیاں اپنے لئے پسند کر لیں، تم یہ بات کہہ کر یقیناً بہت بڑا بول، بول رہے ہو۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: اِمْلَاق (افعال) افلاس، فقر۔

قَوْلٌ: الْوَاد (ض) سے مصدر ہے زندہ دفن کرنا۔

قَوْلٌ: خِطَا، خطا، چوک، گناہ، (س) خِطَاً مصدر ہے۔

قَوْلٌ: اَبْلَغُ مِنْ لَا تَاتُوهُ یعنی لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ تعبیر اور معنویت میں لَا تَاتُوهُ سے ابلغ ہے، اسلئے کہ لَا تَقْرَبُوا میں زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے جس میں دوائی زنا اور مقدمات زنا سے ممانعت بھی شامل ہے بخلاف لَا تَاتُوهُ کے۔

قَوْلٌ: اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، ضمیر ولی مقتول کی طرف راجع ہے، ولی مقتول اسلئے منصور ہے کہ شریعت نے اس کو قصاص کا حق دیا ہے۔

قَوْلٌ: مَسْئُولًا، عنہ یعنی روز قیامت عہد شکنی سے عہد شکن کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

قَوْلٌ: لَا تَقْفُ، تو پیچھے نہ چل، تو اتباع نہ کر (ن) قَفَّوْا پیچھے چلنا، پیروی کرنا مضارع واحد مذکر حاضر فعل نہیں۔

قَوْلٌ: ذَامِرِح مضاف محذوف مان کر اس سوال کا جواب دیدیا کہ مَرَحًا، لَا تَمْشِ کی ضمیر سے حال ہے حالانکہ مَرَحًا کا حمل مصدر ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ مضاف محذوف ہے ای ذَامِرِح، ای مَرَحًا۔

## تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِیۃً اِمْلَاق (الآیۃ) زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی اولاد کو خاص طور پر لڑکیوں کو ولادت کے وقت اس خوف سے قتل کر دیتے تھے کہ ان کے مصارف اور کھانے پینے کا بارہم پر پڑے گا، نبی ﷺ نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا ہے وہ یہی ہے آپ نے فرمایا ”وَانْ تَقْتُلْ وَلَدَكَ خَشِیۃً اِنْ یَطْعَمَ مَعَكَ“ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ بقرہ، مسلم شریف کتاب التوحید)

آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقہ سے خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حُسن کو برقرار رکھنے کے لئے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہے ہیں۔

## ضبط تولید اور قرآن حکیم:

آیت مذکورہ نے ان معاشی بنیادوں کو یکسر منہدم کر دیا جن پر قدیم زمانہ سے آج تک مختلف ادوار میں ضبط ولادت کی تحریک اٹھتی رہی ہے، افلاس کا خوف قدیم زمانہ میں قتل اطفال اور اسقاط حمل کا محرک ہوا کرتا تھا، اور موجودہ دور میں وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منع حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے، دور جاہلیت میں اندیشہ افلاس کے ساتھ ایک سبب عار دامادی



بھی ہوا کرتا تھا صنف نازک ہر دور میں مختلف اسباب اور وجوہ کی بنا پر مظلوم رہی صنف نازک کی مظلومیت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود ظلم کی، اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس مظلوم صنف نازک کی مصیبت کم نہیں ہوئی بلکہ کچھ اضافہ ہی ہوا ہے، جدید آلات کی مدد سے حمل کی جنس معلوم کر لی جاتی ہے اگر معلوم ہو جائے کہ رحم مادر میں لڑکی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ولادت سے پہلے ختم کر دیا جائے زمانہ جاہلیت میں صنف نازک کی مصیبتوں کے اسباب جو بھی رہے ہوں موجودہ دور میں دو سبب نمایاں اور سر فہرست ہیں، تعلیم و تربیت اور جہیز، جس طرح زمانہ جاہلیت میں گھر میں لڑکی کی ولادت کی خبر سنکر چہرے اداس اور بے رونق ہو جاتے تھے آج گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سنکر اہل خانہ اور عزیز اقارب فکر مند ہو جاتے ہیں، اور بیٹی کی آمد کو مصیبت کی آمد تصور کرتے ہیں۔

قانون اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کی تخریبی کوشش چھوڑ کر ان تعمیری کوششوں میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کریں جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق رزق کی افزائش ہوا کرتی ہے، قرآنی مذکورہ دفعہ کی رو سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشہ سے افزائش نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، قرآن کی یہ دفعہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزق رسانی کا کام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھی روزی دیتا ہے، جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دے رہا ہے بعد میں آنے والوں کو بھی روزی دے گا، تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے اتنے ہی بلکہ بارہا اس سے بہت زیادہ معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں لہذا خدا کی تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جا دخل اندازی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا الزَّانَا الخ اسلام میں زنا چونکہ جرم عظیم ہے اتنا بڑا جرم کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کام کا ارتکاب کرے تو اسے اسلامی معاشرہ میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اسلئے یہاں فرمایا کہ فعل زنا تو دور کی بات ہے اس کے دوائی اور اسباب کے پاس بھی مت جاؤ، مثلاً غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط کی راہیں نکالنا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جاسکے۔

زنا کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں، اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے اور جب انسان میں حیا ہی نہ رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی اسی معنی کو حدیث شریف میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ”اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ“ یعنی تیری حیا ہی جاتی رہی تو اب کسی برائی کے کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی،

اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، الحياء شعبۃ من الایمان۔ (بخاری)

اور دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی اور اس کے نتائج بد بعض اوقات قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔

ولا تقربوا الزنا، قرآنی منشور کی یہ دفعہ اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی اس کی منشاء کے مطابق زنا اور تہمت زنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا، پردے کے احکام جاری کئے گئے، فواحش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا، شراب اور موسیقی اور رقص و سرود و تصاویر پر جو زنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں بندشیں لگائی گئیں اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جڑ کٹ گئی۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق کا جرم عظیم ہونا دنیا کے تمام مذاہب اور فرقوں میں مسلم ہے قتل نفس سے مراد صرف دوسرے انسان کا قتل ہی نہیں ہے بلکہ خودکشی بھی اس میں شامل ہے، اس لئے کہ نفس جس کو اللہ نے ذی حرمت ٹھہرایا ہے اس کی تعریف میں دوسرے نفوس کی طرح انسان کا اپنا نفس بھی داخل ہے لہذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہے اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خودکشی ہے، انسان کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا مالک سمجھتا ہے حالانکہ اس جان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کے اتلاف کے مختار تو درکنار اس کے بے جا استعمال کے بھی مجاز نہیں، دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہمارا امتحان لے اسی طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دیتے رہنا چاہئے پرچہ پورا کئے بغیر پرچہ پھینک کر امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے، امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ذلتوں اور رسوائیوں سے بچکر عظیم اور ابدی تکلیف و رسوائی کی طرف بھاگتا ہے۔

## قتل ناحق کی تفسیر:

قتل بالحق کی صرف پانچ صورتیں ہیں ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص، دوسرے دین حق کے راستہ میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ، تیسرے نظام اسلامی کو الٹنے کی کوشش کرنے والوں کو سزا، چوتھے شادی شدہ مرد یا عورت کو ارتکاب زنا کی سزا، پانچویں ارتداد کی سزا، صرف یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اور اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ سب قتل ناحق ہے۔

## قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟

آیت مذکورہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ حق مقتول کے ولی کا ہے اگر کوئی ولی موجود نہ ہو تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا اسلئے کہ وہ ایک حیثیت سے تمام مسلمانوں کا ولی ہے اور مقتول کے ولی کے حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے قصاص کے مستحق ہونے کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ مقتول کا ولی از خود قاتل سے قصاص لینا شروع کر دے اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ اولیاء مقتول ہیں اور وہ قاتل کو معاف کرنے یا قصاص کے بجائے خون بہا لینے پر راضی ہو سکتے ہیں۔



## ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے؟

فلا یسرف فی القتل، اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں، بدلہ میں بھی انصاف کی رعایت ضروری ہے، انتقام میں بھی حد مجاز سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ اپنے مقتول کا انتقام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو شریعت اس کے حق میں ہے اور اللہ اس کا مددگار ہے یعنی اسلامی قانون اس کا معاون و مددگار ہے، اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے دوسرے فریق کی مدد کرے گا، کہ اس کو ظلم سے بچائے، لہذا جوش انتقام میں ایسا نہ ہونا چاہئے کہ مجرم کے علاوہ کسی اور کو قتل کر دے یا مجرم کو عذاب دے دیکر مار ڈالے یا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالتے ہوئے اس کے ناک کان کاٹ کر مثلاً کر دے یا خون بہا لینے کے بعد بھی قتل کر دے یا ایک کے بدلے کئی لوگوں کو قتل کر دے یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائد اور حرام ہیں اس لئے آیت فلا یسرف فی القتل میں اس سے منع کیا گیا ہے۔

## یتیموں کے مال میں احتیاط:

ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس میں احتیاط کا بڑا تاکید حکم فرمایا ہے، یعنی یتیموں کے مال میں بیجا تصرف تو دور کی بات ہے برے ارادہ سے اس کے پاس بھی نہ جانا، یہ حکم محض ایک اخلاقی ہدایت ہی نہیں تھی بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لئے انتظامی اور قانونی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئیں جو کہ فقہ اسلامی کا ایک مستقل باب ہے پھر اسی سے یہ اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی محافظ ہے جو اپنے مفاد کی خود حفاظت کے قابل نہ ہوں، نبی ﷺ کا ارشاد ہے ”انا ولی من لا ولی له“ میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو۔

## اسلام میں معاہدات کا حکم:

عہد دو طرح کے ہیں ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے جیسا کہ عہد الست کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں کیا ہے خواہ کافر ہو یا مومن اس کو پورا کرنا فطری طور پر انسان پر واجب ہے دوسرا عہد مومن ہے جو ”شہادت ان لا الہ الا اللہ“ کے ذریعہ کیا گیا ہے جس کا حاصل احکام الہی کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جوئی ہے۔

دوسری قسم کا عہد وہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان سے کرتا ہے جس میں ہر قسم کے معاہدات سیاسی تجارتی معاملاتی سب شامل ہیں جو افراد اور جماعتوں اور ملکوں اور قوموں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں، پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر

واجب ہے، اور دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع نہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب ہے اور جو خلاف شرع ہوں ان کی فریق ثانی کو اطلاع کر کے ختم کر دینا واجب ہے جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریق عہد کی پاسداری نہ کرے تو فریق ثانی کو حق ہے کہ عدالت میں مرافعہ کر کے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرے۔

اور اگر کوئی شخص کسی سے یکطرفہ وعدہ کر لیتا ہے اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے مگر وعدہ خلافی کرنے والے کو فریق ثانی بذریعہ عدالت وعدہ پورا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، البتہ بلا عذر شرعی اگر کوئی شخص وعدہ کرنے کے بعد پورا نہ کرے گا وہ شرعاً گنہگار ہوگا، حدیث میں اس کو عمل نفاق قرار دیا گیا ہے۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، یہ حکم ناپ تول پورا کرنے کی ہدایت اور اس میں کمی کرنے کی ممانعت کا ہے جس کی پوری تفصیل سورۃ المطففین میں مذکور ہے پورا تولنے اور ناپنے کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو اس کا پورا حق دیا جائے اس میں کمی کرنا حرام ہے اس لئے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا چاہئے اس سے کم دے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے۔

صحیح ناپ تول کی ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہی بلکہ یہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہوگئی کہ وہ منڈیوں میں بازاروں میں اوزان اور پیمانوں کی نگرانی کرے اور تطفیف کو بزور بند کرے۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الآیۃ) یعنی بغیر تحقیق کے زبان سے کوئی بات نہ نکالو اور نہ کسی بات کی بغیر تحقیق پیروی کرو، انسان کو چاہئے کہ آنکھ، کان، اور دل سے کام لے کر اور بقدر ضرورت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے اور اس پر عمل کرے، قیامت کے دن تمام اعضاء اور قوی کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، متکبروں کی چال چلنا زیبا نہیں نہ تو، تو زمین پر زور سے پاؤں مار کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ سینہ تان کر چلنے سے بلندی میں پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے پھر ایسے ضعف و عجز کے باوجود کھینچ تان کر قد لمبا کرنے سے کیا فائدہ؟

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنَ الْأَمْثَالِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ لِيَذْكُرُوا وَيَتَعِظُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ ذَلِكَ إِلَّا نُفُورًا ① عَنْ الْحَقِّ قُلْ لَهُمْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آيُ اللَّهِ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا الْأَبْتَعُوا طَلَبُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ آيُ اللَّهِ سَبِيلًا ② طَرِيقًا لِّيَقَاتِلُوهُ سُبْحَانَهُ تَنْزِيهًا لَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ مِنَ الشُّرَكَاءِ عُلُوًّا كَبِيرًا ③ تَسْبِيحُ لَهُ تَنْزِيهَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِمَّنْ شَيْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا يَسْبِيحُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ آيُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَفْهَمُونَ تَسْبِيحُهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بُلُغَتِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ④ حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ⑤ آيُ سَاتِرًا لَكَ عَنْهُمْ فَلَا يَرُونَكَ وَنَزَلَ فِيمَنْ أَرَادَ الْفِتْكَ بِهِ



صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ مِنْ أَنْ يَفْهَمُوا الْقُرْآنَ اِى فَلَا يَفْهَمُونَهُ  
وَفِيْ اِذْ اَنْهَضُوهُمْ وَقَرَأْ ثِقَلًا فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ وَاِذَا اذْكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ اَعْلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝۱۵ عَنْهُ نَحْنُ  
اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖ بِسَبَبِهِ مِنْ اَلْهَرَاءِ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ قِرَاءَ تَكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى يَتَنَاجَوْنَ بَيْنَهُمْ اِى  
يَتَحَدَّثُوْنَ اِذَا بَدَلُ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ فِي تَنَاجِيِهِمْ اِنْ مَا تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝۱۶ مَخْدُوْعًا مَّغْلُوْبًا  
عَلٰى عَقْلِهِ قَالِ تَعَالٰى اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ بِالْمَسْحُوْرِ وَالْكَاهِنِ وَالشَّاعِرِ فَضَلُّوْا بِذٰلِكَ عَنِ الْهُدٰى  
فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيْلًا ۝۱۷ طَرِيْقًا اِلَيْهِ وَقَالُوْا مُنْكَرِيْنَ لِلْبَعْثِ ؕ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝۱۸ قُلْ لَّهُمْ  
كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝۱۹ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ يَعِظُ عَنْ قَبُوْلِ الْحَيٰوةِ فَضْلًا عَنْ الْعِظَامِ وَالرُّفَاتِ فَلَا  
بُدَّ مِنْ اِيْجَادِ الرُّوْحِ فِيْكُمْ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا۟ اِلٰى الْحَيٰوةِ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَمْ تَكُوْنُوْا  
شَيْْئًا لَّا الْقَادِرُ عَلَى الْبَدْءِ قَادِرٌ عَلَى الْاِعَادَةِ بَلْ سَبٰى اَبُوْنُ فَسَيُغْضُوْنَ يُحَرِّكُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ تَعْجَبًا  
وَيَقُوْلُوْنَ اسْتَهْزَا۟ مَتٰى هُوَ اِى الْبَعْثُ قُلْ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبًا ۝۲۰ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ يُوْنٰدِيْكُمْ مِنْ الْقُبُوْرِ عَلَى لِسَانِ  
اِسْرَافِيْلَ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ فَتَخْرُجُوْنَ مِنَ الْقُبُوْرِ بِحَمْدِهِ بِاَمْرِهٖ وَقِيْلَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَتَنْظُرُوْنَ اِنْ مَا لِبِئْسَ مَا فِي الدُّنْيَا  
اِلَّا قَلِيْلًا ۝۲۱ لَهَوْلٍ مَا تَرَوْنَ.

**ترجمہ:** ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثال اور وعدہ و وعید بیان کر کے سمجھایا تاکہ لوگ سمجھیں نصیحت حاصل کریں، لیکن اس سے تو ان کی حق سے نفرت ہی بڑھتی گئی (اے محمد ﷺ) ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اب تک یہ لوگ عرش کے مالک اللہ کی طرف ضرور راہ ڈھونڈ نکالتے تاکہ اس سے جنگ کریں، جن شرکا کی یہ بات کرتے ہیں وہ ان سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہر مخلوق حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے یعنی سبحان اللہ و بجمہ کہتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں ہے بلاشبہ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمہاری سزا میں جلدی نہیں کرتا، اور جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب سائر ڈالدیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تم کو دیکھ نہیں سکتے اور (آئندہ آیت) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے آپ ﷺ کو اچانک قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھادیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے (یعنی) ایسا غلاف جو قرآن فہمی سے مانع ہوتا ہے، یعنی اس کو نہیں سمجھتا اور ان کے کانوں میں قفل پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو سنتے نہیں ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ اس سے نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جب وہ کان لگا کر آپ کی قراءت استہزاء کے لئے سنتے ہیں تو ہمیں تب بھی معلوم ہے کہ وہ کیا سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں تب بھی، اور اذ، ماقبل کے

اذ سے بدل ہے، اور تب بھی کہ جب یہ ظالم آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحرزدہ شخص کی پیروی کرتے ہو (یعنی) ایسے شخص کی کہ جو مسحور اور مغلوب العقل ہے، دیکھو تو سہی آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں؟ (یعنی) سحرزدہ اور کاہن اور شاعر کی مثال، اسی وجہ سے یہ لوگ ہدایت سے بھٹک رہے ہیں انھیں (خدا تک رسائی کا) راستہ نہیں ملتا اور منکرین بعث کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈی اور چورہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائیگا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو قبول حیات میں تمہارے خیال میں ہڈیوں اور ریزوں سے بھی بعید تر ہو، ہو جاؤ تو بھی تمہارے اندر وہ روح ڈال کر ہی رہے گا، تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو زندگی کی طرف لوٹائیگا (جواب میں) کہو، وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اسلئے کہ جو ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے بلکہ دوبارہ پیدا کرنا آسان تر ہے تو وہ تعجب سے آپ کی طرف سرمٹائیں گے اور پوچھیں گے، اچھا تو، یہ دوبارہ زندہ ہونا، ہوگا کب؟ تم کہو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں اسرائیل کی زبانی قبروں سے پکارے گا تو تم اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے قبروں سے نکل آؤ گے اور کہا گیا ہے کہ لہ الحمد، کہتے ہوئے نکل آؤ گے جس منظر کو تم دیکھو گے اس کی ہولناکی کی وجہ سے تمہارا گمان یہ ہوگا کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔

## تحقیق و ترکیب لتہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلٌ** : وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ، وَادْعَا طِفْهَ لَامِ قَسْمِيہِ ، صَوَّفَ ، متعدد معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں بَيِّنَا وَاَوْضَحْنَا کے معنی میں مستعمل ہے، اس کا مفعول محذوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے ”وَلَقَدْ صَرَّفْنَا امْثَالًا“۔

**قَوْلٌ** : سَاَتَرًا ، اس میں اشارہ ہے کہ مفعول بمعنی فاعل ہے اسلئے کہ حجاب سائر ہوتا ہے نہ کہ مستور۔

**قَوْلٌ** : اَلْفَتْكُ ، بتثلیث الفاء القتل علی الغفلة ، اچانک غفلت کی حالت میں قتل کر دینا۔

**قَوْلٌ** : مِنْ اَنْ يَفْهَمُوْا ، اس میں اشارہ ہے کہ اَنْ مصدر یہ ہے نہ کہ تفسیریہ ، مِنْ اَنْ يَفْهَمُوْا ، میں من کا اضافہ یہ بتانے کے لئے کہ اَنْ يَفْهَمُوْہ تقدیر من کے ساتھ اِكْنَّة کا صلہ ہے اور اِكْنَّة ، مَنَع کے معنی کو مشتمل ہے، نہ یہ کہ اَنْ يَفْهَمُوْہ مفعول لہ ہے کہ حذف مضاف کی ضرورت ہو اور تقدیر عبارت یہ ہو ”كَرَاهَةَ اَنْ يَفْهَمُوْہ“۔

**قَوْلٌ** : وَحَدَّہْ ، مصدر ہے موقع حال میں واقع ہے۔

**قَوْلٌ** : نَفُوْرًا ، مصدر ہے جو کہ وَلَوْ کا مفعول لہ واقع ہو رہا ہے۔

**قَوْلٌ** : اِذْ يَسْتَمْعُوْنَ الْخَ اور اِذْ هُمْ نَجْوٰی یہ دونوں اَعْلَمُ کے ظرف ہیں۔

**قَوْلٌ** : قِرَاءَتُكَ ، مضاف محذوف مان کر بتا دیا کہ استماع کا مفعول قراءت محذوف ہے اس لئے کہ ذات کا سننا محال ہے اور نہ ذات سننے کی چیز ہے۔



قَوْلًا: مخدوعاً، ای مسحوراً یعنی ایسا مسحور کہ سحر کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی ہو۔

قَوْلًا: رُفَاتًا، رُفَات وہ شئی جو خشک ہو کر چورہ چورہ ہو جائے۔

قَوْلًا: يَنْغَضُونَ اِنْغَاضَ (افعال) سے مضارع جمع مذکر غائب، وہ سر ہلاتے ہیں نَغَضَ (ض ن) اوپر سے نیچے کو سر ہلانا۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

ولقد صرّفنا فی هذا القرآن (الآیة) طرح طرح سے بیان کرنے کا مطلب ہے، وعظ ونصیحت، دلائل و بینات، ترغیب و ترہیب، اور امثال و واقعات، غرض ہر طریقہ سے بار بار سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئیں اور سمجھیں لیکن وہ کفر شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کے بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں، اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن، جادو، کہانت اور شاعری ہے، ایسی حالت میں وہ اس قرآن سے کہاں راہ یاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی سی ہے، نہ خیز زمین پر پڑے تو وہ بارش سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور اگر سنگلاخ اور بنجر زمین پر پڑے تو خار و خس اگا رہے اور اگر گندی زمین پر پڑے تو اس کی گندگی اور بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

قل لَوْ كَانَ مَعَهُ الْهَيْهَةَ كَمَا يَقُولُونَ (الآیة) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبہ کی کوئی تدبیر نکالتے، اور اب تک ایسا ہوا نہیں جبکہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں اور نہ کوئی باختیار ہستی اور نہ کوئی نافع و ضار، مطلب یہ ہے کہ اگر معبود حقیقی کے علاوہ دیگر معبود حقیقی ہوتے تو وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے اس لئے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ سب اپنی جگہ مستقل خدا ہوں یا ان میں سے ایک اصل خدا ہو اور باقی اس کے تابع، پہلی صورت میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ یہ سب آزاد و خود مختار خدا، ہمیشہ ہر معاملہ میں ایک دوسرے کے ارادہ سے موافقت کر کے اس عظیم کائنات کے نظم کو اتنی مکمل ہم آہنگی و یکسانیت اور تناسب و توازن کے ساتھ چلا سکتے، ناگزیر تھا کہ ان کے منصوبوں اور ارادوں میں قدم قدم پر تصادم ہوتا اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا دوسری صورت تو بندہ کا ظرف، خدائی اختیارات تو درکنار خدائی کے ذرا سے وہم اور شائبہ تک کا تحمل نہیں کر سکتا۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ (الآیة) کائنات میں انسانوں، فرشتوں اور جنوں کی تسبیح کا مطلب تو واضح ہے مذکورہ تینوں نوعوں کے علاوہ کی تسبیح کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کی تسبیح سے مراد تسبیح حالی ہے۔

مگر دوسرے اہل تحقیق علماء کا قول یہ ہے کہ تسبیح اختیاری تو صرف فرشتے اور مومن جن وانس کے لئے مخصوص ہے مگر تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو تسبیح خواں بنا رکھا ہے مگر ان کی اس تکوینی اور غیر اختیاری تسبیح کو عام لوگ نہیں سنتے قرآن

کریم کا ارشاد ہے ”وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کائنات کی تسبیح حالی نہیں بلکہ حقیقی ہے مگر ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔

## کائنات کی ہر شئی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے:

کائنات کی ہر شئی اپنے اپنے انداز میں تسبیح و تحمید میں مصروف ہے گو ہم اس کو نہ سمجھ سکیں، اس کی تائید بعض آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ”إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ“ (سورہ ص) ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا بس وہ شام اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ (بقرہ) اور بعض (پتھر) اللہ تعالیٰ کے خوف کے مارے گر پڑتے ہیں۔

## کھانے کا تسبیح پڑھنا:

عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے کی تسبیح کی آواز سنی۔

## اسطوانہ حنانہ کا رونا:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے آپ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب لکڑی کا منبر تیار ہو گیا تو اس تنے کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تنے کی طرح زور زور سے رونے لگا آپ کے تسلی دینے کے بعد خاموش ہوا۔ (بخاری شریف)

## پتھر کا آپ ﷺ کو سلام کرنا:

مکہ میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا کرتا تھا (مسلم شریف) صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد حجر اسود ہے۔ (معارف)

مذکورہ روایات کے بعد اس میں کیا بعد اور استحالة رہ جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میں شعور و ادراک ہے، اور ہر چیز حقیقی طور پر اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔





ہو جائے تو اس کے زندہ ہونے کو کون مان سکتا ہے، آپ ان کے جواب میں فرمادیجئے کہ تم تو ہڈیوں ہی کی حیات کو مستبعد سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں کہ تم پتھر یا لوہا یا کوئی ایسی چیز جو تمہاری نظر میں حیات قبول کرنے میں پتھر اور لوہے سے بھی سخت ہو، ہو کر دیکھ لو، دیکھو کہ زندہ کئے جاتے ہو یا نہیں، پتھر اور لوہے کو بعید از حیات قرار دینا اس لئے ظاہر ہے کہ ان میں کسی وقت بھی حیات حیوانی نہیں آتی بخلاف ہڈیوں کے کہ ان میں پہلے کچھ وقت تک حیات رہ چکی ہے تو جب لوہے اور پتھر کو زندہ کرنا اللہ کے نزدیک مشکل نہیں تو اعضاء انسانی کو دوبارہ زندگی بخشنا کیا مشکل ہوگا۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُوا لِّلْكَفَّارِ الْكَلِمَةَ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ هِيَ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنَّ يَشَاءُ رَبُّكُمْ بِالْتَّوْبَةِ وَالْاِيْمَانِ اَوْ اَنْ يَّشَاءَ تَعَذِّبَكُمْ يُعَذِّبُكُمْ بِالْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ فَتَجْبِرُهُمْ عَلَى الْاِيْمَانِ وَهَذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ فَيَخُصُّهُمْ بِمَا شَاءَ عَلَى قَدَرِ اَحْوَالِهِمْ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ بِتَخْصِيصٍ كُلِّ مِنْهُمْ بِفَضِيلَةٍ كَمُوسَى بِالْكَلامِ وَاِبْرَاهِيْمَ بِالْخُلَّةِ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالْاِسْرَاءِ ۝ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝ قُلْ لَهُمْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَزَقْتُمْ اَنْهُمْ اَلِهَةً مِّنْ دُونِهِ كَالْمَلَائِكَةِ وَعِيسَى وَغُزَيْرٍ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الصُّرْعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ لَهٗ اِلٰى غَيْرِكُمْ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ هُمْ اَلِهَةٌ يَّبْتَغُوْنَ يَطْلُبُوْنَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ الْقَرْبَةَ بِالطَّاعَةِ اِنَّهُمْ بَدَلٌ مِّنْ وَّاَوْ يَبْتَغُوْنَ اِى يَّبْتَغِيْهَا الَّذِيْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ فَكَيْفَ بَغَيْرِهِ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ كَغَيْرِهِمْ فَكَيْفَ يَدْعُوْنَهُمُ اَلِهَةً اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَاِنْ مَا مِّنْ قَرْيَةٍ اُرِيدَ اَهْلُهَا اِلَّا اَنَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِالْمَوْتِ اَوْ مَعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ الْلُوحِ الْمَحْفُوْظِ مَسْطُوْرًا ۝ مَكْتُوبًا وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰلِيَّتِ الَّتِي اقْتَرَحَهَا اَهْلُ مَكَّةَ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ لَمَّا اَرْسَلْنَا بِهَا فَاَهْلَكْنَاهُمْ وَلَوْ اَرْسَلْنَا بِهَا اِلَىٰ بَنِي اِسْرٰءِيْلَ لَكَذَّبُوْا بِهَا وَاسْتَحَقُّوا الْاِهْلَاكَ وَقَدْ حَكَمْنَا بِاَسْمَائِهِمْ لَا تَمَامِ اَمْرِ مُحَمَّدٍ ۝ وَاتَيْنَا مُوْسٰى الْاَيَةَ مُبْصِرَةً بَيِّنَةً وَاضِحَةً فَظَلَمُوْا كَفَرُوا بِهَا فَاهْلَكُوا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰلِيَّتِ الْمَعْجَزَاتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝ لِلْعِبَادِ لِيُؤْمِنُوْا وَ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ عِلْمًا وَقُدْرَةً فَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ فَبَلَّغَهُمْ وَلَا تَخَفْ اَحَدًا فَهُوَ يَعِصْمُكَ مِنْهُمْ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ عِيَانًا لَّيْلَةَ الْاِسْرَاءِ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ اِهْلُ مَكَّةَ اِذْ كَذَّبُوْا بِهَا وَارْتَدَّ بَعْضُهُمْ لَمَّا اَخْبَرَهُمْ بِهَا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ فِي الْقُرْآنِ وَهِيَ الزَّقْلُومُ الَّتِي تَنْبِتُ فِي اَصْلِ الْجَحِيْمِ جَعَلْنَا بِهَا فِتْنَةً لَهُمْ اِذْ قَالُوا النَّارُ تُحْرِقُ الشَّجَرَ فَكَيْفَ تَنْبِتُهُ وَنُخَوِّفُهُمْ بِهَا فَمَا يَزِيْدُهُمْ تَخْوِيْفُنَا اِلَّا طَغْيًا كَبِيْرًا ۝

ترجمہ: اور میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ کفار سے اچھی بات کہو بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا



ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے، اور وہ کلمہ جو بہتر ہے وہ یہ کہ ”تمہارا رب تمہارے بارے میں تمہاری بہ نسبت بہت زیادہ جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو توبہ اور ایمان کے ذریعہ تمہارے اوپر رحم فرمائے یا اگر تم کو عذاب دینا چاہے تو تم کو کفر پر موت دے کر تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو ایمان پر مجبور کریں اور یہ حکم، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کے بارے میں بخوبی جانتا ہے اور ان کے احوال کے مطابق جو چاہتا ہے ان کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے ہر ایک کو ایک مخصوص فضیلت دے کر، مثلاً موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کو شرف ہمکلامی بخش کر، اور ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کو دوستی کا مرتبہ عطا کر کے اور محمد صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ان دونوں پر سرفراستاء کے ذریعہ (فضیلت دیکر) اور داؤد عَلَيْهِ السَّلَام کو ہم نے زبور عطا کی آپ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان سے کہہ دو کہ جن کو تم اس کے علاوہ معبود سمجھتے ہو مثلاً ملائکہ اور عیسیٰ اور عزیزان کو پکارو لیکن وہ نہ تو تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ (بدل کر) کسی دوسرے پر ڈال سکتے ہیں اور جنہیں یہ لوگ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود طاعت کے ذریعہ اپنے رب سے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو اس کے زیادہ قریب ہو جائے؟ تو غیر اقرب کا کیا حال ہوگا؟ (ایہم) یتبعون کے واؤ سے بدل ہے یعنی جو اس کے قریب ہے وہ (قریب تر ہونے کا) وسیلہ تلاش کرتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور دوسروں کے مانند اس کے عذاب سے ترساں رہتے ہیں تو پھر یہ لوگ ان کو معبود ہونے کی حیثیت سے کیوں پکارتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق اور کوئی بستی ایسی نہیں مراد بستی والے ہیں کہ ہم اس کو موت کے ذریعہ قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا قتل وغیرہ کے ذریعہ اس کو سخت عذاب نہ دیں، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ہمیں نشانات یعنی اہل مکہ کے فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف اس بات نے روک رکھا ہے کہ جب ہم نے ان (فرمائشی معجزوں) کو بھیجا تھا تو ان کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا اور اگر ہم ان کے فرمائشی معجزے ان کے پاس بھیجتے تو یہ بھی انکو جھٹلاتے جس کی وجہ سے مستحق ہلاکت ہو جاتے اور ہم محمد صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مشن کو پورا کرنے کے لئے ان کو مہلت کا حکم دے چکے ہیں اور ہم نے شمودیوں کو واضح معجزہ کے طور پر اونٹنی عطا کی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا (یعنی اس کی) ناشکری کی تو وہ ہلاک کر دیئے گئے، اور ہم تو لوگوں کو دھمکانے ہی کے لئے نشانیاں معجزات بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فرمایا تھا کہ بلاشبہ تیرے رب نے لوگوں کا علم اور قدرت کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے تو وہ اس کے قبضہ میں ہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیے اور کسی کا خوف نہ کیجئے، وہ تمہاری ان سے حفاظت کرے گا، رات کے سفر میں جو کچھ ہم نے آپ کو پچشم سر دکھایا وہ اہل مکہ کے لئے محض آزمائش ہے اس لئے کہ انہوں نے اس کی تکذیب کر دی اور جب ان کو (واقعہ کی) خبر دی گئی تو بعض (ضعیف الایمان) ان میں سے مرتد ہو گئے اور اس درخت کو بھی کہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور وہ زقوم (تھوہر) کا درخت ہے کہ جو جہنم کے نچلے طبقہ میں اگا ہے اس کو بھی ہم نے ان کے لئے آزمائش بنا دیا جبکہ انہوں نے کہا

آگ تو درخت کو جلادیتی ہے تو پھر اس کو کس طرح اگائے گی، ہم ان کو اس کے ذریعہ ڈرا رہے ہیں مگر ہمارا ڈرانا انھیں (اور) بڑی سرکشی پر ابھار رہا ہے۔

## تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: الكلمة التي هي احسن، التي اسم موصول هي مبتداء احسن اس کی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر صفت الكلمة محذوف کی، موصوف صفت سے مل کر مقولہ۔

قَوْلٌ: يقولوا کا، مفسر علام نے الكلمة محذوف مان کر الٹی کی وجہ تانیث کی طرف اشارہ کر دیا۔

قَوْلٌ: هي ربكم اعلم الخ الكلمة التي هي احسن کی تفسیر ہے، اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے، لہذا مفسر اور مفسر کے درمیان فصل کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قَوْلٌ: بما شاء، ای بالنبوة و غیرھا۔

قَوْلٌ: و آتينا داود زبوراً، اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان پر بذریعہ وحی زبور نازل کی گئی نہ کہ ان کے ملک و مال کی وجہ سے۔

قَوْلٌ: اولئك الذين يدعون هم، اولئك اسم اشارہ موصوف، الذين اسم موصول، يدعون فعل بافاعل هم ضمیر صلہ مفعول محذوف آلهة، هم سے تمیز، يدعون اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر جملہ ہو کر اولئك موصوف کی صفت موصوف صفت سے مل کر مبتداء یبتغون الی ربهم الوسيلة جملہ ہو کر مبتداء کی خبر۔

دوسری ترکیب: اولئك مبدل منہ اور الذين يدعون بدل، بدل مبدل منہ سے مل کر مبتداء اور یبتغون جملہ ہو کر اس کی خبر۔

قَوْلٌ: ائهِمْ، اقرب، مبتداء خبر ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ ائهِمْ یبتغون کی ضمیر سے بدل ہو، ای یتغی من هو اقرب الیہ تعالیٰ الوسيلة فكيف من دونہ: مفسر علام سیوطی نے یہی ترکیب اختیار کی ہے۔

قَوْلٌ: مبصرة، مبصرة آية موصوف محذوف کی صفت ہے نہ کہ الناقة کی لہذا موصوف و صفت میں عدم مطابقت کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قَوْلٌ: عيانا، اس میں اشارہ ہے کہ رؤیا معنی میں رویت بصری کے ہے۔

قَوْلٌ: الشجرة، اس کا عطف الرؤیا پر ہے، یعنی ہم نے دونوں کو وجہ آزمائش بنایا۔

قَوْلٌ: الشجرة الملعونة، اس میں مجاز ہے یعنی لعنت شجر پر نہیں بلکہ شجر کے کھانے والے پر ہوگی اسلئے کہ شجر پر لعنت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔



## ششان نزول:

(مسند احمد)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْاَفْتِنَةَ لِلنَّاسِ صَحَابَهُ اور تا بعین نے اس رؤیا کی تعبیر رویت بصری سے کی ہے، اور مراد اس سے معراج کا واقعہ ہے جو کمزور ایمان والوں کے لئے فتنے کا باعث بن گیا، جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے، اور درخت سے مراد زقوم (تھوہر) کا درخت ہے جس کا مشاہدہ نبی ﷺ نے شب معراج جہنم میں کیا، الملعونۃ سے مراد کھانے والوں پر لعنت ہے۔

وَ اذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سَجُوْدًا تَحِيَةً بِالْاِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰسَ قَالَ ؕ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝۱۱  
نَصَبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اِی مِنْ طِيْنٍ قَالَ اَرَاَيْتَ اِیْ اَخْبَرَنِيْ هٰذَا الَّذِیْ كَرَّمْتَ فَضَّلْتَ عَلٰی بِالْاَمْرِ  
بِالسَّجُوْدِ لِهٖ وَاَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ لِّیْنَ لَا مُقَسِمٍ اٰخَرَتْنِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا حَتِّكَنَّ لَا سَتَاصِلُنَّ  
ذُرِّيَّتَهُ بِالْاِغْوَاءِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۲ مِنْهُمْ مِمَّنْ عَصٰیْتَهُ قَالَ تَعَالٰی لِهٖ اَذْهَبْ مُنْظَرًا اِلٰی وَقْتِ النَّفْخَةِ  
الْاُولٰٓئِی فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ اَنْتَ وَهُمْ جَزَاءٌ مَّوْفُوْرًا ۝۱۳ وَاَفْرًا كَامِلًا وَاَسْتَفْرِزْنَا اسْتَحَفَّ  
مَنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ بِدُعَائِكَ بِالْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيْرِ وَكُلِّ دَاعٍ اِلٰی الْمَعْصِيَةِ وَاَجْلَبَ صَیْحُ عَلَيْهِمُ  
بِخِيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَهُمْ الرُّكَّابُ وَالْمُشَاةُ فِی الْمَعَاصِي وَشَارِكُهُمْ فِی الْاَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ كَالرَّبْوِ وَالْغَصْبِ  
وَالْاَوْلَادِ مِنَ الزِّنَا وَعَدَّهُمْ بِاَنْ لَا يَبْعَثَ وَلَا جَزَاءَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّیْطٰنُ بِذٰلِكَ الْاَغْوَرًا ۝۱۴ بَاطِلًا اِنَّ عِبَادِي الْمُوْسِنِیْنَ  
لَیْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ تَسْلُطُ وَقُوَّةٌ وَكَفٰی بِرَبِّكَ وَكِیْلًا ۝۱۵ حَافِظًا لِّهِمْ مِنْكَ رَبُّكُمُ الَّذِیْ یُرِیْجِ لَكُمْ الْفَلَکَ السُّفْنَ  
فِی الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ تَعَالٰی بِالتَّجَارَةِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۱۶ فِی تَسْخِيْرِهَا لَكُمْ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ الشَّدَةُ  
فِی الْبَحْرِ خَوْفُ الْغَرَقِ ضَلَّ غَابَ عَنْكُمْ مَنْ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنَ الْاِلٰهَةِ فَلَا تَدْعُوْهُ اِلَّا اٰیَاهُ تَعَالٰی  
فَاِنَّكُمْ تَدْعُوْنَهُ وَحْدَهُ لَا اَنْتُمْ فِی شَدَّةٍ لَا یَكْشِفُهَا اِلَّا هُوَ فَلَمَّا نَجَّكُمْ مِنَ الْغَرَقِ وَاَوْصَلَكُمْ  
اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ عَنْ التَّوْحِیْدِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝۱۷ جُحُوْدًا لِلنِّعَمِ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ یَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اِی  
الْاَرْضَ كَقَارَوْنَ اَوْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا اِی یُرْسِیْكُمْ بِالْحَصْبَاءِ كَقَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِیْلًا ۝۱۸ حَافِظًا  
مِنْهُ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ یُّعِیْذَکُمْ فِیْهِ اِی الْبَحْرِ تَارَةً مَّرَّةً اٰخَرٰی فِیُرْسِلَ عَلَیْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّیْحِ اِی رِیْحًا  
شَدِيْدَةً لَا تَمُرُّ بِشَیْءٍ اِلَّا قَصَفَتْهُ فَتَكْسِرُ فُلْکَکُمْ فِیَغْرِقْکُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ بِكَفَرِكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلٰی نَابِهِ تَبِیْعًا ۝۱۹  
نَصِيْرًا اَوْ تَابِعًا یُّطَالِبُنَا بِمَا فَعَلْنَا بِكُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنٰی اٰدَمَ بِالْعِلْمِ وَالنُّطْقِ وَاعْتَدَلِ الْخَلْقِ وَغَیْرَ  
ذٰلِكَ وَمِنْهُ طَهَارَتُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَمَلَتْهُمْ فِی الْبَرِّ عَلٰی الدَّوَابِّ وَالْبَحْرِ عَلٰی السُّفْنِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ  
الطَّیِّبٰتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا کَالْبَهَائِمِ وَالْوَحُوْشِ تَفْضِيْلًا ۝۲۰ فَمَنْ بِمَعْنٰی مَا اَوْعٰی بِاَبِهَا وَتَشْمَلُ  
الْمَلَائِكَةُ وَالْمَرَادُ تَفْضِيْلُ الْجِنْسِ وَلَا یَلْزَمُ تَفْضِيْلُ اَفْرَادِهِ اِذْهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الْبَشَرِ غَیْرِ الْاَنْبِیَاءِ



**ترجمہ:** اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے تعظیم کے طور پر جھکو تو سب جھکے سوائے ابلیس کے، اس نے کہا کیا میں اس کو جھکوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ (طیناً) حذف حرف جر کی وجہ سے منصوب ہے، ای من طین (ابلیس نے) کہا بھلا دیکھ تو سہی کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے مجھے اس کو (جھکنے) سجدہ کا حکم دیکر مجھ پر فضیلت دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں اسلئے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے قسم ہے لام قسمیہ ہے اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں بھی اغواء کر کے اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں گا ان میں سے بہت کم لوگ بچ سکیں گے جن کو تو بچائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا (اچھا) جا، تجھے نفع اولیٰ تک مہلت ہے، تو جوان میں سے تیری پیروی کرے گا تم سب کی پوری سزا جہنم ہے، لہذا تو جس جس کو ان میں سے گاہے باجے اور ہر ذریعہ معصیت سے دعوت دے کر پھسلا سکتا ہے پھسلا لے اور ان پر تو اپنے سوار اور پیادے چڑھالا (یعنی ہر حربہ استعمال کر لے) اور خیل سے مراد گھوڑ سوار اور مشاة سے مراد پیادے ہیں، اور حرام مال میں مثلاً سود کا مال اور غصب کا مال اور زنا کی اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے وعدے کر لے کہ نہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور نہ کوئی حساب کتاب ہے اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، میرے مومن (مخلص) بندوں پر تیرا قابو اور زور نہ چلے گا اور آپ کا رب ان کی حفاظت کے لئے تیری طرف سے کافی ہے، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو دریا میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم تجارت کے ذریعہ اس کا فضل (روزی) تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتیوں کو تمہارے تابع کر کے تمہارے حال پر مہربان ہے اور جب سمندر میں تم پر غرق ہونے کے خوف کی مصیبت آتی ہے تو اس وقت تم سے وہ سب غائب ہو جاتے ہیں جن جن معبودوں کی تم بندگی کرتے تھے تو اس وقت تم اسی ایک معبود کو پکارتے ہو (یعنی) اس وقت تم اسی ایک وحدہ (لا شریک) کو پکارتے ہو اسلئے کہ (اس وقت) تم ایسی مصیبت میں ہوتے ہو کہ اس کو صرف وہی دور رکھ سکتا ہے پھر جب تم کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے اور تم کو خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو تم توحید سے رخ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی نعمتوں کا ناشکر اتو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو قارون کے مانند زمین میں دھنسا دے یا تم پر کنکریلی تیز ہوا چلا دے یعنی قوم لوط کے مانند تم پر سنگباری کر دے، پھر تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ، اور کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ وہ پھر تم کو دریا میں لیجائے اور تم پر طوفانی ہوا چلا دے یعنی ایسی تند ہوا کہ جس پر بھی گزرے اس کو توڑ کر رکھ دے، اور تمہاری کشتیوں کو بھی توڑ دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے پھر تم کو اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے یعنی کوئی مددگار، یا ایسا حمایتی کہ جو کچھ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس سلسلہ میں ہم سے باز پرس کر سکے، اور ہم نے اولاد آدم کو علم نطق کے ذریعہ اور اعتدال خلق وغیرہ کے ذریعہ عزت بخشی اور اسی میں تم کو موت کے بعد پاک کرنا بھی ہے اور ہم نے ان کو خشکی میں جانوروں پر سوار کیا اور دریا میں کشتیوں پر سوار کیا، اور ان کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی جیسا کہ پالتو اور

وحشی جانور، مَنْ بمعنی ما ہے یا اپنے حال پر ہے اور یہ فوقیت فرشتوں پر بھی شامل ہے اور مراد فضیلت جنس علی الجنس ہے، اور اس لئے اسکے افراد کی فضیلت لازم نہیں اسلئے کہ ملائکہ انبیاء کے علاوہ ہر بشر سے افضل ہیں۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: أَخْبَرَنِي، أَرَأَيْتَكَ، کاف حرف خطاب ہے نہ کہ اسم بلکہ فاعل مخاطب کی اسناد کی تاکید ہے لہذا اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، اور هذا، أَرَأَيْتَكَ کا مفعول اول ہے اور الذی کَرَّمْتَ هذا کی صفت ہے أَرَأَيْتَكَ کا مفعول ثانی محذوف ہے اور وہ لَمْ کَرَّمْتَ عَلَيَّ ہے اس حذف پر صفت دلالت کر رہی ہے۔

قَوْلٌ: فَضَّلْتَ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: کَرَّمْتَ کی تفسیر فَضَّلْتَ سے کیوں کی؟

جَوَابٌ: اسلئے کہ تکریم کا صلہ علی واقع نہیں ہوتا۔

قَوْلٌ: مُنْظَرًا، اِی مُمَهَّلًا، اِذْهَبْ، ذَهَاب سے نہیں ہے جو المعجی کی ضد ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں امضٍ لشانك الذی اخترته یعنی جو تو نے ارادہ کیا ہے تو وہ کر گزرے۔

قَوْلٌ: اَنْتَ وَهْمٌ یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ مِنْهُمْ میں ہم جمع غائب کی ضمیر ہے اور جزاء کم میں کم جمع حاضر کی، دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَابٌ: کا حاصل یہ ہے کہ اصل اِنَّ جَهَنَّمَ جزاء ك و جزاء هَم تھا پھر مخاطب کو غائب پر غلبہ دیدیا، لہذا دونوں ضمیروں میں مخالفت کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قَوْلٌ: اسْتَفْزَزَ (استفعال) امر واحد مذکر حاضر، تو گھبرالے۔

قَوْلٌ: لَا حَتِیْكَ (احتناك افتعال) میں ضرور ڈھانٹی لونگا، میں ضرور قابو میں کروں گا، میں ضرور لگام لگاؤں گا، صیغہ واحد متکلم مضارع بانون تاکید ثقیلہ۔

قَوْلٌ: لَا سِتَاصِلْنَ میں پوری طرح بیخ کنی کر دوں گا، جڑے سے اکھاڑ پھینکوں گا۔

قَوْلٌ: اَوْصَلْکُمْ

سُؤَالٌ: نجا کم کی تفسیر اَوْصَلْکُمْ سے کیوں کی؟

جَوَابٌ: چونکہ نجا کم کا صلہ الی نہیں آتا اور یہاں صلہ الی واقع ہو رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے جس کی وجہ بتادی کہ نجا کم، اَوْصَلْکُمْ کے معنی کو متضمن ہے، جس کا صلہ الی آتا ہے۔

قَوْلٌ: الْحَصْبَاءُ اِی الْحِصَاةُ



**قَوْلًا:** بکفر کم اس میں اشارہ ہے کہ بما کفر تم میں ما مصدر یہ ہے لہذا عدم عائد کا اعتراض واقع نہ ہوگا۔

**قَوْلًا:** اعتدال الخلق، اور اعتدال ہی کی وہ بات ہے جو ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما نے ذکر کی ہے، کہ ہر حیوان منہ جھکا کر کھاتا ہے مگر انسان کھانے کی طرف منہ جھکانے کے بجائے کھانے کو منہ کی طرف اٹھاتا ہے۔

**قَوْلًا:** المراد تفضیل الجنس، یہ اضافہ ایک سوال کا جواب ہے۔

**سُؤَال:** ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ مطلقاً تمام بنی آدم مطلقاً تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔

**جَوَاب:** جنس بنی آدم کی جنس ملائکہ پر فضیلت مراد ہے یعنی خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں نہ کہ خاص انسانوں سے مثلاً انبیاء سے۔

**تَنْبِيْہ:** اگر لفظ ”علیٰ کثیر“ کو مد نظر رکھا جائے تو یہ اعتراض ہی پیدا نہیں ہوگا۔

## تَفْسِيْرُ وَتَشْرِیْح

وَاسْتَفْزِرُ مَنْ اسْتَعْطَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (الآیہ) شیطانی آواز سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما نے فرمایا کہ گانے بجانے اور مزامیر اور لہو و لعب کی آوازیں یہی شیطان کی آوازیں ہیں جن کے ذریعہ وہ لوگوں کو حق سے دور و لا تعلق کرتا ہے (قرطبی) اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر، موسیقی اور رقص و سرود سب حرام ہیں، آدم عَلَیْہِ السَّلَام وَالسَّلَامُ و ابلیس کا قصہ سورہ بقرہ، اعراف اور حجر میں گزر چکا ہے یہاں چوتھی مرتبہ آیا ہے، علاوہ انہیں سورہ کہف، طہ، اور سورہ ص میں بھی اس کا ذکر آئیگا۔

ابلیس نے حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام وَالسَّلَامُ کو سجدہ سے انکار کرتے وقت دو باتیں کہی تھیں، اول یہ کہ آدم عَلَیْہِ السَّلَام وَالسَّلَامُ مٹی سے پیدا کئے گئے، اور میں آگ کی مخلوق ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر فوقیت و فضیلت کیوں دیدی؟ یہ امر الہی کے مقابلہ میں حکم کی حکمت معلوم کرنے کے متعلق سوال تھا جس کا کسی مامور کو حق نہیں ہوتا یہ سوال ہی قابل التفات نہیں تھا اسلئے کہ غلام کو آقا سے کسی حکم کی علت یا حکمت معلوم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یہی وجہ ہے اس سوال کو نا قابل التفات سمجھ کر جواب نہیں دیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ فوقیت و فضیلت دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی تربیت کی ہو، دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر تاقیامت زندگی ملنے کی میری درخواست منظور کر لی گئی تو میں آدم عَلَیْہِ السَّلَام وَالسَّلَامُ کی ساری اولاد کو بجز قدر قلیل کے گمراہ کر ڈالوں گا، حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا چاہے تو اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر ان پر چڑھ دوڑے، باقی رہے غیر مخلص اگر وہ تیرے قابو میں آگئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہے، کہ عذاب جہنم میں دونوں گرفتار ہونگے شیطانی لاؤ لشکر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ حقیقت میں اس کا سوار و پیادوں کا کوئی لشکر ہو یہ تو ایک محاورہ ہے جو پورا زور صرف کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

وشارکھم فی الاموال والاولاد، لوگوں کے مال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کا مطلب حضرت ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما نے یہ بیان فرمایا کہ اموال میں جو مال ناجائز و حرام طریقوں سے حاصل ہو یا حرام کاموں میں صرف کیا

جائے یہی شیطان کی اس میں شرکت ہے اور اولاد میں شیطان کی شرکت، اولاد کے حرام ہونے سے بھی ہے اور یہ بھی کہ اولاد کے شرکانہ نام رکھے، مثلاً عبدالعزیٰ، پیر بخش، نبی بخش وغیرہ یا ان کی حفاظت کے لئے شرکانہ رسوم ادا کرے یا ان کی پرورش کے لئے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الآیۃ) بنی آدم کا یہ شرف و فضل بہ حیثیت انسان کے ہر انسان کو حاصل ہے خواہ مومن ہو یا کافر، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلہ میں ہے اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے، جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور ہیئت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی، جو عقل انسان کو دی گئی ہے جس کے ذریعہ اس نے اپنے آرام و راحت کے لئے بے شمار چیزیں ایجاد کیں حیوان وغیرہ اس سے محروم ہیں۔

اذکر یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَبُیِّنَہُمْ فِیْ قَالٍ یَا اُمَّةٌ فُلَانٍ اَوْ بکتابِ اَعْمَالِهِمْ وِیْقَالَ یَا صَاحِبَ الْخَیْرِ وِیَا صَاحِبَ الشَّرِّ وِیَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَنْ اَوْقَىٰ مِنْہُمْ کِتَابَہُ بِیَمِیْنِہِ وَبِہِم السُّعْدَاءُ اُولُو الْبَصَائِرِ فِی الدُّنْیَا فَاُولَٰئِکَ یَقْرَءُوْنَ کِتَابَهُمْ وَلَا یُظْلَمُوْنَ یُنْقَضُوْنَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ فَتِیْلًا ﴿۷۱﴾ قَدْ رَقِشْرَةُ النَّوَاہِ وَمَنْ کَانَ فِیْ هَذِہِ اِی الدُّنْیَا اَعْمٰی عَنِ الْحَقِّ فَہُوَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی عَنِ طَرِیْقِ النَّجَاةِ وَقِرَاةِ الْکِتَابِ وَاَضَلُّ سَبِیْلًا ﴿۷۲﴾ اَبْعَدُ طَرِیْقًا عَنْہُ وَنَزَلَ فِی ثَقِیْفٍ وَقَدْ سَاَلُوْہُ صَلٰی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم اَنْ تُخْرِجَ وَاَدِیْہُمْ وَاَلْحَوْا عَلَیْہِ وَاِنْ مَخْفَفَةٌ کَادُوْا قَارِبُوْا لِفِتْنَتِیْکَ یَسْتَزِلُّوْنَکَ عَنِ الَّذِیْ اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ لَتَقْتَرِیْ عَلَیْنَا غَیْرَہُ وَاِذَا لَوْ فَعَلْتَ ذٰلِکَ لَا تَخْذُوْکَ خَلِیْلًا ﴿۷۳﴾ وَلَوْ لَا اَنْ تَبْتَئَکَ عَلٰی الْحَقِّ بِالْعَصْمَةِ لَقَدْ کِدْتَ قَارِبَتْ تَرٰکُنْ تَمِیْلُ اِلَیْہُمْ شِیْئًا رَکُوْنَا قَلِیْلًا ﴿۷۴﴾ لِشِدَّةِ اَحْتِیَالِهِمْ وَالْحَاجِہِمْ وَہُوَ صَرِیْحٌ فِیْ اَنَّهُ صَلٰی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم لَمْ یَرٰکُنْ وَلَا قَارِبَ اِذَا لَوْرَکُنْتَ لَاذَقْنَاکَ ضَعْفَ عَذَابِ الْحَیْوَةِ وَضَعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ اِیْ بِشَلٰی مَا یُعَذَّبُ غَیْرُکَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ لَا تَجِدُکَ عَلَیْنَا نَصِیْرًا ﴿۷۵﴾ مَا نَعَا مِنْہُ وَنَزَلَ لَمَّا قَالْ لَہِ الْیَہُوْدُ اِنْ کُنْتَ نَبِیًّا فَالْحَقُّ بِالْشَّامِ فَاِنَّہَا اَرْضُ الْاَنْبِیَاءِ وَاِنْ مَخْفَفَةٌ کَادُوْا لَیَسْتَفْزُوْنَکَ مِنَ الْاَرْضِ اَرْضِ الْمَدِیْنَةِ لَیُخْرِجُوْکَ مِنْہَا وَاِذَا لَوَا خَرَجُوْکَ لَا یَلْبَثُوْنَ خِلْفَکَ فِیْہَا اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۷۶﴾ ثُمَّ یَمِیْلُکَ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنْ رَّسُلِنَا اِیْ کُسْنَتِنَا فِیْہُمْ مِنْ اِبْہَاکَ مَنْ اَخْرَجَہُمْ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیْلًا ﴿۷۷﴾ تَبْدِیْلًا۔

**ترجمہ:** اس دن کو یاد رکھنا چاہئے کہ جس دن ہم ہر گروہ (امت) کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، یوں کہا جائے گا اے فلاں نبی کی امت یا ان کو ان کے نامہ عمل کے ساتھ بلایا جائیگا، یوں ندا دی جائے گی اے صاحب خیر اور اے



صاحب شر اور وہ قیامت کا دن ہوگا، تو ان میں سے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائیگا تو یہ لوگ خوش نصیب اور دنیا میں صاحب بصیرت تھے تو وہ لوگ اپنے اعمال ناموں کو (خوشی خوشی) پڑھیں گے اور ان کے اعمال میں سے کٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کمی نہ کی جائے گی اور جو اس دنیا میں حق (بنی) سے اندھا رہا ہوگا تو وہ آخرت میں بھی راہ نجات اور نامہ عمل کے پڑھنے سے اندھا رہے گا اور زیادہ کم کردہ راہ ہوگا، یعنی راہ راست سے بہت دور ہوگا، اور (آئندہ) آیت بنی ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے نبی ﷺ سے مطالبہ کیا کہ ان کی وادی (طائف) کو حرم بنادیں اور اس بات پر اصرار کیا اور بلاشبہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہٹادیں (بچلا دیں) تاکہ آپ ہماری طرف اس کے علاوہ کی گھڑ کر نسبت کر دیں اگر آپ ان کے کہنے کے مطابق کر لیتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور اگر حفاظت کے ذریعہ ہم آپ کو حق پر قائم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی شدید حیلہ گری اور ان کے اصرار کی وجہ سے ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے یہ اس بات میں صریح ہے کہ نہ تو آپ مائل ہوئے اور نہ مائل ہونے کے قریب ہوئے اور اگر آپ مائل ہو جاتے تو ہم آپ کو ضرور چکھاتے دو گنا عذاب دنیا میں اور دو گنا عذاب مرنے میں اس کا دو گنا جو دوسروں کو دنیا و آخرت میں دیا جاتا پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے یعنی اس عذاب سے بچانے والا، اور (آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی کہ جب یہود نے آپ ﷺ سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو شام چلے جاؤ اسلئے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے اور بلاشبہ یہ بات قریب تھی کہ یہ لوگ آپ کے قدم ارض مدینہ سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو مدینہ سے نکال دیں، اگر یہ لوگ آپ کو نکال دیتے تو یہ خود بھی آپ کے بعد مدینہ میں نہ ٹھہر پاتے مگر بہت کم مدت پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ایسا ہی دستور ان رسولوں کا تھا جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، یعنی ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے ہمارے دستور کے مطابق جنہوں نے ان (انبیاء) کو نکالا، اور آپ ہمارے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے۔

## تحقیق و ترکیب و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: اُنَاسٌ، لوگ، نَوَسُّ سے ماخوذ ہے جس کے معنی حرکت کرنے کے ہیں، یہ انسان کی جمع بغیر لفظ ہے مصباح میں ہے کہ انسان ناس سے ماخوذ ہے اور یہ اسم جنس ہے اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث واحد اور جمع سب پر ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: یا صاحب الشر، اس میں مضاف محذوف ہے ای یا صاحب کتاب الشر۔

قَوْلُهُ: یقرءون ای یقرءون سُورًا، خوشی خوشی پڑھیں گے۔

قَوْلُهُ: قدر قشرة النواة، مفسر علام نے فتیلاً، کی تفسیر قشرة النواة سے کی ہے، بہتر ہوتا کہ الخیط الذی فی نفرة النواة طولا، سے کرتے اس لئے کہ کھجور کی کٹھلی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ① فتیل ② قطیر ③ نقیر، فتیل اس دھاگے یا

ریشے کو کہتے ہیں جو گٹھلی کی پشت میں طولا ایک شق میں ہوتا ہے اور گٹھلی کے اوپر جو جھلی کے مانند ایک غلاف ہوتا ہے اسے قطیر کہتے ہیں اور گٹھلی کی پشت میں ایک سوراخ ہوتا ہے اس میں جو ریشہ یادھا گا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں۔

(اعراب القرآن للدرویش)

**قَوْلٌ:** ابعد طريقا عنه ای ابعد طريقاً عن الاعمى فى الدنيا، یعنی اندھا جس طرح راستہ دیکھنے سے بعید ہوتا ہے کافر آخرت میں راہ نجات دیکھنے میں بعید تر ہوگا۔

**قَوْلٌ:** ركوناً، اس میں اشارہ ہے کہ شیئاً مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ مفعول بہ ہونے کی وجہ ہے اسلئے کہ ترک لازم ہے نہ کہ متعدی، شیئاً کا موصوف ركوناً محذوف ہے۔

**قَوْلٌ:** يستفزونك، ای لينزعجونك، (استفزاز استفعال) سے مضارع جمع مذکر غائب ك ضمیر مفعول، تمہارے قدم اکھاڑ دیں۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

یوم ندعوا کل أناسٍ بامامهم، امام کے معنی پیشوا، لیڈر، قائد کے ہیں، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد پیغمبر ہے یعنی ہر امت کو اس کے نبی کے حوالہ سے پکارا جائیگا، اے فلاں نبی کی امت، بعض نے کہا اس سے آسمانی کتاب مراد ہے، یعنی آسمانی کتاب کے حوالہ سے پکارا جائیگا، اے توریت والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے قرآن والو، وغیرہ وغیرہ، بعض نے کہا ہے کہ یہاں امام سے مراد اعمال نامہ ہے یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائیگا تو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائیگا، اس رائے کو ابن کثیر نے ترجیح دی ہے۔

وَأَن كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے دس بارہ سال سے نبی ﷺ کو مکہ میں پیش آرہے تھے کفار مکہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹا دیں جسے آپ کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور رسوم جاہلیت سے کچھ نہ کچھ سمجھوتہ کر لیں اس غرض سے انہوں نے آپ کو ڈرانے کی ہر کوشش کی، فریب بھی دیئے اور لالچ بھی، دھمکیاں بھی دیں اور وعدے بھی کئے، جھوٹا طوفان بھی اٹھایا اور ظلم و ستم بھی کیا؟ معاشی دباؤ بھی ڈالا، اور سماجی مقاطعہ بھی، غرضیکہ وہ سب کچھ کر ڈالا جو کسی انسان کے عزم و حوصلہ کو شکست دینے کے لئے کیا جاسکتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس ساری روداد پر تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرمائیں ہیں، ایک یہ کہ اگر تم حق کو جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لیتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور خوش ہو جاتی، مگر خدا کا غضب تم پر بھڑک اٹھتا، اور تمہیں دنیا و آخرت میں دوہری سزا دی جاتی، اور دوسرے یہ کہ انسان خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو خود اپنے بل بوتے پر باطل کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا



جتک کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو، یہ سراسر اللہ کا بخشا ہوا صبر و ثبات تھا جس کی بدولت نبی ﷺ حق و صداقت کے موقف پر پہاڑ کی طرح جمے رہے اور کوئی سیلاب بلا آپ کو بال برابر بھی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيَخْرِجُوكَ مِنْهَا، یعنی مشرکین مکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کو تنگ کر کے مکہ سے نکال دیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر ایسا کیا تو وہ خود بھی زیادہ دنوں تک یہاں نہ رہ سکیں گے، چنانچہ اہل مکہ کا ظلم و ستم آپ کی ہجرت کا سبب بنا آپ کا مکہ سے تشریف لیجانا تھا کہ اس کے ڈیڑھ دو سال بعد ہی مکہ کے بڑے نامور ستر سردار گھروں سے نکال کر میدان بدر میں ہلاک کر دیئے گئے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے اور اس کے صرف پانچ چھ سال بعد مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو گیا بالآخر قلیل مدت میں پورا جزیرۃ العرب مشرکوں سے پاک ہو گیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے کہ یہود مدینہ ایک روز آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو چاہئے کہ آپ ملک شام جا کر رہیں کیونکہ ملک شام ہی انبیاء کی سر زمین ہے اور شام ہی محشر کی زمین ہے۔ رسول اللہ ﷺ پر ان کے کلام کا کچھ اثر ہوا اور غزوہ تبوک کے وقت جو ملک شام کا سفر ہوا تو آپ کا قصد یہ ہوا کہ ملک شام کو اپنا مستقر بنالیں مگر یہ آیت نازل ہوئی ”وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزُونَكَ“ جس نے آپ کو اس ارادہ سے روک دیا، مگر ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے ناقابل اطمینان قرار دیا ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِ الشَّمْسِ اِیٰ مَنْ وَقْتُ زَوَالِهَا اِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ اقبال ظلمتہ اِی الظہر والعصر والمغرب والعشاء وَقُرْآنَ الْفَجْرِ صَلَوةُ الصُّبْحِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۷۸ تشہدہ ملائکہ اللیل وملائکہ النہار وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ فَفَصَلَ بِهِ بِالْقُرْآنِ نَافِلَةً لَّكَ ۝۷۹ فَرِيضَةً لَّكَ دُونَ أُمَّتِكَ اَوْ فَضِيلَةً عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ يُقِيمَكَ رَبُّكَ فِي الْآخِرَةِ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۸۰ يَحْمَدُكَ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ وَنَزَلَ لَمَّا أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي الْمَدِينَةَ مُدْخِلَ صَدَقٍ اِدْخَالًا مَرْضِيًّا لَا أَرَىٰ فِيهِ مَا أَكْرَهُ وَأَخْرِجْنِي مِنْ مَكَّةَ مُخْرَجَ صَدَقٍ اِخْرَاجًا لَا أَلْتَفِتُ بِقَلْبِي اِلَيْهَا وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝۸۱ قُوَّةٌ تَنْصُرُنِي بِهَا عَلَىٰ أَعْدَائِكَ وَقُلْ عِنْدَ دُخُولِكَ مَكَّةَ جَاءَ الْحَقُّ الْإِسْلَامُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ بَطَلَ الْكُفْرُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝۸۲ مُضْمَجًا زَائِلًا وَقَدْ دَخَلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا فَجَعَلَ يَطْعُمُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ الْخُحَّى حَتَّى سَقَطَتْ رِوَاهُ الشَّيْخَانِ وَنَزَلَ مِنَ اللَّيْلِ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۳ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝۸۴ لِكُفْرِهِمْ بِهِ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ الْكَافِرِ أَعْرَضَ عَنِ الشُّكْرِ وَنَا بِجَانِبِهِ ثَنَى عِطْفَهُ مُتَبَخِّرًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ الْفَقْرُ وَالشَّدَّةُ كَانَ يُوَسِّسًا ۝۸۵ قَنُوطًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ كُلُّ مَنَّا وَمِنْكُمْ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ طَرِيقَتَهُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝۸۶ طَرِيقًا فَيُثَبِّتُهُ.

**تَرْجَمَہ:** سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی پھانسی جانے تک رات کی تاریکی کے آنے تک نماز قائم کرو یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز قائم کرو، یقیناً فجر کی نماز (کا وقت) حاضری کا وقت ہے جس میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کسی قدر حصے میں (نماز پڑھیں) نماز تہجد قرآن کے ساتھ پڑھا کریں یہ آپ ہی کے لئے اضافی فریضہ ہے آپ کی امت کے لئے نہیں یا زائد ہے فرض نمازوں پر (یعنی نفل ہے) امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آخرت میں مقام محمود پر فائز کرے گا کہ جہاں اولین اور آخرین آپ کی ستائش کریں گے اور وہ مقام شفاعت ہے مقدمات کے فیصل کرنے میں، اور (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور دعاء کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے مدینہ میں سچائی کے ساتھ داخل فرمائیں یعنی پسندیدہ داخل کرنا کہ میں اس میں کوئی گوار چیز نہ دیکھوں اور مکہ سے مجھے سچائی کے ساتھ نکالیں، ایسا نکالنا کہ میں دل سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور مجھے اپنے فضل سے ایسا غلبہ عطا فرما جس کے ساتھ (آپ کی) مدد ہو یعنی ایسی قوت کہ جس کے ذریعہ تو مجھے اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا کرے، اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت کہو حق یعنی اسلام آگیا اور باطل (یعنی) کفر چلا گیا یقیناً باطل تو زائل اور مضحک ہونے ہی والا ہے اور جس وقت آپ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ اس لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اشارہ کرتے جاتے تھے اور جساء الحق الخ پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ گرتے جاتے تھے (رواہ الشیخان) اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں گمراہی سے شفاء ہے اور اس پر یقین رکھنے والوں کے لئے رحمت ہے اور مالموں کافروں کے لئے ان کے کفر کی وجہ سے نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم انسان کافر پر اپنا انعام کرتے ہیں تو اس کے (شکر سے اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے یعنی تکبر کے ساتھ کروٹ پھر لیتا ہے اور جب اسے فقر و شدت کی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے آپ کہہ دیجئے ہم اور تم میں سے ہر شخص اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے جو اُنک پوری ہدایت کے راستہ پر ہیں انھیں تمہارا رب خوب جانتا ہے تو وہ اس کو اجر دے گا۔

## تَحْقِيقُ تَرْكِيْبِ تَسْبِيْحٍ وَ تَفْسِيْرِيْ فَوَائِدُ

**وَلَمَّا:** من وقت زوالہا، اس میں اشارہ ہے کہ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ میں لام بمعنی من ہے اس لئے کہ وقت کے لئے نماز پڑھنے کوئی مطلب نہیں ہے، صلوٰۃ فجر کو قرآن کہا گیا ہے اس لئے کہ قرآن (قراءۃ) صلوٰۃ کا رکن ہے جس طرح سجدہ بول کر صلوٰۃ راد ہوتی اور رکوع بول کر نماز مراد ہوتی ہے اسی طرح قرآن بول کر صلوٰۃ مراد ہوتی ہے، اور قرآن کا عطف الصلوٰۃ پر ہے ای

م الصلوٰۃ واقم القرآن۔

**وَلَمَّا:** من الليل ای بعض الليل۔



**قَوْلُهُ: دَلُوكَ** سورج کا ڈھلنا، غروب ہونا، عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ”دلوك“ کے معنی غروب کے ہیں، عبد اللہ بن عباس ابن عمر اور جابر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے زوال شمس کے معنی بتائے ہیں، زوال شمس کے معنی اکثر حضرات سے منقول ہیں اور یہی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے، نیز جب دلوك کے معنی زوال کے لیتے ہیں تو آیت پانچوں نمازوں کو جامع ہوگی دلوك الشمس ظہر اور عصر کو شامل ہے اور الی غسق الليل مغرب اور عشاء کو شامل ہے اور قرآن الفجر نماز صبح کو شامل ہے۔

**قَوْلُهُ: غَسَقَ** الليل، الغسق ظلمت، اور کہا گیا ہے اول لیل کا داخل ہونا۔

**قَوْلُهُ: فَتَهَجَّدُ**، الهجود، ترك النوم للصلاة۔

**قَوْلُهُ: نافلة**، بمعنی زائدہ۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

اقم الصلوة لدلوك الشمس، ”دلوك“ کے معنی زوال شمس کے ہیں اور ”غسق“ کے معنی تاریکی کے ہیں آفتاب ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہیں اور ”قرآن الفجر“ سے مراد فجر کی نماز ہے، یہاں قرآن نماز کے معنی میں ہے اس کو قرآن سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قراءت طویل ہوتی ہے، اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ گیا جن کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں اور امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہے، کان مشہودا یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب رات والے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اسے سب معلوم ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انھیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ (بخاری کتاب المواقیت)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، بعض حضرات نے کہا ہے کہ تہجد اضداد میں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی، اور یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہیں کہ رات کو سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، بعض حضرات نے کہا ہے ہجود کے اصل معنی تو رات کو سونے ہی کے ہیں لیکن باب تَفَعَّلَ میں جانے کی وجہ سے اس میں تجنب کے معنی پیدا ہو گئے، جیسے تائم کے معنی ہیں گناہ سے اجتناب کرنا، اسی طرح تہجد کے معنی ہیں سونے سے بچنا۔

نافلة، بعض حضرات نے اس کے معنی ایک زائد فرض کے کئے ہیں یعنی امت کی بہ نسبت آپ پر ایک فرض یعنی تہجد زائد تھا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ نافلة کے معنی زائد کے ہیں یعنی نہ آپ پر فرض اور نہ آپ کی امت پر فرض دونوں کے لئے ایک زائد عبادت ہے مقاماً محموداً، یہ وہ مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو عطا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔

وقل رب ادخلنی مدخل صدق (الآیة) یہ دعاء کرو، اے میرے رب جہاں مجھے پہنچانا ہے (مثلاً مدینہ میں) نہایت آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے پہنچا کہ حق کا بول بالا رہے اور جہاں سے نکالنا ہو (مثلاً مکہ سے) تو وہ بھی آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے ہو، دشمن ذلیل خوار ہو اور دوست شاداں و فرحاں ہوں، بہر صورت سچائی کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا۔

قل جاء الحق وزهق الباطل الخ یہ عظیم الشان پیش گوئی مکہ میں کی گئی تھی جہاں بظاہر کوئی سامان غلبہ حق کا نہیں تھا، یعنی کہد و قرآن کریم مومنین کو بشارتیں سناتا ہوا باطل کو رلاتا ہوا آ پہنچا، بس سمجھ لو کہ دین حق جاگا اور کفر و باطل بھاگا، نہ صرف مکہ سے بلکہ جزیرۃ العرب سے یوریا بستر باندھا اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو کفر کعبہ سے نکل بھاگا ہے آئندہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ والحمد لله على ذلك.

وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن کریم کا قلوب کے لئے شفاء ہونا شرک و کفر اور اخلاق رذیلہ اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام امت اس پر متفق ہے اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کے لئے شفاء ہے امراض ظاہرہ کے لئے بھی شفاء ہے کہ آیات قرآن پڑھکر مریض پر دم کرنا اور پلانا بھی ذریعہ شفاء ہے، روایات حدیث اس پر شاہد ہیں تمام کتب حدیث میں ابو سعید خدری کی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گاؤں کے رئیس کو بچھونے کاٹ لیا تھا، لوگوں نے حضرات صحابہ سے معلوم کیا کہ آپ اس کا کچھ علاج کر سکتے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھکر اس پر دم کیا مریض اچھا ہو گیا، پھر رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔

وَيَسْأَلُونَكَ اَيُّ الْيَهُودِ عَنِ الرُّوحِ الَّذِي يَخْبِي بِهِ الْبَدَنُ قُلْ لَهُمُ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي اَيُّ عِلْمِهِ لَا تَعْلَمُوْنَهُ وَمَا اُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۸۵ بالنسبة الى عِلْمِهِ تعالى وَلَئِنْ لَمْ قَسَمِ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَيُّ الْقُرْآنَ بَانَ نَمُحُوهُ مِنَ الصُّدُوْرِ وَالْمَصَاحِفِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝۸۶ اِلَّا لَكِن اَبْقَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝۸۷ عَظِيْمًا حَيْثُ اَنْزَلَهُ عَلَيْكَ وَاَعْطَاكَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فِى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۸۸ مُعِينًا نَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا وَلَقَدْ صَرَفْنَا بَيْنَنَا لِلنَّاسِ فِى هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ صِفَةً لِمَحذُوْفٍ اَي مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ لِيَتَعَطُّوْا فَاَلِى اَكْثَرِ النَّاسِ اَي اَهْلُ مَكَّةَ اِلَّا الْكُفُوْرًا ۝۸۹ جَحُوْدًا لِّلْحَقِّ وَقَالُوْا عَطَفْتَ عَلٰى اَبِى لَنْ تُؤْمِنَنَّ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَسُوْعًا ۝۹۰ عَيْنًا يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ اَوْ تَكُوْنُ لَكَ جَنَّةٌ بَسْتَانٍ مِنْ نَّخِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرُ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا وَسَطَهَا تَفْجِيْرًا ۝۹۱ اَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا قِطْعًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝۹۲ مُقَابِلَةً وَعَيْنَانَا فَنَرَاهُمْ اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ اَوْ تَرْفَىٰ تَصْعَدُ فِى السَّمَاءِ بِسَلَمٍ وَلَنْ تُؤْمِنَنَّ لِرُقِيْكَ لَوْ رَقِيتَ فِيْهَا حَتّٰى تُنْزَلَ عَلَيْنَا



سُورَةُ الْاِسْرَاءِ (۱۷) پارہ ۱۵  
 ۱۰  
 ۱۱  
 ۱۲  
 ۱۳  
 ۱۴  
 ۱۵  
 ۱۶  
 ۱۷  
 ۱۸  
 ۱۹  
 ۲۰  
 ۲۱  
 ۲۲  
 ۲۳  
 ۲۴  
 ۲۵  
 ۲۶  
 ۲۷  
 ۲۸  
 ۲۹  
 ۳۰  
 ۳۱  
 ۳۲  
 ۳۳  
 ۳۴  
 ۳۵  
 ۳۶  
 ۳۷  
 ۳۸  
 ۳۹  
 ۴۰  
 ۴۱  
 ۴۲  
 ۴۳  
 ۴۴  
 ۴۵  
 ۴۶  
 ۴۷  
 ۴۸  
 ۴۹  
 ۵۰  
 ۵۱  
 ۵۲  
 ۵۳  
 ۵۴  
 ۵۵  
 ۵۶  
 ۵۷  
 ۵۸  
 ۵۹  
 ۶۰  
 ۶۱  
 ۶۲  
 ۶۳  
 ۶۴  
 ۶۵  
 ۶۶  
 ۶۷  
 ۶۸  
 ۶۹  
 ۷۰  
 ۷۱  
 ۷۲  
 ۷۳  
 ۷۴  
 ۷۵  
 ۷۶  
 ۷۷  
 ۷۸  
 ۷۹  
 ۸۰  
 ۸۱  
 ۸۲  
 ۸۳  
 ۸۴  
 ۸۵  
 ۸۶  
 ۸۷  
 ۸۸  
 ۸۹  
 ۹۰  
 ۹۱  
 ۹۲  
 ۹۳  
 ۹۴  
 ۹۵  
 ۹۶  
 ۹۷  
 ۹۸  
 ۹۹  
 ۱۰۰  
 ۱۰۱  
 ۱۰۲  
 ۱۰۳  
 ۱۰۴  
 ۱۰۵  
 ۱۰۶  
 ۱۰۷  
 ۱۰۸  
 ۱۰۹  
 ۱۱۰  
 ۱۱۱  
 ۱۱۲  
 ۱۱۳  
 ۱۱۴  
 ۱۱۵  
 ۱۱۶  
 ۱۱۷  
 ۱۱۸  
 ۱۱۹  
 ۱۲۰  
 ۱۲۱  
 ۱۲۲  
 ۱۲۳  
 ۱۲۴  
 ۱۲۵  
 ۱۲۶  
 ۱۲۷  
 ۱۲۸  
 ۱۲۹  
 ۱۳۰  
 ۱۳۱  
 ۱۳۲  
 ۱۳۳  
 ۱۳۴  
 ۱۳۵  
 ۱۳۶  
 ۱۳۷  
 ۱۳۸  
 ۱۳۹  
 ۱۴۰  
 ۱۴۱  
 ۱۴۲  
 ۱۴۳  
 ۱۴۴  
 ۱۴۵  
 ۱۴۶  
 ۱۴۷  
 ۱۴۸  
 ۱۴۹  
 ۱۵۰  
 ۱۵۱  
 ۱۵۲  
 ۱۵۳  
 ۱۵۴  
 ۱۵۵  
 ۱۵۶  
 ۱۵۷  
 ۱۵۸  
 ۱۵۹  
 ۱۶۰  
 ۱۶۱  
 ۱۶۲  
 ۱۶۳  
 ۱۶۴  
 ۱۶۵  
 ۱۶۶  
 ۱۶۷  
 ۱۶۸  
 ۱۶۹  
 ۱۷۰  
 ۱۷۱  
 ۱۷۲  
 ۱۷۳  
 ۱۷۴  
 ۱۷۵  
 ۱۷۶  
 ۱۷۷  
 ۱۷۸  
 ۱۷۹  
 ۱۸۰  
 ۱۸۱  
 ۱۸۲  
 ۱۸۳  
 ۱۸۴  
 ۱۸۵  
 ۱۸۶  
 ۱۸۷  
 ۱۸۸  
 ۱۸۹  
 ۱۹۰  
 ۱۹۱  
 ۱۹۲  
 ۱۹۳  
 ۱۹۴  
 ۱۹۵  
 ۱۹۶  
 ۱۹۷  
 ۱۹۸  
 ۱۹۹  
 ۲۰۰  
 ۲۰۱  
 ۲۰۲  
 ۲۰۳  
 ۲۰۴  
 ۲۰۵  
 ۲۰۶  
 ۲۰۷  
 ۲۰۸  
 ۲۰۹  
 ۲۱۰  
 ۲۱۱  
 ۲۱۲  
 ۲۱۳  
 ۲۱۴  
 ۲۱۵  
 ۲۱۶  
 ۲۱۷  
 ۲۱۸  
 ۲۱۹  
 ۲۲۰  
 ۲۲۱  
 ۲۲۲  
 ۲۲۳  
 ۲۲۴  
 ۲۲۵  
 ۲۲۶  
 ۲۲۷  
 ۲۲۸  
 ۲۲۹  
 ۲۳۰  
 ۲۳۱  
 ۲۳۲  
 ۲۳۳  
 ۲۳۴  
 ۲۳۵  
 ۲۳۶  
 ۲۳۷  
 ۲۳۸  
 ۲۳۹  
 ۲۴۰  
 ۲۴۱  
 ۲۴۲  
 ۲۴۳  
 ۲۴۴  
 ۲۴۵  
 ۲۴۶  
 ۲۴۷  
 ۲۴۸  
 ۲۴۹  
 ۲۵۰  
 ۲۵۱  
 ۲۵۲  
 ۲۵۳  
 ۲۵۴  
 ۲۵۵  
 ۲۵۶  
 ۲۵۷  
 ۲۵۸  
 ۲۵۹  
 ۲۶۰  
 ۲۶۱  
 ۲۶۲  
 ۲۶۳  
 ۲۶۴  
 ۲۶۵  
 ۲۶۶  
 ۲۶۷  
 ۲۶۸  
 ۲۶۹  
 ۲۷۰  
 ۲۷۱  
 ۲۷۲  
 ۲۷۳  
 ۲۷۴  
 ۲۷۵  
 ۲۷۶  
 ۲۷۷  
 ۲۷۸  
 ۲۷۹  
 ۲۸۰  
 ۲۸۱  
 ۲۸۲  
 ۲۸۳  
 ۲۸۴  
 ۲۸۵  
 ۲۸۶  
 ۲۸۷  
 ۲۸۸  
 ۲۸۹  
 ۲۹۰  
 ۲۹۱  
 ۲۹۲  
 ۲۹۳  
 ۲۹۴  
 ۲۹۵  
 ۲۹۶  
 ۲۹۷  
 ۲۹۸  
 ۲۹۹  
 ۳۰۰  
 ۳۰۱  
 ۳۰۲  
 ۳۰۳  
 ۳۰۴  
 ۳۰۵  
 ۳۰۶  
 ۳۰۷  
 ۳۰۸  
 ۳۰۹  
 ۳۱۰  
 ۳۱۱  
 ۳۱۲  
 ۳۱۳  
 ۳۱۴  
 ۳۱۵  
 ۳۱۶  
 ۳۱۷  
 ۳۱۸  
 ۳۱۹  
 ۳۲۰  
 ۳۲۱  
 ۳۲۲  
 ۳۲۳  
 ۳۲۴  
 ۳۲۵  
 ۳۲۶  
 ۳۲۷  
 ۳۲۸  
 ۳۲۹  
 ۳۳۰  
 ۳۳۱  
 ۳۳۲  
 ۳۳۳  
 ۳۳۴  
 ۳۳۵  
 ۳۳۶  
 ۳۳۷  
 ۳۳۸  
 ۳۳۹  
 ۳۴۰  
 ۳۴۱  
 ۳۴۲  
 ۳۴۳  
 ۳۴۴  
 ۳۴۵  
 ۳۴۶  
 ۳۴۷  
 ۳۴۸  
 ۳۴۹  
 ۳۵۰  
 ۳۵۱  
 ۳۵۲  
 ۳۵۳  
 ۳۵۴  
 ۳۵۵  
 ۳۵۶  
 ۳۵۷  
 ۳۵۸  
 ۳۵۹  
 ۳۶۰  
 ۳۶۱  
 ۳۶۲  
 ۳۶۳  
 ۳۶۴  
 ۳۶۵  
 ۳۶۶  
 ۳۶۷  
 ۳۶۸  
 ۳۶۹  
 ۳۷۰  
 ۳۷۱  
 ۳۷۲  
 ۳۷۳  
 ۳۷۴  
 ۳۷۵  
 ۳۷۶  
 ۳۷۷  
 ۳۷۸  
 ۳۷۹  
 ۳۸۰  
 ۳۸۱  
 ۳۸۲  
 ۳۸۳  
 ۳۸۴  
 ۳۸۵  
 ۳۸۶  
 ۳۸۷  
 ۳۸۸  
 ۳۸۹  
 ۳۹۰  
 ۳۹۱  
 ۳۹۲  
 ۳۹۳  
 ۳۹۴  
 ۳۹۵  
 ۳۹۶  
 ۳۹۷  
 ۳۹۸  
 ۳۹۹  
 ۴۰۰  
 ۴۰۱  
 ۴۰۲  
 ۴۰۳  
 ۴۰۴  
 ۴۰۵  
 ۴۰۶  
 ۴۰۷  
 ۴۰۸  
 ۴۰۹  
 ۴۱۰  
 ۴۱۱  
 ۴۱۲  
 ۴۱۳  
 ۴۱۴  
 ۴۱۵  
 ۴۱۶  
 ۴۱۷  
 ۴۱۸  
 ۴۱۹  
 ۴۲۰  
 ۴۲۱  
 ۴۲۲  
 ۴۲۳  
 ۴۲۴  
 ۴۲۵  
 ۴۲۶  
 ۴۲۷  
 ۴۲۸  
 ۴۲۹  
 ۴۳۰  
 ۴۳۱  
 ۴۳۲  
 ۴۳۳  
 ۴۳۴  
 ۴۳۵  
 ۴۳۶  
 ۴۳۷  
 ۴۳۸  
 ۴۳۹  
 ۴۴۰  
 ۴۴۱  
 ۴۴۲  
 ۴۴۳  
 ۴۴۴  
 ۴۴۵  
 ۴۴۶  
 ۴۴۷  
 ۴۴۸  
 ۴۴۹  
 ۴۵۰  
 ۴۵۱  
 ۴۵۲  
 ۴۵۳  
 ۴۵۴  
 ۴۵۵  
 ۴۵۶  
 ۴۵۷  
 ۴۵۸  
 ۴۵۹  
 ۴۶۰  
 ۴۶۱  
 ۴۶۲  
 ۴۶۳  
 ۴۶۴  
 ۴۶۵  
 ۴۶۶  
 ۴۶۷  
 ۴۶۸  
 ۴۶۹  
 ۴۷۰  
 ۴۷۱  
 ۴۷۲  
 ۴۷۳  
 ۴۷۴  
 ۴۷۵  
 ۴۷۶  
 ۴۷۷  
 ۴۷۸  
 ۴۷۹  
 ۴۸۰  
 ۴۸۱  
 ۴۸۲  
 ۴۸۳  
 ۴۸۴  
 ۴۸۵  
 ۴۸۶  
 ۴۸۷  
 ۴۸۸  
 ۴۸۹  
 ۴۹۰  
 ۴۹۱  
 ۴۹۲  
 ۴۹۳  
 ۴۹۴  
 ۴۹۵  
 ۴۹۶  
 ۴۹۷  
 ۴۹۸  
 ۴۹۹  
 ۵۰۰  
 ۵۰۱  
 ۵۰۲  
 ۵۰۳  
 ۵۰۴  
 ۵۰۵  
 ۵۰۶  
 ۵۰۷  
 ۵۰۸  
 ۵۰۹  
 ۵۱۰  
 ۵۱۱  
 ۵۱۲  
 ۵۱۳  
 ۵۱۴  
 ۵۱۵  
 ۵۱۶  
 ۵۱۷  
 ۵۱۸  
 ۵۱۹  
 ۵۲۰  
 ۵۲۱  
 ۵۲۲  
 ۵۲۳  
 ۵۲۴  
 ۵۲۵  
 ۵۲۶  
 ۵۲۷  
 ۵۲۸  
 ۵۲۹  
 ۵۳۰  
 ۵۳۱  
 ۵۳۲  
 ۵۳۳  
 ۵۳۴  
 ۵۳۵  
 ۵۳۶  
 ۵۳۷  
 ۵۳۸  
 ۵۳۹  
 ۵۴۰  
 ۵۴۱  
 ۵۴۲  
 ۵۴۳  
 ۵۴۴  
 ۵۴۵  
 ۵۴۶  
 ۵۴۷  
 ۵۴۸  
 ۵۴۹  
 ۵۵۰  
 ۵۵۱  
 ۵۵۲  
 ۵۵۳  
 ۵۵۴  
 ۵۵۵  
 ۵۵۶  
 ۵۵۷  
 ۵۵۸  
 ۵۵۹  
 ۵۶۰  
 ۵۶۱  
 ۵۶۲  
 ۵۶۳  
 ۵۶۴  
 ۵۶۵  
 ۵۶۶  
 ۵۶۷  
 ۵۶۸  
 ۵۶۹  
 ۵۷۰  
 ۵۷۱  
 ۵۷۲  
 ۵۷۳  
 ۵۷۴  
 ۵۷۵  
 ۵۷۶  
 ۵۷۷  
 ۵۷۸  
 ۵۷۹  
 ۵۸۰  
 ۵۸۱  
 ۵۸۲  
 ۵۸۳  
 ۵۸۴  
 ۵۸۵  
 ۵۸۶  
 ۵۸۷  
 ۵۸۸  
 ۵۸۹  
 ۵۹۰  
 ۵۹۱  
 ۵۹۲  
 ۵۹۳  
 ۵۹۴  
 ۵۹۵  
 ۵۹۶  
 ۵۹۷  
 ۵۹۸  
 ۵۹۹  
 ۶۰۰  
 ۶۰۱  
 ۶۰۲  
 ۶۰۳  
 ۶۰۴  
 ۶۰۵  
 ۶۰۶  
 ۶۰۷  
 ۶۰۸  
 ۶۰۹  
 ۶۱۰  
 ۶۱۱  
 ۶۱۲  
 ۶۱۳  
 ۶۱۴  
 ۶۱۵  
 ۶۱۶  
 ۶۱۷  
 ۶۱۸  
 ۶۱۹  
 ۶۲۰  
 ۶۲۱  
 ۶۲۲  
 ۶۲۳  
 ۶۲۴  
 ۶۲۵  
 ۶۲۶  
 ۶۲۷  
 ۶۲۸  
 ۶۲۹  
 ۶۳۰  
 ۶۳۱  
 ۶۳۲  
 ۶۳۳  
 ۶۳۴  
 ۶۳۵  
 ۶۳۶  
 ۶۳۷  
 ۶۳۸  
 ۶۳۹  
 ۶۴۰  
 ۶۴۱  
 ۶۴۲  
 ۶۴۳  
 ۶۴۴  
 ۶۴۵  
 ۶۴۶  
 ۶۴۷  
 ۶۴۸  
 ۶۴۹  
 ۶۵۰  
 ۶۵۱  
 ۶۵۲  
 ۶۵۳  
 ۶۵۴  
 ۶۵۵  
 ۶۵۶  
 ۶۵۷  
 ۶۵۸  
 ۶۵۹  
 ۶۶۰  
 ۶۶۱  
 ۶۶۲  
 ۶۶۳  
 ۶۶۴  
 ۶۶۵  
 ۶۶۶  
 ۶۶۷  
 ۶۶۸  
 ۶۶۹  
 ۶۷۰  
 ۶۷۱  
 ۶۷۲  
 ۶۷۳  
 ۶۷۴  
 ۶۷۵  
 ۶۷۶  
 ۶۷۷  
 ۶۷۸  
 ۶۷۹  
 ۶۸۰  
 ۶۸۱  
 ۶۸۲  
 ۶۸۳  
 ۶۸۴  
 ۶۸۵  
 ۶۸۶  
 ۶۸۷  
 ۶۸۸  
 ۶۸۹  
 ۶۹۰  
 ۶۹۱  
 ۶۹۲  
 ۶۹۳  
 ۶۹۴  
 ۶۹۵  
 ۶۹۶  
 ۶۹۷  
 ۶۹۸  
 ۶۹۹  
 ۷۰۰  
 ۷۰۱  
 ۷۰۲  
 ۷۰۳  
 ۷۰۴  
 ۷۰۵  
 ۷۰۶  
 ۷۰۷  
 ۷۰۸  
 ۷۰۹  
 ۷۱۰  
 ۷۱۱  
 ۷۱۲  
 ۷۱۳  
 ۷۱۴  
 ۷۱۵  
 ۷۱۶  
 ۷۱۷  
 ۷۱۸  
 ۷۱۹  
 ۷۲۰  
 ۷۲۱  
 ۷۲۲  
 ۷۲۳  
 ۷۲۴  
 ۷۲۵  
 ۷۲۶  
 ۷۲۷  
 ۷۲۸  
 ۷۲۹  
 ۷۳۰  
 ۷۳۱  
 ۷۳۲  
 ۷۳۳  
 ۷۳۴  
 ۷۳۵  
 ۷۳۶  
 ۷۳۷  
 ۷۳۸  
 ۷۳۹  
 ۷۴۰  
 ۷۴۱  
 ۷۴۲  
 ۷۴۳  
 ۷۴۴  
 ۷۴۵  
 ۷۴۶  
 ۷۴۷  
 ۷۴۸  
 ۷۴۹  
 ۷۵۰  
 ۷۵۱  
 ۷۵۲  
 ۷۵۳  
 ۷۵۴  
 ۷۵۵  
 ۷۵۶  
 ۷۵۷  
 ۷۵۸  
 ۷۵۹  
 ۷۶۰  
 ۷۶۱  
 ۷۶۲  
 ۷۶۳  
 ۷۶۴  
 ۷۶۵  
 ۷۶۶  
 ۷۶۷  
 ۷۶۸  
 ۷۶۹  
 ۷۷۰  
 ۷۷۱  
 ۷۷۲  
 ۷۷۳  
 ۷۷۴  
 ۷۷۵  
 ۷۷۶  
 ۷۷۷  
 ۷۷۸  
 ۷۷۹  
 ۷۸۰  
 ۷۸۱  
 ۷۸۲  
 ۷۸۳  
 ۷۸۴  
 ۷۸۵  
 ۷۸۶  
 ۷۸۷  
 ۷۸۸  
 ۷۸۹  
 ۷۹۰  
 ۷۹۱  
 ۷۹۲  
 ۷۹۳  
 ۷۹۴  
 ۷۹۵  
 ۷۹۶  
 ۷۹۷  
 ۷۹۸  
 ۷۹۹  
 ۸۰۰  
 ۸۰۱  
 ۸۰۲  
 ۸۰۳  
 ۸۰۴  
 ۸۰۵  
 ۸۰۶  
 ۸۰۷  
 ۸۰۸  
 ۸۰۹  
 ۸۱۰  
 ۸۱۱  
 ۸۱۲  
 ۸۱۳  
 ۸۱۴  
 ۸۱۵  
 ۸۱۶  
 ۸۱۷  
 ۸۱۸  
 ۸۱۹  
 ۸۲۰  
 ۸۲۱  
 ۸۲۲  
 ۸۲۳  
 ۸۲۴  
 ۸۲۵  
 ۸۲۶  
 ۸۲۷  
 ۸۲۸  
 ۸۲۹  
 ۸۳۰  
 ۸۳۱  
 ۸۳۲  
 ۸۳۳  
 ۸۳۴  
 ۸۳۵  
 ۸۳۶  
 ۸۳۷  
 ۸۳۸  
 ۸۳۹  
 ۸۴۰  
 ۸۴۱  
 ۸۴۲  
 ۸۴۳  
 ۸۴۴  
 ۸۴۵  
 ۸۴۶  
 ۸۴۷  
 ۸۴۸  
 ۸۴۹  
 ۸۵۰  
 ۸۵۱  
 ۸۵۲  
 ۸۵۳  
 ۸۵۴  
 ۸۵۵  
 ۸۵۶  
 ۸۵۷  
 ۸۵۸  
 ۸۵۹  
 ۸۶۰  
 ۸۶۱  
 ۸۶۲  
 ۸۶۳  
 ۸۶۴  
 ۸۶۵  
 ۸۶۶  
 ۸۶۷  
 ۸۶۸  
 ۸۶۹  
 ۸۷۰  
 ۸۷۱  
 ۸۷۲  
 ۸۷۳  
 ۸۷۴  
 ۸۷۵  
 ۸۷۶  
 ۸۷۷  
 ۸۷۸  
 ۸۷۹  
 ۸۸۰  
 ۸۸۱  
 ۸۸۲  
 ۸۸۳  
 ۸۸۴  
 ۸۸۵  
 ۸۸۶  
 ۸۸۷  
 ۸۸۸  
 ۸۸۹  
 ۸۹۰  
 ۸۹۱  
 ۸۹۲  
 ۸۹۳  
 ۸۹۴  
 ۸۹۵  
 ۸۹۶  
 ۸۹۷  
 ۸۹۸  
 ۸۹۹  
 ۹۰۰  
 ۹۰۱  
 ۹۰۲  
 ۹۰۳  
 ۹۰۴  
 ۹۰۵  
 ۹۰۶  
 ۹۰۷  
 ۹۰۸  
 ۹۰۹  
 ۹۱۰  
 ۹۱۱  
 ۹۱۲  
 ۹۱۳  
 ۹۱۴  
 ۹۱۵  
 ۹۱۶  
 ۹۱۷  
 ۹۱۸  
 ۹۱۹  
 ۹۲۰  
 ۹۲۱  
 ۹۲۲  
 ۹۲۳  
 ۹۲۴  
 ۹۲۵  
 ۹۲۶  
 ۹۲۷  
 ۹۲۸  
 ۹۲۹  
 ۹۳۰  
 ۹۳۱  
 ۹۳۲  
 ۹۳۳  
 ۹۳۴  
 ۹۳۵  
 ۹۳۶  
 ۹۳۷  
 ۹۳۸  
 ۹۳۹  
 ۹۴۰  
 ۹۴۱  
 ۹۴۲  
 ۹۴۳  
 ۹۴۴  
 ۹۴۵  
 ۹۴۶  
 ۹۴۷  
 ۹۴۸  
 ۹۴۹  
 ۹۵۰  
 ۹۵۱  
 ۹۵۲  
 ۹۵۳  
 ۹۵۴  
 ۹۵۵  
 ۹۵۶  
 ۹۵۷  
 ۹۵۸  
 ۹۵۹  
 ۹۶۰  
 ۹۶۱  
 ۹۶۲  
 ۹۶۳  
 ۹۶۴  
 ۹۶۵  
 ۹۶۶  
 ۹۶۷  
 ۹۶۸  
 ۹۶۹  
 ۹۷۰  
 ۹۷۱  
 ۹۷۲  
 ۹۷۳  
 ۹۷۴  
 ۹۷۵  
 ۹۷۶  
 ۹۷۷  
 ۹۷۸  
 ۹۷۹  
 ۹۸۰  
 ۹۸۱  
 ۹۸۲  
 ۹۸۳  
 ۹۸۴  
 ۹۸۵  
 ۹۸۶  
 ۹۸۷  
 ۹۸۸  
 ۹۸۹  
 ۹۹۰  
 ۹۹۱  
 ۹۹۲  
 ۹۹۳  
 ۹۹۴  
 ۹۹۵  
 ۹۹۶  
 ۹۹۷  
 ۹۹۸  
 ۹۹۹  
 ۱۰۰۰

**ترجمہ:** یہود آپ سے روح کے بارے میں جس کے ذریعہ جسم انسانی زندہ ہوتا ہے سوال کرتے ہیں آپ ان کو جواب دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے جس کی حقیقت وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور اس کے علم کی نسبت سے تمہیں بہت ہی کم دیا گیا اور اگر ہم چاہیں تو جو جی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے یعنی قرآن کو سلب کر لیں بایں طور کہ اس کو سینوں سے اور مصحف سے مٹا دیں پھر آپ کو اس کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی میسر نہ ہو لیکن اس کو تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر باقی رکھا ہے یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے، اس لئے کہ اس نے اس کو آپ پر نازل کیا اور مقام محمود آپ کو عطا کیا اور اس کے علاوہ دیگر فضائل بھی (عطا فرما کر) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ فصاحت و بلاغت میں اس قرآن کا مثل لے آئیں تو وہ اس کا مثل نہیں لاسکتے اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، (یہ آیت) ان کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی کہ، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام لاسکتے ہیں، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں (من کل مثل) مثلاً، محذوف کی صفت ہے ای مثلاً من جنس کل مثل تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں، (ہر نوع کے عمدہ عمدہ مضامین بیان کئے ہیں) مگر اہل مکہ میں سے اکثر لوگ حق کے انکار سے باز نہیں آتے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں تا وقتیکہ آپ زمین سے ہمارے لئے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں ایسا چشمہ کہ اس سے پانی جاری ہو یا خود آپ کے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے درمیان آپ نہریں جاری کر دکھائیں یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آؤ جن کو ہم بچشم سردیکھیں یا تیرے لئے سونے کا ایک گھر ہو یا تو آسمان پر سیڑھی کے ذریعہ چڑھ جائے اور اگر تو آسمان پر چڑھ بھی جائے تو ہم تیرے چڑھنے کا یقین نہ کریں گے تا وقتیکہ تو ایک تحریر نہ لے آئے جس میں تیرے (چڑھنے کی) تصدیق ہو جس کو ہم پڑھیں، (اے محمد ﷺ) تم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار یہ اظہار تعجب ہے میں تو صرف دیگر رسولوں کی طرح پیغام لانے والا ایک انسان ہوں اور وہ بھی کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لائے۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

**قَوْلُهُ:** عَنْ الرُّوحِ، اِی عَنْ حَقِیْقَةِ الرُّوحِ.

**قَوْلُهُ:** عَلِمَهُ، اِیْعَنِ الرُّوحِ مِنْ اَلْاُمُوْر اَلَّتِیْ حَصَّ اللّٰهُ نَفْسَهُ بِعِلْمِهِ، فَالامر بمعنی الشان، اِی الرُّوحِ مِنْ شَانِ رَبِّیْ.

قَوْلًا: بالنسبة الى علمه تعالى یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور یہاں فرمایا ”ما اوتيتم من العلم الا قليلاً“، دونوں میں تعارض ہے۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں قلیل ہے۔

قَوْلًا: لام قسم یہ حذف قسم پر دل ہے لَنْذَهَبَنَّ جواب قسم ہے جو کہ جواب شرط کے قائم مقام بھی ہے، اور بعض حضرات نے ذہبنا بہ جواب شرط محذوف مانا ہے۔

قَوْلًا: لکن ابقیناہ اِلَّا کی تفسیر لکن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے نہ کہ متصل اسلئے کہ اِلَّا کا ما قبل رحمت کی جنس سے نہیں ہے۔

قَوْلًا: ابقیناہ، ابقیناہ محذوف مانا تا کہ کلام تام ہو جائے اس لئے کہ اس کے بغیر کلام ناتمام ہے۔

قَوْلًا: صفة لمحذوف یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بیذا، متعدی بنفسہ ہے اس کو من کے ذریعہ متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اس کا مفعول محذوف ہے اور وہ مثلاً ہے اور من کلّ مثل، کائنات کے متعلق ہو کر مفعول محذوف کی صفت ہے۔

قَوْلًا: اِلَّا كفورًا۔

سُؤال: جب ضربت اِلَّا زیدًا جائز نہیں تو پھر ابی اکثر الناس اِلَّا كفورًا، کیوں درست ہے؟ یہ تو مثبت میں مستثنیٰ مفرغ واقع ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

جَوَابُ: ابی نفی کا فائدہ دے رہا ہے گویا کہ کہا گیا فلم یروضوا اِلَّا كفورًا، (فارسی میں ترجمہ) پس قبول نہ کر دیشتر مردماں مگر ناسپاسی را۔

قَوْلًا: عطف علی قالوا، یعنی مستثنیٰ پر عطف نہیں ہے جس کی وجہ سے معنی کا فساد لازم آئے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

روح کیا ہے؟

روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی روح کے اندر مضمر ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہود نے بھی روح کے متعلق آپ ﷺ سے سوال کیا تھا تو آیت یسئلونک عن الروح النخ نازل ہوئی۔



## یہاں روح سے کیا مراد ہے:

قرآن کریم میں روح کا اطلاق متعدد معنی پر ہوا ہے ایک معنی تو معروف ہیں یعنی جس پر کسی بھی حیوان کی زندگی کا مدار ہوتا ہے، دوسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا ہے قال اللہ تعالیٰ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی روح کا لفظ کئی آیات میں بولا گیا ہے، اور قرآن کے لئے بھی روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا میں بعض مفسرین نے سیاق و سباق کی رعایت سے یہ سوال وحی اور قرآن یا وحی لانے والے فرشتے جبرائیل کے متعلق قرار دیا ہے اسلئے کہ اس سے پہلے ”نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ“ میں قرآن کا ذکر تھا اور بعد کی آیات میں پھر قرآن کا ذکر ہے اس سیاق و سباق کی مناسبت سے یہ سمجھا کہ اس آیت میں مذکور روح سے بھی وحی، قرآن، یا جبرائیل ہی مراد ہیں، اور مطلب سوال کا یہ ہوگا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ کون لاتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے جواب میں اس پر اکتفا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی آتی ہے تفصیلات اور کیفیات کا ذکر نہیں کیا۔

## مرفوع حدیث میں مذکور شان نزول:

احادیث صحیحہ مرفوعہ میں جو شان نزول مذکور ہے وہ اس بات میں صریح ہے کہ سوال روح حیوانی کے بارے میں تھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ بدن انسانی میں کس طرح آتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ایک روز مدینہ کے غیر آباد حصہ میں چل رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ کے دست مبارک میں کھجور کی سوکھی شاخ تھی آپ کا گذر چند یہودیوں پر ہوا، یہ لوگ آپس میں کہنے لگے محمد (ﷺ) آرہے ہیں ان سے روح کے متعلق سوال کرو بعض نے منع کیا مگر ایک شخص نے سوال کر ہی ڈالا، یہ سوال سن کر رسول اللہ ﷺ لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے کچھ دیر کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ نے آیت ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“ پڑھ کر سنائی یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یا وحی کو روح کہنا یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، مشرکین کے سوال کو اس پر محمول کرنا بہت بعید ہے، البتہ روح حیوانی و انسانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہی ہے، اسلئے جمہور مفسرین، ابن کثیر، ابن جریر، قرطبی روح المعانی سب ہی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ سوال روح حیوانی ہی کی حقیقت کے متعلق تھا، رہا یہ سوال کہ سیاق و سباق میں ذکر قرآن کا چلا آرہا ہے، درمیان میں روح کا سوال بے جوڑ ہے تو اس کا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلے آیات میں کفار مشرکین کی مخالفت اور معاندانہ سوالات کا ذکر آیا ہے جن کا مقصد رسول اللہ ﷺ کا دربارہ رسالت امتحان کرنا تھا یہ سوال بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے اس لئے بے جوڑ نہیں، خصوصاً شان نزول کے متعلق ایک دوسری صحیح روایت منقول ہے اس میں یہ بات زیادہ وضاحت سے آئی ہے کہ سوال کرنے والوں کا مقصد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا امتحان لینا تھا، چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قریش مکہ جو رسول اللہ ﷺ سے جا اور بے جا ہر قسم کے

سوالات کرتے رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ یہود اہل علم ہیں ان کو گزشتہ کتابوں کا بھی علم ہے ان سے کچھ سوالات حاصل کئے جائیں جن کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کا امتحان لیا جائے اسلئے قریش نے یہود سے سوالات دریافت کرنے کے لئے اپنے آدمی بھیجے انہوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے متعلق سوال کرو (ابن کثیر) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہود نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ روح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے، اس وقت تک رسول اللہ ﷺ پر اس بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی اسلئے اس وقت فوری جواب نہیں دیا پھر جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے ”قل الروح من امر ربی“۔ (معارف، ابن کثیر)

## واقعہ سوال، مکہ میں پیش آیا مدینہ میں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق یہ واقعہ سوال مدینہ میں پیش آیا اسلئے بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے، اور ابن عباس کی روایت کا تعلق مکہ سے ہے ابن کثیر نے اسی احتمال کو رائج قرار دیا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا یہ جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول مدینہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہو۔

## سوال مذکور کا جواب:

مذکورہ سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے ”قل الروح من امر ربی“ اس جواب کی تشریح میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اس جواب میں جتنی بات کا بتلانا ضروری تھا اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلا دی گئی اور روح کی مکمل حقیقت جس کا سوال تھا اس کو اسلئے نہیں بتلایا گیا کہ وہ عوام کی سمجھ سے بالاتر تھی اور اس کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پر موقوف بھی نہیں تھی، یہاں آپ ﷺ کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں کہ جو مادہ کے قطروں اور توالد و تناسل کے ذریعہ وجود میں آتی ہے بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کے حکم ”کن“ سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔

## روح کی حقیقت کا علم کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دیدیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی روح کی حقیقت معلوم نہیں تھی، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے اور نہ اثبات، اگر کسی نبی یا رسول کو وحی کے ذریعہ، کسی ولی کو کشف والہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں، بلکہ عقل اور فلسفہ کی رو سے بھی اس پر کوئی بحث و تحقیق کی جائے تو اس کو فضول اور لاف یعنی تو کہا جاسکتا ہے مگر ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اسی لئے بہت سے علماء متقدمین اور متاخرین نے روح کے متعلق مستقل کتابیں



لکھی ہیں آخر دور میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے ایک مختصر رسالے میں اس مسئلہ کو بہترین انداز سے لکھا ہے اور اس میں جس قدر حقیقت عام انسان کی لئے سمجھنا ممکن ہے وہ سمجھا دی ہے جس پر ایک تعلیم یافتہ انسان قناعت کر سکتا ہے اور شبہات و اشکالات سے بچ سکتا ہے۔

## روح عقل و نقل کی روشنی میں:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ: ”اور سوال کرتے ہیں تجھ سے روح کی نسبت“۔

یعنی روح انسانی کیا چیز ہے، اس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے: یہ سوال صحیحین کی روایت کے موافق یہودِ مدینہ نے آنحضرت ﷺ کے آزمانے کو کیا تھا اور ”سیر“ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ”قریش“ نے یہود سے یہ سوال کیا تھا، اسی لئے آیت کے ”مکی“ اور ”مدنی“ ہونے میں اختلاف ہے، ممکن ہے کہ نزول مکرر ہوا ہو، واللہ اعلم، یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالباً یہ مقصود ہوگا کہ جن چیزوں کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے، ادھر سے تو اعراض کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں ازراہ تعنت و عناد جھگڑتے رہتے ہیں، ضرورت اس کی تھی کہ وحی قرآنی کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخہ شفا سے فائدہ اٹھاتے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا (شوری)، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. (نحل)

(مگر انہیں دور از کار اور معاندانہ بحثوں سے فرصت کہاں؟)

روح کیا ہے، جوہر ہے یا عرض؟ مادی ہے یا مجرد؟ بسیط ہے یا مرکب؟ اس قسم کے غامض اور بے ضرورت مسائل کے سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے، نہ یہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ میں داخل ہیں، بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ آج تک خود ”مادہ“ کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے، روح جو بہر حال مادہ سے کہیں زیادہ لطیف و خفی ہے اس کی ماہیت و کنہ تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جاسکتی ہے؟ مشرکین مکہ کی جہالت اور یہودِ مدینہ کی اسرائیلیات کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جو قوم موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی وہ ”روح“ کے حقائق پر دسترس پانے کی کیا خاک استعداد و اہلیت رکھتی ہوگی۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔

موضح القرآن میں ہے کہ حضرت کے آزمانے کو یہود نے پوچھا سو اللہ تعالیٰ نے (کھول کر) نہ بتایا کیونکہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا، آگے پیغمبروں نے بھی مخلوق سے ایسی باریک باتیں نہیں کہیں، اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آپڑی وہ جی اٹھا، جب نکل گئی وہ مر گیا۔

## الفاظ قرآنی کی سطح کے نیچے عمیق حقائق مستور ہیں:

حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب و غریب اعجاز رکھتا ہے، روح کے متعلق یہاں جو کچھ فرمایا اس کا سطحی مضمون عوام اور قاصر الفہم یا کج رو معاندین کے لیے کافی ہے، لیکن اسی سطح کے نیچے، ان ہی مختصر الفاظ کی تہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت افروز حقائق مستور ہیں جو بڑے سے بڑے عالی دماغ نکتہ رس فلسفی اور ایک عارف کامل کی راہ طلب و تحقیق کیلئے چراغ ہدایت کا کام دیتی ہیں۔

”روح“ کے متعلق عہد قدیم سے جو سلسلہ تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا اور نہ شاید ہو سکے، روح کی اصلی کنہ و حقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات ہیں جن کی کنہ و حقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز رہے ہیں، تاہم میرے نزدیک آیات قرآنیہ سے روح کے متعلق چند نظریات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔

## روح قرآنی کے متعلق چند نظریات:

① انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے، جسے روح کہتے ہیں، وہ ”عالم امر“ کی چیز ہے اور خدا کے حکم سے فائض ہوتی ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (بنی اسرائیل)، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران)، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (نحل).

② روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بدرجہ کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بحد تفاوت اور فرق مراتب ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے ایک روح ایسے بلند اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعاً رسائی نہ ہو سکے جیسے روح محمدی ﷺ کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے۔

محققین کہتے ہیں کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي میں امر کی اضافت رب کی طرف اور رب کی یاء متکلم کی طرف جس سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں اس طرف مشیر ہے کیونکہ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح کے موافق رب اُس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بدرجہ کمال تک پہنچائے جہاں تک پہنچنے کی اس میں استعداد پائی جاتی ہو، چنانچہ دیکھ لو نبی کریم ﷺ کی اعلیٰ استعداد کے موافق اللہ نے آپ کو حسی و معنوی حیثیت سے کس قدر بلند مقام پر پہنچایا، آپ کو علوم و معارف سے بھری ہوئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں۔



اور حسی طور پر آپ کو شبِ معراج میں میں سدرۃ المنتہی سے بھی اُوپر لے گئے جہاں تک کسی نبی یا فرشتے کو عروج میسر نہ ہوا تھا۔

۳ مگر روح کے یہ کمالات ذاتی نہیں، وہاب حقیقی کے عطا کئے ہوئے اور محدود ہیں چنانچہ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سے معلوم ہوا کہ علم کسی اور کا دیا ہوا ہے اور جو علم تم کو دیا گیا وہ سب، دینے والے کے علم کے سامنے نہایت قلیل اور محدود ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (کھف) وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ (لقمان) اسی طرح آگے مشرکین کے قول لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا کے جواب میں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، فرمانا اس کی دلیل ہے کہ علم کی طرح بشر کی قدرت بھی بہر حال محدود و مستعار ہے۔

”خلق“ کیا ہے؟

اس مثال سے یہ بات واضح ہوگئی کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اُس کے پرزوں کا ٹھیک انداز رکھنا، پھر فٹ کرنا ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز بجلی یا اسٹیم اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے اول آسمان وزمین کی تمام مشینیں بنائیں جس کو ”خلق“ کہتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جس کو ”تقدیر“ کہا گیا ہے قَدَرَهُ تَقْدِيرًا سب کل پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جسے ”تصویر“ اور ”تسویہ“ کہتے ہیں خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ اور فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ يَهِي سب افعال خلق کی مد میں تھے۔

”امر“ کیا ہے؟

اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے، لگا دیا جائے مشین کو چالو کرنے کیلئے، ”امر الہی“ کی بجلی چھوڑ دی گئی شاید اس کا تعلق اسم باری سے ہے الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ وَفِي الْحَدِيثِ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ وَفِي سُورَةِ الْحَدِيدِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا اِي الْنفوس كما هو مروى عن ابن عباس وقتادة والحسن.

غرض ادھر سے حکم ہوا ”چل“ فوراً چلنے لگی، اسی ”امر الہی“ کو فرمایا اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ دوسری جگہ نہایت وضاحت کے ساتھ امر کن کو خلق جسد پر مرتب کرتے ہوئے ارشاد ہوا خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بلکہ تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ”كُنْ فَيَكُونُ“ کا مضمون جتنے مواضع میں آیا عموماً خلق

اور ابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے جس سے خیال گذرتا ہے کہ کلمہ ”کن“ کا خطاب ”خلق“ کے بعد تدبیر و تصرف وغیرہ کیلئے ہوتا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

## روح کا مبدأ صفت کلام ہے:

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ”امر“ کے معنی یہاں حکم کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ ”کن“ سے تعبیر کیا گیا، اور کن جنس کلام سے ہے جو حق تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جس طرح ہم اس کی تمامی صفات (مثلاً حیات، سمع، بصر وغیرہ) کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں، کلام اللہ اور کلمۃ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ”روح“ کے ساتھ اکثر جگہ قرآن میں ”امر“ کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور پہلے گزر چکا کہ ”امر“ عبارت ہے کلمہ کن سے یعنی وہ کلام انشائی جس سے مخلوقات کی تدبیر و تصرف اُس طریقہ پر کی جائے جس سے غرض ایجاد و تکوین مرتب ہو، لہذا ثابت ہوا کہ روح کا مبدأ حق تعالیٰ کی صفت قدیمہ کلام ہے جو صفت علم و حیات کے ماتحت ہے، شاید اسی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي میں اُسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ ”کلام“ اور ”امر“ کی نسبت متکلم و آمر سے صادر و مصدر کی ہوتی ہے مخلوق و خالق کی نہیں ہوتی، اسی لئے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ میں امر کو خلق کے مقابل رکھا ہاں یہ امر ”کن“ باری تعالیٰ شانہ سے صادر ہو کر ممکن ہے کہ جو ہر مجرد کے لباس میں یا ایک ملک اکبر اور روح اعظم کی صورت میں ظہور پکڑے جس کا ذکر بعض آثار میں ہوا ہے اور جسے ہم کہہ رہے ہیں روحیہ کا خزانہ کہہ سکتے ہیں۔

گویا یہیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوی الارواح پر تقسیم کی جاتی ہیں اور الارواح جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ الخ کے بیشمار تاروں کا یہیں سے کنکشن ہوتا ہے، اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی مشینوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ ہر مشین سے اسکی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے، بلکہ جن لیمپوں اور قلموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے انہی کے مناسب رنگ و ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔

## روح کا مبدأ صفت کلام ہے پھر وہ جو ہر مجرد و جسم لطیف کیونکر بن گئی؟

رہی یہ بات کہ ”کن“ (ہو جا) کا حکم جو قسم کلام سے ہے جو ہر مجرد جسم نورانی لطیف کی شکل کیونکر اختیار کر سکتا ہے، اسے یوں سمجھ لو کہ تمام عقلاء اس پر متفق ہیں، کہ ہم خواب میں جو اشکال و صورت دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا، پہاڑ، شیر، چیتے وغیرہ کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔



اب غور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جو اعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں، وہ جو اہر و اجسام کیونکر بن گئے، اور کس طرح ان میں اجسام کے لوازم و خواص پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی آثار و لوازم جدا نہیں ہوتے۔

## خواب کی مثال سے مطلب کی تفہیم:

فی الحقیقت خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو خواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آدمی کی قوتِ مصوّرہ میں اُس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کو جسمی سانچہ میں ڈھال لے اور ان میں وہی خواص و آثار باذن اللہ پیدا کر لے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے، پھر تماشا یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ کو علیحدہ بھی نہیں ہوئے ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے، تو کیا اس حقیر سے نمونہ کو دیکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ ممکن ہے قادر مطلق اور مصوّر برحق جل و علا کا امر بے کیف (کن) باوجود صفت قائمہ بذاتہ تعالیٰ ہونے کے کسی ایک یا متعدد صورتوں میں جلوہ گر ہو جائے ان صورتوں کو ہم ارواح یا فرشتے یا کسی اور نام سے پکاریں۔

## روح حادث ہے اور اس کا مبداء (امر رب) قدیم ہے:

وہ ارواح ملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اور امر الہی بحالہ قائم رہے، امکان و حدوث کے احکام و آثار ارواح وغیرہ تک محدود ہیں اور ”امر الہی“ ان سے پاک برتر ہو جیسے جو صورت خیالیہ بحالت خواب مثلاً آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت ناریہ میں احراق، سوزش، گرمی وغیرہ سب آثار ہم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اسی آگ کا تصور سالہا سال بھی دماغوں میں رہے تو ہمیں ایک لمحہ کے لئے یہ آثار محسوس نہیں ہوتے۔

## ظاہر اور مظہر کے احکام جُدا جُدا ہیں:

پس کوئی شبہ نہیں کہ روح انسانی (خواہ جو ہر مجرد ہو یا جسم لطیف نورانی) امر ربی کا مظہر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ مظہر کے تمام احکام و آثار ظاہر پر جاری ہوں کما ہوا الظاہر واضح رہے کہ جو کچھ ہم نے لکھا اور جو مثالیں پیش کیں ان سے مقصود محض تسہیل و تقریب الی الفہم ہے ورنہ ایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہو سکتی جو ان حقائق غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو۔

## روح جو ہر مجرد ہے یا جسم لطیف؟

رہا یہ مسئلہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکماء قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے یا جسم نورانی لطیف جیسا کہ جمہور اہل حدیث کی رائے ہے اس میں میرے نزدیک قول فیصل وہی ہے جو بقیۃ السلف بحر العلوم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ بالفاظِ عارف جامی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِا تین چیزیں ہیں۔

۱ وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادیہ۔

۲ وہ جواہر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے جنہیں صوفیہ ”اجسام مثالیہ“ کہتے ہیں۔

۳ وہ جواہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں جن کو صوفیہ ”ارواح“ یا حکماء جواہر مجردہ کے نام سے پکارتے ہیں۔

پس جمہور اہل شرع جس کو ”روح“ کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آنکھ ناک ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔

## روح کا بدن سے جدا ہونا موت کو مستلزم نہیں:

یہ روح بدن سے کبھی جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکلیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے جس سے بدن پر حالتِ موت طاری نہیں ہونے پاتی، گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے اللّٰہ یتوفی الانفس حین موتہا والّٰتی لم تمّت فی مَناہِہا کی تفسیر میں نقل کیا ہے اس وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقاء حیات کا سبب بنتی ہے جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے یا جیسا کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوا بازوں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجربے کئے ہیں اور تعجب خیز نتائج رونما ہوئے، اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم پھینکنے والا طیارہ بھیجا گیا تھا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا لیکن لاسکی کے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچایا گیا، اس طیارہ میں بم بھر کر وہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرکز میں واپس لایا گیا، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاسکی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخود جو کام کیا وہ ایسا ہی مکمل ہے جیسا کہ ہوا باز کی مدد سے عمل میں آتا۔

آج کل یورپ میں جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں جن میں روح جسم سے علیحدہ تھی اور روح کی ٹانگ پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹانگ پر ظاہر ہوا، بہر حال اہل شرع جو روح ثابت کرتے ہیں صوفیہ کو اس کا انکار نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر ایک اور روح مجردہ مانتے ہیں جس میں استحالہ نہیں بلکہ اس روح مجردہ کی بھی اگر کوئی اور روح ہو اور آخر میں کثرت کا سارا سلسلہ سمٹ کر امر ربی کی وحدت پر مبنی ہو جائے تو انکار کی ضرورت نہیں۔

## روح ہر چیز میں ہے اور ہر چیز کو ایک حیثیت سے زندہ یا مردہ کہہ سکتے ہیں:

مذکورہ بالا تقریر سے یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز میں جو ”کن“ کی مخاطب ہوئی روح حیات پائی جائے بیشک میں یہی سمجھتا ہوں کہ مخلوق کی ہر نوع کو اس کی استعداد کے موافق قوی یا ضعیف زندگی ملی ہے یعنی جس کام کیلئے وہ چیز پیدا کی گئی ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم دینا ”کن“ (اس کام میں لگ جا) بس یہی اُس کی روح حیات ہے، جب تک اور جس حد تک یہ اپنی غرض ایجاد کو پورا کرے گی اُسی حد تک زندہ سمجھی جائے گی، اور جس قدر اس سے بعید ہو کر معطل ہوتی جائے گی، اسی قدر موت سے



نزدیک یا مردہ کہلائے گی۔

یہ مضمون بہت طویل اور محتاج بسط و تفصیل ہے، ہم نے اہل علم و فہم کیلئے اپنی بساط کے موافق کچھ اشارے کر دیئے ہیں، شاید قرآن مجید پر نکتہ چینی کرنے والے اصحاب اتنا سمجھ لیں کہ روح کے متعلق بھی قرآن حکیم میں وہ رموز و حقائق بیان ہوئے ہیں جن کا عشر عشر دوسری آسمانی کتاب میں بیان نہیں ہوا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و هو الملمہم للصواب۔ (خطبات عثمانی ملخصاً)

## فائدہ جلیلہ:

امام بغوی نے اس مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک مفصل روایت اس طرح نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے قریشی سرداروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد ﷺ ہمارے اندر پیدا ہوئے اور جوان ہوئے ان کی امانت و دیانت اور سچائی میں کبھی کسی کو شبہ نہیں ہوا اور کبھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی تہمت بھی کسی نے نہیں لگائی اور اس کے باوجود اب جو دعوائے نبوت وہ کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لئے ایسا کرو کہ اپنا ایک وفد مدینہ کے علماء یہود کے پاس بھیج کر ان سے ان کے بارے میں تحقیقات کرو چنانچہ قریش کا ایک وفد علماء یہود کے پاس مدینہ پہنچا، علماء یہود نے ان کو مشورہ دیا کہ تمہیں تین چیزیں بتلاتے ہیں تم ان سے ان تینوں کا سوال کرو اگر انہوں نے تینوں کا جواب دیدیا تو وہ نبی نہیں اسی طرح اگر تینوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا تو بھی نبی نہیں، اور اگر دو کا جواب دیا اور تیسری کا نہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہیں اور وہ تین سوال یہ بتلائے ایک تو تم ان سے ان لوگوں کا حال معلوم کرو جو قدیم زمانہ میں شرک سے بچنے کے لئے کسی غار میں چھپ گئے تھے کیونکہ ان کا واقعہ عجیب ہے، دوسرے اس شخص کا حال معلوم کرو جس نے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر طے کیا کہ اس کا کیا واقعہ ہے، تیسرے روح کے متعلق سوال کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وفد آپ کی خدمت میں واپس آیا اور مذکورہ تینوں سوال آپ ﷺ کے سامنے پیش کر دیئے، آپ نے فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا مگر اس پر انشاء اللہ نہیں کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا بارہ پندرہ سے لے کر چالیس دن کی روایات ہیں جن میں سلسلہ وحی بند رہا، قریش مکہ کو طعن و تشنیع کا موقع ملا، کہ کل جواب دینے کو کہا تھا آج اتنے دن گزر گئے جواب نہیں ملا رسول اللہ ﷺ کے لئے بھی پریشانی ہوئی پھر حضرت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے ”وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ اَنْیَ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰهُ“ جس میں آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاء اللہ کہہ کر کیا جائے اور اس کے بعد روح کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر گزر چکی ہے اور غار میں چھپنے والوں کے متعلق اصحاب کہف کا واقعہ اور مشرق سے مغرب تک سفر کرنے والے ذوالقرنین کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ جواب میں بیان فرمایا گیا اور روح کے متعلق جو حقیقت کا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا، جس سے یہود کی بتلائی ہوئی علامت صدق نبوت کی ظاہر ہو گئی، اس واقعہ کو ترمذی نے مختصر بیان کیا ہے۔ (مظہری)

## بے سرو پا معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب:

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آیات مذکورہ میں جو سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ ﷺ سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر کی گئیں وہ سب ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو سنکر ایک قسم کا تمسخر اور ایمان نہ لانے کے بیہودہ بہانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا، ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو فطرۃ غصہ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے مگر ان آیات میں ان کے بیہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور مصلحین امت کے لئے ہمیشہ یادگار اور لائحہ عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بے وقوفی کا اظہار کیا گیا نہ ان کی معاندانہ شرارت کا، نہ ان پر کوئی فقرہ کسا گیا، بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے وہ سارے خدائی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہئے یہ تخیل غلط ہے، اور رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں مگر وہ سب کچھ محض اللہ کی قدرت و اختیار سے ہوتا ہے، رسول تو ایک انسان ہی ہوتا ہے اور انسانی قوت و قدرت سے باہر نہیں ہوتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی امداد کے لئے اپنی قوت قاہرہ کو ظاہر کر دے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَيُّ قَوْلِهِمْ مِّنْكَ إِنِ ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ وَلَمْ يَبْعَثْ مَلَكًا قُلْ لَهُمْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ بَدَلُ الْبَشَرِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۚ إِذْ لَا يُرْسَلُ إِلَىٰ قَوْمٍ رَسُولٌ إِلَّا مِنْ جَنْسِهِمْ لِيُتِمَّ إِلَيْهِمْ مُخَاطَبَتَهُ وَالْفَهْمُ عَنْهُ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَلَىٰ صِدْقٍ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۚ عَالِمًا بِبَوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ يَهْدُونَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا شِئْنَا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبِكُمَا وَصَمًّا مَّا وَهَمُّهُمْ كَلَّمَا خَبَتْ سَكَنَ لَهَا بَهِرًا زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۚ تَلْهَبًا وَاشْتَعَالًا ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ بَأْتِنَاهُمْ كُفْرًا بَايْتِنَا وَقَالُوا مُنْكَرِينَ لِّلْبُعْثِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَعَ عِظْمِهَا قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ إِي الْإِنْسِي فِي الصَّغِيرِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا إِي لِّلْمَوْتِ وَالْبُعْثِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَاكْبِرُوا ۚ إِنَّا لَكُفُّورًا ۚ قُلْ لَهُمْ لَوْ أَنَّ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ مِنَ الرِّزْقِ وَالْمَطَرِ إِذَا الْأَمْسُكُمْ لَبِخْلُكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ خَوْفَ نَفَادِهَا بِالْإِنْفَاقِ فَتَفْتَقَرُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۚ بِخِيلًا

تَرْجُمہ: لوگوں کے پاس ہدایت پہنچنے کے بعد ایمان سے روکنے والا منکرین کا ان سے صرف یہی کہنا رہا کہ کیا



انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، اور فرشتہ کو نہ بھیجا، آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے اس لئے کہ قوم کے پاس ان ہی کی جنس کا رسول بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کے لئے اس کی گفتگو اور افہام و تفہیم ممکن ہو، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری صداقت پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے وہ اپنے بندوں (کے حالات) سے خوب آگاہ ہے، اور بخوبی دیکھنے والا ہے (یعنی) ان کے پوشیدہ اور ظاہر تمام حالات سے واقف ہے، اور اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو ان کے مددگار پائے جو ان کی رہنمائی کریں ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جمع کریں گے حال یہ کہ وہ اندھے گونگے، بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے وہ مزید شعلہ زن اور مشتعل ہونے لگے گی یہ ان کی اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور منکرین نے کہا، کیا جب ہم ہڈی رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائیگا، کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ بلاشبہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو ان کی عظمت کے باوجود پیدا کیا (وہ) اس پر قادر ہے کہ ان جیسے صغیر انسانوں کو پیدا کرے اسی نے ان کے لئے موت اور بعثت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کئے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت رزق اور بارش کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے اس میں بخیلی کرتے یعنی خرچ کرنے سے ختم ہونے کے خوف سے کہ پھر تم محتاج ہو جاؤ گے اور انسان ہے ہی تنگ دل۔

## تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ لِتَسْهِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: ای قولہم اس میں اشارہ ہے کہ اُن مصدر یہ ہے، یعنی ان کے لئے قرآن اور آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بارے میں کوئی شبہ اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی سوائے منکرین بعثت کے جو مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو رسول بنا کر بھیجنے کے لئے انسان ہی رہ گیا تھا۔

قَوْلًا: مطمئنین اسم فاعل جمع مذکر منصوب، وطن بنانے والے، قیام کرنے والے۔

قَوْلًا: لَوْ اَنْتُمْ۔

سُؤَالٌ: لَوْ شرطیہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے مگر یہاں اسم پر داخل ہے۔

جَوَابٌ: اَنْتُمْ سے پہلے فعل محذوف ہے اور مابعد کا فعل اس کی تفسیر کر رہا ہے تقدیر عبارت یہ ہے لَوْ تَمْلِكُونَ اَنْتُمْ

تم ملکون خزان رحمة ربی، اَنْتُمْ، تملکون کے اندر ضمیر فاعل کی تاکید ہے یہ ماضی عامہ کے قبل سے ہے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

مَا مَنَعَ النَّاسَ الْخ، عام مشرکین کا خیال تھا کہ اللہ کا رسول بشر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ہماری طرح ضروریات انسانی کا عادی ہوتا ہے پھر اس کو ہم پر کیا فوقیت حاصل ہوگی کہ ہم اسے اللہ کا رسول سمجھیں اور اپنا مقتدا بنالیں آج کل کے اہل بدعت کا آپ ﷺ کی بشریت سے انکار کرنے میں بھی یہی جذبہ کارفرما ہے یعنی جس طرح مشرکین رسالت اور بشریت میں منافات سمجھتے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی بشریت اور رسالت میں تضاد و تنافی سمجھتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین آپ کی بشریت کے قائل ہونے کی وجہ سے رسالت کی نفی کرتے اور آج کل کے اہل زلیغ و ضلال آپ کی رسالت کے قائل ہونے کی وجہ سے آپ کی بشریت کی نفی کرتے ہیں۔

مشرکین مکہ کے سوال کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی جانب بھیجا جائے وہ ان ہی کی جنس سے ہونا ضروری ہے اگر مبعوث الیہم انسان ہیں تو مبعوث کا بھی انسان ہونا ضروری ہے اسلئے کہ غیر جنس سے باہم مناسبت نہیں ہوتی اور بلا مناسبت کے رشد و ہدایت کا فائدہ نہیں ہوتا اگر انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جائے جو نہ بھوک کو جانتا ہے نہ پیاس کو نہ جنسی خواہشات کو اور نہ سردی گرمی کے احساس کو اور نہ اس کو کبھی محنت اور تکان لاحق ہوتی ہے، تو وہ انسانوں سے بھی ایسے عمل کی توقع رکھتا انسانوں کی کمزوری و مجبوری کا احساس نہ کرتا اسی طرح انسان جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے ہم ان کے کاموں کے نقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کی اتباع کیسے کریں گے رشد و ہدایت کا فائدہ اور اصلاح صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول جنس بشر سے ہو جو تمام انسانی جذبات اور خواہشات کا حامل ہو، مگر ساتھ ہی اس کو ایک شان ملکیت بھی حاصل ہوتا کہ عام انسانوں اور فرشتوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ کا کام کر سکے وحی لانے والے فرشتوں سے وحی حاصل کرے اور اپنے ہم جنس انسانوں کو پہنچا دے۔

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّیْ (الآیۃ) اس آخری آیت میں جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم بخل کرو گے، کسی کو نہ دو گے اس خطرہ سے کہ اگر لوگوں کو دیتے رہے تو یہ خزانہ ختم ہو جائیگا اگرچہ رحمت حق کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں، مگر انسان اپنی طبیعت سے تنگ دل اور کم حوصلہ واقع ہوا ہے اس کو فراخی کے ساتھ لوگوں کو دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس میں خزانہ رحمت ربی سے عام مفسرین نے مال اور دولت کے خزانے مراد لئے ہیں اور اس کا ربط ماسبق سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اس کی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ مکہ کے اس خشک ریگستان میں نہریں جاری کر کے اس کو سرسبز باغات میں تبدیل کر دیں جیسا کہ ملک شام کا خطہ ہے جس کا جواب پہلے آچکا ہے کہ تم نے تو مجھے گویا خدا ہی سمجھ لیا، کہ خدائی اختیارات کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو میں تو صرف ایک رسول ہوں خدا نہیں کہ جو چاہوں کر دوں۔



حضرت حکیم الامت تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے بیان القرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مراد نبوت و رسالت اور خزانہ سے مراد کمالات نبوت لئے ہیں اس تفسیر کے مطابق اس کا ربط آیات سابقہ سے یہ ہوگا کہ تم نبوت و رسالت کے لئے بے سرو پا اور بیہودہ مطالبات کر رہے ہو اس کا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت کو ماننا نہیں چاہتے تو کیا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ نبوت کا نظام تمہارے ہاتھوں میں دیدیا جائے جس کو تم چاہو نبی بنا لو، اگر ایسا کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی کو بھی نبوت و رسالت نہ دو گے بخل کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ (معارف)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَهِيَ الْيَدُ وَالْعَصَا وَالْجُرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادُعُ وَالْدَّمَ وَالطَّمَسُ وَالسِّنِينَ وَنَقَضَ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَنَلَّ يَا مُحَمَّدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْهُ سَوَالُ تَقْرِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى صَدَقِكَ أَوْ فَقَلْنَاهُ إِسْأَلُ وَفِي قِرَاءَةِ بَلْفِظِ الْمَاضِي إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝ مَخْدُوعًا مَغْلُوبًا عَلَىٰ عَقْلِكَ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ عِبْرًا وَلَكِنَّكَ تَعَانَدُ وَفِي قِرَاءَةِ بَضْمِ التَّاءِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝ بِأَلْبَاسٍ أَوْ مَصْرُوفًا عَنِ الْخَيْرِ فَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُسْتَفْزَهُمْ يُخْرِجَ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّنْ مَصْرَ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ أِى السَّاعَةِ جَنَّا بِكُمْ لَفِيفًا ۝ جَمِيعًا أَنْتُمْ وَهُمْ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ أِى الْقُرْآنِ وَبِالْحَقِّ الْمَشْتَمَلِ عَلَيْهِ نَزَلَ كَمَا أَنْزَلَ لَمْ يَغْتَرِهِ تَبْدِيلٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَّا مُبَشِّرًا مَنْ أَمِنَ بِالْجَنَّةِ وَنَذِيرًا ۝ مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ وَقُرْآنًا مَنْصُوبٍ بِفَعْلٍ يُفْسِرُهُ فَرَقْنَاهُ نَزْلَانَهُ مُفَرَّقًا فِي عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثٍ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ مَسْهَلٍ وَتُؤَدِّ لِيَفْهَمُوهُ ۝ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ عَلَى حَسَبِ الْمَصَالِحِ قُلْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ أَمْوَابِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا تَهْدِيدٌ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ قَبْلَ نُزُولِهِ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ يُخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجْدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا تَنْزِيلُهَا عَنْ خَلْفِ الْوَعْدِ إِنَّ مَخْفَفَةَ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا بِنُزُولِهِ وَبَعَثَ النَّبِيَّ لِمَفْعُولًا ۝ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ عَطْفُ بَزِيَادَةِ صِفَةٍ وَيَنْزِيذُهُمُ الْقُرْآنُ حَشَوًا ۝ تَوَاضَعًا لِلَّهِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ فَقَالُوا إِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ إِلَهَيْنِ وَهُوَ يُدْعَوُ إِلَهُ الْآخَرِ مَعَهُ فَنَزَلَ قُلْ لَهُمْ أَدْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا اللَّهَ الرَّحْمَنُ أِى سَمُوهُ بِأَيِّهِمَا أَوْ نَادُوهُ بَأَنْ تَقُولُوا يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ أَيْ شَرْطِيَّةٍ مَا زَائِدَةٌ أِى شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ تَدْعُو فَهُوَ حَسَنٌ دَلٌّ عَلَى هَذَا فَلَهُ أِى لِمُسْمَا بِمَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَذَا مِنْهَا فَانْهَاهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ  
الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ  
الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِي الْمُعِيدُ الْمُخَيُّ الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْبَاجِدُ الْوَاحِدُ الْآخِذُ الصَّمَدُ  
الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنتَقِمُ الْعَفْوُ الرَّؤُوفُ  
مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي  
الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ (رواه الترمذی) قَالَ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ بِقِرَاءَتِكَ فِيهَا  
فَيَسْمَعَكَ الْمَشْرُكُونَ فَيَسُبُّوكَ وَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَلَا تَخَافَتْ تُسَبِّرَ بِهَا لِيَنْتَفِعَ أَصْحَابُكَ وَابْتَغِ  
إِقْصِدُ بَيْنَ ذَلِكَ الْجَهْرَ وَالْمُخَافَةَ سَبِيلًا ۝ طَرِيقًا وَسَطًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ  
فِي الْمُلْكِ الْإِلَوهِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَنْصُرُهُ مِّنْ أَجْلِ الذَّلِيلِ أَيْ لَمْ يَذَلَّ فِيحْتَاجْ إِلَى نَاصِرٍ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا ۝ عَظَمَهُ  
عَظْمَةً تَامَةً عَنْ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ وَالشَّرِيكِ وَالذَّلِ وَكُلِّ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ وَتَرْتِيبُ الْحَمْدِ عَلَى ذَلِكَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى  
أَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ لِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ لِكَمَالِ ذَاتِهِ وَتَفَرُّدِهِ فِي صِفَاتِهِ رَوَى الْأَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مَعَاذِ  
الْجُهَنِيِّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ آيَةُ الْعِزِّ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا إِلَى الْآخِرِ  
السُّورَةِ. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

قَالَ مُؤَلِّفُهُ هَذَا الْآخِرُ مَا كَمَلْتُ بِهِ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أَلْفَهُ الْأَمَامُ الْعَلَامَةُ الْمُحَقِّقُ جَلَالُ  
الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَفْرَغْتُ فِيهِ جِهْدِي وَبَدَلْتُ فِيهِ فِكْرِي فِي نَفَائِسِ آرَائِي أَنْ  
شَاءَ اللَّهُ تُجِدِي وَالْفَتْهُ فِي مُدَّةٍ قَدَرِ سِعَادِ الْكَلِيمِ وَجَعَلْتَهُ وَسِيلَةً لِلْفُوزِ بِجَنَّاتِ النِّعَمِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ  
مُسْتَفَادٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُكْمَلِ وَعَلَيْهِ فِي الْإِي الْمُتَشَابِهَةِ الْاعْتِمَادُ وَالْمُعَوَّلُ فَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا نَظَرَ بَعِينَ  
الْإِنْصَافِ إِلَيْهِ وَوَقَفَ فِيهِ عَلَى خَطَا فَاظْلَعَنِي عَلَيْهِ وَقَدْ قَلْتُ شَعْرًا.

حَمَدَتِ اللَّهُ رَبِّي إِذْ هَدَانِي      لَمَّا أَبْدَيْتُ مَعَ عَجْزِي وَضَعْفِي  
فَمَنْ لِي بِالْخَطَا فَارِدٌ عَنْهُ      وَمَنْ لِي بِالْقَبُولِ وَلَوْ بِحَرْفٍ

هَذَا وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ فِي خُلْدِي أَنْ أَتَعَرَّضَ لِذَلِكَ لِإِعْلَمِي بِالْعَجْزِ عَنِ الْخَوْضِ فِي هَذِهِ الْمَسَالِكِ  
وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ نَفْعًا جَمًّا وَيَفْتَحَ بِهِ قُلُوبًا غُلْفًا وَأَعْيُنًا غُمًّا وَإِذَا نَا صُمًّا وَكَأَنِّي بِمَنْ اِعْتَادَ  
بِالْمُطَوَّلَاتِ وَقَدْ اضْرَبَ عَنْ هَذِهِ التَّكْمِلَةِ وَأَصْلَهَا حَسَمًا وَعَدَلَ إِلَى صَرِيحِ الْعِنَادِ وَلَمْ يُوجِّهْ إِلَى دَقَائِقِهِمَا  
فَهَمًّا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى رَزَقَنَا اللَّهُ بِهِ هِدَايَةً إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَتَوْفِيقًا وَاطْلَاعًا



على دقائق كلماته وتحقيقاً وجعلنا به مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل قال مؤلفه عامله الله بلطفه فرغت من تأليفه يوم الأحد عاشر شهر شوال سنة سبعين وثمان مائة وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة وفرغ من تبليغه يوم الأربعاء سادس صفر سنة احدى وسبعين وثمان مائة.

**ترجمہ:** اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نو معجزے بالکل واضح عطا کئے تھے اور وہ یہ ہیں ① ید بیضاء، ② عصا، ③ طوفان، ④ ٹڈیاں، ⑤ جوئیں، ⑥ مینڈک، ⑦ خون، ⑧ ہلاکت اموال، ⑨ خشک سالی اور پھلوں کی کمی (اے محمد) تم خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل سے پوچھ لو یہ سوال آپ کی صداقت کا مشرکین سے اقرار کرانے کے طور پر ہے یا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون سے بنی اسرائیل کی رہائی کا سوال کرو اور ایک قراءت میں (سئل) ماضی کے صیغہ کے ساتھ ہے، (یعنی سوال کیا) جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم کو سحر زدہ (یعنی) مغلوب العقل سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا (اے فرعون) تو خوب سمجھ رہا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں آسمانوں اور زمین کے مالک ہی نے نازل فرمائی ہیں لیکن تو عناد پر اتر آیا ہے اور ایک قراءت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے، اے فرعون میں تو خوب سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا جائیگا یا ہر خیر سے محروم کر دیا جائیگا، آخر فرعون نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو ملک مصر سے نکال باہر کرے تو ہم نے اس کو اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تم اسی سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت یعنی قیامت کا وعدہ آئیگا تو ہم تم کو اور ان کو سب کو حاضر کریں گے اور ہم نے قرآن کو راستی کے ساتھ اتارا اور راستی ہی کے ساتھ وہ اتر جیسا کہ اتارا، یعنی حق پر مشتمل ہو کر، اس میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوا، اور ہم نے آپ کو اے محمد ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۰ یا ۲۳ سال میں نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سنا لیں یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور وقفہ کے ساتھ تاکہ وہ اسے سمجھیں اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا یعنی یکے بعد دیگرے مصلحت کے مطابق، آپ کفار مکہ سے کہہ دو تم اس کو مانو یا نہ مانو یہ ان کے لئے تہدید ہے، بلاشبہ وہ لوگ جن کو قرآن کے نزول سے پہلے علم عطا کیا گیا ہے اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جب ان کو (قرآن) پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے یعنی وعدہ خلافی سے اس کے لئے پاکی ہے ہمارے رب کا یہ قرآن کے نزول اور نبی کی بعثت کا وعدہ بلاشبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں زیادتی صفت کے ساتھ (ما قبل میں) (یعنی) یخرون پر زیادتی صفت کے ساتھ عطف ہے، اور قرآن اللہ کے لئے ان کی عاجزی اور

خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کے رسول، یا اللہ یا رحمن کہا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم کو تو دو معبودوں کی بندگی سے منع کرتے ہیں اور خود اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پکارتے ہیں، تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو یعنی اس کا دونوں میں سے جو بھی چاہو نام رکھو اس کو تم یا اللہ (یا) یا رحمن کہہ کر پکارو ان دونوں میں سے جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی مسمی کے ہیں ایسا شرطیہ ہے، مازائدہ ہے یہ دونوں نام بھی ان ہی میں سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ یعنی نماز میں اپنی قراءت، اس لئے کہ تیری قراءت کو مشرکین سنیں گے تو وہ تجھے اور قرآن کو برا بھلا کہیں گے، اور اس کو (بھی) جس نے اس کو نازل کیا ہے اور نہ (بہت) پست آواز سے پڑھ تا کہ تیرے ساتھی استفادہ کریں، بلند اور پست دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کر، اور کہہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے اسے مددگار کی ضرورت ہو یعنی وہ کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ (یعنی) تو اس کی اولاد رکھنے سے اور شریک سے اور کمزوری سے اور ہر اس شئی سے جو اس کی شایان شان نہیں پوری پوری عظمت بیان کر، اور (صفات عدمیہ پر) حمد کا مرتب کرنا اس دلالت کی وجہ سے ہے کہ وہ تمام محامد کا اپنے کمال ذات، اور صفات میں منفرد ہونے کی وجہ سے مستحق ہے۔

امام احمد نے اپنی مسند میں معاذ جہنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی سند سے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت عزت الحمد لله الذی لم يتخذ وَلَدًا آخر سورت تک ہے۔ (واللہ اعلم)۔

اس کے مؤلف نے فرمایا ”یہ آخری جز ہے جس پر قرآن عظیم کی وہ تفسیر مکمل ہو گئی جس کو امام علامہ محقق جلال الدین المحلی شافعی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے تالیف فرمایا، اور میں نے اس میں اپنی پوری طاقت لگا دی اور میں نے اس کی نکتہ چینی میں اپنی پوری ذہنی توانائی صرف کر دی اے مخاطب! میں سمجھتا ہوں کہ تو اس سے مستفید ہوگا، انشاء اللہ اور میں نے اس کو موسیٰ کلیم اللہ (کے قیام کی) مقدار یعنی ۴۰ دن میں تالیف کیا، اور میں نے اس کو جنت نعیم میں کامیابی کا ذریعہ بنایا، اور یہ حصہ (نصف اول) درحقیقت کتاب کے اس حصہ (نصف ثانی) سے مستفاد ہے جو مکمل ہوا ہے، اور آیات متشابہات کے بارے میں اسی (نصف ثانی) پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے، اللہ اس شخص پر رحم کرے کہ جو اس کی طرف انصاف کی نظر سے دیکھے، اور وہ اگر اس میں کسی غلطی پر واقف ہو تو مجھے اس سے مطلع کرے، اور میں نے یہ شعر کہا (بعض نسخوں میں لفظ شعر نہیں ہے)۔

تَرْجَمَہ: میں نے اپنے رب کی حمد بیان کی اس لئے کہ اس نے مجھے اس چیز کی توفیق بخشی جس کو میں نے اپنی عاجزی اور کمزوری کے باوجود شروع کیا۔ جو میری غلطی کو ظاہر کرے گا تو میں رجوع کروں گا (یعنی اصلاح کروں گا) اور جو مجھے اس کی قبولیت (عند اللہ) کی خوشخبری دے گا اگرچہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو (میں اس کا شکریہ ادا کروں گا)۔

(ہذا) ای خذ هذا، اور یہ بات میرے دل میں ہرگز نہیں تھی کہ میں اس کام کو شروع کروں گا ان راہوں میں غور و خوض کرنے



سے عجز سے واقف ہونے کی وجہ سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کے ذریعہ نفع کثیر عطا فرمایگا، اور وہ اس کے ذریعہ بند دلوں کو اور اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو کھول دے گا، گویا کہ میں اس شخص کے مانند ہوں جس کو مطولات (بڑی بڑی کتابوں کے مطالعہ) کی عادت ہو اور حال یہ ہے کہ اس کے تکملہ اور اس کی اصل (یعنی مکمل اور مکمل) سے اعراض کیا ہو، اور صریح عناد کی طرف اعراض کیا ہو اور سمجھنے کے لئے ان دونوں کی طرف متوجہ نہ ہوا ہو، تو جو اس سے اندھا رہا تو وہ دوسرے سے بھی اندھا رہے گا اللہ نے ہمیں اس (قرآن) کے ذریعہ راہ حق کی توفیق بخشی اور اس (قرآن) کے کلمات کی باریکیوں سے واقف ہونے کی اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا کی، (اور اللہ سے دعاء ہے) کہ ہمیں اس کی بدولت ان لوگوں کے ساتھ رکھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ حضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے بہترین رفیق ہیں، اور سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لئے ہیں، اور ہمارے سردار محمد ﷺ پر اللہ کی جانب سے بے شمار درود و سلام ہو، اور اللہ ہمارے لئے کافی بہترین کار ساز ہے، مولف رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ نے، اللہ ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرے، کہا میں اس کی تالیف ۸۷۰ھ بروز اتوار فارغ ہوا اور (تالیف کی) ابتداء شروع رمضان بروز چہار شنبہ مذکورہ سال میں ہوئی اور اس کی تبیض سے فراغت ۶ صفر بروز چہار شنبہ ۸۷۱ھ کو ہوئی۔

## تحقیق و ترکیب تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلًا: تقریر، یہ اضافہ اس سوال کا جواب ہے کہ آپ ﷺ کو تو معلوم تھا پھر سوال کرنے کا کیا فائدہ؟

جَوَابُ: یہ سوال استفہام نہیں ہے بلکہ سوال تقریر ہے۔

قَوْلًا: قبل نزولہ، نزول مضاف محذوف مان کر مفسر علام نے اشارہ کر دیا کہ قبل القرآن کا مطلب ہے قبل نزول القرآن اور یہ ممکن نہیں اس لئے کہ قرآن قدیم ہے لہذا اس سے قبل علم دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

قَوْلًا: عطف بزيادة یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یَخْرُونَ للاذقان کا عطف سابق یَخْرُونَ للاذقان پر ہے جس کی وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ متحد ہیں حالانکہ ان دونوں میں مغائرت ضروری ہے۔

جَوَابُ: معطوف میں یدکون صفت کا اضافہ ہے جس کی وجہ سے اتحاد باقی نہیں رہا۔

قَوْلًا: اِی شئ اس میں اشارہ ہے کہ ایٹا، میں تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے نہ کہ ندا کے معنی میں۔

قَوْلًا: فہو حسن اس میں اشارہ ہے کہ ایٹاما، شرط کی جزاء محذوف ہے اور دال بر حذف فلہ الأسماء الحسنی ہے۔ جزاء کو حذف کر کے دال بر جزاء کو اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔

قَوْلًا: لِمُسَمَّاهما اس میں اشارہ ہے کہ فلہ کی ضمیر مستمی محذوف کی طرف راجع ہے نہ کہ اسم کی طرف ورنہ تو اسم کے لئے اسم کا ہونا لازم آئے گا۔

**قَوْلًا:** ترتیب الحمد علی ذلك للدلالة علی أنه المستحق الخ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔  
**سُؤَال:** یہ ہے کہ حمد کہتے ہیں کسی کے اچھے اختیاری فعل کی تعریف کرنے کو (الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری) مذکورہ آیت ”قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک، ولم یکن له ولی من الذل“ اس آیت میں تین اوصاف مذکور ہیں اور تینوں سلبی ہیں نہ کہ ایجابی حالانکہ حمد وصف ایجابی پر ہوتی ہے نہ کہ سلبی پر اس لئے کہ سلبی پر تنزیہ ہوتی ہے۔

**جَوَاب:** لکمال ذاتہ سے اس اعتراض کا جواب ہے کہ مذکورہ تینوں سلبی صفات اس امکان کی نفی کرتی ہیں جو احتیاج کا مقتضی ہو اور واجب الوجود لذاتہ پر دلالت کرتی ہیں، یعنی سب اسکے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لہذا وہی حمد کا مستحق ہے (جمل) جواب کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح صفات کی وجہ سے مستحق حمد ہوتا ہے اسی طرح ذات کی وجہ سے بھی مستحق حمد ہوتا ہے اور تمثیل کے طریقہ پر جواب یہ ہے کہ مذکورہ تینوں سلبی صفات میں نعمت یہ ہے کہ بادشاہ کے جب بیوی بچے ہوں تو غلاموں پر بیوی بچوں سے بچا ہوا خرچ کرتا ہے اور جب اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو بادشاہ تمام احسانات اور انعامات کو غلاموں پر خرچ کرتا ہے اس طرح ولد کی نفی غلاموں پر زیادتی انعام کی مقتضی ہوتی ہے اور نفی شریک میں نعمت یہ ہے کہ شریک ہونے کی بہ نسبت شریک نہ ہونے کی صورت میں بادشاہ انعام عطا کرنے پر مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ قادر ہوتا ہے اور نفی نصیر کی صورت میں نعمت یہ ہوتی ہے کہ نصیر کی نفی قوت اور استغناء پر دلالت کرتی ہے اور یہ دونوں زیادہ انعام پر قادر ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس طریقہ سے مذکورہ تینوں سلبی صفات ایجابی بن جاتی ہیں لہذا ان پر حمد بیان کرنا درست ہے۔

**قَوْلًا:** آیت العز یعنی الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً (الآیة) یعنی رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کو آیت عزت فرمایا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پابندی سے روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عز و شرف سے نوازیں گے، پڑھنے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے کہ اول تو کَلْتَ عَلَی الْحَیِّ الذِّی لَا یَمُوت پڑھے اس کے بعد ۳۵ مرتبہ روزانہ قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبرہ تکبیراً پابندی سے پڑھے۔

(حاشیہ جلالین، صاوی)

**قَوْلًا:** قد افرغت فیہ جہدی ای فی ما کملت بہ، یعنی فیہ کی ضمیر ما کملت کی طرف راجع ہے اسی طرح رزقنا اللہ بہ تک تمام ضمیریں ما کملت کی طرف راجع ہیں۔

**قَوْلًا:** فی نفائس یہ فیہ سے بدل ہے یا پھر فی نفائس میں فی بمعنی مع ہے ای مع نفائس، اور نفائس سے دقاق وحقائق اور نکات نفیسہ پسندیدہ مراد ہیں۔

**قَوْلًا:** اُراھا، ہمزہ پر فتح اور ضمہ دونوں جائز ہیں، بمعنی اَعْلَمُوا ظُنُّ، تجدی، اری کا مفعول ثانی ہے اور ہا مفعول اول ہے ای اُراھا تجدی ان شاء اللہ جدوھا، یعنی اے مخاطب میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکات تجھ کو نفع پہنچائیں گے اگر اللہ



چاہے گا کہ یہ تجھے نفع پہنچائیں، تجدی بمعنی تنفع۔

قَوْلًا: وَالْفَتْهُ فِي مَدَّةٍ قَدَرِ مِيعَادِ الْكَلِيمِ یعنی موسیٰ علیہ السلام جتنے روز کوہ طور پر مقیم رہے اور وہ چالیس دن کی مدت ہے، تالیف کی ابتداء یکم رمضان سے ہوئی اور دس شوال پر تکمیل ہوگئی، اور اس مدت کا اظہار مفسر علامہ سیوطی نے تحدیثِ نعمت کے طور پر فرمایا، اسلئے کہ عام طور پر اتنی قلیل مدت میں اتنا بڑا کام خلافِ عادت ہے جبکہ اس وقت علامہ سیوطی کی عمر ۲۲ سال سے بھی کم تھی (کما ذکرہ الکرخی) یعنی وہ حصہ جو علامہ سیوطی نے تالیف کیا۔

قَوْلًا: وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمَكْمُلِ علامہ سیوطی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے یہ کسر نفسی کے طور پر فرمایا۔

قَوْلًا: عَلَيْهِ یعنی علامہ محلی کا تالیف کردہ۔

قَوْلًا: اِذْهَدَانِي، اِذْ تَعْلِيلِيهِ هِيَ اِيْ لَاجِلْ هِدَايَتِهِ لِلَّذِي اَبْدَيْتُهُ وَاظْهَرْتُهُ، اور وہ تکملہ مذکورہ ہے۔

قَوْلًا: فَمَنْ لِيْ بِالْخَطَا اِيْ مَنْ اَظْهَرَ لِيْ الْخَطَا یعنی جو میری غلطی کو اجاگر کرے گا میں اس غلطی سے رجوع کر لوں گا یعنی اس کی اصلاح کروں گا۔

قَوْلًا: اَضْرَبْ، حَسْمًا، اِيْ اَعْرَضْ اَعْرَاضًا۔

قَوْلًا: مَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ، فِيْ مَعْنَى عَنْ هِيَ اِيْ مَنْ كَانَ عَنْ هَذِهِ اَعْمٰی یعنی جو جلالین کے سابقہ اور لاحقہ دونوں حصوں سے بے بہرہ اور ناواقف ہوگا وہ دوسری کتابوں کے بھی بے بہرہ اور ناواقف رہے گا فہو فی الآخرة اَعْمٰی، یہاں بھی فی بمعنی عن ہے اور آخرۃ سے مراد مطولات ہیں مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس مختصر سے ناواقف اور بے بہرہ رہے گا وہ مطولات سے بھی محروم رہے گا۔

قَوْلًا: رَزَقْنَا اللّٰهَ بِهِ ضَمِيرُ قُرْآنِ کی طرف راجع ہے اس کے بعد کی ضمیریں بھی قرآن کی طرف راجع ہیں، مگر زیادہ مناسب سیاق کلام کے مطابق یہ ہے کہ یہ ضمیر اور بعد کی ضمیریں لما کمل بہ یعنی حصہ لاحقہ کی طرف راجع ہوں۔

قَوْلًا: فَرَعْتُ مِنْ تَالِيفِهِ الْخ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نصف اول کی تسوید سے ۱۰ اشوال بروز یکشنبہ ۸۷۰ھ میں فارغ ہوا، اور تالیف کی ابتداء یکم رمضان ۸۷۰ھ میں ہوئی، اور اس تبییض سے فراغت ۶ صفر بروز چہار شنبہ ۸۷۱ھ کو ہوئی۔

## تَفْسِيْرُ وَتَشْرِیْحِ

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی تِسْعَ آيَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزے عطا کئے وہ یہ ہیں، ہاتھ، لاٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، ٹڈی، قمل (جوں) ضفادع (مینڈک) خون، حسن بصری فرماتے ہیں خشک سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے اور نواں معجزہ عصا کا جادو گروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ اور بھی معجزے دیئے گئے تھے مثلاً پتھر پر لاٹھی مارنے سے پتھر سے بارہ چشموں کا بہ نکلنا، لاٹھی مانے سے دریا کا دو لخت ہو جانا، بادلوں کا سایہ فلک

ہونا، من و سلوی کا ظاہر ہونا لیکن آیات تسع سے صرف وہی نو معجزے مراد ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا، اسی طرح حضرت ابن عباس نے انفلاق بحر (دریا پھٹنے کو) بھی نو معجزوں میں شمار کیا ہے اور قحط سالی و نقص ثمرات کو ایک معجزہ شمار کیا ہے، ترمذی میں آیات تسع کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے مگر وہ روایت ضعیف ہے۔

وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض ، بظاہر اس سرزمین سے مراد مصر ہے جس سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، مگر تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت یہ ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے، بلکہ چالیس سال میدان تیار میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے، اس کی شہادت سورہ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے اسلئے صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، سورہ بنی اسرائیل کی شروع آیات میں حق تعالیٰ کی تنزیہ اور توحید کا بیان تھا، ان آخری آیات میں بھی توحید و تنزیہ کا بیان ہے۔

## شان نزول:

ان آیات کے شان نزول میں چند واقعات ہیں۔

## پہلا واقعہ:

آپ ﷺ نے ایک روز دعاء میں یا اللہ یا رحمن کہہ کر پکارا تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ دو خداؤں کو پکارتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک کے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو معبود پکارتے ہیں، اس کا جواب آیت کے پہلے حصہ میں دیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے دو ہی نام نہیں اور بہت سے اچھے نام ہیں کسی نام سے بھی پکاریں مراد ایک ہی ذات ہوتی ہے۔

## دوسرا واقعہ:

جب مکہ مکرمہ میں نبی ﷺ نماز میں باو آز بلند قراءت کرتے تو مشرکین تمسخر اور استہزاء کرتے اور قرآن اور جبریل امین اور خود حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتے تھے، اس کے جواب میں اسی آیت کا آخری حصہ نازل ہوا جس میں آپ کو جہر و اخفاء میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔

## تیسرا واقعہ:

یہود و نصاریٰ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دیتے تھے اور عرب بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور صابی اور مجوسی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب بندے نہ ہوں تو اس کی قدر و منزلت میں کمی آجائے، ان تینوں فرقوں کے جواب میں آخری آیت نازل ہوئی جس میں تینوں کی نفی کر دی گئی ہے۔



آخری آیت قل الحمد لله الخ، کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ آیت عزت ہے تفصیل، تحقیق و ترکیب کے زیر عنوان گذر چکی ہے اس آیت میں یہ ہدایت بھی ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی اللہ کی عبادت اور تسبیح و تحمید کرے اپنے عمل کو اللہ کے حق کے مقابلہ میں کم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنا اس کے لئے لازم ہے۔

حضرت انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ بنی عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا تھا تو آپ ﷺ اس کو یہ آیت سکھادیتے تھے، قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیراً۔ (مظہری)

### نسخہ شفاء:

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھا، آپ کا گدرا ایک ایسے شخص پر ہوا کہ بہت شکستہ حال اور پریشان تھا، آپ نے دریافت فرمایا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگدستی نے یہ حال کر دیا، آپ نے فرمایا تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ ہیں، تو کلت علی الحی الذی لا یموت الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً (الآیۃ) اس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔

(ابو یعلیٰ وابن سنی، مظہری، معارف)

### عرض شارح:

جیسا کہ احقر مقدمہ میں عرض کر چکا ہے کہ جلالین کی تشریح کی ابتداء جلالین کے طرز تصنیف کے مطابق سورہ کہف سے آخر تک نصف ثانی کی تشریح تین جلدوں میں مکمل ہوئی اس کے بعد نصف اول کی تشریح جس کی تیسری جلد سورہ اسراء کے آخر تک ہے بتاریخ ۲۶ ربیع الثانی بروز شنبہ ۱۴۲۶ھ مطابق ۴ جون ۲۰۰۵ء کو پایہ تکمیل کو پہنچی، وَلِلّٰہِ الْحَمْد۔

(احقر محمد جمال سیفی بن شیخ سعدی)

استاذ دارالعلوم دیوبند

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

مَشَّتْ